

تاریخ المسعودی


شہرہ آفاق عربی کتاب

مرآج الذہب و معادن الجواہر

کا اردو ترجمہ

امام المورخین ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی

نفیس اکیڈمی
اردو بازار - کراچی ٹیکمی



DATA ENTERED

تاریخ مسعودی

شہرہ آفاق عربی کتاب

مُرُجُ الزَّمْبُوبِ وَمَعَاوِنُ الْجَوَاهِرِ

کا اردو ترجمہ

سوم - چہارم

تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی بزرگ شخصیت، عظیم اور نامور مورخ

امام المورخین ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی المتوفی ۳۴۶ھ

تحقیق مزید: پروفیسر اسعد داغر ماہر فنون مکتبیات و بالوگرافی

(بنافہ - بیروت)

اردو ترجمہ

اختر فتح پوری

ناشر: نفیس اکیڈمی اسٹریٹن روڈ - کراچی

جملہ حقوق بلحاظت و اشاعت و ترجمہ و ادائیگی

بجقناشر

پروفہداری طابق اقبال گاہندی

مالک نفیس ایکڈمی،

اسٹریٹ: کین روڈ۔ کراچی نمبر ۱

محفوظ ہیں

۲۰۹

۱۲۴

۱۳۶۷

جلد ۳، ۷

کتاب کا نام

روح اللہ سبب و معاون الجوانب

ایڈیشن: _____ اقل

مصنف: _____ ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی

ترجمہ: _____ اختر فتح پوری

صفحہ امت: _____ حصہ سوم، جہاد صفحہ

مقام اشاعت: _____ نفیس ایکڈمی، اسٹریٹ: کین روڈ کراچی

سال اشاعت: _____ نومبر ۱۹۸۵ء

فون: ۲۱۳۳۰۳

مطبوعہ

اولیس پبلیکیشنز - کراچی

عرضِ ناشر

مسلمانوں میں تاریخ نویسی کی ابتدا علمِ مغازی سے ہوئی۔ بعد میں یہی علم تاریخ نویسی کا سنگ بنیاد ثابت ہوا اور مسلمانوں نے اس سلسلہ میں جو محنت اور ریاضت کی اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے بعض کتب خانوں میں تاریخ کے موضوع پر بیک وقت دو دو سو اور ڈیڑھ ڈیڑھ سو کتابیں مختلف صاحبان سیر و رجال کی جمع رہتی تھیں۔ تاریخ نویسی کا میدان بہت وسیع ہے۔ لکھنے والوں نے اس کو اتنے خانوں میں منقسم کر دیا ہے کہ ان پر الگ الگ بحث کی جائے تو خاصے صفحات درکار ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ امر ثابت ہے کہ مسلمانوں نے جغرافیہ، تہذیب، تمدن اور اس کے متعلقات کو تاریخ نویسی کے موضوع میں شامل کر لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی کتابیں معلومات کا ایک اہم اور قیمتی ذخیرہ بن گئیں۔ جب اس نقطہ نظر سے ہم ابوالحسن بن علی بن الحسین علی المسعودی کی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی تاریخ نویسی کے باب میں اس کا کوئی مد مقابل اور حریف نہیں ہے جنہوں نے تاریخ کے دامن کو اس قدر وسیع اور کشادہ کر دیا ہے کہ اس کی حیثیت ایک انسائیکلو پیڈیا کی ہو گئی۔

المسعودی چوتھی صدی ہجری کا مشہور جغرافیہ نویس۔ عظیم سیاح اور نامور مورخ تھا۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملتا ہے۔ اس کے والد الحسین بن علی نے بنو عباس کے زمانے میں کوفہ سے ہجرت کی تھی اور بغداد کو اپنا وطن بنایا تھا۔ عباسیوں کی علم دوستی اور ہنر شناسی کی وجہ سے بغداد کی حیثیت ایک دارالعلوم کی ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کے صاحبان علم و فضل وہاں آکر جمع ہو گئے تھے۔ ان کی درس و تدریس کی مجالس سے روزانہ سینکڑوں طالبان علم استفادہ کرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ ان میں وہ طالبان علم بھی شامل تھے۔

جنہوں نے بعد میں مختلف علوم و فنون میں بڑا نام پیدا کیا اور مغربی مفکروں اور اسکالروں سے اپنی عظمت اور بزرگی تسلیم کروائی۔

مسعودی بغداد میں پیدا ہوا تھا کسی تذکرہ میں اس کی تاریخ ولادت کی صراحت نہیں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو بنو عباس کے دور کے نامور علما اور فضلا میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس نے مختلف درس گاہوں کا رخ کیا اور مختلف احباب علم سے تحصیل علم کی۔ اس طرح اسے فقہ، حدیث، قانون، حکمت اور اخلاق اور اسی قسم کے دوسرے موضوعات پر اسے مکمل عبور اور مہارت حاصل ہو گئی جوں جوں اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اس کے شوق کی وسعتیں مزید پھیلتی گئیں۔

اس نے ان موضوعات پر توجہ کرنے کی بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تاریخ پر توجہ کی۔ چونکہ اس کا ذہن تجسس کا عادی تھا اور ہم جوتی اس کی فطرت ثانی بن چکی تھی۔ اس لئے اس کتب خانہ میں اختصاص قائم کرنے کے اچھے مواقع ملے۔ اس نے اپنی طالب علمی ہی کے دور میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مختلف ملکوں کی سیاحت کر کے وہاں کے مختلف شہروں، خطوں، اقوام اور طرز معاشرت کا مطالعہ کرے گا اور دیکھے گا کہ دنیا بھر سے قطع نظر دوسرے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کی تہذیبی ثقافتی اور سماجی خصوصیات کیا ہیں۔ اگرچہ اس فیصلہ پر عمل کرنا اس کے لئے آسان نہیں تھا لیکن بعض تجارتی قافلوں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے بعض تجارتی قافلوں کے ساتھ ابتدا میں ملتان، منصورہ، تنوچ اور کھائٹ کی سیاحت کی۔ وہاں کے باشندوں کے علاوہ ان کی تاریخ و تہذیب کے عناصر ترکیبی معلوم کئے۔ ان کے طبی اور موسمی خواص کا اندازہ لگایا۔ پھر سرانڈیب اور لنکا کا رخ کیا ان ملکوں میں بدعادت کے ماننے والوں کی تہذیب دیکھی۔ پھر ایک تجارتی قافلہ کے ذریعہ چین کا قصد کیا۔

اگرچہ اُس وقت کا چین آج کے چین سے بہت مختلف تھا۔ اس کی وسعت اس قدر تھی کہ عام مسافروں کا وہاں تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود مسعودی نے چین جانے کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور بالآخر اسے ایک ایسا قافلہ مل گیا۔ اس نے اس کی سمیت اور نگرانی قبول کی اور موسموں کی سختیاں برداشت کرتا ہوا اس کے ساتھ ہو گیا اس کو چین میں زیادہ گھومنے پھرنے کا موقع نہ ملا لیکن اس کے سرحدی شہروں سے اس نے اس کی تہذیبی اور سماجی خصوصیات معلوم کر لیں۔ ان کے رہن سہن اور بود باش کا اندازہ لگایا جب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ چین کے دور دراز علاقوں کی جیتا نہیں کر سکے گا تو وہ واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ اس نے اس سفر کی جانگداز تفصیل کے بعد کچھ دنوں بعد میں نیا مکیا اور پھر اسلامی ممالک کی سیاحت پر کمر باندھی۔ اس مرحلہ پر اس کی نگاہ میں عمیق بینی اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ایسی کتابوں اور معلومات کا ذخیرہ فراہم ہو گیا تھا جو اس کی تصانیف میں خام مواد کے طور پر کام آئے لیکن اس کی علمی روح بے چین اور مضطرب تھی۔ وہ شام، مصر، انطاکیہ اور اس قسم کے دوسرے شہروں کی مہم پر روانہ ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کے پاس سفر کے لئے ایک معتول رقم جمع ہو گئی تو اس نے بغداد کی حدود سے قدم باہر نکالنے اور کئی ملکوں کی سیاحت پر روانہ ہو گیا اس

طرح اُس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سفر میں گزرا۔ اس نے ۳۳۶ھ ہجری میں خسطاط کے مقام پر ذات پائی۔

مسعودی کے تحقیقی اور علمی کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس نے سب سے پہلے تاریخ الزمان کے نام سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی تھی۔ اس کی ضخامت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی تیس جلدیں تھیں جن میں سے صرف ایک باقی رہ گئی۔ باقی جلدوں کو زمانے نے طاق پتوں پر رکھ دیا یا وہ امتدادِ حالات سے گننامی کے پردے میں جا پڑیں۔ اس وقت ان کا ایک بھی نسخہ کسی کتاب خانے میں نہیں ملتا ہے۔ یہ کتاب اپنے معلوماتی موضوعات اور حیرتناک تجربات کی بنا پر بہت اہم تھی۔ لیکن اس کا نقل کرنا یا پڑھنا ہر ایک کے لئے ممکن نہیں تھا۔ غالباً مسعودی نے اس امر کو محسوس کر لیا تھا اور جانتا تھا کہ لوگ پوری طرح اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بنا پر اس نے اس کی تلخیص کی اور اس کو مروج الذہب و معادن الجواہر کے نام سے چار جلدوں میں مرتب کیا۔

مسعودی نے مروج الذہب و معادن الجواہر کا پہلا مسودہ ۳۳۶ھ میں لکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے دس سال تک اس پر نظر ثانی کی اور اس میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جس کی وجہ سے اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ اس کتاب میں انبیائے کرام کے حالات و کوائف سے لے کر اپنے دور تک کے حالات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کتاب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جغرافیہ اور فلکیات کا تناسب دوسرے اصنافِ علم سے زیادہ ہے۔ لیکن اس سے اس کی تاریخی حیثیتیں کسی بھی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں اسلام سے پہلے کی قدیم دنیا کی ممتاز اور مہذب اقوام کے تذکرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کو بھی مطمئن کرتی ہے جو تاریخ میں جغرافیہ، فلکیات، قانون، حکمت اور عجائبات کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں جہاں مختلف ملکوں کے عجائب الخلق اور گراں قدر جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے وہیں اس میں ہمیں علاقائی موضوعات، پودوں، جڑی بوٹیوں، پتھروں اور مشک وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے لکھتے وقت مسعودی کے پیش نظر کیا کیا امور رہے تھے۔

اس کتاب یعنی مروج الذہب و معادن الجواہر کو جو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی تھی اس کا اندازہ لگانے کے لئے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ بعد کے تمام مورخوں نے جن میں ابن خلدون بھی شامل ہے اس کے بیشتر مضامین سے استفادہ کیا ہے۔ ابن خلدون کی پوری تاریخ اسی زاویہ خیال اور نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کی کئی زبانوں میں اسے عربی سے منتقل کیا ہے۔

سب سے پہلے نیس اکیڈمی کراچی نے اس کتاب کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ یہ کتاب ترجمہ ہونے کی وجہ سے اردو دانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ چنانچہ ہمارے ادارے نے خطیر رقم صرف کر کے ملک کے جدید عالموں سے اس کا ترجمہ کروایا تاکہ یہ اردو داں طبقہ کے ذہنوں میں اجالا پیدا کرے اور چوتھی صدی ہجری کی وہ معلومات مہیا کرے جس نے تمام دنیا کو حیرت زدہ کر رکھا تھا۔

نفیس اکیڈمی نے اس سے پہلے بھی ایسی کئی مستند اور اہمات الکتب کو اردو میں ترجمہ کر داکے شائع کیا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی مسعودی کی مردح الذہب و معاون الجواہر بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ادارہ کی کوششوں کو سراہا جائے گا اور پسند کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کی جانب سب سے پہلے میرے والد اقبال سلیم گاہندری مرحوم نے توجہ دلائی تھی۔ وہ اس کو چھاپنا اور اردو دنوں تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اب میں نے بڑی سعی و کادش کے بعد اسے خاص اہتمام سے شائع کیا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی روح خوش ہوگی بلکہ اس کے پڑھنے والوں کی معلومات میں بھی بے حد اضافہ ہوگا۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے مرحمت فرمائیں کہ میں ان کی دعاؤں اور خلوص کی بدولت ہی اس مہتمم الشان کتاب کی اشاعت میں کامیاب ہوا ہوں۔

چوہدری طارق اقبال گاہندری

مورخہ ۱۸ نومبر ۱۹۸۵ء

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۴	حضرت معاویہ کے اخلاق، انتظامات اور عمدہ واقعات کا مختصر بیان	۲۳	حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کا بیان
۵۴	حضرت معاویہ کے اخلاق و عادات	۲۳	آپ کے حالات اور سیرت کی ایک جھلک
۵۶	حضرت معاویہ کی عقل مندی	۲۳	حجر الکنذی کا قتل
۵۷	شامیوں اور عراقیوں کی غفلت	۲۴	عدی بن حاتم اور معاویہ
	ہارون الرشید کے زمانے میں ایک جعلی طبیب -	۲۵	حضرت معاویہ کے ہاں عمرو بن عثمان اور
۵۹	عوام کے اخلاق	۲۶	اسامہ کے درمیان
۶۱	عتیق بن ابی طالب اور معاویہ	۳۵	زیاد کا ابوسفیان کے ساتھ الحاق
۶۲	بنی صوحان کی تعریف	۳۶	حضرت علیؓ کی طرف حضرت معاویہ کا خط
۶۳	صعصعہ سے عقیل تک	۳۶	حضرت معاویہ کو حضرت علیؓ کا جواب
	حضرت علیؓ اور ان کے سرکردہ اصحاب کے درمیان	۳۶	حضرت سعد اور حضرت معاویہ کے
۶۴	کے درمیان		درمیان
۶۶	حضرت علیؓ کی ایک جماعت اور معاویہ	۳۹	معاویہ، عمرو بن العاص اور دروان کے
	معاویہ	۴۰	درمیان
۶۸	معاویہ کے پاس، صعصعہ بن صوحان کا اہل ممالک کی تعریف کرنا -	۴۸	عمرو بن العاص کی وفات
	صعصعہ، معاویہ کے حضور	۴۶	حضرت ابو ایوب انصاریؓ
۶۹	صعصعہ کے واقعات	۵۰	مغیرہ بن شعبہ
		۵۲	زیاد کی موت
۷۰			سر یزید کی بیعت

۸۴	۷۴	ابو بکر بن ہشام کی نصیحت	ابو ایوبؓ اور صعصعہ
۸۵	۷۵	یزید کی تیاری	ربیعہ کے متعلق حضرت علیؓ کا قول
۸۷	۷۶	ہانی بن عروہ کا قتل	معاویہ اور جمیل بن کعب
۸۹	۷۷	حضرت حسینؓ کی ابن زیاد کی فوج کے ساتھ جنگ۔	معاویہ اپنی موت کے وقت
	۷۸	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں کے اسماء کا بیان	صحابہ اور ان کی مدح کا بیان، علیؓ رضی اللہ عنہما
۹۳	۷۸	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں کے اسماء کا بیان	اور ان کی فضیلت
	۷۸	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں اور ان کی ماؤں کے نام	معاویہ اور عبداللہ بن عباس
۹۲	۷۹	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں اور ان کی ماؤں کے نام	حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہما کی تعریف
	۷۹	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں اور ان کی ماؤں کے نام	حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کی تعریف
۹۳	۷۹	حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹوں اور ان کی ماؤں کے نام	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہما کی تعریف
۹۴	۸۰	طف کے مقتول کا مرتبہ	حضرت علیؓ بن ابی طالب کی تعریف
۹۴	۸۰	یزید کے حالات و واقعات کی ایک جھلک اور اس کے بعض عجیب و غریب کام	حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہما کی تعریف
	۸۱	یزید کا عرب و فود کے لیے خروج	عام صحابہؓ کی تعریف
۹۴	۸۱	یزید اور عبدالملک کے درمیان	یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے دور کا بیان۔
۹۷	۸۱	یزید اور اس کے عمال کی بدکرداری	مختصر حالات
۹۷	۸۱	حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہما کے قتل کے متعلق اقوال۔	حضرت حسینؓ بن علیؓ بن ابی طالب اور ان کے ساتھ ان کے اہلبیت اور پیروکاروں میں سے قتل ہونے والے لوگوں کا بیان
۹۷	۸۱	اہل مدینہ اور یزید کے کارکنان	اہل کوفہ کا حسینؓ رضی اللہ عنہما کو دعوت دینا
۹۸	۸۲	حرہ کا معرکہ	مسلم بن عقیل کا حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہما سے پہلے کوفہ جانا۔
۱۰۰	۸۲	کعبہ پر منجنیقوں سے سنگباری	حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہما کی نصیحت کرنا۔
	۸۲	معاویہ بن یزید بن معاویہ، مروان بن الحکم مختار بن ابی عبید اور عبداللہ بن زبیر کے حالات و واقعات کی ایک جھلک۔	حضرت حسینؓ بن علیؓ بن ابی طالب اور حضرت ابن زبیرؓ رضی اللہ عنہما
۱۰۱	۸۳	معاویہ بن یزید بن معاویہ، مروان بن الحکم مختار بن ابی عبید اور عبداللہ بن زبیر کے حالات و واقعات کی ایک جھلک۔	

۱۰۱	اس کے حالات و واقعات کا ذکر اور	۱۰۱	معاویہ بن یزید کے مختصر حالات
۱۰۳	اس کے دور کی ایک جھلک اور عجیب	۱۰۳	مختار کوفہ میں
۱۲۱	غریب واقعات کا بیان	۱۰۴	حضرت ابن زبیرؓ کا حال
۱۲۱	عبدالملک کے ساتھ شعبی کی ہم نشینی	۱۰۵	ابن زبیرؓ اور اس کا بھائی عمرو
۱۲۱	ہواؤں کے چلنے کی جگہ	۱۰۵	ابن زبیرؓ اور عبداللہ بن محمد بن حنفیہ
۱۲۲	شیعہ تحریک	۱۰۶	ابن زبیرؓ اور آلِ بیتِ رسولؐ
۱۲۳	معرکہ عین الوردہ	۱۰۹	ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے درمیان
	حضرت علیؓ کا قرآن پاک کی تعریف	۱۱۰	ابن حنفیہ اور ابن زبیرؓ کے درمیان
۱۲۶	کرنا۔		ابن زبیرؓ کا ابن عباسؓ کے نقائص بیان
۱۲۶	عبید اللہ بن زیاد کا قتل	۱۱۰	کرنا۔
۱۲۷	بہ طرف اضطراب	۱۱۲	ابن زبیرؓ اور حصین بن نمیر کے درمیان
	مصعب اور مختار ثقفی کے درمیان ،		ابن زبیرؓ کا ابراہیم بنیا دون پر کعبہ کو
۱۲۸	اور مختار کا قتل۔	۱۱۳	تعمیر کرنا۔
۱۳۰	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی وفات	۱۱۴	عبید اللہ بن زیاد اور خلافت
۱۳۲	عمرو بن سعید اشرف کا قتل	۱۱۴	کوفہ کا اس کی اطاعت سے انکار کرنا
۱۴۰	چار سردار ایک مکان میں	۱۱۶	مروان بن الحکم کی تدبیر
۱۴۰	لوگوں کا عبدالملک کی بیعت کرنا۔	۱۱۶	مروان کی بیعت
۱۴۱	روح بن زبیر اور بشر بن مروان	۱۱۷	مروان اور قیس بن صخاک کی جنگ
	عبداللہ بن زبیرؓ کو اپنے بھائی	۱۱۸	مروان بن الحکم کی موت
۱۴۲	مصعب کی وفات کی خبر ملنا۔	۱۱۹	مروان کے خصائل
۱۴۳	حجاج ، مکہ میں	۱۱۹	یزید بن معاویہ کی اولاد
۱۴۴	ابن زبیرؓ اور ان کی والدہ اسماء بنت	۱۲۰	معاویہ کی اولاد
	ابوبکرؓ۔		عبدالملک بن مروان کے دورِ حکومت
۱۴۶	حجاج کا والی حجاز بننا۔	۱۲۰	کا بیان
۱۴۷	جابر بن عبداللہ	۱۲۰	مختصر حالات

۱۷۶	خوارج کی متفقہ اور اختلافی باتیں	۱۲۷	محمد بن حنفیہ
۱۷۶	بعض خوارج کا ذکر	۱۲۸	شاہ روم اور شعبی
۱۷۷	حجاج اور شبیب خارجی	۱۲۹	معاویہ کا عبد الملک کی تعریف کرنا
۱۷۸	ابن القریۃ	عبد الملک اور اس کا تحائف قبول کرنے	
۱۷۸	یعلیٰ اخیلیہ اور حجاج	۱۵۰	والاعاغل۔
۱۷۹	عربوں کی بعض عادات	۱۵۰	عمرو بن بلال کا عبد الملک اور اس کی بیوی
۱۸۰	حضرت علیؓ کا اپنے اصحاب کو	کے درمیان صلح کرانا۔	
۱۸۰	سزہ نش کرنا۔	۱۵۲	حجاج کا قتل کی تعریف کرنا۔
۱۸۱	حجاج کا نعمت کے متعلق سوال کرنا۔	عبد الملک کا خط حجاج کے نام جسے	
۱۸۱	حجاج کی تقریر۔ جب لوگوں نے	۱۵۲	وہ سمجھ نہ سکا۔
	اس کی موت کی جھوٹی خبر اڑادی۔	۱۵۲	عبد الملک کا حج کرنا
۱۸۲	حجاج کی دھکی آمیز تقریر۔	۱۵۵	روح بن زبیر اور عبد الملک
۱۸۲	حجاج اور عبد اللہ بن ثانی	۱۵۷	عبد الملک الہمدانی اور سلیمان بن منصور
۱۸۳	حجاج اور شعبی	۱۵۸	حجاج کے عجیب و غریب واقعات اور
۱۸۵	حجاج کا ارادہ حج	خطبات اور بعض کارنامے۔	
	عبید اللہ بن ابی مخرق کا ایک کام کی	۱۵۸	حجاج کی خونریزی کی ولد ادگی کی وجہ
۱۸۵	ذمہ داری لینا اور مشورہ کرنا۔	عبد الملک کا ملب کو خوارج سے جنگ	
۱۸۶	غضبان بن قیسری	۱۶۱	کرنے پر مقرر کرنا۔
۱۹۱	کوفہ اور بصرہ کی تعریف	۱۶۳	عراق آنے پر حجاج کی تقریر
۱۹۲	حجاج کا دنیا کی تعریف کرنا	۱۶۷	ابن اشعث کا خروج
۱۹۲	مہلب کا ایچی، حجاج کے پاس	وہ الجحیم کے معرکے اور ابن اشعث کا	
۱۹۳	حجاج اور جریر بن الخطمی	۱۶۸	قتل۔
۱۹۵	حجاج اور اعشی ہمدان	۱۷۰	عبد الملک کی طرف سے، حجاج کی طرف
۱۹۸	ولید بن عبد الملک کے دور حکومت کا بیان	۱۷۱	حجاج کا جواب
۱۹۸	مختصر حالات۔	۱۷۲	حجاج کو ایک مہربان محدث کی تلاش

۲۱۵	ابراہیم تمیمی، حجاج کے جیل خانے میں	۱۹۸	اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک
۲۱۶	حجاج کا ابن القریبہ سے عورتوں کے متعلق دریافت کرنا۔	۱۹۸	اور اس کے دور حکومت میں حجاج کے کارنامے۔
۲۱۷	سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت کا بیان۔	۱۹۸	ولید کے اخلاق اور اس کے بیٹے دمشق اور مدینہ کی مسجدوں کی تعمیر
۲۱۷	مختصر حالات	۱۹۹	ولید اور حجاج کے درمیان گفتگو
۲۱۷	اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک	۲۰۰	حجاج کو ام البنین کی ڈانٹ
۲۱۷	خلافت کا پہلا خطبہ	۲۰۱	علی بن حسین سجاد کی وفات
۲۱۸	خالد قسری مکہ میں	۲۰۲	عبد الملک بن مروان کی وفات
۲۱۸	سلیمان بڑا بسیار خور تھا	۲۰۳	عبید اللہ بن عباس کی وفات
۲۱۹	سلیمان کا لباس جس نے اسے خود پسند بنا دیا۔	۲۰۵	عبید اللہ بن عباس اور لبس بن ارطاة
۲۱۹	سلیمان اور حجاج کے کاتب کے درمیان گفتگو۔	۲۰۶	عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہذلی کی وفات
۲۲۱	سلیمان کو ابو حاتم اعرج کی نصیحت	۲۰۶	سعید بن جبیر کا قتل
۲۲۱	سلیمان کے دوبارہ میں ایک بدوی کی حق گوئی۔	۲۰۶	ولید اور اس کے بھائی سلیمان کے درمیان غلط فہمی۔
۲۲۱	سلیمان کا معاویہ کی تعریف کرنا	۲۰۷	اپنے بچوں کو عبد الملک کی وصیت حجاج کی موت
۲۲۲	خالد قسری، عراق میں	۲۱۰	عبد اللہ بن جعفر کی وفات
۲۲۵	سلیمان، ولید کی ضد تھا	۲۱۰	حجاج کی طرف عبد الملک کا خط جسے وہ سمجھ نہ سکا۔
۲۲۵	خالد قسری پر سلیمان کی ناراضگی	۲۱۲	مہلب کی طرف حجاج کا خط
۲۲۶	ایک کاتب کا سلیمان کے متعلق خبر دینا۔	۲۱۳	یہاں اخیلیہ اور حجاج
۲۲۶	عمر بن عبد العزیز اور مروان بن الحکم کی خلافت کا بیان۔	۲۱۴	حجاج کے عم زاد کا اس سے ولایت طلب کرنا اور اس کی آزمائش کر کے اسے حاکم بنانا اور اس کا کامیاب ہونا۔

۲۴۱	اس کے متعلق عمرو بن عبید کی رائے	۲۲۶	مختصر حالات
۲۴۱	فرزدوق، عمر رض کا مرثیہ کتاب ہے		آپ کے حالات و واقعات اور زہد
۲۴۳	یزید بن عبد الملک بن مروان کے دور	۲۲۶	کی جھلک۔
۲۴۳	حکومت کا بیان۔	۲۲۷	عمر رض کو خلافت کیسے ملی؟
	مختصر حالات	۲۲۸	عمر رض کے اخلاق اور دین
	اس کے حالات و واقعات کی ایک	۲۲۸	السدی اور عمر رض کے درمیان گفتگو
۲۴۳	جھلک۔	۲۲۹	طاؤس کی عمر کو نصیحت
۲۴۳	سلامۃ القس سے محبت	۲۲۹	عمر رض کا پہلا خطبہ
۲۴۴	یزید، حبابہ اور فند الزمانی کا شعر		عمر رض کا عامل مدینہ کو اولاد علی رض سے
۲۴۶	حبابہ کی موت پر یزید کا جزع فرزع کرنا	۲۲۹	حسن سلوک کا حکم۔
۲۴۷	یزید بن مہلب کی یزید بن عبد الملک کے	۲۲۹	دوسرا خطبہ
	خلاف بغاوت۔	۲۳۰	عمر کے متعلق شاہ روم کا اندازہ
۲۴۸	آل مہلب کے ساتھ یزید کا سلوک	۲۳۱	اعرج کی وصیت
۲۴۹	ابن ہبیرہ، شعبی، ابن سیرین اور حسن لہری	۲۳۱	اپنے عامل کی طرف عمر رض کا شاہی فرمان
	یزید اور اس کے بھائی ہشام کے درمیان	۲۳۱	خلافت کے بعد آپ کا زہد
۲۵۰	غلط فہمی۔	۲۳۲	مطرف کی عمر کو نصیحت۔
۲۵۱	عطاء بن یسار کی وفات	۲۳۲	عمر رض اور ان کا ایک غلام
۲۵۱	علماء کی ایک جماعت کی وفات	۲۳۲	حجازی وفد کے غلام اور عمر کے درمیان
۲۵۲	محمد بن سیرین اور اس کے بھائی		گفتگو۔
	ہشام بن عبد الملک بن مروان کے	۲۳۳	قاضی مدینہ کے ساتھ ایک لونڈی کا قصہ
۲۵۴	دور حکومت کا بیان۔		ایک قریشی کی لونڈی اور ایک اموی
۲۵۴	مختصر حالات	۲۳۵	نوجوان کے درمیان محبت۔
۲۵۴	اس کے حالات و واقعات کی ایک	۲۳۶	عمر رض اور خوارج
	جھلک۔	۲۴۰	خوارج کے بعض شعراء
۲۵۴	اس کے اوصاف و اخلاق	۲۴۰	خوارج کے بعض علماء

۲۵۰	ابوجعفر محمد بن علی بن حسین کی وفات	۲۵۵	حضرت زید بن علی کی شہادت
۲۵۱	ولید کے بیٹوں یزید اور ابراہیم کے دور	۲۵۷	امویوں کی قبروں کے ساتھ عباسیوں کا سلوک -
۲۵۱	حکومت کا بیان	۲۵۷	زید بن شیعوں کے فرقے
۲۵۱	مختصر حالات	۲۵۸	ہشام اور حمص کا ایک آدمی
۲۵۱	ان دونوں کے دور کے حالات و واقعات	۲۵۹	ہشام، ابرش کلبی اور ہشام کی ایک لونڈی -
۲۵۲	کی ایک جھلک	۲۵۹	ہشام کے بچل کی مثالیں
۲۵۲	توحید کے متعلق معترضہ کا قول	۲۶۰	بنی امیہ کے سیاستدان
۲۵۲	عدل کے متعلق ان کا قول	۲۶۲	ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان کے دور حکومت کا بیان -
۲۵۲	وعید کے متعلق ان کا قول	۲۶۲	مختصر حالات
۲۵۳	منزلتہ بین المنزلتین کے متعلق ان کا قول	۲۶۲	اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک
۲۵۳	امر بالمعروف کے متعلق ان کا قول	۲۶۲	یحییٰ بن زید کا ظہور اور اس کا قتل
۲۵۳	امامت کے متعلق اختلاف	۲۶۳	ولید کے اشتغال اور بے حیائی
۲۵۴	یزید کی ماں ام ولد تھی	۲۶۴	ولید اور شرا عبہ بن زید
۲۵۴	مروان بن محمد (الحمار) کا ظہور	۲۶۵	شراب نوشی کے متعلق اس کا قول
۲۵۸	امویوں کی حکومت کے زوال کا سبب	۲۶۵	ولید کے داستان گو کا بیان
۲۵۹	نزار بیہ اور یمانیہ کے درمیان دھڑے	۲۶۶	ولید کو اپنے باپ سے بے حیائی
۲۵۹	بندی کے سبب کا بیان	۲۶۶	ورثہ میں ملی تھی -
۲۵۹	کیت، اپنے اشعار فرزوق کو دکھانا تھا -	۲۶۶	قرآن پاک کے ساتھ اس کا سلوک
۲۸۰	کیت کا اپنے اشعار کو علی بنی جعفر محمد بن علی کو دکھلانا -	۲۶۶	اس کے لحدانہ اشعار
۲۸۱	اس کا علی بن عبد اللہ بن حسن کو اشعار دکھلانا	۲۶۸	اس کی ماں کا نسب
۲۸۱	عبد اللہ بن جعفر کا، کیت کو بدلہ دینا -	۲۶۸	گھوڑوں کا شوق
۲۸۳	دعبل خزاعی کا، کیت کو جواب دینا	۲۶۸	ریس کے گھوڑوں کے مراتب
۲۸۳	بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے اسباب		

۲۹۵	مردان کا، خوارج سے جنگ کے لیے تیاری کرنا۔	۲۸۳	میں مصر سے بندی بھی ایک سبب تھا۔
۲۹۶	نصر بن سیار کی وفات	۲۸۵	مردان بن محمد بن مردان کے دور حکومت کا بیان۔
۲۹۶	امام ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے مردان کی چال۔	۲۸۵	مختصر حالات
۲۹۶	ابراہیم اور اس کے ساتھ ایک جماعت کا قتل۔	۲۸۶	بنو امیہ کے دور حکومت کی مدت
۲۹۶	عبداللہ بن علی اور مردان کے درمیان الزاب کی جنگ۔	۲۸۶	اجمالی مدت
۲۹۸	دختران مروان، صالح بن علی کے حضور عبد الحمید بن یحییٰ کا تب	۲۸۶	تفصیلی مدت
۳۰۰	مردان کا رومی علاقے کی طرف فرار کا عزم اور اسماعیل قشیری کا اس کو روکنا	۲۸۷	بنو عباس کی مدت حکومت
۳۰۲	ابوالعباس عبداللہ بن محمد السفاح کی خلافت کا بیان۔	۲۸۷	عباسی حکومت کا بیان اور مردان کے حالات و واقعات اور قتل اور معرکہ آریہ کا ذکر۔
۳۰۳	مختصر حالات	۲۸۷	حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو۔
۳۰۴	اس کے حالات و واقعات اور دور کی مختصر جھلک	۲۸۷	جا حظ کی تصنیف — العثمانيہ
۳۰۴	امام ابراہیم کی اس کے لیے وصیت سفاح کی کوفہ میں آمد	۲۹۰	جا حظ کی دیگر کتب
۳۰۸	سفاح کو امامت کیسے ملی	۲۹۰	شیعہ کا، جا حظ کی کتب کا رد کرنا
۳۰۹	مردان کا قاتل — عامر بن اسماعیل	۲۹۱	معتزلہ کا العثمانيہ کی تردید کرنا
۳۱۱	سفاح اور عامر بن اسماعیل	۲۹۱	امامت کے متعلق جریانیہ کی رائے
۳۱۲	مردان کا سر، سفاح کے سامنے عبداللہ بن علی اور اس کے بھائی داؤد	۲۹۲	ابو مسلم خراسانی کا اصل
۳۱۲		۲۹۲	نصر بن سیار اور مروان بن محمد معدی کے درمیان مراسلت۔
		۲۹۳	مردان بن محمد جدی کے بعض عادات اور اعمال۔
		۲۹۳	نصر کا ابن ہبیرہ کو مدد کے لیے خط لکھنا
		۲۹۴	حجازی طالب حق کے داعی۔

۳۴۳	کے متعلق گفتگو۔	۳۱۵	کے درمیان سفاح کی ولی عہدی کے بارہ میں گفتگو۔
۳۴۵	محمد بن جعفر طالبی کی وفات	۳۱۶	ام سلمہ بنت یعقوب سے سفاح کی شادی
۳۴۵	منصور کے وزراء	۳۲۰	سفاح لوگوں سے رات کو باتیں کرنا پسند کرتا تھا۔
۳۴۶	منصور کا ہشام بن عبدالملک کی تدبیروں سے متعلق دریافت کرنا۔	۳۲۰	سفاح اور ابو نعیمہ
۳۴۷	منصور اور معن بن زائدہ	۳۲۱	کھانے کے وقت وہ بہت خوش ہوتا تھا۔
۳۴۷	منصور کے سامنے ایک تیر کا گزنا جس پر ایک شعر اور ناصانی کا لکھا ہوا ہونا۔	۳۲۲	سفاح کی بعض عادات اور انتظامات
۳۴۷	منصور کا ابو مسلم کے بارے میں مشورہ طلب کرنا۔	۳۲۲	بادشاہوں سے میل ملاپ کے لیے چند نصائح۔
۳۵۰	عبداللہ بن علی کی بغاوت	۳۲۳	بادشاہوں کی باتیں سننے کا بہترین موقع
۳۵۰	ابو مسلم کا منصور کی مخالفت کرنا اور قتل ہونا۔	۳۲۵	معاویہ اور ابن شجرہ الرضوی حاشیہ
۳۵۱	ابو مسلم کے قتل کے بعد منصور کا خطبہ	۳۲۶	حسن سماعت
۳۵۲	ابو مسلم کا دوست فرقہ خرمیہ	۳۲۶	آداب گفتگو
۳۵۵	منصور کی فوج اور الخرمیہ کے درمیان جنگ۔	۳۲۸	عباسی حکومت کا پہلا وزیر
۳۵۶	محمد بن عبداللہ بن حسن نفس نہ کیہ کا ظہور	۳۲۹	سفاح کی شبانہ گفتگوئیں
۳۵۶	محمد بن عبداللہ کے بھائیوں کا شہر میں پھیل جانا۔	۳۳۱	ابو جعفر منصور کی خلافت کا بیان
۳۵۸	منصور اور ربیع کے درمیان گفتگو۔	۳۳۱	مختصر حالات
۳۶۵	منصور کو عمرو بن عبید کی نصیحت۔	۳۳۱	اس کے حالات و واقعات کا بیان اور اس کے دور کی ایک جھلک۔
۳۶۵	منصور اور ربیع کے درمیان گفتگو۔	۳۳۱	منصور کی والدہ کا خواب
۳۶۵	منصور کو عمرو بن عبید کی نصیحت۔	۳۳۲	منصور اور نابینا ہمسفر شاعر
۳۶۷	عمرو بن عبید کی موت	۳۳۲	منصور اور اس کے اہل کی نبی امیہ کی بیعت

۳۸۹	مہدی اور مروان بن حفصہ	۳۶۷	ہشام بن عروہ کی وفات
۳۸۹	مہدی اور سفیان ثوری ^۲	۳۶۷	ابو حنیفہ النعمان اور ایک جماعت کی وفات
۳۹۰	وفات سے قبل مہدی کا خواب	۳۶۸	منصور کے چچا عبداللہ بن علی کا قتل
۳۹۰	زفر بن ہذیل اور علماء کی ایک جماعت کی وفات -	۳۷۱	منصور کی وفات
۳۹۲	موسے الہادی کی خلافت کا بیان	۳۷۱	منصور کی صفات
۳۹۲	مختصر حالات	۳۷۲	اس کی اولاد
	اس کے مختصر حالات و واقعات اور اس کے دور کی ایک جھلک -	۳۷۳	مہدی محمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی خلافت کا بیان -
۳۹۲	الہادی کے اوصاف	۳۷۳	مختصر حالات
۳۹۳	اس کی شجاعت کی ایک مثال	۳۷۴	اس کے حالات و واقعات کا بیان اور اس کے دور کی ایک جھلک
۳۹۳	الہادی اور عیسیٰ بن داب کے درمیان دوستی -	۳۷۴	مہدی اور قاضی شریک
۳۹۳	سندھی غلام کا جرم	۳۷۴	شکار کو جاتے ہوئے مہدی اور عمرو کا بھوکا رہنا -
۳۹۴	مہدی کے وزراء	۳۷۴	شکار کو جاتے ہوئے دوسری دفعہ مہدی کا بھوکا رہنا -
۳۹۴	حسین بن علی بن حسن کا ظہور	۳۷۵	مہدی کے وزراء
۳۹۵	حسن بن علی صاحب فسخ کا مرتبہ	۳۷۶	مہدی کے خصائل و اعمال
۳۹۵	الہادی کا ام خیزران کی اطاعت کرنا	۳۷۷	خیزران اور مروان بن محمد کی بیوی
۳۹۶	عباسیوں نے بنی ہاشم کا بدلہ بنی مروان سے لیا -	۳۷۸	عبداللہ بن عمرو بن عقبہ کا مہدی کے پاس تعزیت کرنا اور مبارک باد دینا -
۳۹۶	مصر کی کچھ خوبیاں، کچھ عیوب اور کچھ واقعات -	۳۸۰	عقبہ، لوندی اور ابوالعتاہیہ
۳۹۸	شہر و نقلہ	۳۸۱	ابوالعتاہیہ کی جانب سے مہدی کو تحفہ
۳۹۹	بصرہ اور کوفہ کے درمیان	۳۸۲	ابوالعتاہیہ
۴۰۰	ہارون الرشید کو ولی عہدی سے الگ	۳۸۳	محمد مہدی اور شرفی بن قظامی
		۳۸۶	

۴۱۱	محمد بن جعفر کا ظہور اور مغرب کی طرف	۴۰۱	کرنے کے متعلق الہادی کی خواہش
۴۱۲	فرار۔	۴۰۲	الہادی اور ایک گنہگار آدمی
۴۱۲	ہارون الرشید کا آخری حج	۴۰۳	الہادی اور ہارون الرشید کے درمیان گفتگو۔
۴۱۳	کسانی اور محمد بن حسن شیبانی کی وفات		اپنے دونوں بیٹوں الہادی اور الرشید کے متعلق مہدی کا خواب۔
۴۱۳	عبدالملک بن صالح پر رشید کی ناراضگی	۴۰۳	الہادی کا عمرو بن معدی کرب کی تلوار ^{مہدی} حاصل کرنا۔
۴۱۴	ہارون الرشید کو مچھلی کا تحفہ ملنا اور پختیشور طیب کا اُسے اُس سے روکنا۔	۴۰۴	ہارون الرشید کی خلافت کا بیان مختصر حالات
	رشید کا خواب جس میں اُسے موسیٰ بن جعفر کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔	۴۰۶	اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان اور اس کے دور کی ایک جھلک
۴۱۶	ابراہیم بن مہدی کا اسود کے لیے گانا	۴۰۶	ہارون الرشید کا یحییٰ بن خالد برمکی کو وزیر بنانا۔
۴۱۷	رشید اور معن بن زائدہ کے درمیان گفتگو۔		محمد بن سلیمان اور قاضی سوار کو ایک دیوانے کا ملنا۔
۴۱۹	رشید اور کسانی	۴۰۶	لیث بن سعد کی وفات
۴۲۰	ایہن کے مؤدب احمد نحوی کو رشید کی وصیت۔	۴۰۸	قاضی شریک کی وفات
	العمانی کا، رشید کو ایہن کے تجدید عہد پر قائم کرنا۔	۴۰۸	امام مالک بن انس کی وفات
۴۲۳	اس کے ولایت عہد کے متعلق رشید کی خواہش۔	۴۰۹	حماد بن زین
۴۲۲	رشید کا کعبہ میں عہد کی دستاویز کو لٹکانا۔	۴۰۹	ابن المبارک
۴۲۴	فضیل بن عیاض کی وفات	۴۰۹	قاضی ابو یوسف
۴۲۵	موسے بن جعفر کی وفات		ہارون الرشید کی موجودگی میں عبداللہ بن مصعب زبیری اور موسے بن عبداللہ بن حسن طالبی کے درمیان۔
۴۲۵	رشید کے متعلق القباہی کے اشعار	۴۱۰	

۴۲۹	رشید کا اپنی بہن عباسہ کا جعفر برہمی سے شادی کرنا۔	۴۲۹	العتابی کا ابو نواس سے چڑنا
۴۳۰	برامکہ کی مدت حکومت اور شعراء کا ان کے مرتبے کہنا۔	۴۲۶	ابوالغناہمیہ اور غنہ
۴۶۲	محمد الامین کی خلافت کا بیان	۴۳۱	اسحاق موصلی کا رشید کو گانا سنانا
۴۶۲	مختصر حالات	۴۳۲	رشید کے ہاں گلوکاروں کی ایک پارٹی
۴۶۲	اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان اور اس کے دور کی ایک جھلک	۴۳۴	رشید کا گھوڑا دوڑ کرانا
۴۶۲	اس کے پاس ولایت کی خبر کیسے پہنچی؟	۴۳۵	مچھلی کا تھال ایک ہزار درہم میں اچھے اور برے نام
۴۶۲	ایہن کے حمل اور پیدائش کے وقت اور اس کے بعد نہ بیدہ کا خواب۔	۴۳۵	امراء سے مخاطب ہونے کا طریق
۴۶۳	ایہن کا اپنے بھائی کو دست بردار کرنے کا عزم۔	۴۳۶	ایک آدمی کا رشید کو واقعہ سنانا اور اس کا اُسے چار ہزار دینار بدلہ دینا۔
۴۶۴	محاصرہ کی حالت میں ایہن کا گانے کی مجلس قائم کرنا۔	۴۳۷	کھجور کا بیڑا اچھا ہے یا تازہ کھجور
۴۶۶	محاصرہ میں ایہن کا کھیل	۴۳۸	تعزیت و تہنیت
۴۶۹	ایہن کی صفات	۴۳۸	رشید کی بیماری
۴۷۰	ایہن کی دست برداری کی پیش خبری	۴۳۹	ابوالغناہمیہ اشعار میں رشید پر گریہ کرنا ہے۔
۴۷۰	عبد الملک بن صالح بن علی	۴۴۱	برامکہ کے مختصر حالات
۴۷۲	ایہن کا طاہر بن حسین کی طرف خط	۴۴۱	ان کا چچیدہ آدمی — خالد بن برمک
۴۷۵	فوج کے جنرلوں کے اتقاب	۴۴۱	ان کی نکتہ کا سبب
۴۷۹	معرکہ دار الرقیق	۴۴۱	فضل بن یحییٰ کا شکار میں انہماک اور رشید کے حکم سے اس کے باپ کا اُسے ڈانڈنا۔
۴۸۱	برہنہ لوگوں کی خود رانی	۴۴۱	جعفر برہمی، اصمعی کے پاس
۴۸۲	فیصلہ کن جنگیں	۴۴۲	یحییٰ بن خالد کی ایک مجلس
۴۸۳	مامون کی خلافت کا بیان	۴۴۲	عشق کے متعلق ان کی گفتگو
۴۹۴		۴۴۶	عشق اور اس کی علت و وقوع

مختصر حالات

۵۱۳	قاضی بصرہ یحییٰ بن اکثم	۴۹۴	اس کے مختصر حالات و واقعات کا بیان
۵۱۶	امام شافعی کی وفات	۴۹۴	اور اس کے دور کی ایک جھلک۔
۵۱۷	ابوداؤد طیالسی اور ابن الکلبی	۴۹۴	مامون اور فضل بن سہل
۵۱۸	مامون اور ایک مدعی نبوت	۴۹۵	عمر بن مسعدہ
۵۱۷	مامون اور ابراہیم خلیل ہونے کا مدعی	۴۹۵	علی بن موسیٰ رضا
	ابو السراپا، ابن طباطبا اور چند علویوں	۴۹۵	مامون اور اس کا چچا ابراہیم
۵۱۸	کی بغاوت۔	۴۹۵	مامون اور ابودلف
۵۱۹	ابن افسس کا ظہور	۴۹۵	مامون کے کلمات
۵۲۰	ابو السراپا پر کامیابی	۴۹۷	مامون کے پاس تمامہ اور یحییٰ بن اکثم کے
۵۲۰	مامون اور علی بن موسیٰ رضا		درمیان گفتگو۔
۵۲۱	فضل بن سہل کا قتل	۴۹۸	کوفہ کا وفد اور مامون
۵۲۱	علی بن موسیٰ رضا کی وفات	۴۹۹	مامون، زنادقہ اور طفیل
۵۲۱	مامون کے خلاف ابراہیم بن مہدی کا	۴۹۹	ابراہیم بن مہدی کا طفیل بننا
	خروج۔	۵۰۱	اسحاق موصلی اور کلثوم عتباتی، مامون کے
۵۲۱	بابک خرمی کی بغاوت	۵-۵	حضور۔
۵۲۲	ابراہیم پر کامیابی		العتباتی
۵۲۲	حسن بن سہل کی بیٹی بوردان سے مامون	۵۰۷	ایک کاتب اور ندیم کے درمیان بحث
	کی شادی۔	۵۰۷	ایک آدمی کا مامون کے پاس واقعہ
	مامون کے اہل کا، اسے ابراہیم بن مہدی		بیان کرنا۔
۵۲۳	کے قتل پر اکسانا۔	۵۰۷	مامون اور ابوالعتاہمہ
۵۲۴	ابراہیم بن مہدی کے حالات	۵۰۸	مامون اور ایک آدمی
۵۲۶	یزید بن مارون	۵۰۸	تین باتوں کے جواب سے مامون کا
۵۲۶	اہل علم کی جماعت کی وفات		عاجز ہونا۔
۵۲۶	دقا و ایشارہ کا ایک واقعہ	۵۱۰	مامون کا فقہاء سے مناظرہ
۵۲۷	ازہر اور ابو جعفر منصور کے درمیان	۵۱۱	

۵۲۶	معتصم کی ترک فوج	۵۲۸	ابن عائشہ کا قتل
۵۲۷	سامرا کی اسکیم	۵۲۹	ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ کی وفات
۵۲۸	بابک خرمی کی بغاوت	۵۳۰	ابوالقناہیہ کی وفات اور حالات
۵۵۲	زبطری رومیوں کی جنگ	۵۳۳	خلیل کے عروض میں اضاغہ
۵۵۲	طبرستان کے حاکم مازیار کا خروج اور وفات۔	۵۳۳	ابوالعباس ناشی
۵۵۴	ابودلف عجلی کی وفات	۵۳۴	معاویہ کے معاملے اور اس کے سبب کے متعلق مامون کا اعلان۔
۵۵۶	ابودلف کی عداوت اور اس کا بیٹا	۵۳۵	ابوعاصم نبیل اور ایک اہل علم جماعت کی وفات۔
۵۵۷	علماء کی ایک جماعت کی وفات	۵۳۵	رومیوں سے جنگ
۵۵۷	معتصم کی وفات	۵۳۷	مامون کی بیماری اور وفات۔
۵۵۸	واثق باللہ کی خلافت کا بیان	۵۴۰	معتصم کی خلافت کا بیان
۵۵۸	مختصر حالات	۵۴۰	مختصر حالات
۵۵۸	اس کے حالات و واقعات اور اس کے دور کی ایک جھلک۔	۵۴۰	اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان اور اس کے دور کی ایک جھلک۔
۵۵۸	واثق کی صفات	۵۴۰	معتصم کا وزیر ابن الزیات اور احمد بن ابی داؤد۔
۵۵۸	دو آدمیوں کا اس پر اثر انداز ہونا ایک بدو کا، واثق اور اس کے مددگاروں کی تعریف کرنا۔	۵۴۰	آبادی سے معتصم کی محبت
۵۵۹	ابو تمام طائی	۵۴۱	معتصم کی قوت و شجاعت
۵۶۰	علی بن جعد	۵۴۳	معتصم اور علی بن جنید
۵۶۰	یزید مائش کا مقتول	۵۴۴	معتصم اور ایک بوڑھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھسل گیا تھا۔
۵۶۰	ندیم	۵۴۵	علماء کی ایک جماعت کی وفات
۵۶۱	محمد بن علی بن موسیٰ	۵۴۵	محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر
۵۶۱	عبد اللہ بن طاہر	۵۴۵	محمد بن قاسم علوی
۵۶۱	واثق کی مجلس طب و فلسفہ		

۵۷۶	ممالک	۵۷۵	وائق اور حنین بن اسحاق
۵۷۶	ممالک پر سمندروں کی تاثیر	۵۷۵	سال کے اوقات
	اسکندر کی قبر کے متعلق حکماء کے	۵۷۵	ستارے
۵۷۷	اقوال -	۵۷۵	ہوائیں

۱۲۹۲۷۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کا بیان

حضرت معاویہ کی بیعت شوال ۳۱ھ میں بیت المقدس میں ہوئی آپ کا زمانہ خلافت
 اسی سال آٹھ ماہ ہے، آپ کی وفات رجب ۶۰ھ میں اسی سال کی عمر میں ہوئی اور آپ
 کو دمشق کے باب صغیر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت یعنی ۳۲ھ تک ان کی قبر کی زیارت کی جاتی
 ہے، ان کی قبر پر ایک کمرہ تعمیر کیا گیا ہے جو ہر سوموار اور جمعرات کو کھلتا ہے۔

آپ کے حالات اور سیرت کی ایک جھلک

حضرت امیر معاویہ نے ۳۳ھ ہجری میں حجر بن عدی الکندی کو قتل کر دیا،
حجر الکندی کا قتل | اسلام میں یہ پہلا شخص تھا جسے قتل کرنے کے لیے قید کیا گیا۔
 اس کو زیاد نے اپنے نوکوفی اور چار دیگر ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے گرفتار کیا جب وہ
 کوفہ سے چند میل کے فاصلہ پر تھا اور وہ لوگ اُسے دمشق لے جانا چاہتے تھے تو اس کی
 بیٹی نے یہ اشعار کہے (اس بیٹی کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی)

”اے روشن چاند! ذرا بلند ہو شاید تو حجر کو چلتا ہوا دیکھ لے، وہ معاویہ
 بن حرب کے پاس قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہی امیر کا خیال ہے
 اور وہ اُسے دمشق کے دونوں دروازوں پر صلیب دے گا اور گدھ اس کے
 محاسن کو کھا بیٹھے اور حجر کے بعد دانا لوگوں نے خورنق اور سدیر کو پسند کر لیا
 ہے اور وہ ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور اے حجر بن عدی تجھے خوشی اور

سلامتی حاصل ہو، میں تیرے بارے میں اس چیز سے خائف ہوں جس نے علیؑ کو ہلاک کر دیا اور دمشق میں ایک شیخ گرج رہا ہے، کاش حجر طبعی موت مرجاتا اور اُسے اُونٹ کی طرح ذبح نہ کیا جاتا، پس اگر تو ہلاک ہو گیا ہے تو قوم کا ہر سردار دنیا سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔“ اور جب وہ مرج عذراء میں پہنچا جو دمشق سے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو حضرت معاویہ کے پاس ایچی نے ان کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے تو آپ نے ایک چشم آدمی کو بھیجا، جب اس نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر فال سچی ہے تو یہ شخص ہم میں سے نصف آدمیوں کو قتل کر دے گا اور باقی بچ جائیں گے، اس سے دریافت کیا گیا کہ تو یہ بات کیسے کہہ رہا ہے؟ اُس نے جواب دیا کیا تم سامنے سے آنے والے آدمی کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ ایک چشم ہے، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے حجر سے کہا، اے مگر اسی کے سردار، کفر و سرکشی کی کان، ابو تراب کے دوست، امیر المؤمنین نے مجھے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے ہاں اگر تم لوگ اپنے کفر سے رجوع کرو اور اپنے صاحب پر لعنت کرو اور اس سے پیرا رہو گا اظہار کرو تو پھر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس کے جواب میں حجر اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جس بات کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے مقابلہ میں تلوار کی دھاڑ پر بھڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وصی کو راہنی کرنا ہمیں آگ میں داخل ہونے سے زیادہ محبوب ہے، حجر کے نصف ساتھیوں نے حضرت علیؑ سے براءت کا اظہار کر دیا، پس جب وہ حجر کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو اور وہ نماز کو طول دینے لگا، اُسے کہا گیا کہ کیا تو موت سے ڈر کر نماز کو لمبا کر رہا ہے اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں نے ہمیشہ ہی پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑھی ہے اور کبھی اس نماز سے زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھی۔ اور میں کھدی ہوئی قبر، اور سونتی ہوئی تلوار اور کھلے ہوئے کفن کو دیکھ کر کیسے نہ گھبراؤں، پھر وہ آگے بڑھا اور اُسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کے ان ساتھیوں کو بھی جو اس بات میں اس سے اتفاق کرتے تھے قتل کر دیا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے قتل کا واقعہ شہہ میں ہوا ہے۔

عدی بن حاتم اور معاویہ | کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی حضرت معاویہ کے

پاس آیا تو آپ نے اُسے کہا کہ تیرے لڑکوں نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قتل ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تیری اولاد تو قتل ہو گئی ہے اور اس کی اولاد باقی رہ گئی ہے عدی نے جواب دیا، تو نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انصاف نہیں کیا کہ وہ تو قتل ہو گئے ہیں اور تو باقی رہ گیا ہے جسے اشرافِ یمن میں سے کسی شریفِ یمنی کا خون ہی مٹا سکتا ہے۔ عدی نے جواب دیا خدا کی قسم جن دلوں کے ساتھ ہم تجھ سے بغض رکھتے ہیں وہ ہمارے سینوں میں ہیں اور جن تلواروں کے ساتھ ہم نے تجھ سے جنگ کی ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہیں اور اگر تو خیانت کر کے چند اپنج بھی ہمارے قریب آیا تو ہم جنگ کرتے ہوئے ایک بالشت تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بُرائی سننے کی نسبت گلوں کا ٹانا اور جان کنی کے وقت غرغراتا ہم پر زیادہ آسان ہے۔ اے معاویہ! جو بات تلوار اٹھانے کا باعث ہو اس سے تلوار کو بچا، حضرت معاویہ نے کہا یہ حکمت کی باتیں ہیں ان کو لکھ لو۔ اس کے بعد وہ عدی سے یوں گفتگو کرنے لگے گویا انہوں نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی۔

حضرت معاویہؓ کے ہاں عمرو بن عثمان اور اسامہؓ کے درمیان جھگڑا | کتے ہیں کہ عمرو بن عثمان

بن عفانؓ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زیدؓ ایک زمین کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے حضرت معاویہؓ کے پاس گئے تو عمروؓ نے اسامہؓ سے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بُرا مناتے ہیں، اسامہؓ نے جواب دیا میری دوستی کے مقابلہ میں تیرا نسب مجھے خوش نہیں کرتا، پس مروان بن الحکمؓ اٹھ کر عمرو بن عثمانؓ کے پہلو میں آ بیٹھا اور حضرت حسنؓ اٹھ کر اسامہؓ کی طرف آ بیٹھے اور سعید بن العاصؓ اٹھ کر مردان کے پہلو میں آ بیٹھے اور حضرت حسینؓ اٹھ کر حضرت حسنؓ کے پہلو میں آ بیٹھے اور عبداللہ بن عامرؓ اٹھ کر سعید کے پہلو میں آ بیٹھے اور حضرت عبداللہ بن جعفرؓ اٹھ کر حضرت حسینؓ کے پہلو میں آ بیٹھے اور عبدالرحمن بن الحکمؓ اٹھ کر ابن عامر کے پہلو میں آ بیٹھے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اٹھ کر ابن جعفرؓ کے پہلو میں آ بیٹھے، جب حضرت معاویہؓ نے یہ صورت حال دیکھی تو کہنے لگے۔ جلد بازی سے کام نہ لو میں اُس وقت خود موجود تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہؓ کو یہ قطعہ زمین دیا

تھا پس ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے اور کامیاب و کامران ہو کر باہر نکل گئے اور امویوں نے آکر اُسے کہا کہ آپ نے ہمارے درمیان صلح کیوں نہیں کروائی حضرت معاویہؓ نے جواب دیا مجھے چھوڑ دو خدا کی قسم جب میں صفین میں خودوں کے نیچے ان کی آنکھوں کے منظر کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل کام نہیں کرتی اور جنگ آغاز میں مشورہ، درمیان میں شکایت اور آخر میں مصیبت ہوتی ہے، اور آپ نے امر اڈ القیس کے اُن اشعار سے مثال پیش کی جن کا ذکر ہم اس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں کر چکے ہیں۔ جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ

”جنگ شروع شروع میں نوجوان دوشیزہ کی طرح ہوتی ہے جو زیب و

زینت کے ساتھ ہر جاہل کے قریب آتی ہے۔“
پھر کہنے لگے کہ جو باتیں دل میں ہوتی ہیں وہ جنگ کی آگ کو فروختہ کرتی ہیں اور بڑے بڑے امور کو چھوٹے چھوٹے کام دور کر دیتے ہیں اور مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا کہ
”چھوٹی چیز بڑی سے مل جاتی ہے اور بچے سے اونٹ بن جاتا ہے اور پودے سے لمبی کھجور بن جاتی ہے۔“

مسعودی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت معاویہؓ نے اپنے باپ ابوسفیان کے ساتھ زیاد کا

زیاد کا ابوسفیان کے ساتھ الحاق

الحاق کرنا چاہا تو اس وقت اس کے پاس زیاد بن اسما الحرامزی، مالک بن ربیعہ سلولی اور منذر بن زبیر بن العوام موجود تھے معاویہ نے کہا کہ ابوسفیان نے اُسے بتایا تھا کہ زیاد اس کا بیٹا ہے نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زیاد کے تذکرہ کے وقت ابوسفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ

”اے علیؓ! خدا کی قسم اگر مجھے اس دشمن شخص کا خوف نہ ہوتا جو مجھے دیکھ رہا

ہے تو سخن بن حرب اس کے معاملہ کی وضاحت کر دیتا اور زیاد کے متعلق عدم

توضیح سے کام نہ لیتا۔ لیکن میں ہاتھ کی گردنوں سے ڈرتا ہوں جو سزائیں دیتی

ہیں اور شہر بزرگ دیتی ہیں اور ثقیف سے میرا مطالبہ بہت لمبا ہو گیا ہے

اور میں نے ان لوگوں میں اپنا جگر گوشہ چھوڑا ہے۔“

پھر ابو مریم سلولی کی شہادت نے اس کے یقین میں مزید اضافہ کر دیا اور وہ

سب لوگوں سے زیادہ ابتدائی حالات کا جاننے والا تھا اور اسی نے جاہلیت کے زمانہ میں ابوسفیان اور سمیہ زیاد کی ماں کا زنا کاری کے لیے ملاپ کروایا تھا اور سمیہ طائف میں ان عورتوں میں شامل تھی جن کے جھنڈے بنے ہوئے تھے اور وہ حارث بن کلابہ کو ٹیکس ادا کرتی تھی، اور وہ طائف میں شہر سے باہر اس مقام پر اتر آ کر تھی جہاں طوائفیں فروش ہو کر تھیں اس جگہ کا نام طوائفوں کا محلہ تھا۔

ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے زیاد کے متعلق جو یہ ادعاء کیا کہ وہ ابوسفیان کا بیٹا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ سہل بن حنیف کے اخراج کے بعد حضرت علیؓ نے اُسے ایران کا حاکم بنایا تو زیاد ان کی آپس میں جنگ کروا کر ان پر غالب آ گیا اور اس کے اضلاع میں ہمیشہ گھومتا رہا یہاں تک کہ ایران کی حالت سدھ گئی پھر آپ نے اُسے اضطرار کا حاکم بنا دیا اور حضرت معاویہؓ اُسے دھمکاتے تھے۔ پھر بسر بن ارطاة نے اس کے دو بیٹوں عبید اللہ اور سالم کو پکڑ لیا اور قسم کھا کر اُس کو لکھا کہ اگر اس نے حضرت معاویہؓ کی اطاعت کی طرف رجوع نہ کیا تو وہ ان دونوں کو قتل کر دے گا، حضرت معاویہؓ نے بسر کو لکھا کہ وہ زیاد کے دونوں بیٹوں کو کچھ نہ کہے اور زیاد کو لکھا کہ وہ ان کی اطاعت اختیار کرے اور وہ دوبارہ اُسے اس کے کام پر لگا دیں گے، پس زیاد نے حضرت معاویہؓ کے پاس آ کر مال اور زیورات پر ان سے مصالحت کر لی۔ حضرت معاویہؓ نے اس سے حلف کا مطالبہ کیا تو زیاد نے حلف دینے سے انکار کر دیا اور حضرت معاویہؓ کے پاس آنے سے قبل معیرہ بن شعبہ نے زیاد سے کہا تھا اپنے انتہائی مقصد کو حاصل کر اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ کام سوائے حضرت حسن بن علیؓ کے اور کوئی نہیں کر سکتا مگر انہوں نے بھی معاویہؓ کی بیعت کر لی ہے۔ اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرنے سے اپنے لیے کچھ حاصل کرے۔ زیاد نے کہا مجھے کچھ بتاؤ کہ میں کیا کروں، اس نے کہا میرے خیال میں اس کے اصل کے ساتھ اپنے اصل کو اور اس کی رستی کے ساتھ اپنی رستی کو ملا لو اور لوگوں کے کانوں کو بہرہ کر دو۔ زیاد نے کہا، اے ابن شعبہ! کیا میں ایسی جگہ پر شاخ کاشت کروں جو اس کے اگنے کی جگہ نہیں اور نہ وہاں پر مٹی ہے کہ وہ اُسے زندہ رکھے اور نہ پانی ہے کہ اُسے سیراب کرے، پھر زیاد نے اس دعویٰ کے قبول کرنے کا عزم کر لیا اور ابن شعبہ کی رائے کو اختیار کر لیا اور جو یہ بنت ابوسفیان نے اپنے بھائی معاویہؓ کے معاملے کے

بارے میں اُسے پیغام بھیجا تو وہ اس کے پاس آیا اس نے اُسے اندر آنے کی اجازت دی اور اس کے سامنے اپنے بالوں کو ننگا کر کے کہا تو میرا بھائی ہے یہ بات مجھے ابو مریم نے بتائی ہے، پھر حضرت معاویہ اُسے مسجد میں لے گئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا تو ابو مریم سولی نے کھڑے ہو کر کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ابوسفیان طائف میں ہمارے ہاں آیا اور میں زمانہ جاہلیت میں بادہ فروش تھا، اس نے کہا مجھے کوئی فاحشہ عورت تلاش کر دو، میں نے انہیں آکر کہا کہ مجھے حارث بن کلابہ کی لونڈی سمیہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ملی، اس نے کہا اگرچہ وہ گندی اور بد بودار ہے پھر بھی اُسے میرے پاس لے آؤ، زیاد نے اُسے کہا اے ابو مریم مٹھر جلے گا اسی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے گالیاں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ابو مریم نے کہا اگر تم لوگ مجھے معاف کر دو تو یہ بات مجھے پسند ہے میں نے صرف اس بات کی گواہی دی ہے جو میں نے دیکھی بھالی ہے خدا کی قسم اس نے اس کی اور ٹھنی پکڑ لی اور میں نے دونوں کو کرے میں بند کر دیا اور حیرت زدہ ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑے دیر بعد ابوسفیان پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے باہر نکلا تو میں نے کہا ابوسفیان! بس، اس نے کہا اے ابو مریم اگر اس کے پستان ڈھیلے نہ ہوتے اور اُن میں بونہ ہوتی تو میں نے اس جیسی عورت سے صحبت نہیں کی، اس پر زیاد نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگو! اس گواہ نے جو کچھ بیان کیا ہے تم نے سن لیا ہے اور مجھے اس کے جھوٹے سچ کا کچھ علم نہیں۔ اور عبید ایک اچھا ربیب یا قابل شکریہ دوست ہے اور جو بات ان لوگوں نے کہی ہے گواہ اسے بہتر جانتے ہیں اس موقع پر یونس بن عبید اٹھ کھڑا ہوا۔ جو صفیہ بنت عبید بن اسد بن علاج ثقفی کا بھائی تھا۔ اور صفیہ، سمیہ کی لونڈی تھی اس نے کہا اے معاویہ! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ بچہ بستر والے دشوہرا کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اور تو نے کتاب اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اور سنت رسول سے انحراف کرتے ہوئے ابو مریم کی شہادت پر کہ ابوسفیان نے زنا کیا تھا، یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچہ زانی کے لیے ہے اور بستر والے کے لیے پتھر ہیں، معاویہ نے کہا اے یونس خدا کی قسم تو ضرور ان باتوں سے باز آ جا، ورنہ میں تجھ پر ایسا غضب ناک ہوں گا کہ اس غضبناکی کا وقوع نہایت آہستہ آہستہ ہو گا۔ یونس نے جواب دیا کیا خدا کی بات کرتے ہوئے بھی مجھ پر اس غضبناکی کا وقوع ہو گا اس نے کہا ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور اس بارے

میں عبدالرحمن بن ام الحکم نے یہ اشعار کہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یزید بن مفرغ حمیری نے کہے ہیں کہ

”ایک یمانی شخص کی جانب سے معاویہ بن حرب کو جلد یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا تو اس بات سے غصے ہوتا ہے کہ تیرے باپ کو عقیف کہا گیا ہے اور اپنے باپ کو زانی کہنے سے تو راضی ہوتا ہے اور زیاد سے تیری رشتہ داری ایسی ہی ہے جیسے ہاتھی کی گدھی کے بچے سے ہوتی ہے۔“

اور زیاد کے متعلق خالد بن خالد نے کہا ہے

”زیاد، نافع، اور ابوبکر میرے نزدیک نہایت عجوبے ہیں، یہ تینوں

آدمی مخالف النسب عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک قرشی ہے

اور ایک غلام ہے اور ایک اپنے خیال میں عربی ہے۔“

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ قتل ہو گئے تو جنگ صفین کے دن سے معاویہ کے

دل میں ہاشم بن عقبہ بن ابی وقاص المرقال اور اس کے بیٹے عبداللہ بن ہاشم کے بارے میں کینہ

تھا، جب معاویہ نے زیاد کو عراق کا گورنر بنایا تو اسے لکھا کہ عبداللہ بن ہاشم بن عقبہ کو

تلاش کرو اور اس کا ہاتھ گردن سے باندھ کر اسے میری طرف بھیج دو تو زیاد نے اسے

بصرہ سے بیڑیاں اور طوق ڈال کر دمشق کی طرف بھجوا دیا، زیاد بصرہ میں رات کو اس کے

گھر گیا تھا، جب اسے معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت عمرو بن العاص بھی وہیں

بیٹھے تھے، معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں، اس نے

جواب دیا نہیں، معاویہ نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے باپ نے جنگ صفین کے دن

کہا تھا

”میں نے بیادہی کے وقت جاں فروشی کی اور مجھے بہت ملامت کی گئی، ایک

یک چشم جس کے اہل جگہ تلاش کرتے تھے اس نے زندگی سے کشاکش جاری

رکھی یہاں تک کہ اکتا گیا، ضروری ہے کہ وہ شکست دے یا شکست کھائے

میں انہیں گانٹھ داہ نیزے سے بھگا دوں گا، میرے نزدیک اس شریف آدمی

میں کوئی بھلائی نہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔“

عمرو بن عاص نے بطور مثال کہا کہ

”کبھی روٹی پر بھی گھاس اگ پڑتی ہے اور لوگوں کے اندازے یوں ہی رہ جاتے ہیں۔“

”اے امیر المومنین پوشیدہ کینے کو پکڑیے اور اس کی رگوں کا خون اس کے کبل پر بہا دیجیے اور اسے اہل عراق کی طرف نہ لوٹائیے، یہ نفاق پر صبر نہیں کرے گا اور عراقی جنگ کے روز ابلیس کی پارٹی ہوتے ہیں اور غدار اور عداوت رکھنے والے ہیں اور اس کی ایک خواہش ہے جو اسے تباہ کرے گی اور ایک جھنڈا ہے جو اسے سرکش بنا دے گا اور ایک بھید ہے جو اسے قوت دے گا اور بُرائی کی جزا اسی قسم کی بُرائی ہے، بعد اللہ نے کہا اے عمرو! اگر میں قتل ہو جاؤں تو میں ایسا آدمی ہوں جسے اس کی قوم نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے مقررہ دن نے اُسے آلیا ہے، کیا یہ باتیں تجھ سے ظہور پذیر نہیں ہوئیں، جب تو جنگ سے پہلو تہی کر رہا تھا اور ہم تجھے مقابلہ کے لیے بلا رہے تھے اور تو سیاہ لونڈی اور آگے سے پکڑ کر لے جانے والی دُبی کی طرح جو چھوٹنے والے کے ہاتھ کو، ہٹاتی نہیں، بچے کچھے پانیوں میں پناہ لیتا پھرتا تھا، عمرو نے کہا خدا کی قسم تو ایسے ایال والے شیر کے دانتوں تلے آ گیا ہے جو اپنے مد مقابل کو پس کر رکھ دیتا ہے اور میں تجھے امیر المومنین کے پنے سے بچ کر جاتے نہیں دیکھتا عبد اللہ نے کہا: خدا کی قسم اے ابوالعاص تو آسائش میں بڑا متکبر اور جنگ کے وقت بزدل اور حکمرانی کے وقت ظالم اور ملاقات کے وقت خوفزدہ ہوتا ہے اور بوڑھی بیماری بگڑی کی طرح آواز نکالتا ہے جسے تھوڑے پانی میں بندھا ہوتا ہے جو نہ مدت میں جلدی کرتی ہے اور نہ شدت میں اُمید رکھتی ہے کیا یہ باتیں اس وقت تجھ سے ظہور پذیر نہیں ہوئیں جب تجھ سے ان لوگوں نے جنہوں نے نہ چھوٹوں کو دانت ڈپٹ کی اور نہ بڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے ہاتھ سخت اور نہ بانہیں تیز تھیں وہ پیرھے پن کو دے دیتے تھے اور جنگ کو جاتے تھے اور تھوڑوں کو زیادہ کرتے اور غمزدوں کو شفا دیتے اور ذلیل لوگوں کو عزت دیتے تھے، عمرو نے کہا قسم بخدا میں نے اس دن تیرے باپ کو دیکھا اس کا اندرون کانپ رہا تھا اور اس کی آنٹیں بھٹ رہی تھیں اور اس کا جسم مضطرب تھا گویا اس پر ٹھوس پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ عبد اللہ نے کہا اے عمر ہم نے تجھے اور تیری باتوں کو آزمایا ہے تیری زبان جھوٹی اور عمد شکن ہے اور تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو تجھے جانتے نہ تھے اور ایسی فوجوں میں رہا ہے

تجھ سے بھگڑا نہ کرتی تھیں اور اگر تو شامیوں کے علاوہ کسی سے بات کرنی چاہے تو تیری عقل تجھے گھوڑ کر دیکھے اور تیری زبان تملجا جائے اور تیری زبانیں اس بیٹھنے والے شخص کی طرح کانپیں جس کے بوجھ نے اُسے بوجھل کر دیا ہو، معاویہؓ نے دونوں کو کوئی اور بات کرنے کو کہا اور عبد اللہ کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا تو عمرو نے معاویہؓ سے کہا۔

”میں نے تجھے ایک دانائی کی بات کا حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی اور ابن ہاشم کا قتل کر دینا تیرے بس میں تھا، اے معاویہؓ! کیا اس کا باپ وہی نہیں جس نے گلے کاٹنے کے روز حضرت علیؓ کی مدد کی تھی؟ اور وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک صفین میں ہمارے خون کے عظیم سمندر نہیں بہ پڑے، اور یہ اس کا بیٹا ہے اور آدمی اپنے بزرگوں سے مشابہت رکھتا ہے اور قریب ہے کہ وہ ندامت سے دانت پیسے۔“

عبداللہ نے اُسے جواب دیتے ہوئے کہا

”اے معاویہ! عمر و ایسا آدمی ہے جس کا کینہ ہر وقت بھڑکتا رہتا ہے اے ابن ہند! وہ تجھے میرے قتل کی رائے دیتا ہے اور اس کی رائے وہ ہے جو عجمی بادشاہوں کی بھی نہیں، جب مصالحانہ عہد و پیمان انہیں روکیں تو وہ اپنے اسیر کو قتل نہیں کرتے اور جنگِ صفین کے روز ہمیں تم سے نفرت تھی جس کا ارتکاب ہاشم اور ابن ہاشم نے کیا تھا اور جو نفرت ختم ہو گئی ہے اس کا جانا خواب کو شک سے بیان کرنے والے کی طرح ہے اور اگر تو مجھے معاف کرے تو تو ایک قرابت دار کو معاف کرے گا اور اگر تو میرے قتل کی رائے رکھتا ہے تو تو میری مکر کو جائز ٹھہراتا ہے یعنی میرے قتل کو جائز قرار دیتا ہے۔“

تو معاویہؓ نے کہا

”میں قریش کے بلند قدر لوگوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور سخت تنگی کے دن قرب کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں جس روز ابن ہاشم کو قتل کر دوں گا میں لڑی اور عامر سے اپنا بدلہ لے لوں گا، بلکہ

میں اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد اُسے معاف کروں گا اور اس سے ایک تکلیف دینے والی حد کو دُور کروں گا، اس کا باپ جنگ صفین کے روز ہم پر ایک نگارے کی طرح برستا تھا تو اُسے اُٹھے ہوئے نیزوں نے ہلاک کر دیا۔“

ایک روز عبداللہ بن ہاشم، حضرت معاویہؓ کی مجلس میں آیا تو حضرت معاویہؓ نے کہا کہ مجھے سخاوت، شجاعت اور جو انمردی کے متعلق کون بتائے گا؟ عبداللہ نے کہا اے امیر المومنین! سخاوت نام ہے مال خرچ کرنے کا اور سوال سے پہلے عطا کرنے کا، اور شجاعت لوگوں پر حملہ کرنے اور قدموں کے ڈنگانے کے وقت ڈٹ جانے کو کہتے ہیں اور جو انمردی، دین کی بہتری، مال کی اصلاح اور پڑوسی کی حفاظت کو کہتے ہیں۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہؓ کے نام محمد بن ابی بکرؓ کا خط لکھا تو اس نے حضرت معاویہؓ کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ یہ خط محمد بن ابی بکرؓ کی طرف سے معاویہ بن صخرؓ کے گمراہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

اِنَّا بَعْدَ، اللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنی عظمت و سطوت سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور یہ کام اس نے عبث طور پر نہیں کیا اور نہ ہی اس کی قوت میں ضعف پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اُسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کچھ ضرورت تھی بلکہ اس نے انہیں اپنے غلام بنا کر پیدا کیا ہے اور ان میں سے بعض کو گمراہ بعض کو ہدایت یافتہ بعض کو بد بخت اور بعض کو سعادت مند بنایا ہے پھر اس نے ان میں سے اپنے علم کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور انہیں اپنی وحی اور رسالت کا امین بنا کر اور مبشر، نذیر اور وکیل قرار دے کر بھیجا۔ پھر جس نے سب سے پہلے آپؐ کی بات کو قبول کیا اللہ کے حضور رجوع کیا اور ایمان لائے اور تصدیق کی اور فرمانبرداری اختیار کی وہ آپؐ کے بھائی اور عم زاد حضرت علیؓ بن ابی طالب تھے، جس نے پوشیدہ غیب سے آپؐ کی تصدیق کی، اور آپؐ کو تمام قریبی عزیزوں پر ترجیح دی اور آپؐ کو ہر خوف سے بچایا اور آپؐ کی

خاطر جنگ اور صلح کی، پس آپ ہمیشہ رات دن، خوف، بھوک اور عاجزی میں اپنے جان کو قربان کیے رہے یہاں تک کہ آپ سب سے آگے نکل گئے اور آپ کے کارناموں میں کوئی آپ کے ساتھ لگا کھا سکتا ہے، میں نے تجھے ان کی رفعت و منزلت کے متعلق بتایا ہے آپ آپ ہیں اور تو تو ہے، آپ رعلیٰ بن ابی نیت کی رو سے سب سے زیادہ صاف، اور اولاد کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل اور بیوی کے لحاظ سے سب سے بہتر اور عم زاد کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، آپ کے بھائی نے جنگ موتہ کے روز اور آپ کے چچا سید الشہداء نے جنگ اُحد کے روز جان قربان کی اور آپ کا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حریم سے دفاع کرتا رہا اور تو لعین ابن لعین ہے، تو اور تیرا باپ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبتوں کے خواہاں رہا اور نوبہ خدا کو بچھانے کے لیے کوشاں رہے اور اس بات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے اور مال خرچ کرتے رہے اور قبائل کو آپ کی عداوت پر مجتمع کرتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدیم اور واضح فضیلت کے شاہدان کے مددگار ساتھی بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کے ساتھ کیا ہے اور انصار و مہاجرین میں سے بھی لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے وہ لوگ گر وہ در گر وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اتباع کو حق اور ان کی مخالفت کو شقاوت خیال کرتے ہیں تیرا بڑا ہوتو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر خیال کرتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے وارث اور آپ کے دھی ہیں اور ان کے بیٹوں کے باپ ہیں اور تو ان کا دشمن اور ان کے دشمن کا بیٹا ہے، پس تو باطل کے ساتھ جس حد تک قوت رکھتا ہے دنیا سے فائدہ حاصل کر لے، اور ابن العاص گمراہی میں اور تجھے بڑھا دے گا، تیری مدت حیات ختم ہو چکی ہے اور تیری تدبیر کمزور پڑ گئی ہے پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اچھی عاقبت کس کے لیے ہے اور یہ بھی جان لے کہ تو اپنے اس رب سے تدبیر بازی کر رہا ہے جس کی تدبیر نے تجھے بے خوف کر دیا ہے اور اس کی رحمت سے تو ناامید ہو چکا ہے

اور وہ تیری گھات ہیں، اور تو اس کے متعلق دھوکے میں پڑا ہے۔ والسلام
علی من اتبع الهدی۔

حضرت معاویہ نے اس کی طرف لکھا کہ معاویہ بن صخر
کی طرف سے محمد بن ابوبکر کی طرف بھیجا جاتا ہے جو
اپنے باپ پر عیب لگانے والا ہے۔

اما بعد، مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت و
عظمت اور سطوت کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اصطفاء کا بھی بہت سی باتوں
کے ساتھ ذکر کیا ہے جن میں ضعف اور آپ کے باپ کے لیے توییح پائی
جاتی ہے، آپ نے اس میں ابن ابی طالب کے فضائل اور سابق الاسلام ہونے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قرابت اور ہر خوف و گھبرائش
میں ان کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کرنے کا ذکر کیا ہے، پس میرے خلاف
تمہارا احتجاج کرنا اور غیر کی فضیلت کے ساتھ مجھ پر عیب لگانا اور اپنی کسی
فضیلت کا ذکر نہ کرنا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پس اس رب کی حمد و ثناء
کر جس نے تجھے یہ فضیلت نہیں دی اور تیرے غیر کو دے دی ہے، پس ہم
اور تیرا باپ ابن ابی طالب کی فضیلت اور حق کو جانتے تھے، پس جب اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور آپ سے
کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا اور آپ کی دعوت کو غالب کیا اور آپ کی محبت
کو روشن کیا پھر آپ کو وفات دی تو تیرا باپ اور اس کا فاروق پہلے شخص
ہیں جنہوں نے اس کا حق چھینا اور اس کی مخالفت کی اور یہ دونوں حضرات
متفقہ طور پر اسی روش پر چلتے رہے، پھر ان دونوں نے اس کو اپنی بیعت
کی دعوت دی تو اس نے تاخیر کی تو ان دونوں نے اس کے متعلق عظیم ارشے
کیے پھر اس نے ان دونوں کی بیعت کی اور خاص انہی کا ہو کر رہ گیا اور یہ
دونوں اسے اپنے معاملات میں شامل نہ کرتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے
دازوں سے آگاہ کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو

وفات دے دی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان دونوں کی ہمنمائے اور سیرت پر چلے پس تو نے اور تیرے صاحب نے ان (عثمانؓ) پر عیب لگایا یہاں تک کہ دور دراز کے نافرمانوں نے بھی اس میں طمع کی اور تم دونوں نے ان کے لیے مصیبتیں پیدا کیں اور تم نے ان سے اس قدر عداوت کی کہ تم دونوں اپنی مراد کو پہنچ گئے پس اے پسر ابوبکر اپنا بچاؤ کر، اور اپنی بالشت کو اپنے فتر (انگوٹھے اور انگشت شہادت کا درمیانی فاصلہ) کے ساتھ قیاس کر تو اس شخص سے برابر ہی کرنے سے قاصر رہے گا جو اپنے حلم کے ساتھ پہاڑوں کو تول سکتا ہے اور اپنے نیزے کے بالجبر ٹوٹ جانے سے نرم نہیں ہو سکتا اور کوئی باتونی اس کے حلم کو نہیں پاسکتا، تیرے باپ نے یہ بستر تیار کیا اور اُسے اپنی حکومت کے لیے تکیہ بنایا، اگر تیرے باپ نے پہلے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہم ابن ابی طالب کی مخالفت نہ کرتے اور اپنے آپ کو اس کے پسر دکر دیتے لیکن ہم نے اس کے نمونہ کو اختیار کر لیا پس تو اپنے باپ پر عیب لگا، یا نہ لگا۔ والسلام علی من انا ب۔

حضرت علیؓ کی طرف حضرت معاویہؓ کا خط

حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا۔

اما بعد، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جنگ ہمیں اور آپ کو اس حد تک پہنچا دے گی جس حد تک وہ پہنچ چکی ہے تو ہم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرتے اگرچہ ہم مغلوب العقل ہو چکے ہیں پھر بھی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ باقی بچ گیا ہے ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، میں نے شام سے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آپ مجھے اپنی اطاعت پر مجبور نہ کریں، میں آج بھی آپ کو وہی دعوت دیتا ہوں جو میں نے آپ کو کل دی تھی۔ پس بقاء کی جو امیدیں رکھتا ہوں وہی آپ رکھتے ہیں اور جنگ سے جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا آپ بھی ڈرتے ہیں، قسم بخدا، فوج کمزور ہو گئی ہے، جوان مارے گئے ہیں اور ہم بعد مناف کے بیٹے ہیں اور ہم کو ایک دوسرے پر کوئی ایسی فضیلت نہیں جس سے وہ صاحب عزت کو ذلیل کرے اور آواز کو غلام بنائے۔ والسلام۔

حضرت معاویہؓ کو حضرت علیؓ کا جواب | حضرت علیؓ کو لکھا، علی بن ابی طالب کی

طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف۔

”اما بعد، مجھے آپ کا خط ملا آپ نے لکھا ہے کہ اگر میں جانتا کہ جنگ ہمیں اور آپ کو اس حد تک پہنچا دے گی جس حد تک وہ پہنچ چکی ہے تو ہم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرتے اور ہم نے جنگ سے جو کچھ چاہا تھا وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا، اور آپ نے شام سے جو مطالبہ مجھ سے کیا ہے میں آج تمہیں وہ چیز نہیں دوں گا جس سے کل میں نے آپ کو روکا تھا یہی بات ہمارے خوف ورجاء میں برابر ہونے کی، پس آپ یقین کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ شک کرنے والے ہیں اور اہل شام اہل عراق کی نسبت دنیا کے مقابلہ میں آخر کے زیادہ حریف نہیں ہیں اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم اور تم عبد مناف کے ایک جیسے بیٹے ہیں تو یاد رکھو! امیہ ہاشم کی طرح نہ تھا اور نہ حرب، عبدالمطلب کی طرح تھا اور نہ ابوسفیان ابوطالب کی طرح تھا اور نہ آزاد مہاجر کی طرح تھا اور نہ جھٹلانے والا حق پرست کی طرح تھا اور نہ ہمارے ہاتھوں میں نبوت کی وہ فضیلت ہے جس کے ذریعے ہم نے صاحب عزت کو قتل کیا اور آزاد کو فروخت کیا۔ والسلام

حضرت سعد اور حضرت معاویہؓ کے درمیان مکالمہ | ابو جعفر محمد بن جریر

الرازی سے، اس نے ابو مجاہد سے اس نے محمد بن اسحاق سے اور اس نے ابو نجیح سے روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے حج کیا تو اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اس کے ساتھ حضرت سعد بھی تھے، جب حضرت معاویہ فارغ ہو کر دارالندوہ کی طرف آئے تو آپ نے حضرت سعد کو اپنے ساتھ اپنی چادر پائی پر بٹھایا اور حضرت علیؓ پر عیب لگانے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے تو حضرت سعد نے قریب ہو کر کہا تو نے مجھے اپنی چادر پائی پر بٹھایا ہے اور پھر تو حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے لگ گیا ہے قسم بخدا، اگر حضرت علیؓ کی ایک خصلت مجھ میں ہوتی تو وہ مجھے دنیا بھر کی تمام چیزوں سے محبوب

ہوتی ، خدا کی قسم اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوتا اور حضرت علیؑ کے بیٹے جیسا میرا بیٹا ہوتا تو وہ مجھے تمام دنیا سے محبوب ہوتا اور خدا کی قسم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مجھے کہی ہوتی جو آپ نے خیبر کے روز حضرت علیؑ کو کہی تھی کہ میں کل اس شخص کو جہنم آدوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس کے محبوب ہوں گے اور وہ بھگڑا نہیں ہوگا اور خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا ، تو یہ بات بھی مجھے دنیا بھر سے محبوب ہوتی اور خدا کی قسم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ بات کہی ہوتی جو آپ نے غزوہ تبوک میں انہیں فرمائی تھی کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو مجھ سے ایسا ہی ہو جیسا ہارون ، موسیٰ سے تھا ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ بات بھی مجھے دنیا بھر سے زیادہ محبوب ہوتی اور قسم بخدا میں جب تک زندہ رہوں گا تیرے گھر نہیں آؤں گا پھر حضرت سعدؓ اٹھ کر چلے گئے۔

اور میں نے دوسری روایات میں یہ بات بھی پائی ہے جسے علی بن محمد بن سلیمان نوفلی نے کتاب الاخبار میں ابن عائشہ وغیرہ سے لکھا ہے کہ جب حضرت سعدؓ نے حضرت معاویہؓ کو یہ بات کہی اور اٹھنے کے لیے تیار ہوئے تو معاویہ نے گونہ مار دیا اور کہا بیٹھ جائیے اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان کا جواب سنیے۔ آپ میرے نزدیک کبھی اتنے قابل ملامت نہ تھے جتنے اب ہیں پس آپ نے ان کی مدد کیوں نہ کی ؟ اور کیوں ان کی بیعت سے رُکے رہے ؟ اگر میں نے اس قسم کی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتیں جیسی آپ نے سنی ہیں تو میں عمر بھر حضرت علیؑ کا خادم رہتا حضرت سعدؓ نے کہا خدا کی قسم جس جگہ پر تو بیٹھا ہے میں تجھ سے اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں ، حضرت معاویہؓ نے کہا ، تیری اس بات سے تو بنی عذرہ بھی انکار کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عذرہ کے کسی آدمی کی اولاد تھے ، نوفلی کہتا ہے کہ اس بارے میں سید بن محمد عمیری کہتا ہے

”اگر تجھے معلوم نہیں تو قریش سے دریافت کر کہ کس نے دین کو مضبوط کیا تھا اور کون اسلام میں مقدم اور علم میں زیادہ اور اہل و اولاد کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ اور کس نے خدا کی توحید کا اعلان کیا جب لوگ جھٹلاتے تھے اور خدا کے ساتھ بتوں اور شرکیوں کو پکارتے تھے ، اور کون میدان

کارزار میں آگے بڑھتا تھا جب لوگ اس سے پیچھے ہٹتے تھے اور اگر وہ کسی مصیبت میں بخل سے کام لیتے تو وہ سخاوت کرتا، اور کون فیصلے کرنے میں زیادہ عادل اور علم میں زیادہ انصاف پسند اور وعدے و وعید کا زیادہ سچا تھا، اگر وہ تجھے سچا سمجھیں تو وہ ابو الحسن سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ابھی تو نیکوں کے حاسدوں سے نہیں ملا، اور تو تیم اور عدی کے ڈنک مارنے والے سے نہیں ملا۔ خدا کی قسم وہ بہت بڑے منکر ہیں اور بنی عامر اور بنی اسد اور جاہل عبید کے قبیلے یا سعد قبیلے سے نہیں ملا جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو چکے ہیں یہ لوگ ہمیں ایک حرام زادے کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ان کا سردار بن گیا اگر بنی زہرہ گنہگار نہ ہوتے تو وہ سردار نہ بنتا۔“

حضرت سعدؓ اور حضرت اسامہؓ بن زید اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت محمد بن مسلمہؓ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت علیؓ کی بیعت سے توفیق کیا تھا اور انہوں نے ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی جن کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ آپؐ کی بیعت سے رُک گئے تھے آپؐ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ایک فتنہ ہے اور ان میں سے بعض نے حضرت علیؓ سے کہا ہمیں تلواریں دیجیے ہم آپؐ کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کرتے ہیں اور جب ہم ان تلواروں سے موئین کو مارتے ہیں تو یہ ان میں کام نہیں کرتیں اور ان کے جسموں سے اچٹ جاتی ہیں اور جب کافروں کو ان سے مارتے ہیں تو ان کے جسموں میں دھنس جاتی ہیں تو حضرت علیؓ نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا **وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِتْنَهُمْ خَيْرًا لَأَسْعَمَهُمْ** **وَلَوْ أَسْعَمَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرِفُونَ**۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر انہیں سنا دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔

ابو مخنف لوط بن سحبی اور دیگر مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ کو حکومت ملی تو ابو طفیل کنانی ان کے پاس آیا، حضرت معاویہ نے اُس سے کہا تجھے اپنے دوست ابو الحسنؓ کے متعلق کس قسم کا غم ہے؟ اس نے کہا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا اور میں اللہ کے حضور کوتاہی کی شکایت کرتا ہوں، حضرت معاویہ نے کہا تو ان لوگوں میں

شامل تھا جو حضرت عثمانؓ کے قتل کے موقع پر موجود تھے ، اس نے جواب دیا ، نہیں ، لیکن میں ان لوگوں میں شامل تھا جو وہاں موجود تھے مگر انہوں نے ان کی مدد نہ کی تھی ، حضرت معاویہؓ نے کہا ، مدد کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا ؟ حالانکہ ان کی مدد کرنا تجھ پر واجب تھا ، اس نے جواب دیا مجھے اس چیز نے روکا تھا جس نے تجھے روکا تھا جب تو شام میں بیٹھ کر گردش روزگار کا انتظار کر رہا تھا ، حضرت معاویہؓ نے کہا ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کے خون کا مطالبہ کرتا میری طرف سے اس کی مدد کرنا ہے ، اس نے کہا بے شک ایسا ہی ہے لیکن تمہاری اور اس کی مثال الجعدی کے اس شعر کے مطابق ہے ۔

میں تجھے اپنی موت کے بعد اپنے محاسن بیان کرتا پاؤں گا حالانکہ میری زندگی میں تو نے مجھے زاد راہ نہیں دیا ۔

حضرت معاویہؓ کے پاس ضرار بن خطاب آیا تو آپ نے اُسے کہا ، تجھے ابو الحسن پر کس قسم کا غم ہے ؟ اس نے جواب دیا میرا غم اس عورت کی طرح ہے جس کا بچہ اس کے سینے پر ذبح کر دیا جائے اور نہ اس کے آنسو اکیس اور نہ غم کو سکون ہو ۔

حضرت معاویہؓ اور قیس بن سعد

حضرت معاویہؓ و قیس بن سعد کے درمیان خطوط کا تبادلہ

بن عبادہ کے درمیان یہ خط و کتابت اس وقت ہوئی جب وہ مصر میں حضرت علیؓ کی طرف سے گورنر تھے ، حضرت معاویہؓ نے ان کی طرف لکھا :-

ابالعد - تو یہودی ابن یہودی ہے اگر وہ شخص کامیاب ہو گیا جو فریقین میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ تجھے معزول کر دے گا اور تجھے بدل کر کسی اور آدمی کو مقرر کرے گا اور اگر وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو فریقین میں سے تیرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے تو وہ تجھے مرادے گا اور قتل کرے گا ۔ اور تیرے باپ نے اپنی کمان کا چلہ چڑھا کر نشانے پر تیرا مارا تھا ، پس اس نے بہت سے شگاف کیے اور جوڑے سے چوک گیا اور اس کی قوم نے اُسے چھوڑ دیا ، اور اس کے مقررہ وقت نے اُسے آیا پھر وہ حوران میں سرگرداں مر گیا ۔

قیس بن سعد نے حضرت معاویہؓ کو لکھا :-

”اما بعد، تو ایک بت پرست اور بت پرست کا بیٹا ہے تو اسلام میں مجبوری سے داخل ہوا اور خوشی سے نکل گیا ہے تیرے ایمان نے تجھے مقدم نہیں کیا اور تیرے نفاق نے تجھے بدعتی بنایا ہے اور تیرے باپ نے اپنی کمان پر چلے چڑھا کر اپنے نشانے پر تیرا اپس اس نے فتنہ و فساد پیدا کیا جس کے انجام کو وہ نہ پہنچا اور نہ اس کے غبار کو پھاڑا اور ہم اس دین کے مددگار تھے جس سے تو نکل گیا ہے اور تو دین کے دشمنوں میں داخل ہو گیا ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور صلح کے بعد قیس بن سعد انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے انہیں کہا اے گروہ انصار تم کس وجہ سے پہلے کی باتوں کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو! خدا کی قسم تم میرے حامی کم اور مخالف زیادہ تھے۔ تم نے جنگ صفین کے روز میری دھار کو کند کر دیا یہاں تک کہ میں نے تمہارے نیزوں میں موتوں کو شعلے مارتے دیکھا اور تم نے میرے اسلاف کی بھوک کی جو نیزوں کے زخم لگانے سے بھی زیادہ شدید تھی حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے اس چیز کو قائم کر دیا جسے تم جھکانا چاہتے تھے تم نے کہا کہ ہمارے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال رکھو۔ قیس نے کہا ہم آپ سے اسلام کی باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور ہم تجھ سے ان باتوں کا مطالبہ نہیں کرتے جو احزاب نے تعلقاً پیدا کر کے کی ہیں، ہاں یہ بات کہ ہم آپ سے عداوت کرتے ہیں تو اس عداوت کو اگر آپ روکنا چاہیں تو از خود روک سکتے ہیں اور ہم نے آپ کی جو بھوک کی ہے تو جو اس میں سچ ہے وہ باقی رہے گا اور جو جھوٹ ہے وہ زائل ہو جائے گا، اب رہا حکومت کے قائم ہونے کا معاملہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند کیا تھا اور وہ ہم میں سے تھے اور جنگ صفین کے روز ہم نے جو تمہاری دھار کو کند کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسے آدمی کے ساتھ تھے جس کی اطاعت کو ہم اللہ کی اطاعت سمجھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں جو وصیت کی تھی اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ جو شخص آپ پر ایمان لایا ہے وہ آپ کے بعد بھی آپ کا لحاظ کرتا ہے اور تیرا یہ کہنا کہ روکا ہوا صحن سے انکار کرتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے ورے کوئی ایسا ہاتھ نہیں جو تجھے موت سے بچائے تو حضرت معاویہ نے بات بناتے ہوئے کہا اپنی منزویات پوری کرو۔ اور قیس بن سعد

زید، دیندار ہی اور حضرت علیؓ کی طرف میلان رکھتے ہیں بہت بڑے مقام کے حامل تھے اور خوفِ الہی اور اطاعتِ الہی میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ سجدہ کے لیے ٹھکے تو سجدہ کی جگہ پر ایک بہت بڑا اثر دھا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ آپ نے سر ایک طرف کر کے اس کے پہلو میں سجدہ کیا تو وہ آپ کی گردن میں لپٹ گیا، لیکن آپ نے نہ نماز چھوڑی اور نہ اس میں کچھ کمی کی یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے پھر آپ نے اثر دھا کو پکڑ کر پھینک دیا، اسی طرح کا واقعہ حسن بن علی بن عبداللہ بن مغیرہ نے معمر بن خلاد سے ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کے متعلق بھی بیان کیا ہے۔

اور عمرو بن العاص نے ایک دن حضرت معاویہؓ سے کہا، مجھے اس بات نے دمانہ کر دیا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بزدل ہیں یا بہادر ہیں، کیونکہ جب میں آپ کو آگے بڑھتے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جنگ کا ارادہ کیا ہے پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے فرار اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے تو حضرت معاویہ نے اُسے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ آگے بڑھنے میں فائدہ ہے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ پیچھے ہٹنا داناٹی ہے جیسا کہ القحطامی کہتا ہے۔

”جب مجھے موقع ملے تو میں بہادر ہوں اور اگر موقع نہ ملے تو بزدل ہوں۔“

اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے ابو الاعز الیثمی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صفین میں کھڑا تھا کہ میرے پاس سے عباس بن ربیعہ ہتھیار پہنے ہوئے گزرا اور خود کے نیچے اس کی دونوں آنکھیں یوں چمک رہی تھیں گویا وہ آگ کے دو شعلے یا سانپ کی دو آنکھیں ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک یانی تلوار تھی جسے وہ الٹ پلٹ رہا تھا اور موتیں اس کی دھار میں نظر آ رہی تھیں وہ ایک کمرش گھوڑے پر سوار تھا اسی آئنا میں کہ وہ اپنی عادت کے مطابق اُسے کھینچ اور روک رہا تھا کہ عراب بن ادھم نامی ایک شامی نے اُسے آواز دی، اے عباس جنگ کے لیے آؤ اس نے کہا جنگ کیسے ہوگی کیونکہ یہ تو زندگی سے بالوس ہو جانے کا نام ہے تو شامی یہ شعر پڑھتا ہوا اس کے مقابلہ میں آیا۔

”اگر تم سوار ہو جاؤ تو گھوڑوں پر سوار ہونا ہماری عادت ہے یا نیچے اتر جاؤ تو ہم نیچے اتر کر مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔“ اور عباس نے اپنی ران کو دہرا کر کے کہا:-

”خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سے محبت نہیں کرتے اور نہ تمہیں اس بات پر

ملامت کرتے ہیں کہ تم ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے۔“

پھر اس نے اپنی بیٹی اتاری اور اپنا گھوڑا اپنے سیاہ فام غلام کو دیا اور خدا کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے گھنگھریالے بالوں کو دیکھ رہا ہوں پھر دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور دونوں فریقوں نے، ان دونوں جوانوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے گھوڑوں کی لگا میں روک لیں، دونوں جوان، دن کا کچھ حصہ اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے مگر کوئی ایک بھی زرہ کے پورا ہونے کے باعث اپنے مقابل پر کامیابی نہ حاصل کر سکا، یہاں تک کہ عباس نے شامی کی زرہ میں گزری دیکھ لی۔ پس اس نے اُسے ہاتھ مارا اور اُسے سینے تک چیر کر رکھ دیا پھر اس کے مقابلہ کے لیے واپس آیا اور اس نے اس کی زرہ میں سوراخ کر دیا ہوا تھا تب عباس نے اس کے سینے پر تلوار ماری اور شامی منہ کے بل گر گیا، لوگوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کانپ گئی اور عباس آکر لوگوں میں شامل ہو گیا اور ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی:-

”قاتلوہم لئذ بہم اللہ بائدیکم و یجزہم و ینصرکم علیہم و

یشف صدور قوم مومنین۔“

ترجمہ: ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب کرے اور

انہیں رسوا کرے اور تمہیں ان پر مدد دے اور ایمان والوں کے سینوں کو

شفادے (التوبہ آیت ۱۴)

ابو مخنف کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے آپ نے فرمایا

اے ابن الاعراب ہمارے دشمن سے کون برد آتا تھا؟ میں نے کہا تمہارا بھتیجا عباس بن

ربیع، آپ نے فرمایا وہی عباس ہے، میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اے عباس

کیا میں نے تجھے اور عبداللہ بن عباس کو کسی سے مقابلہ کرنے سے نہیں روکا تھا، عباس

نے جواب دیا ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ عباس نے کہا کیا

جب مجھے مقابلہ کے لیے بلایا جائے تو میں اس کا جواب نہ دوں؟ آپ نے فرمایا دشمن کو

جواب دینے کی نسبت تیرا امام کی اطاعت کرنا زیادہ بہتر ہے پھر آپ خاموش ہو گئے۔

اور نہایت انکساری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ عباس کی قدر دانی

فرما اور اس کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ میں نے اُسے معاف کر دیا ہے تو بھی اُسے معاف کر دے، اور حضرت معاویہ نے عرار بن ادھم کی موت پر افسوس کرتے ہوئے کہا اس قسم کے خون کے مطالبہ میں جان کی بازی لگانے کا تو لخم کے جنگجوؤں اور شام کے سرداروں میں سے دو آدمیوں نے آپ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا دونوں چلے جاؤ تم دونوں میں سے جو آدمی عباس کو قتل کرے گا اُسے سونے کا ایک سواوقیہ اور اتنے ہی چاندی کے اوقیے اور دو سو مینی چادریں دی جائیں گی، ان دونوں نے آکر عباس کو دعوت مبارزت دی اور دونوں صفوں کے درمیان چلا چلا کر کہنے لگے اے عباس اے عباس! دعوت دینے والے کے مقابلہ میں آؤ، عباس نے جواب دیا میرا ایک آقا ہے مجھے اس سے مشورہ کرنا ہے پس وہ حضرت علیؓ کے پاس آئے آپ اس وقت مہینہ ردا بیٹس بازو کو جنگ پر آمادہ کر رہے تھے انہوں نے حضرت علیؓ کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم معاویہ یہ چاہتا ہے کہ بنی ہاشم میں جو بھی لڑنے والا باقی رہ گیا ہے نور الہی کو سمجھانے کے لیے اس کے پیٹ میں نیزہ مارا جائے "و یا بی اللہ إلا ان یتم نورا ولو کرا الکافرون۔" (ترجمہ: اور اللہ قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ کافر سب سمجھیں) (التوبہ آیت ۳۲) خدا کی قسم ان پر ہمارے آدمی غالب آجائیں گے اور وہ انہیں ذلیل کر دیں گے یہاں تک کہ ان کے نشان مٹ جائیں گے پھر فرمایا اے عباس مجھے اپنے ہتھیار دو اور میرے ہتھیار لے لو، عباس نے انہیں ہتھیار پکڑائے تو آپ کو دکر عباس کے گھوڑے پر سوار ہو کر لخمیوں کی طرف گئے ان دونوں کو یقین تھا کہ یہ عباس ہے وہ کہنے لگے تمہارے آقائے نے تمہیں اجازت دے دی ہے آپ نے ہاں کہنے کی بجائے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم لقدیر (ترجمہ: اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے) (حج آیت ۲۹) اور عباس اپنے جسم اور سواری کرنے کے لحاظ سے حضرت علیؓ سے بہت مشابہ تھے، پس ان میں سے ایک آپ کے مقابلہ کے لیے نکلا تو آپ نے اُسے ڈھیر کر دیا اور پھر دوسرا نکلا اُسے بھی آپ نے پہلے شخص کے ساتھ ملا دیا پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے الشہر الحرام، والحرمات

قصاص طمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم" ترجمہ:
حرمت والا ہینہ حرمت دالے مہینے کے بدلے ہے اور حرمتوں کا بدلہ ہے جو کوئی تم پر
زیادتی کرے تم بھی اسی قدر اس پر زیادتی کرو (البقرہ آیت ۱۹۴)

پھر فرمایا اے عباس اپنے ہتھیار لے لو اور میرے ہتھیار مجھے دے دو اور اگر
دوبارہ کوئی آدمی تمہارے مقابلہ میں آئے تو میرے پاس آجانا، حضرت معاویہ کو یہ اطلاع
 ملی تو وہ کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جھگڑے پر اصرار کا برا کرے یہ کٹنے والا ہے جب کبھی بھی
میں نے اصرار کیا ہے ناکام ہوا ہوں۔ عمرو بن العاص نے کہا خدا کی قسم ناکام ہونے والے
تو لخم کے دو آدمی ہیں اور دھوکہ خوردہ وہ ہے جسے تو دھوکا دے، تو ناکام نہیں ہے
معاویہ نے کہا اے شخص خاموش ہو جا ایسا کہنا تیرا کام نہیں اس نے جواب دیا اگر ایسا
کہنا میرا کام نہیں تو اللہ تعالیٰ لخمیوں پر رحم کرے لیکن میں نہیں دیکھتا کہ وہ رحم کرے گا۔
حضرت معاویہ نے کہا بخدا میں تیری محبت سے بہت تنگ اور تیرے سودے
سے بہت خسارے میں ہوں اس نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے اگر مصر اور اس کی حکمرانی
نہ ہوتی تو میں دہاں سے چھٹکا ہا حاصل کر لیتا اور میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور تم باطل پر ہو، معاویہ نے کہا، خدا کی قسم مصر نے تجھے اندھا کر دیا ہے اگر مصر
نہ ہوتا تو میں تجھے بصارت والا پاتا۔ پھر معاویہ خوب ہنسے۔

عمرو بولے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو ہتھیار کھے آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟
معاویہ نے کہا میں تمہاری حاضر دماغی کی وجہ سے ہنسا ہوں جس روز تو نے علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ
کیا تو نے اپنی شرمگاہ کھول دی تھی۔ اے عمرو خدا کی قسم تو نے موتوں سے جنگ کی اور
موت کو اپنے سامنے دیکھا اور اگر وہ چاہتے تو تجھے قتل کر دیتے لیکن ابی طالب نے صرف
تجھے پر رحم کرتے ہوئے تجھے قتل نہیں کیا، عمرو نے کہا خدا کی قسم جب انہوں نے تجھے موت
مبارکت دی تو میں تمہارے دائیں ہاتھ تھا پس تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور سینہ ننگا ہو گیا۔
اور وہ چیز بھی ننگی ہو گئی جس کا میں تمہارے سامنے ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، پس تو اپنے
آپ پر ہنس یا نہ ہنس۔

اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے بیان کیا ہے کہ صفین کی جنگ کے دوران ایک روز
معاویہ نے لوگوں کے سامنے نکل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میسرہ (بائیں پہلو کی فوج) پر حملہ کر دیا

اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں لوگوں کو تیار کر رہے تھے پس آپ کی زہرہ اور گھوڑے پر حملہ کیا گیا۔ تو آپ اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کی زہرہ پہن کر نکلے اور معاویہ آپ کے سامنے ٹٹ گئے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو معاویہ نے اُسے کھڑا کر دیا اور اپنی دونوں ٹانگیں اپنے گھوڑے پر اکٹھی کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے لیکن معاویہ آپ کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ اور آپ شامیوں کے میدان میں آگئے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ ایک اور آدمی کو ان کے میدان میں مارا اور یہ کہتے ہوئے واپس آئے۔

”مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ معاویہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر جو خونخوار عقاب کی طرح تھا مجھ سے بچ کر نکل گیا ہے۔“

ایک دن عمرو بن العاص مہر سے معاویہ کے پاس آئے جب معاویہ نے انہیں دیکھا تو کہا

کہ ”نیک لوگ مرتے جاتے ہیں اور تو زندہ ہے، موتیں تجھ سے چوک جاتی ہیں اور تو نہیں مرتا۔“

عمرو نے انہیں جواب دیا:-

”جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک میں مرنے والا نہیں اور جب تک تو نہ مرے میں مرنے والا نہیں۔“

بیان کیا گیا ہے کہ جب معاویہ نے عراقیوں کی فوج کو دیکھا کہ اس کے جوان حسب مراتب صف بند ہو چکے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سُرخ رنگ کے گھوڑے پر ننگے سر صفوں کو ترتیب دیتے دیکھا گویا وہ انہیں زمین میں کاشت کر رہے ہیں اور وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹٹ کر کھڑے ہیں تو اس نے عمرو سے کہا: اے ابو عبد اللہ! کیا تو ابن ابی طالب کی حالت کو نہیں دیکھ رہا، عمرو نے جواب دیا جو عظیم بات کا طالب ہوتا ہے اُسے عظیم امور سے واسطہ پڑتا ہے۔

سکہ میں معاویہ نے بسربن اوطاہ کو تین ہزار آدمیوں کے ساتھ مدینہ بھیجا اس وقت دہاں پر حضرت ابوالیوب انصاری حاکم تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور بسرب نے منبر پر چڑھ کر اہل مدینہ کو قتل کی دھمکیاں دیں تو انہوں نے معاویہ کی بیعت کو تسلیم کر

لیا، حضرت علیؓ کو اطلاع ملی تو آپ نے حادثہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو دو ہزار آدمی دے کر بھیجا، بسرکہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو گیا، یمن میں حضرت عبید اللہ بن عباس قیام پذیر تھے وہ وہاں سے نکل کر حضرت علیؓ سے آئے اور عبد اللہ بن عبد الدیان حادثہ کو وہاں پر اپنا جانشین بنایا اور اپنے دونوں بیٹوں عبد الرحمن اور قثم کو ان کی ماں جویرہ بنت قارظ کنانی کے پاس چھوڑا، بسرنے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھ ان کے ماموں کو بھی قتل کر دیا جو ثقیف قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور بسرنے ارطاة عامری نے جو عامر بن لوی بن غالب سے تھا۔ مدینہ اور دونوں مسجدوں کے درمیان خزاہ وغیرہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اسی طرح اس نے جرف میں ہمدان کے بہت سے آدمیوں کو مار دیا اور صنعا میں بھی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، جس کے متعلق بھی اُسے اطلاع ملی کہ وہ حضرت علیؓ کی مدد کرتا ہے یا ان سے محبت رکھتا ہے اس نے اُسے قتل کر دیا، اُسے حادثہ بن قدامہ السعدی کے متعلق اطلاع ملی تو

وہ بھاگ گیا اور حادثہ نے اپنے بھتیجے بسرنے کو اپنے گھر کے چالیس آدمیوں کے ساتھ تھا۔ کامیابی حاصل کی اور ان سب کو قتل کر دیا اور جویرہ جو عبید اللہ بن عباس کے ان دو بیٹوں کی ماں تھی جنہیں بسرنے قتل کر دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے گمروہاں کھولے چکر لگا رہی تھی اور وہ خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی وہ اپنے دو بیٹوں کا مرنیہ کہتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

”کیا کسی نے میرے ان دو بیٹوں کے دکھ کو محسوس کیا ہے جو دو موتیوں کی طرح تھے جن سے سیپ خالی ہو چکی ہے، اور کیا کسی نے میرے ان دو بیٹوں کے دکھ کو محسوس کیا ہے جو میرے کان اور دل تھے پس آج میری عقل جاتی رہی ہے، اور کیا کسی نے میرے ان دو بیٹوں کے دکھ کو محسوس کیا ہے جو میری ہڈیوں کا گودا تھے پس آج میرا گودا ختم ہو گیا ہے، مجھے بسرنے کے متعلق بتایا گیا ہے لیکن میں نے ان کے خیال کی تصدیق نہیں کی اور جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ جھوٹی ہے وہ میرے دونوں بیٹوں کی گردن کی طرف تیز تلوار کے ساتھ متوجہ ہوا، اور گناہ کا اتکاب اسی طرح کیا جاتا ہے۔“

معاویہ، عمرو بن العاص اور وردانہ واقفی نے بیان کیا ہے کہ

عمر بن العاص بوڑھا اور کمزور ہو جانے کے بعد ایک روز معاویہؓ کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کا غلام وردان بھی تھا وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے اور وردان کے سوا کوئی آدمی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ عمر نے کہا اے امیر المومنین اب آپ کو کسی چیز سے لذت حاصل کرتے ہیں اس نے جواب دیا، عورتوں کے متعلق اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی رہا لباس کا معاملہ تو میں نے بہترین اور نرم کپڑے زیب تن کیے ہیں یہاں تک کہ میری جلد کمزور ہو گئی ہے اور اُسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ نرم کپڑا کونسا ہے اب رہا کھانے کا معاملہ تو میں نے اس قدر شان دار کھانے کھائے ہیں کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ کونسا کھانا شاندار ہوتا ہے اور میرے نزدیک گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈے مشروب سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہوتی اور یہ کہ میں اپنے بیٹوں اور پوتوں کو اپنے ارد گرد گھومتا دیکھوں اور اے عمر اب تجھے کس چیز سے لذت حاصل ہوتی ہے اس نے کہا کہ مجھے تو اس بات میں دلچسپی ہے کہ میں باغ لگاؤں اور فصلیں کاشت کروں اور ان کا پھل اور غلہ حاصل کروں تو معاویہ نے وردان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے وردان تجھے کس چیز میں دلچسپی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے گلے میں میرے احسانات کا پٹا ہو اور وہ مجھے اس کا بدلہ نہ دے سکیں یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں اور اسی طرح میری اولاد بھی میرے بعد ان کی اولاد کے گلے میں اپنے احسانات کا پٹا ڈالے، معاویہ نے کہا ہماری اس مجلس کا بڑا ہویہ غلام مجھ سے اور تجھ سے بڑھ گیا ہے۔

۳۳ھ میں عمر بن العاص بن دائل بن سہم بن سعید بن سعد نے مصر پر دس سال چار ماہ حکومت کی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ میں بڑی نہیں کہ عذر کروں اور نہ مجھے کوئی طاقت حاصل ہے کہ غالب آ جاؤں تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے تیری نافرمانی کی تو نے ہمیں منع کیا مگر ہم نے از تکاب گناہ کیا اے اللہ میرا یہ ہاتھ میری کھوڑی پہ پڑا ہے پھر کہا، زمین میں میرے لیے گر گھا کھودو اور مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈالو پھر آپ نے اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھی اور وفات پا گئے، آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے عبد اللہ نے عید الفطر کے روز نماز عید سے قبل پڑھائی، پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو نماز عید پڑھائی اور اس کا باپ استہزا کرنے

والوں میں شامل تھا اور اسی کے متعلق آیت ان شانك هو الا بتر نازل ہوئی ہے، اور حضرت معاویہ نے اس کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کو اس کے باپ کی جگہ حکمران بنا دیا اور عمرو نے اپنے سچھے تین لاکھ دینار کا سونا پچیس ہزار دینار اور ایک ہزار درہم کی چاندی اور دو لاکھ دینار کا غلہ مصر میں چھوڑا اور مصر میں اپنی جاگیر بھی چھوڑی جو الوھط کے نام سے مشہور تھی جس کی قیمت دس کروڑ درہم تھی اور اس کے متعلق ابن زبیر اسدی نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ گردشِ روزگار نے عمرو سہمی کے ساتھ کیسی خیانت کی ہے جسے مصر طیکس دیتا تھا، پس اس کی دانائی اور حیلہ جوئی کام نہ آئی اور جب زمانے نے اُسے اپنا نشانہ بنایا تو جمع کردہ مال نے بھی اُسے کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ چٹیل زمین میں اقامت پذیر ہو گیا ہے اور اس کے کثیر اموال اور اس کی تدبیریں اس سے جاتی رہی ہیں۔

بصرہ میں معاویہ نے زیاد بن ابیہ کو، بصرہ اور اس کے مصنافات کا حکمران بنا دیا جب وہ بصرہ میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ

” بہت سے لوگ ہماری وجہ سے خوش ہیں، ہم انہیں خوش نہیں کریں گے اور کچھ لوگ ہماری وجہ سے غمگین ہوں گے ہم انہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے“

معاویہ نے اسی سال سفیان بن عوف عامری کو جنگ کے لیے بھیجا اور اُسے حکم دیا کہ وہ الطوانہ پہنچے اس کے ساتھ بہت سے لوگ مارے گئے رومی علاقے میں مارے جانے والے آدمیوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت غم ہوا اور معاویہ کو یہ اطلاع ملی کہ جب اس کے بیٹے یزید کو ان لوگوں کے مارے جانے کی خبر ملی تو وہ اپنے ندیموں کے ساتھ شغل سے لوشی کر رہا تھا یزید نے کہا

” اور جب میں دیر مرآن میں ام کلثوم کے ساتھ غالیچوں پر تکیہ لگا کر بیٹھتا ہوں تو طوانہ کے روز فوج کو پہنچنے والی مصیبت مجھے بخار اور چیپک سے بھی ہلکی معلوم ہوتی ہے

حضرت ابوالیوسف انصاری | پس اُس نے حلفہ اٹھایا کہ وہ ضرور جنگ کرے گا اور اس نے سفیان کو فوج کے سچھے بھیجا اور اس غزوہ کو

غزوة الرادفة کا نام دیا گیا اور لوگ اس غزوہ میں قسطنطنیہ پہنچے اور حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی اور وہیں آپ کو قسطنطنیہ کے دروازے پر دفن کر دیا گیا، حضرت ابو ایوب کا نام خالد بن زید تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب کی وفات اشہ میں یزید کے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ اور ہم نے اس جنگ کے واقعات اور جو کچھ یزید نے اس جنگ میں کیا، ان سب باتوں کو کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے۔

۴۹؎ میں کوفہ میں طاعون پڑی، کوفہ کے والی مغیرہ بن شعبہ وہاں سے بھاگ گئے پھر واپس کوفہ آئے تو طاعون کے حملہ سے مر گئے۔

مغیرہ بن شعبہ

جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا تو ایک بدوان کے پاس سے گزرا اس نے کہا "کیا تو مغیرہ کے گھر کے نشانات کو جانتا ہے تو اس پر انسانوں اور جنوں کی آوازوں کو سنے گا، پس اگر تو اگر ہمارے بعد ہا مان اور فرعون کو ملا ہے تو جان لے کہ اس تخت والا منصف آدمی تھا"

بیان کیا جاتا ہے کہ مغیرہ سوار ہو کہ ہند نبت نعمان بن مغیرہ اور ہند نبت نعمان کی ملاقات منذر کی طرف گیا وہ حیرہ میں اپنے دیر میں رہا ہبہ بن کہ

رہتی تھی اور یہ ان دنوں کوفہ کا امیر تھا اور ہندنا بنیا ہو چکی تھی، جب یہ دیر پر آیا تو اس نے اجازت طلب کی، اس کی لونڈی نے اسے بتایا کہ مغیرہ تجھ سے اجازت طلب کرتا ہے اس نے لونڈی سے کہا، اسے کچھ بٹھینے کو دو اس نے آپ کو بالوں کا ایک تکیہ دیا۔

مغیرہ اندر داخل ہو کر اس پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں مغیرہ ہوں اس نے جواب دیا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ اس علاقے کے گورنر ہیں آپ کیسے تشریف لائے ہیں، مغیرہ نے کہا تجھ سے ایک بات کرنے آیا ہوں اس نے کہا صلیب کی قسم، اگر تو نے میرے ساتھ دین یا حسن و جمال کی وجہ سے بات کرنی چاہی ہے تو میں صرف

تیری بات کا تجھے جواب دوں گی لیکن میں تجھے تیرے ارادے سے بھی مطلع کروں گی اس نے کہا میرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ تو عربوں میں حج کے موقع پر کہہ سکے کہ تو نے نعمان کی دختر سے شادی کی ہے، مغیرہ بولے

میں نے یہی ارادہ کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تیرا باپ ثقیف کے اس قبیلہ کے متعلق کیا کہتا تھا اس نے کہا کہ وہ انہیں ایاد کی طرف منسوب کرتا تھا، ایک دفعہ میرے باپ کے پاس دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا ان میں سے ایک ثقیف

قبیلے سے تھا اور دوسرا بنی سالم سے تھا تو اس نے ان دونوں سے ان کے انساب کے متعلق پوچھا تو ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو ہوازن کی طرف اور دوسرے نے اپنے آپ کو ایاد کی طرف منسوب کیا تو میرے باپ نے کہا کہ معد کے کسی قبیلے کو ایاد پر فضیلت حاصل نہیں پس وہ دونوں چلے گئے اور میرا باپ کہہ رہا تھا کہ

”ثقیف ہوازن کا قبیلہ نہیں اور نہ وہ عامر اور مازن سے نسبت رکھتا ہے

اس کی باتیں محاسن سے موافقت رکھتی ہیں۔“

مغیرہ نے کہا، ہم لوگ ہوازن سے تعلق رکھتے ہیں اور تیرا باپ ان باتوں کو بہتر جانتا ہے، پھر کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ تمہارے باپ کو، کون سے عرب زیادہ محبوب تھے، اس نے جواب دیا جو سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے تھے، اس نے پوچھا وہ کون تھے اس نے جواب دیا، بکر بن وائل، اس نے کہا بنو تمیم کہاں گئے، اس نے کہا انہوں نے اطاعت میں ان کی کچھ مدد نہیں کی، اس نے کہا قیس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، اس نے کہا جس بات کو وہ پسند کرتا تھا یہ اس کے قریب نہیں ہوئے مگر جس بات کو وہ ناپسند کرتا تھا یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اس نے کہا فارس نے کیسے اطاعت اختیار کی، اس نے کہا جن باتوں کو وہ پسند کرتا تھا ان میں وہ ان کی اطاعت کرتا تھا، پھر مغیرہ واپس چلا گیا۔

اور جب مغیرہ فوت ہو گیا تو معاویہ نے کوفہ بھی زیادہ کو دے دیا یہ پہلا شخص ہے جسے عراقین یعنی کوفہ اور بصرہ کی اکٹھی ولایت دی گئی۔

۳۸ھ میں معاویہ نے مروان بن الحکم سے فدک لے لیا حالانکہ قبل ازیں اس نے اسے بخش دیا تھا پھر اسے واپس لے لیا۔

۳۹ھ میں معاویہ نے حج کیا اور منبر نبوی کو مدینہ سے اٹھا کر شام لانے کا حکم دیا۔ جب منبر کو اٹھایا گیا تو سورج کو کسوف ہو گیا اور دن کو تارے نظر آنے لگے تو وہ اس بات سے گھبرا گیا اور اسے ایک بڑی بات خیال کیا اور منبر کو اپنی جگہ پر لوٹا دیا اور اس میں چھ سیر صیوں کا اضافہ کر دیا۔

۳۳ھ ماہ رمضان میں کوفہ میں زیاد بن ابیہ کی وفات ہو گئی اس کی

زیاد کی موت | کنیت ابوالمغیرہ تھی اس نے معاویہ کی طرف لکھا تھا کہ اس نے

عراق کو اپنے دائیں ہاتھ میں قابو کیا ہوا ہے اور اس کا بائیں ہاتھ فارغ ہے تو معاویہؓ نے اُسے عراقین کے ساتھ حجاز کی حکومت بھی دے دی۔ جب اس کی حکومت اہل مدینہ پر جاری ہو گئی تو مدینہ کے چھوٹے بڑے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے اور خدا کے حضور آہ و زاری کرنے لگے اور تین دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر النور کی پناہ لیے رہے کیونکہ وہ اس کے ظلم و ستم کو جانتے تھے، پس اس کے ہاتھ میں ایک پھنسی نکلی، اس نے اسے رگڑا تو وہ پھیل کر سیاہ ہو گئی اور سیاہ کینسر بن گئی اور وہ اسی بیماری سے پچپن سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ باون سال کی عمر میں فوت ہوا اور کوفہ کے علاقہ میں ثویبہ مقام پر دفن ہوا۔

زیاد نے کوفہ میں اپنے محل کے دروازے پر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں حضرت علیؓ پر لعنت کرنے کی ترغیب دینے لگا اور جس نے لعنت کرنے سے انکار کیا اس نے اُسے تلوار پر رکھ لیا عبدالرحمن بن سائب بیان کرتا ہے کہ میں بھی وہاں حاضر ہوا پھر میں انصاف کی ایک جماعت کے ساتھ رجبہ کی طرف چلا گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوں اور بہت گھبراہٹ ہوا ہوں کہ میں نے ایک لمبی چیز کو اپنی طرف آتے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں نقاد ذوالرقبہ ہوں مجھے اس محل والے کی طرف بھیجا گیا ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ابھی ایک گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ محل سے ایک آدمی نے نکل کر کہا لوگو چلے جاؤ، امیر کو کچھ مصروفیت ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امیر کو اس مصیبت نے آن لیا۔ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس بارے میں عبداللہ بن سائب نے اشعار میں کہا ہے کہ

اس نے ہمارے متعلق جو ارادے کیے تھے وہ ان سے باز آنے والا نہیں

تھا یہاں تک کہ اس کے پاس نقاد ذوالرقبہ آیا۔ پس اس نے اُسے ایک ہی کارگر ضرب سے پہلو کے بل گرا دیا کیونکہ اس نے صاحب الرجبہ کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ صاحب الرجبہ سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت علیؓ کو کوفہ کے محل میں دفن کیا گیا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ زیاد کے ہاتھ میں نیزہ لگا تو اس نے شریح سے اس کے کاٹ دینے کے متعلق مشورہ کیا، اس نے کہا تیرا رزق تقسیم ہو

چکا ہے اور وقت مقرر ہے اور اگر تیری کچھ زندگی ہے تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو ہاتھ کٹا کر زندہ رہے اور اگر تیرا وقت مقرر آ گیا ہے تو تو خدا کے حضور ہاتھ کٹا کر پیش ہو اور جب وہ تجھ سے پوچھے کہ تو نے ہاتھ کو کیوں قطع کیا ہے تو تو کہنا کہ تیری ملاقات کی ناپسندیدگی اور تیری قضا سے فرار اختیار کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، لوگوں نے شریح کو ملائی کی تو اس نے کہا اس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے اور اگر مشورہ کی امانت کا خیال نہ ہوتا تو میں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس کا ہاتھ کاٹتا، دوسرے دن اس کی ٹانگ کاٹتا اور تیسرے دن اس کے سارے جسم کو کاٹتا۔"

یزید کی بیعت ۵۹ ہجری میں معاویہؓ کے پاس عراق وغیرہ کے شہروں سے وفد آئے اور اہل عراق میں سے جو لوگ آئے ان میں احنف بن قیس بھی شامل تھا جو دیگر سرکردہ لوگوں میں سے تھا، معاویہؓ نے صخاک بن قیس سے کہا، میں کل لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھوں گا اور جب میں گفتگو سے فارغ ہو جاؤں تو یزید کے متعلق وہ بات کرنا جو تجھ پر واجب ہے اور اس کی بیعت کی دعوت دینا اور اور میں نے عبدالرحمن بن عثمان ثقفی، عبداللہ بن عسناۃ اشعری اور ثور بن معن سلمی کو تیری بات کی تصدیق کرنے کا حکم دے دیا ہے اور جس بات کی طرف تو انہیں دعوت دے گا وہ اُسے قبول کریں گے، جب دوسرا دن آیا تو معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید کی حکمرانی کی خوبیوں کے متعلق لوگوں کو بتایا اور یہ کہ وہ اُسے ولی عہد بنانا چاہتا ہے تو صخاک بن قیس نے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دیا اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی ترغیب دی اور معاویہؓ سے کہا کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، پھر عبدالرحمن بن عثمان ثقفی، عبداللہ بن عسناۃ اشعری اور ثور بن معن نے اس کی بات کی تائید کی، معاویہؓ نے کہا احنف بن قیس کہاں ہے تو احنف نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگ گزشتہ زمانے کی بُرائی اور نئے زمانے کی بھلائی میں گرفتار ہو چکے ہیں اور یزید آپ کو بہت پیارا ہے اگر آپ نما ہونے والے بڑھاپے یا کمزور کر دینے والے مرض کے سوا کسی اور وجہ سے اُسے اپنا ولی عہد بنا چاہتے ہیں تو آپ نے زمانے کو اچھی طرح آنا کر دیکھ لیا ہے پس

سمجھ لیجیے کہ آپ کس کو ولایت عہد دے رہے ہیں اور کس کو ولی الامر مقرر کر رہے ہیں ان لوگوں کی رائے کو قبول نہ کیجیے جو آپ کو حکم تو دیتے ہیں مگر آپ کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور وہ آپ کی راہنمائی تو کرتے ہیں مگر آپ کے حالات کو نہیں دیکھتے، پس صخاک بن قیس نے کہا: غصے کی حالت میں کھڑے ہو کر عراقیوں کے اختلاف و نفاق کا ذکر کیا اور کہا ان کی رائے کو ان کے سینوں میں ٹوٹا دو، عبدالرحمن بن عثمان نے بھی کھڑے ہو کر صخاک کی حمایت کی پھر ازد قبیلے کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر معاویہؓ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو یزید امیر المؤمنین ہوگا اور جو انکار کرے گا اُسے تلوار کے ساتھ سیدھا کیا جائے گا معاویہ نے اُسے کہا، بیٹھ جاؤ تم تو بڑے خطیبوں میں سے ہو۔ معاویہؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے ولی عہد کی بیعت لی۔ اس بارے میں عبدالرحمن بن ہمام سلوی کہتا ہے۔

”اگر وہ رملہ اور ہند کو لے آئیں تو تب بھی ہم بطور امیر المؤمنین کے ان کی بیعت کر لیں گے، اور جب کسریٰ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا کسریٰ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم ان تینوں کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں، ہائے افسوس اگر ہمارا ہی ناک ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے۔ تب تمہیں مارا جاتا اور تم مکہ واپس آتے اور وہاں کے پتھروں کو چاٹتے اور ہم غیظ و غضب سے ڈر گئے، اگر ہم سب بنی امیہ کا خون پی جاتے تب بھی سیراب نہ ہوتے، تمہاری رعایا ضائع ہو گئی ہے اور تم غافل ہو کر خرگوشوں کا شکار کرتے پھرتے ہو۔“

اور شہروں میں یزید کی بیعت کی چٹھیاں بھیج دی گئیں معاویہ نے مروان بن الحکم کی طرف خط لکھا۔ وہ معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا، جس میں اُسے یزید کے انتخاب اور اس کی ولی عہد کی بیعت کے متعلق اطلاع دی اور اُسے اس کی بیعت کرنے اور دوسرے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا جب مروان نے یہ خط پڑھا تو اپنے اہل بیت اور اپنے ماموؤں کے ساتھ جو بنی کنانہ میں سے تھے چل کر دمشق آیا اور معاویہؓ کے پاس دو قطاروں کے درمیان چلتا ہوا گیا اور جب وہ اس کے اتنا قریب ہوا جہاں سے وہ اُسے اپنی بات مناسکتا تھا تو اس نے سلام کہا اور معاویہؓ کو زجر و توبیخ کرتے

ہوئے بہت سی باتیں کہیں جن میں یہ بھی کہا کہ اے ابن ابی سفیان معاملات کو
دست رکھو اور بچوں کو امیر بنانے کے بارے میں عدل سے کام لو اور یہ بھی
لو کہ تمہاری قوم میں تمہارے جیسے لوگ بھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ دشمنی رکھنے
میں تیرے وزیر ہیں معاویہ نے اُسے کہا تو امیر المؤمنین کا ہم پایہ ہے اور ہر معیت
میں اس کا دست و بازو ہے۔ اور اس کے ولی عہد کا ثانی ہے اور اس نے
اُسے یزید کا ولی عہد بنا دیا اور اُسے مدینہ واپس کر دیا اور پھر اُسے معزول کر
دیا اور ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا اور مروان کے ساتھ
جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اُسے یزید کا ولی عہد بنائے گا اُسے پورا نہ کیا۔

حضرت معاویہؓ کے اخلاق و سیاست اور عہدہ واقعات کا مختصر بیان

قبل ازیں ہم حضرت معاویہؓ کے حالات اور سیرت کے متعلق مختصر واقعات
بیان کر چکے ہیں اب ہم اس باب میں ان کے اخلاق و سیرت اور واقعات
اور وفات تک کے متعلقہ امور کو بیان کریں گے۔

حضرت معاویہؓ کے اخلاق میں ایک
حضرت معاویہؓ کے اخلاق و عادات

یہ بات بھی تھی کہ وہ دن رات میں پانچ
بار لوگوں کو ملاقات کی اجازت دیتے تھے۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تو واقعات سناؤ
کی خاطر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ اس کے واقعات کی سماعت سے فارغ ہو جاتے پھر
مسجد کے اندر داخل ہوتے تو ان کا قرآن لایا جاتا وہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرتے پھر
اپنے گھر جاتے اور گھریلو امور سرانجام دیتے پھر چار رکعت نماز پڑھتے اور اپنی
نشست گاہ کی طرف چلے آتے اور خاص الخاص لوگوں کو بلا کر گفتگو کرتے پھر ان کے وزراء
آ کر رات تک کے پروگرام کے متعلق بات چیت کرتے پھر چھوٹا ناشتہ لایا جاتا۔
جورات کے کھانے سے بچا ہوا بکری کا بچہ یا چوزہ وغیرہ ہوتا۔ پھر طویل گفتگو

ہوتی رہتی بعد ازاں جب چاہتے اپنے گھر چلے جاتے پھر باہر آتے اور غلام سے کہہ سنی نکلنے کو کہتے اور مسجد کی طرف جا کر وہاں کہہ سی پر بیٹھ کر اپنی لپٹت حجرے کے ساتھ لگا لیتے، چونکہ کھڑے ہو جاتے تب کمزور، بدو، مرلیض، عورتیں اور بے سہارا لوگ ان کے پاس جاتے کوئی کتنا مجھ پر ظلم ہوا وہ کہتے اس کی مدد کرو، دوسرا کتنا مجھ پر زیادتی ہوئی ہے وہ کہتے اس کے ساتھ آدمی بھینچو، تیسرا کتنا میرے ساتھ بڑا سلوک ہوا ہے، وہ کہتے اس کے معاملہ کی تحقیق کرو، جب سب لوگ ختم ہو جاتے تو اندر جا کر تخت پر بیٹھ جاتے اور کہتے لوگو! کو حسب مراتب اندر آنے کی اجازت دو اور مجھے کسی کے سلام کے جواب دینے سے نہ روکو۔ لوگ کہتے امیر المؤمنین (اللہ ان کی عمر دراز فرمائے) نے کس حال میں صبح کی ہے کہتے اللہ تعالیٰ کے احسان سے میں نے اچھی حالت میں صبح کی ہے جب لوگ بیٹھ جاتے تو آپ کہتے لوگو تمہارا نام اشرف ہے کیونکہ تمہیں دوسرے لوگوں کی نسبت اس مجلس میں آنے کا شرف بخشا گیا ہے، جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان کی ضروریات کو ہم تک پہنچاؤ تو کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہتا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے، وہ کہتے اس کے بچے کا وظیفہ مقرر کرو، دوسرا کتنا، فلاں آدمی اپنے گھر سے غائب ہو گیا ہے، وہ کہتے ان کا خیال رکھو، اور ان کی ضروریات کو پورا کرو اور ان کی خدمت کرو، پھر ناشتہ لایا جاتا اور کاتب آکر ان کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا اور وہ ایک آدمی کو آگے کرتا وہ اُسے کہتے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، پس وہ بیٹھ جاتا، پس وہ ایک دو لقمے کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے اور کاتب اپنی دستاویز پڑھتا جاتا اور وہ حکم دیتے جاتے، پھر کہا جاتا اے عبد اللہ پیچھے ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا تو دوسرا آدمی آگے آ جاتا، یہاں تک کہ تمام حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتے اور بعض اوقات چالیس کے قریب حاجت مند آپ کے پاس آ جاتے یا ناشتے کے مطابق آ جاتے پھر ناشتہ اٹھا لیا جاتا اور لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی جاتی وہ واپس جاتے تو آپ اپنے گھر میں چلے جاتے اور کوئی کسی سے ملاقات نہ کرتے۔ یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوتی اور آپ آکر نماز پڑھتے پھر گھر چلے جاتے اور چار رکعت نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اور خاص لوگوں کو اجازت دیتے اور اگر سردی کا موسم ہوتا تو ان کے لیے خشک حلوا، دودھ شکر ملے آٹے اور میدے کی مکھیاں اور گھی کے بنے ہوئے بسکٹ اور خشک پھل وغیرہ لائے جاتے اور اگر گرمی کا موسم ہوتا تو تازہ پھل لائے جاتے

اور ان کے وزراء آکر لقیہ دن کے لیے مشورہ کرتے اور وہ عصر تک بیٹھتے پھر جا کر عصر کی نماز پڑھاتے پھر اپنے گھر میں چلے جاتے اور کسی سے ملاقات نہ کرتے۔ یہاں تک کہ عصر کا آخری وقت ہو جاتا تو آپ باہر نکل کر تخت پر بیٹھ جاتے اور لوگوں کو حسب مراتب اجازت دی جاتی اور شام کا کھانا لایا جاتا اور مغرب کی اذان کے وقت تک اس سے فراغت ہو جاتی اور حاجت مندوں کو نہ بلایا جاتا پھر شام کا کھانا اٹھا دیا جاتا اور مغرب کی اذان ہو جاتی تو وہ جا کر نماز پڑھتے پھر اس کے بعد چار رکعت نماز پڑھتے جس کی ہر رکعت میں پچاس آیات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے پڑھتے پھر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور کسی سے ملاقات نہ کرتے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو جاتی اور آپ آکر نماز پڑھتے پھر خاص لوگوں اور وزیروں کو اجازت دی جاتی اور رات کے پہلے حصے میں وزراء اپنے معاملات کے متعلق ان سے مشورہ کرتے اور ایک تہائی رات تک عربوں کے واقعات اور جنگوں اور عجیبوں اور ان کے بادشاہوں اور رعیت کے متعلق ان کے انتظامات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی پھر ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے پاس نفیس قسم کا حلوہ اور دوسرے عمدہ کھانے لائے جاتے، پھر وہ گھر جا کر رات کا تیسرا حصہ سوتے پھر کھڑے ہو جاتے اور ان کے سامنے ایسے کاغذات پیش کیے جاتے جن میں بادشاہوں کی سیرت، واقعات، جنگوں اور تدبیروں کا ذکر ہوتا۔ یہ چیزیں وظیفہ خوار غلام سناتے جن کی ڈیوٹی ان کو حفظ کرنا اور سنانا بھی تھی۔ پس ہر شب ان کے کالوں سے واقعات، سیر و آثار اور مختلف قسم کی سیاسیات کا گزر ہوتا پھر وہ جا کر صبح کی نماز پڑھتے اور پھر جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہر روز یہی کرتے آپ کے بعد ایک جماعت نے جس میں عبد الملک بن مروان جیسے آدمی بھی تھے آپ کے اخلاق کو اپنانے کا ارادہ کیا مگر وہ آپ کے حلم کو نہ پاسکے اور نہ ہی آپ کے تقویٰ کو پاسکے جو آپ سیاست میں اختیار کرتے تھے اور نہ ہی وہ امور کو اس طرح سرانجام دے سکے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ان کی قدر و منزلت کے مطابق سلوک کر سکے۔

ان کی سیاست کی سختگی، تقویٰ اور عوام و خواص کے
حضرت معاویہ کی عقلمندی | دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینا اس حد تک تھا کہ صفین
 سے واپسی پر کوفہ کا ایک آدمی اپنے اونٹ پر دمشق میں داخل ہوا تو دمشق کا ایک آدمی

اس سے اُلجھ پڑا اور کہنے لگا کہ یہ میری اُونٹنی ہے جو صفین میں مجھ سے چھین لی گئی تھی، ان دونوں کا معاملہ حضرت معاویہؓ تک پہنچا دمشق کے آدمی نے پچاس آدمی شہادت کے لیے پیش کیے جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ اُونٹنی اسی شخص کی ہے پس حضرت معاویہؓ نے کوئی کے خلاف فیصلہ کر دیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اُونٹ اس آدمی کو دے دے، کوئی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اُونٹنی نہیں یہ تو اُونٹ ہے، حضرت معاویہؓ نے کہا جو حکم دیا جا چکا ہے وہ نافذ ہو گیا ہے اور لوگوں کے منتشر ہو جانے کے بعد آپ نے خفیہ طور پر کوئی کی طرف آدمی بھیج کر اُسے بلوایا اور اس سے اُونٹ کی قیمت دریافت کی اور اُسے دو گنی قیمت دی اور اس سے حسن سلوک بھی کیا اور اُسے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچا دو کہ میں اُن ایک لاکھ آدمیوں کے ساتھ ان سے جنگ کر رہا ہوں جن میں کوئی آدمی اُونٹنی اور اُونٹ کے درمیان تیز نہیں کرتا اور ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے میں نے انہیں صفین کی طرف جاتے ہوئے بڑھ کے روز جمعہ کی نماز پڑھا دی اور جنگ کے وقت ان کے سرداروں نے مجھے عاریتہ چیزیں دیں اور خود اُسے اُٹھا کر ان کے پاس لے آئے ادا انہوں نے عمرو بن العاص کا یہ قول تسلیم کر لیا کہ علی وہ شخص ہے جس نے عمار کو اپنی مدد کے لیے نکال قتل کیا ہے اور پھر وہ معاویہ کی اطاعت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت علیؓ پر لعنت کرنے کو سنت بنا لیا اور چھوٹے اسی لعنت پر پر دان چڑھتے اور بڑے اسی پر مرتے رہے۔

شامیوں اور عراقیوں کی بعض غلطیاں | مسعودی بیان کرتا ہے کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ شامیوں کے ایک سردار اور دانشور سے پوچھا گیا کہ البوتراب کون ہے؟ کیا وہ ہے جس پر امام منبر پر لعنت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے خیال میں وہ فتنہ پیدا کرنے والے چوروں میں سے ایک چور ہے۔

جاہظ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک عام حاجی آدمی سے سنا اس کے سامنے بیت اللہ کا ذکر کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب میں اس کے پاس آؤں گا تو اس کی طرف سے کون شخص مجھ سے بات کرے گا؟ اور اس کے ایک دوست نے اُسے بتایا کہ اُسے ان میں سے ایک آدمی نے جسے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے سنا تھا

کہا کہ تو اس محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا ہمارا رب وہی ہے؟
 تمامہ بن اشرس نے بیان کیا ہے کہ میں بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ
 ایک آدمی کے گرد لوگ جمع ہیں، میں نے اپنے خچر سے اتر کر پوچھا یہ اجتماع کس وجہ سے
 ہوا ہے اور میں لوگوں کے درمیان چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے سرمہ کے اومٹا
 بیان کر رہا ہے کہ وہ آنکھوں کی ہر بیماری کا کامیاب علاج ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا تو
 اس کی ایک آنکھ سفید داغوں والی تھی اور دوسری آنکھ رگڑی ہوئی ہے، میں نے اُسے کہا
 ارے اگر تیرا سرمہ ایسا ہی ہے جیسے تو بیان کرتا ہے تو تیری آنکھوں کو فائدہ دیتا اس نے
 مجھے کہا ارے جاہل! کیا میری آنکھیں یہاں خراب ہوئی ہیں، میری آنکھیں مصر میں خراب
 ہوئی تھیں تو سب لوگوں نے کہا اس نے سچ بات کہی ہے، اور وہ ان کے جوتوں سے
 بڑی مشکل سے بچا۔

میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ بغداد میں ایک عام آدمی نے ایک طالبی حکمران کے
 پاس اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ کیا کہ وہ اُسے زندیق قرار دیتا ہے، حکمران نے اس سے
 اس آدمی کے مذہب کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ مرجئی، قدری، ناصبی
 اور رافضی ہے اور جب اس نے مزید پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ معاویہ بن خطاب سے بغض
 رکھتا ہے جس نے علی بن العاص کو قتل کیا تھا۔ حکمران نے اُسے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں
 کس چیز کے بارے میں تجھ پر شک کروں، تیری علمی باتوں پر یا انساب کے متعلق تیری واقفیت
 پر (نسب پر غلط اور صورت واقعہ پر غلط بیان کر رہا تھا)

ہمارے ایک اہل علم بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت
 علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے متعلق بیٹھ کر مناظرہ کیا کرتے تھے اور اہل علم نے جو کچھ بیان کیا
 اس کا بھی ذکر کرتے تھے اور عوام آکر ہماری باتوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے
 ایک آدمی نے جو ان میں بڑا عقل مند اور بڑی دائرہ والا تھا، مجھے کہا، تم علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ
 اور فلاں فلاں کے متعلق کتنے عرصہ تک باتیں کرتے رہو گے۔ میں نے اُسے کہا تو کیا کہنا چاہتا
 ہے اس نے کہا تو کس کے متعلق پوچھتا ہے؟ میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو کیا کہتا ہے
 اس نے کہا، کیا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا باپ نہیں، میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ اس نے کہا حضرت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، عائشہ کی بیٹی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کا کیا

قصہ ہے، اس نے کہا وہ جنگ حنین میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارا گیا تھا۔ جب عبد اللہ بن علی، مروان کی تلاش میں شام کی طرف گئے، مروان کے حالات اور اس کے قتل کے واقعہ کا ذکر کیا جا چکا ہے، تو وہ شام میں اترے اور ابو العباس سفاح کی طرف شامی سرداروں کو بھیجا جو صاحب ثروت و حکومت تھے اور انہوں نے ابو العباس کو قسم کھا کر بتایا کہ جب تک تمہیں خلافت نہیں ملی ہمیں بتو امیہ کے سوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور آپ کے وارث اہل بیت کا پتہ نہ تھا چنانچہ اس بارے میں المہاجر الجلی کہتا ہے: "اے لوگو ایک عجیب خبر سنو جو ہر عجیب خبر سے بڑھ کر ہے، مجھے بنو عبد شمس پر حیرت ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے جھوٹ کے دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ عباس بن عبد المطلب کے سوا، احمد علیہ السلام کے وارث ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا ہے ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ میراث کو قرابت دار ہی حاصل کرتا ہے۔"

ہارون الرشید کے زمانے میں ایک جعلی طبیب ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں ایک جعلی طبیب تھا جو عام لوگوں کو طبابت کی

باتیں بتاتا تھا وہ دہریہ تھا لیکن اپنے آپ کو اہلسنت جماعت کا فرد بتاتا تھا۔ اور بدعتیوں پر لعنت کرتا اور سستی کے نام سے مشہور تھا، عوام اس کے مطیع و فرمانبردار تھے لوگ ہر روز اس کے پاس پانی کی بوتلیں لاتے اور جب وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ اُجھل کر کھڑا ہوتا اور کہتا اے مسلمانو! تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں پھر کس وجہ سے میرے پاس اپنے نفع و نقصان کی باتیں پوچھنے آتے ہو؟ اپنے رب کے پاس جاؤ اور اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرو تاکہ تمہارا فعل تمہارے قول کے مطابق ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے خدا کی قسم اس نے ہمیں سچ بات کہی ہے، کتنے ہی مریض علاج کے بغیر مر گئے اور ان میں سے کئی علاج چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ پُرسکون ہوتا پھر وہ اس پانی کو دوا بیان کرتا اور کہتا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا اور جیسے اس نے تجھے بیمار کیا ہے وہ تجھے شفا دیتا اور اس طرح کی باتوں سے اس نے بہت سے آدمیوں کو مار دیا کیونکہ وہ انہیں بیماریوں کے علاج سے بے رغبت کر دیتا تھا۔

عوام کے اخلاق عوام کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر سردار کو سردار غیر فاضل کو فاضل

اور غیر عالم کو صاحب علم قرار دیتے ہیں وہ گذشتہ لوگوں کے متبع ہوتے ہیں اور وہ ان سب سے فاضل و مفضل و نفع و نقصان اور حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتے اگر آپ ذرا نظر دوڑائیں تو ان باتوں کو دیکھیں گے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نیز علماء کی مجالس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ صاحبان تمیز اور اہل مروت اور عقل مندوں سے بھری ہوئی ہیں اور عوام کے ہجوم سے خالی ہیں زمانے نے ہمیشہ انہیں جھوٹے لیڈر یا بندر کی سیاست پر دف بجانے والے کی طرف دوڑنے دیکھا ہے یا انہیں لہو و لعب کا شوقین پایا ہے یا انہیں خلط ملط باتیں کرنے اور جھوٹ بولنے والے کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے یا انہیں جھوٹے داستان گوؤں کی باتیں سننے پایا ہے اور یا انہیں کسی مفروب کے ارد گرد اکٹھے ہوئے پایا ہے یا وہ کسی مصلوب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ کائیں کائیں کرنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو روکتے نہیں، بڑی بات کو بڑا نہیں سمجھتے اور نہ نیکی کو جانتے ہیں اور نہ اس بات کی پروا کرتے ہیں کہ وہ نیک آدمی کو ایک فاجر کے ساتھ اور ایک مومن کو کافر کے ساتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضاحت سے بتایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں عالم یا متعلم اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ رذیل ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پروا نہیں اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ سے عوام کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رذیل لوگ ہر کائیں کائیں کرنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ نور علم سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتے ہیں اور سب لوگوں نے ان کا نام کہینے رکھا ہے اور وہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو غالب آجاتے ہیں اور جب متفرق ہو جاتے ہیں تو کسی کو جانتے بھی نہیں، پھر ان کے احوال و مذاہب کے اختلاف پر غور کرو اور ان کے سرداروں کے اجتماع کو دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیس سال تک مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اُسے اپنے اصحاب کو لکھواتے تھے اور وہ اُسے لکھتے اور مدون کرتے تھے اور اس کے ایک ایک لفظ کو جمع کرتے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اس مدت کے دوران اللہ کے علم میں تھے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے چند ماہ قبل اس سے لکھوایا، پس لوگوں نے اس کے ذکر کو بلند کیا اور اس کے مرتبہ کو بڑھایا اور اُسے کاتب وحی بنا دیا اور اس بات سے اُسے عظمت دی اور یہ بات اس کے ساتھ شامل کر دی اور دوسروں سے چھین لی اور اُس کے

سوا دوسروں کے ذکر کو خیر باد کہہ دیا، اس بات کی اصل وہ عادت ہے جس پر ان کی پیدائش اور نشوونما ہوئی ہے پس وہ بلوغ کے وقت بھی اسی عادت پر قائم رہتے ہیں اور عادت اپنا کام کر دکھاتی ہے اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور عادت کے متعلق شعراء اور اہل درایت اور ادباء نے بہت کچھ کہا ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ

”میری عزت کرنے کے بعد مجھے مبارک باد نہ دے کیونکہ عادت کا میلان بڑا سخت ہوتا ہے۔“

اور ایک دوسرا شاعر اپنے دوست کو عتاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

”نفس کو کسی عادت کا چھڑانا، ٹھوس پتھر کے اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔“

اور حکمائے عرب کہتے ہیں کہ عادت، حاجت سے بھی زیادہ کنٹرول رکھتی ہے۔ اور حکمائے عجم نے کہا ہے کہ عادت، طبیعت ثانیہ ہے اور ابو عقال کا تب نے عوام کے اخلاق کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان کے اخلاق و عادات اور طرز گفتگو کا ذکر کرتا ہے اور اس نے اس کا نام الملکی رکھا ہے اور اگر مجھے طوالت کلام کی ناپسندیدگی اور اس کتاب میں اختصار سے تجاوز کا خیال نہ ہوتا تو میں عوام کی عجیب و غریب باتوں اور اخلاق و افعال کا ذکر کرتا اور عادات میں لوگوں کے مراتب اور ان کے احوال کی نیرنگی کو بھی بیان کرتا۔

اب ہم پھر معاویہؓ کے حالات اور ان کی سیاست اور لوگوں نے جو ان کے اخلاق کی وسعت کو بیان کیا ہے اور جو ان پر نوازشات کی ہیں ان کے ذکر کی طرف آتے ہیں جن کی وجہ سے اس نے لوگوں کے دلوں کو کھینچا یہاں تک کہ انہوں نے اسے اہل اور قرار بتا دیا پر بھی ترجیح دے دی۔

عقیل بن ابی طالب اور معاویہؓ | ایک واقعہ یہ ہے کہ عقیل بن ابی طالب، معاویہؓ کے پاس بخشش کی طلب اور ملاقات کے

لیے گئے تو معاویہؓ نے انہیں خوش آمدید کہا اور کیونکہ عقیل بن ابی طالب نے انہیں اپنے بھائی کے مقابلہ میں ترجیح دی اور انہیں زیادہ حلیم اور متحمل مزاج قرار دیا۔ معاویہؓ نے انہیں کہا کہ ابو یزید! آپ نے علیؓ کو کیسے چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا:-

میں نے انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسندیدہ باتوں پر چھوڑا ہے اور تجھے میں نے ان باتوں میں مشغول پایا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ معاویہؓ نے انہیں کہا اگر آپ ہمارے صحن میں بخشش کی طلب اور ملاقات کی خاطر نہ آئے ہوتے تو میں تمہیں ایسا جواب دیتا جس سے تمہیں تکلیف محسوس ہوتی، پھر معاویہؓ نے اس خوف کی وجہ سے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ ایسی بات نہ کریں جو انہیں ٹیک کر دے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کی مہمان نوازی کا حکم دیا اور انہیں بہت سامان دیا دوسرے دن، آپ بیٹھے تو آپ نے عقیل کی طرف پیغام بھیجا وہ آئے تو آپ نے پوچھا اے ابو یزید! آپ نے اپنے بھائی علیؓ کو کس حال میں چھوڑا ہے، انہوں نے جواب دیا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ تمہاری نسبت اپنے لیے بہتر ہیں اور آپ ان کی نسبت میرے لیے بہتر ہیں، معاویہ نے انہیں کہا خدا کی قسم آپ شاعر کے اس شعر کے مصداق ہیں کہ

”جب میں نے آل محرق کے فخر کو شمار کیا تو ان میں بزرگی بنی عتاب میں تھی۔“
پس بنی ہاشم میں سے بزرگی تجھ میں پائی جاتی ہے اے ابو یزید گردش روزگار نے تجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، عقیل نے کہا

”جس جنگ کا تو از تکاب کرنے والا ہے اس کے لیے صبر سے کام لے،

ضروری ہے کہ تو اس کے حمایتی سمیت اس میں داخل ہو۔“

اور اے ابن ابی سفیان خدا کی قسم تو ایک دوسرے شاعر کے شعر کا مصداق ہے

”جب کسی دن ہوازن فخر کرتے ہوئے آتے ہیں تو میں ان پر آل مجاشع کے

ذریعہ فخر کرتا ہوں جو اپنی چٹی غلاموں پر ڈال دیتے ہیں اور جنگ کے روز

کھوپڑیوں پر تلواریں مارنے ہیں۔“

لیکن اے معاویہ جب بنو امیہ فخر کریں تو کس بات

پر فخر کریں، معاویہ نے کہا۔ اے ابو یزید میں

بنی صوحان کی تعریف

نے تجھے خاموش رہنے کی قسم دی ہے، میں اس کام کے لیے نہیں بیٹھا، میرا مقصد

یہ تھا کہ میں آپ سے حضرت علیؓ کے اصحاب کے متعلق پوچھوں کیونکہ آپ ان سے

واقفیت رکھتے ہیں۔ عقیل نے کہا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اس نے کہا

مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی خوبیاں بتاؤ اور آلِ صوحان سے آغانہ کرو کیونکہ وہ کلام کے ماہرین ہیں، اس نے کہا کہ صعصعہ بڑی شان والا اور تیز زبان اور سواروں کا سالار اور مد مقابل آنے والوں کا قاتل ہے جو بگڑی بات کو درست اور درست بات کو بگاڑ دیتا ہے اس کی نظیر کم ہی پائی جاتی ہے اور نہ یہ اور عبد اللہ دونوں بہتے دریا ہیں جن میں کشتیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اور ممالک کو ان سے مدد دی جاتی ہے اور وہ دونوں سنجیدہ آدمی ہیں اور بنو صوحان کی مثال شاعر کے اس شعر کی طرح ہے کہ

”جب دشمن مقابلہ میں آجاتا ہے تو میرے پاس ایسے شیر ہیں جو شیر دل جواز
کو اچک لیتے ہیں۔“

عقیل کی باتیں صعصعہ کو معلوم ہوئیں تو اس نے انہیں لکھا:-

صعصعہ کا عقیل کو خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اسی کے ذریعہ فتح حاصل کرنے والے فتح کرتے ہیں اور تم دنیا اور آخرت کی چابیاں ہو، ابالبعث، آپ کے غلام نے آپ کی وہ گفتگو مجھ تک پہنچا دی ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کی ہے پس میں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور اس سے دعا کی کہ وہ آپ کو بلند مقام سرخ چھڑی اور سیاہ ستون عطا فرمائے وہ ستون ایسا ہے جو اس سے اگ ہوگا وہ روشن دین کو چھوڑ دے گا، اگر آپ کا نفس آپ کو معاویہ کے پاس طلب مال کے لیے لے گیا ہے تو آپ اس کی تمام خصلتوں کو جانتے ہیں پس محتاط رہیے کہ اس کی آگ آپ سے لپٹ کر آپ کو راہ سے بے راہ نہ کر دے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم اہل بیت سے وہ چیز دُر کر دی ہے جو اس نے دوسرے لوگوں میں رکھی ہے پس جو بھی فضل و احسان ہے وہ تمہارے ذریعہ سے ہم تک پہنچتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان کو بڑا بنایا ہے اور تمہارے شرف کی حفاظت کی ہے اور تمہارے آثار کو لکھا ہے، کیونکہ تمہاری شان پسندیدہ اور تمہاری شرافت محفوظ اور تمہارے آثار سبقت کر جانے والے ہیں اور تم لوگ مخلوق کی طرف اللہ کی سیر بھی ہو اور اس کے راستہ کی طرف

وسیلہ ہو، تمہارے ہاتھ بلند اور چہرے روشن ہیں اور تم شاعر کے اس شعر

کے مصداق ہو

”پس جو بھلائی بھی انہوں نے کی ہے قبل ازیں ان کے آبا و اجداد ہی اس کے وارث ہوئے تھے، اور نیزہ اپنے قریب والے ہی کو اگاتا ہے اور کھجوروں کو ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہی بویا جاتا ہے۔“

حضرت علی رضا اور ان کے سرکردہ
اصحاب کے درمیان گفتگو

ہیشم نے ابوسفیان عمرو بن یزید سے اور اس نے براء بن یزید سے اور اس نے محمد بن عبداللہ بن حارث طائی سے پھر بنی عصفان کے ایک آدمی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب حضرت علی رضا جنگ جمل سے واپس آئے تو آپ نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازے پر عرب کے کون سے سرکردہ لوگ ہیں؟ اس نے جن لوگوں کے نام لیے ان میں محمد بن عمیر ابن عطار و التیمی، احنف بن قیس اور صعصعہ بن صوحان العبیدی بھی شامل تھے آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو، انہوں نے اندر داخل ہو کر آپ کو سلامت خلافت کہا۔ آپ نے انہیں فرمایا تم میرے نزدیک عرب کے سرکردہ لوگ اور میرے اصحاب کے سردار ہو مجھے اس سرکش جو ان یعنی معاویہ کے متعلق کچھ بتاؤ پس اس کے بتانے نے انہیں آذ مالش میں ڈال دیا، صعصعہ نے کہا کہ معاویہ کو خواہشات نے سرکش بنا دیا ہے اور دنیا اُسے بہت پیاری ہے اور جراثیم کے قتل ہونے کی جگہوں کو وہ معمولی خیال کرتا ہے اور اس نے اپنی آخرت کو ان کی دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، پس اگر آپ اس کے متعلق مشورہ سے عمل کریں گے تو انشاء اللہ درست کام کریں گے اور اسے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طفیل اس کی توفیق مل جائے گی اور اس بارے میں مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک جاسوس اور قابل اعتماد آدمی اپنا خط دے کر اس کی طرف بھیجیں جس میں اُسے اپنی بیعت کی دعوت دیں، اگر وہ اس بات کو قبول کر لے، تو اس کے لیے بھی وہ کچھ ہوگا جو آپ کے لیے ہے اور جو ذمہ داری آپ پر ہے وہی اس پر ہوگی، اور اگر وہ قبول نہ کر لے تو اس سے جہاد کریں اور اپنی موت تک خدا کے فیصلے کا انتظار کریں، حضرت علی رضا نے فرمایا اے صعصعہ! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ

تم اپنے ہاتھوں سے اُسے خط لکھو اور اُسے معاویہ کے پاس پہنچاؤ اور خط کے آغاز میں تخریر و تخیف سے کام لو اور اس کے بعد توبہ و انابت کرنے کی طرف توجہ دلائیں اور خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے معاویہ کی طرف، کے الفاظ سے کرو اس کے بعد سلام لکھیں۔ پھر آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ لکھیں اور خط کا سیدنگ یہ آیت ہو "الاحی اللہ تصیر الامور" ترجمہ: خبردار اللہ کی طرف تمام کام پھیر جاتے ہیں (الشوریٰ - آیت ۷۳) صعصعہ نے کہا مجھے اس کام سے معاف فرمائیے آپ نے فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تجھے یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، اس نے کہا، میں کروں گا، پس وہ خط لے کر اور تیاری کر کے دمشق چلا گیا اور معاویہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دربان سے کہنے لگا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ایلچی کے لیے اجازت طلب کر اور دروازے میں بنی امیہ کا ازفلہ کھڑا تھا اس کے اس قول کی وجہ سے کہ "المقتلون جلا ان یقول ربی اللہ" ترجمہ: کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے (المومنون آیت ۲۸) لوگ اس کو تھپڑ اور جوتے مارنے لگے اور بہت شور و غل مچ گیا، معاویہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آدمی بھیجا جب وہ لوگ منتشر ہو گئے پھر انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور ان سے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا یہ ایک عربی ہے جسے صعصعہ بن صوحان کہتے ہیں اور اس کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خط بھی ہے معاویہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق اطلاعات مل چکی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک تیر اور عرب کا ایک خطیب ہے اور میں اس کی ملاقات کا بہت مشتاق تھا، اسے غلام اُسے اندر آنے کی اجازت دو۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اسے ابن ابی سفیان تجھے سلام ہو یہ امیر المؤمنین کا خط ہے معاویہ نے کہا، اگر جاؤ یا اسلام میں ایلچی قتل کیے جاتے تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ رکہ تو علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہتا ہے، پھر معاویہ نے گفتگو میں اس سے تکرار کیا تاکہ اس کی طبیعت معلوم ہو اور یہ اندازہ لگانا چاہا کہ وہ یہ باتیں طبعاً کر رہا ہے یا تکلفاً۔ معاویہ نے پوچھا تو کس قبیلے سے ہے اس نے کہا نزار سے، اس نے کہا نزار قبیلہ کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا جب وہ جنگ کرتا ہے تو اوندھا کر دیتا ہے اور جب بڑھ پھیر کرتا ہے تو پھاڑ دیتا ہے اور جب واپس لوٹتا ہے تو محفوظ رہتا ہے اس نے پوچھا تو کس کی اولاد سے ہے اس نے

جواب دیا ربیعہ کی اولاد سے ، اس نے پوچھا ربیعہ کیسا تھا اس نے کہا وہ لمبے پتلے والا تھا اور غلاموں کی پرورش کرتا تھا اور قطعہ ہائے زمین میں عمارتیں بناتا تھا ، اس نے پوچھا تو اس کے کس لڑکے کی اولاد سے ہے ؟ اس نے کہا جدیلہ کی اولاد سے ، اس نے پوچھا جدیلہ کیسا تھا ، اس نے کہا وہ جنگ میں شمشیر بُراں اور اچھے کاموں میں فائدہ بخش باراں اور ڈبھیر ہیں روشن شعلہ تھا اس نے پوچھا تو اس کی کس اولاد سے ہے اس نے کہا عبد القیس کی اولاد سے ، اس نے پوچھا عبد القیس کیسا تھا اس نے کہا وہ بہت داد و دہش کرنے والا اور سفید رو تھا اور اپنے مہمان کو جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا دے دیتا تھا اور جو چیز کھو جائے اس کے متعلق پوچھتا تک نہ تھا وہ بہت شور بے دالا اور پاکیزہ اصل والا تھا اور لوگوں کے لیے وہ آسمانی بارش کی طرح تھا ، معاویہ نے کہا اے ابن صوحان تیرا بڑا بہو تو نے قریش کے اس قبیلے کے لیے کوئی بزرگی اور فخر کی بات نہیں چھوڑی اس نے جواب دیا بے شک اے ابن ابی سفیان خدا کی قسم میں نے ان کے لیے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جو انہی کے مناسب حال ہیں۔ میں نے ان کے لیے سرخ و سفید ، نذر و اندکھرا نذر و نخت اور منبر اور محشر تک حکومت چھوڑی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو وہ زمین میں اللہ کے مینار اور آسمان میں اس کے ستارے ہیں ، پس معاویہ خوش ہو گیا اور خیال کرنے لگا کہ اس کا یہ کلام سب قریش کے لیے ہے اس نے کہا اے ابن صوحان تو نے سچ کہا ہے اور یہ بات ایسے ہی ہے ، پس صعصعہ نے بھی اس کی مراد کو سمجھ لیا اور کہا کہ تیرے اور تیری قوم کے لیے اس میں کچھ نہیں تم اس سبزہ انداز سے دور ہو جسے کسی نے چرا ہوا اور تم میٹھے پانی سے بھی بالا ہو ، اس نے کہا اے ابن صوحان تو ہلاک ہو ایسا کیوں ہے ؟ اس نے جواب دیا : ہلاکت دوزخیوں کے لیے ہے ، یہ بنی ہاشم کی بات ہے ، معاویہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ پھر انہوں نے اُسے نکال دیا تو صعصعہ نے کہا ، تجھ سے سچ اچٹ جاتا ہے مگر وعید نہیں اچٹی ، گفتگو سے قبل جھگڑا کس نے کیا ، معاویہ نے کہا کسی بات کی وجہ سے اس کی قوم نے اُسے سردار نہیں بنایا ، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی صلب سے ہوتا پھر اس نے بنی امیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ، مردوں کو ایسے ہونا چاہیے۔

حضرت علیؑ کے اصحاب کی ایک جماعت اور معاویہؓ نے ابو الفیاض منصور بن حوشی

عبداللہ بن محمد ہاشمی سے ، اس نے ولید بن بختری العبیدی سے اس نے حارث بن مسار البہرانی سے بیان کیا وہ کہتا تھا کہ معاویہ نے صعصعہ بن صوحان العبیدی اور عبداللہ بن الکوا والیشکری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو ، قریش کے کچھ آدمیوں کے ساتھ قید کر دیا ایک روز معاویہ نے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اور تم سچ پوچھ کر بیان کرنا کہ تم نے مجھے کیسا خلیفہ پایا ہے ، ابن الکوا نے کہا اگر تو نے ہمیں قسم نہ دی ہوتی تو ہم کچھ نہ کہتے کیونکہ تو بڑا سرکش اور مخالف آدمی ہے جو نیک لوگوں کے قتل کرنے میں بھی خدا تعالیٰ کا لحاظ نہیں رکھتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق تو نے دنیا کو وسیع اور آخرت کو تنگ کر لیا ہے تو مٹی کے قریب اور سبزہ زار سے دور ہے ، تو تار بچی کو نور اور نور کو تار بچی بنا دیتا ہے ، معاویہ نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شامیوں کو حکومت سے نوازا ہے جو اس کے حریم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے محارم کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عراقیوں کی طرح نہیں جو محارم اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیتے ہیں ، عبداللہ بن الکوا نے کہا اے ابن ابی سفیان ہر بات کا جواب دیا جاسکتا ہے لیکن ہم تیری طاقت سے ڈرتے ہیں پس اگر تو ہمارے زبانوں کو آزادی دے تو ہم نیز زبانوں کے ساتھ اہل عراق کا دفاع کریں گے اور انہیں اللہ کی راہ میں کسی ملامت اور کی ملامت کا خوف نہ ہوگا ورنہ ہم صبر کیے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اور ہمیں کشائش دے معاویہ نے کہا خدا کی قسم تمہاری زبان کو آزادی نہیں دی جائے گی پھر صعصعہ نے گفتگو کی اور کہا اے ابن ابی سفیان ! تو نے خوب گفتگو کی ہے اور کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیا ، لیکن بات یوں نہیں جیسے آپ نے بیان کی ہے وہ شخص کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے جو بد دستی لوگوں پر بادشاہ بن بیٹھے اور کبر سے انہیں اپنا مطیع بنائے اور کذب و مکر سے ناجائز ذرائع سے غالب آئے ، خدا کی قسم جنگ بدر کے روز نہ تیرا کوئی خیمہ تھا اور نہ نشانہ ، اور تو اس میں ایسا ہی تھا جیسا کسی نے کہا ہے کہ " نہ میرا دہاں اترنا تھا نہ چلنا " اور تو اور تیرا باپ ان لوگوں کے قافلے میں تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تھی اور تو آزاد کردہ آدمی کا آزاد بیٹا ہے ، تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا۔ ایک آزاد کردہ آدمی کو خلافت کہاں نہیب دیتی ہے ،

معاویہ نے کہا اگر میں نے اپنی طالب کے قول "کہ میں نے ان کی جہالت کا مقابلہ حلم اور بخشش سے کیا اور قدرت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا سخاوت کی ایک قسم ہے۔" کی طرف رجوع نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔

ابو جعفر محمد بن حبیب نے بیان کیا کہ ہمیں ابو الہثیم یزید بن رجااء الغنوی نے بتایا کہ ہمیں ولید بن بختری نے اپنے باپ اور اس نے ابن مردوغ

معاویہؓ کے پاس صعصعہ بن صوحان کا مختلف ممالک کے لوگوں کی تعریف کرتا

کلبی سے بیان کیا وہ کہتا تھا کہ صعصعہ بن صوحان العبیدی معاویہ کے پاس گیا تو اس نے اُسے کہا اے ابن صوحان تو عربوں اور ان کے حالات سے خوب باخبر ہے، مجھے اہل بصرہ کے متعلق بتاؤ اور ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف بھڑکانے سے باز رہو، اس نے کہا بصرہ، عربوں کا سب سے اچھا شہر اور شرف و سرداری کا منتہا ہے اور وہاں کے لوگ سب سے پہلی آباد کاری کی مقبوضہ زمین کے مالک ہیں اور عربوں کے سردار ان کے ساتھ اس طرح گھومے ہیں جیسے چکی اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اس نے پوچھا کوفیوں کے متعلق بتاؤ اس نے کہا وہ اسلام کے گنبد، کلام کی چوٹی اور علمبرداروں کے خیال و گمان کی جگہ ہیں، مگر وہاں کچھ بے وقوف بھی ہیں جو صاحبان امر کی اطاعت سے روکتے ہیں اور انہیں جماعت سے نکالتے ہیں حالانکہ یہ اخلاق عاجزوں کے ہیں اس نے پوچھا مجھے اہل حجاز کے متعلق بتاؤ، اس نے کہا کہ یہ فتنہ کی طرف جاتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ تیز اور اُسے دُور کرنے میں سب سے زیادہ کمزور اور سب سے کم کام آنے والے ہیں، مگر دین میں ثابت قدم ہیں اور یقین کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں اور نیک ائمہ کی اتباع کرتے ہیں اور فاسقوں و فاجروں سے الگ رہتے ہیں معاویہ نے پوچھا فاسق اور فاجر کون ہیں، اس نے بے دھڑک ہو کر کہا اے ابن ابی سفیان علی اور اس کے اصحاب نیک ائمہ میں سے ہیں اور تو اور نیرے اصحاب فاسق و فاجر ہیں پھر معاویہ میں غضب کے آثار پیدا ہو گئے لیکن اس نے چاہا کہ صعصعہ اپنی گفتگو کو جاری رکھے اس نے پوچھا کہ مجھے دیارِ مضر کے سرخ گنبد کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا مضر کا شیر بسلان، دو جھنگیوں کے درمیان ہے جب وہ اسے بھیتے ہیں تو وہ شکار کرتا

ہے اور جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، معاویہ نے کہا اے ابن صوحان وہاں العز الراعی بھی ہے، کہا تیری قوم میں کوئی اس جیسا ہے اس نے کہا وہ اپنے اہل کے لیے ہے اے ابن ابی سفیان بس کر، اور جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اس نے پوچھا مجھے دیار ربیعہ کے متعلق بتاؤ لیکن تجھے جہالت اور اپنی قوم کے متعلق تعصب سبک نہ کر دے اس نے کہا خدا کی قسم وہ رات کے بیار ہیں اور دین کی دم ہیں اور جب ان کا جھنڈا مضبوطی سے قائم ہو جائے تو کبھی ان پر غالب نہیں آسکتی وہ دین کے باغی اور یقین و شک کی درمیانی حالت میں ہیں وہ جس کی مدد کریں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جس کی مدد ترک کر دیں وہ پھیل جاتا ہے اس نے پوچھا مجھے مضر کے متعلق بتاؤ اس نے کہا وہ عربوں کا ترکش عزت اور حسب کی کان ہے، اس کے ذریعہ سمندر اپنی موجوں کو اور خشکی اپنی ردی چیزوں کو پھینکتی ہے، پھر معاویہ خاموش ہو گیا تو صعصعہ نے کہا، معاویہ پوچھو، ورنہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جس سے تو کٹنا رہ کشتی کر رہا ہے اس نے پوچھا اے ابن صوحان وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اہل شام کی بات، اس نے کہا مجھے ان کے متعلق بتاؤ اس نے کہا سب لوگوں سے زیادہ مخلوق کے فرمانبردار اور خالق کے نافرمان، جبار خدا کے نافرمان اور اشرار کے جانشین، پس ان پر ہلاکت ہے اور ان کا ٹھکانہ بڑا ہے، معاویہ نے کہا اے ابن صوحان خدا کی قسم تو نے مدت سے اپنی چھری اٹھائی ہوئی ہے اپنے قتل کو دعوت دیتا پھرتا ہے، مگر ابن ابی سفیان کا علم اُسے تجھ سے باز رکھتا ہے۔ صعصعہ نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی قدرت باز رکھتی رہی ہے اور امر الہی مقدر ہو چکا ہے۔

صعصعہ، معاویہ کے حضور | ابو الہیثم بیان کرتا ہے کہ مجھے ابو البشیر محمد بن بشر الفزازی نے ابراہیم بن عقیل بصری سے بتایا، وہ کہتا

ہے کہ ایک دن معاویہ نے کہا جب کہ اس کے پاس صعصعہ بھی موجود تھا جو ان کے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہما کے آباؤ اجداد اور دیگر بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں پس میں جو چیز اللہ کے مال سے لے لوں وہ میری ہے اور جو چھوڑ دوں وہ میرے لیے جائز ہے، صعصعہ نے کہا

”اے معاویہ! تیرا نفس تجھے جہالت سے آرزوئیں دلاتا ہے تو گنہ گار

نہ بن۔“

معاویہ نے کہا اے صعصعہ! تو نے بات کرنا سیکھا ہے، اس نے کہا علم سیکھنے سے آتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا وہ جاہل رہتا ہے معاویہ نے کہا مجھے اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ تجھے تیرے بڑے انجام کا مزہ چکھاؤں، اس نے کہا یہ بات تیرے ہاتھ میں نہیں یہ بات اس ہستی کے ہاتھ میں ہے کہ جب کسی نفس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو وہ اُسے سمجھے نہیں کرتا، اس نے پوچھا میرے اور تیرے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے اس نے کہا جو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، معاویہ نے کہا، کلام کے لیے اپنے پیٹ کو اتنا وسیع کر وجیسے جو کے لیے اُونٹ کا پیٹ وسیع ہوتا ہے اس نے کہا، اس کا پیٹ وسیع کر جو سیر نہ ہوتا ہو اور اس پر بددعا کر جو موافقت نہ کرتا ہو۔

صعصعہ کے واقعات | مسعودی بیان کرتا ہے کہ صعصعہ بن صوحان کے واقعات بہت شان دار ہیں اور اس کا کلام ایجاز و اختصار کے باوجود نہایت

فیض و بلیغ ہے اس کا ایک واقعہ عبد اللہ بن عباسؓ کے ساتھ ہے جسے المدائنی نے زید بن طلحہ ذہلی ثیبانی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے صعصعہ بن صوحان کو سنا۔ اس سے ابن عباسؓ نے سوال کیا کہ تم میں سرداری کس چیز کا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کھانا کھلانے، نرم گفتگو کرنے، بخشش کرنے اور اپنے آپ کو سوال سے بچانے اور چھوٹے بڑے سے محبت کرنے کو، نیز یہ کہ سب لوگ تیرے نزدیک برابر ہوں۔ اس نے پوچھا مروت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا (سیادت و مروت) دو بھائی ہیں تو اگر انہیں سختی پیش آئے تو ان کا نگران کم ہوگا اور ان کا ساکتی بڑا ہوتا ہے وہ دونوں پاکیزگی اور دیانت کے ساتھ حفاظت کے محتاج ہیں اس نے پوچھا کیا اس بارے میں تجھے کوئی شعر یاد ہے اس نے جواب دیا ہاں، کیا تو نے مرہ بن ذہل بن ثیبان کے اشعار نہیں سنے وہ کہتا ہے

”سیادت اور مروت آسمان میں سماک اعزل (ستارے کا نام ہے) سے معلق

ہیں، اور جب دو دوڑنے والے کسی مقصد کے لیے دوڑتے ہیں تو کمینہ لغزش کھا جاتا ہے۔ اور اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں اور خالص گھوڑا ایل

گھوڑوں کے ساتھ بار بار آتا ہے مگر کانپنے والا گھوڑا نہیں آتا۔“

ابن عباسؓ نے اُسے کہا، اگر کوئی آدمی اپنے اُونٹ کو مغرب و مشرق کی طرف لے

جاتے ہوئے ان اشعار سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی بغلوں میں مارے تو میں اُسے

ڈانٹ نہیں پلاؤں گا۔ اے ابن صوحان ہمیں عرب کے ناپید ہو جانے والے واقعات کے متعلق تجھ سے زیادہ علم و حکمت اور استنباط حاصل ہے، تم میں حکیم کسے کہتے ہیں، اس نے جواب دیا جو جلد بازی نہ کرے اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھے اور اس کے پاس جو جھوٹی یا سچی جھگی کی جائے اُسے قبول نہ کرے اور اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو پائے تو اس سے درگزر کرے اور اُسے قتل نہ کرے اے ابن عباس ایسا شخص حکیم ہے انہوں نے پوچھا کیا ایسے لوگ تم میں بہت ہیں؟ اس نے جواب دیا تھوڑے بھی نہیں ہیں، میں نے تجھے ان لوگوں کے حالات بتائے ہیں جنہیں تو خشنوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی رضا طلب کرتے اور بخشش کرتے اور کچھ نہ لیتے پائے گا اور دوسرے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی جہالت ان کے حلم سے آگے بڑھ گئی ہے اور ان میں سے جب کوئی آدمی اپنے خواہش کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ غصے کے وقت کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور اگر اس کا باپ اس سے کینہ رکھے تو وہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا اور اگر اس کا بھائی کینہ رکھے تو وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا، کیا تو نے زبان بن عمرو بن زبان کا قول نہیں سنا اور وہ یہ ہے کہ اس کے باپ عمرو کو مالک بن کومہ نے قتل کر دیا پس زبان ایک عرصہ تک ٹھہرا رہا پھر اس نے مالک سے جنگ کی اور صبح کے وقت دو سو سواروں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور ان کے چالیس گھرتھے پس اس نے اُسے قتل کر دیا اور ان کے دوستوں اور چچا کو بھی قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کے پڑوس میں رہتا تھا، زبان سے پوچھا گیا کہ تو نے ہمارے دوست کو قتل کر دیا ہے تو اس نے کہا:

”اگر میں دہاں پر اپنی ماں کو بھی پاتا جہاں وہ موجود تھے تو اس کے کپڑوں کو بھی خون سے رنگ دیتا اور اگر امیہ عمرو کی بہن ہوتی اس پانی پر وہ بلند آواز سے روتی، میں نے قریبیوں میں تلوار کو سونٹا، اور دلوں نے ہمارے تعلقات پر رحم نہیں کھایا۔“

ابن عباس نے اُسے کہا تم میں شہسوار کسے کہتے ہیں؟ اے ابن صوحان، توجیزوں کو ان کا صحیح مقام دیتا ہے میں تجھ سے اس کی تعریف سننا چاہتا ہوں، اس نے جواب دیا، شہسوار وہ ہے جس کے دل میں اس کی مدت محظوظی ہو اور وہ اپنی اُمید کو اپنی ڈاڑھ سے کاٹ دے۔ شہسوار وہ ہے جب جنگ بھڑک اٹھے اور دلوں میں بے چینی بڑھ جائے

اور جوان ایک دوسرے کو مقابلہ کے لیے بلائیں اور ایک دوسرے پر حملہ کریں اور جانوں کو اچک لیں اور چمپٹے والی تلواروں کے ساتھ گھس جائیں تو جنگ اس پر گزشتہ کل سے بھی زیادہ آسان ہو۔ ابن عباس نے کہا اے ابن صوحان خدا کی قسم تو نے بہت اچھا بیان کیا تو ان کریم لوگوں کی اولاد ہے جو خطیب اور فصیح تھے۔ تو نے کسی کلام سے یہ وراثت حاصل نہیں کی، مجھے اور کچھ بتائیے، اس نے کہا بہت اچھا، شہسوار بہت محتاط اور نظر کو گھمانے والا ہوتا ہے اور وہ اپنے دل سے متوجہ ہوتا ہے اور وہ اپنی پشت کے محفوظ مقامات کو گردش نہیں دیتا، ابن عباس نے کہا اے ابن صوحان قسم بخدا تو نے بہت اچھی تالیف کی ہے، کیا اس قسم کے کچھ اشعار بھی ہیں اس نے کہا ہاں، زہیر بن خباب کلبی اپنے بیٹے عمرو کے مرثیے میں کہتا ہے۔

”وہ ایسا شہسوار تھا کہ جو تلوار سے اپنے اصحاب کی حفاظت کرتا تھا اور آگ کی طرح گزر جاتا تھا، اور اُسے تو میدانِ وفا میں غافل نہ پائے گا اور نہ ہی گھمسان کے رن میں، جو اُسے دیکھتا ہے اُسے جنگ میں ہی خیال کرتا ہے اس نے اس رستے کو کھول دیا جو بند تھا۔“

ابن عباس نے اُسے کہا اے ابن صوحان تیرے دونوں بھائی کیسے ہیں؟ مجھے ان کا کچھ حال بتاؤ تاکہ میں تمہارا اندازہ کروں، اس نے کہا زید تو اخوغنی کے ان اشعار کا مصداق ہے کہ۔

”وہ ایسا جوان ہے کہ جب اچھے لوگوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے تو اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور جب لوگ اُسے دیکھتے ہیں تو وہ تحفظ اختیار کر لیتے ہیں اور جب وہ نزدیک ہو تو بے ہودہ بات نہیں کرتے، وہ سخاوت کا حلیف ہے، سخاوت اُسے بلاتی ہے تو وہ اُسے جواب دیتا ہے اور وہ سخاوت کو بلاتا ہے تو وہ اُسے جواب دیتی ہے اے ام عمرو، سخاوت اس کے پہلو کے ساتھ اس وقت بھی بسر ہوتی ہے جب بہترین اوطینوں میں دودھ نہیں رہتا، اور جب وہ خاندان کے گھروں میں نہ ہو تو وہ بیابان معلوم ہوتے ہیں جیسے وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا۔“

خدا کی قسم اے ابن عباسؓ وہ عظیم مروت والا شریفانہ اخوت والا اور بڑی اہمیت والا اور پھرتیلا اور صحرائی زندگی سے مانوس اور صاف دل اور زمانے کے وساوس کو بہت کم خاطر میں لاتا تھا اور رات دن کو یاد الہی کرنے والا تھا، بھوک اور میری اس کے نزدیک برابر تھیں وہ دنیا سے بے رغبت تھا اور اس کے اصحاب میں سے کوئی کم ہی تھا جو دنیا سے رغبت رکھتا ہو، وہ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھتا اور بات کو یاد رکھنے والا تھا، گفتگو کرتا تو لوگوں کی زبانیں بند کر دیتا، اشرار اور خبیث آدمی اس سے بھاگتے تھے اور نیک آدمی اس سے اُلفت کرتے، ابن عباسؓ نے کہا جنتی آدمی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ زید پر رحم کرے، عبد اللہؓ کو اس سے کیا نسبت تھی، اس نے کہا عبد اللہؓ ایک بہادر سردار تھا اس سے لوگ محبت کرتے تھے اور وہ لوگوں کا مطاع تھا اس کی نیکی وسیع تھی اور اس کی جنگ دفاعی تھی، دل کا نرم اور پھرتیلا تھا جو وہ ارادہ کر لیتا اس سے اسے کوئی روک نہ سکتا۔ جس کام کے سمجھے بڑھ جاتا اسے کر کے چھوڑتا وہ مہمان نوازی پر خرچ کرنے والا تھا اور اس کا مطیع کرنا مشکل تھا بہت مہمان نواز، بھائیوں کا بھائی اور جوانوں کا جوان تھا اور وہ البرجمی عامر بن سنان کے اشعار کا مصداق تھا۔

”وہ عدی کا تیز رو پرندہ تھا جو اس پر تیرا ندازی کرتا وہ اسے تیروں سے ڈھیر کر دیتا تھا اور تلوار اور دینی نیزے سے تباہی مچا دیتا تھا، وہ ہیبت ناک اور بخشش کے لیے مفید اور سخاوت اور اچھے کاموں کا عادی اور تجربہ کار تھا۔“

ابن عباسؓ نے فرمایا ابن صوحان! تو عربوں کے علوم کا ماہر ہے۔

صعصعہ کا ایک اور واقعہ | اور صعصعہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جسے ابو جعفر محمد بن حبیب ہاشمی نے ابی الہیثم یزید بن رجاء الغنوی سے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنو فزارہ کے ایک آدمی اور نیز بنی عدی کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ بنی فزارہ کے ایک آدمی نے صعصعہ کو دیکھا تو اس نے اسے کہا، اے ابن صوحان تو نے لوگوں پر اپنی زبان دراز کر لی ہے کہ وہ تجھ سے ڈر جائیں اور اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ ایسا چپک جاؤں کہ تو جب بھی

بات کرے میں تجھے ایسی زبان کے ساتھ روک دوں جو تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہو پھر تو نہ ٹھہر سکے گا اور نہ چل سکے گا، صعصعہ نے کہا اگر میں تجھ سے ڈر محسوس کرتا تو تجھے تیرا ماتا بلکہ میں تو ایک پرچھائی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں، اس کی طرح کی کوئی چیز دیکھ رہا ہوں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے اور جب اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اگر تو میرا ہم پایہ ہوتا تو میں تیری حاصل کردہ چیزوں کو نیزے سے بھی تیز چیز کے ساتھ ماتا اور ایسے تیروں سے تجھے ماتا جو تجھے مقابلہ سے روک دیتے اور تجھے ایسی نکیل ڈالتا جو تجھے لگام کی جگہ چھلہ ڈال دیتی۔ پس اس نے ابن عباسؓ سے گفتگو جاری رکھی۔

تو آپ فزاری کے متعلق باتیں سن کر سنس پڑے اور کہا کہ اگر فزاری نے اپنے آپ کو بلند پہاڑوں سے چٹانوں کو اٹھا کر نشیب میں لانے کا مکلف کیا تو عبد القیس کے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی نسبت یہ کام زیادہ آسان ہوگا، اس کا باپ ناکام ہو کر وہ کس قدر جاہل ہے وہ عبد القیس کے بھائی کو جاہل خیال کرتا ہے اسے مستقل مزاجی نے قوی بنا دیا ہے پھر آپ نے مثال کے طور پر کہا

”تجھ پر جو مصائب پڑے ہیں اور کسی اُمت پر نہیں پڑے، بدبختی بدبختوں پر ہی پڑتی ہے۔“

المبرد نے ریاشی سے اور اس نے ربیعہ بن عبد اللہ
ابو ایوب اور صعصعہ
 نیری سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک
 اندی نے بتایا کہ میں نے جنگ نہروان کے روز حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ
 آپ عبد اللہ بن دہب راہی پر سوار ہیں، آپ نے اس کے کندھے پر تلوار ماری تو اس کا
 ہاتھ الگ کر دیا اور کہا اے خارجی اسے دوزخ میں لے جا عبد اللہ نے کہا عنقریب تجھے
 پتہ چل جائے گا کہ کون آگ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے، انہوں نے کہا نیزے باپ کی قسم
 میں بہتر جانتا ہوں، اتنے میں صعصعہ بن صوحان آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم آگ
 میں داخل ہونے کا زیادہ مستحق وہ ہے جو دنیا میں اندھا ہو کر گمراہ ہو گیا اور آخرت کی طرف
 بدبخت ہو کر گیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک اور برباد کرے۔ خدا کی قسم میں نے کل تجھے اس پھڑنے
 کے بارے میں انتباہ کیا تھا اور تو نے ایڑیوں کے بل پھرتے ہوئے انکار کیا تھا اب
 خارجی اپنے انجام کا مزاجیکہ اور اس نے ابو ایوب کو اس کے قتل میں شریک کیا۔ آپ

اُسے ایک تلوار کی ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ اٹک کر دی اور دوسری اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی اور کہا اب تو اس آگ کی طرف گیا ہے جو سرد نہ ہوگی اور نہ اس کی جلن کم ہوگی پھر ان دونوں نے اس کا سر کاٹا اور اُسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن وہب فاسق، عہد شکن اور خارجی کا سر ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور چپیں بہ جبیں ہو کر کہا یہ چہرہ سیاہ ہو جائے، ہمیں خیال ہوا کہ آپ رو رہے ہیں پھر کہنے لگے کہ یہ سب کتاب اللہ کا حافظ اور حدود الہی کا تارک تھا پھر ان دونوں سے کہا مجھے وہ پستانوں والا آدمی تلاش کرو، انہوں نے تلاش کی مگر وہ نہ ملا اور انہوں نے واپس آ کر کہا ہمیں اب کچھ نشان نہیں ملا آپ نے کہا خدا کی قسم وہ آج ہی قتل ہوا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹ کہا ہے اور نہ ہی میں نے آپ پر افتراء کیا ہے سب مل کر اُسے تلاش کرو تو آپ کے اصحاب میں سے ایک جماعت اُٹھی اور اس نے مقتولوں میں بھرا کر انہیں دیکھا تو انہیں ایک ایسی جگہ پر اس کی لاش مل گئی جس کی روئیدگی ابھی نمایاں نہ ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک سو کے قریب مقتول پڑے ہوئے تھے پس انہوں نے اُسے نکالا اور اُسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے آپ نے کہا گواہ رہنا کہ یہ پستانوں والا پستانوں والے کے حالات اس کتاب میں پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

ربیعہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدحیہ کلام بہت سارے آپ نے نظم و نثر میں ان

کے مرثیے کہے ہیں، وہ آپ کے انصار اور مضبوط سہارے تھے آپ نے جنگ صفین میں کہا

” اور سیاہ علم کس کے لیے تھا جس کا سایہ لہرا رہا تھا اور جب حصین کو کہا گیا کہ اس علم کو لے کر بڑھو تو وہ آگے بڑھ گیا اور اُسے لے کر صف میں گھس گیا یہاں تک کہ اُس نے اُسے موت کے حوضوں سے دو دفعہ سیراب کیا اور اس سے موت اور خون ٹپک رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو جزا دے جو اس کی ملاقات کی خاطر موت کے پاس آگے بڑھ کر لڑے، جب لوگوں کی آوازیں غم کا اظہار کرتی تھیں تو اس کے حالات و واقعات اور خصائل و عادات کیسے اچھے ہوتے تھے اور وہ کس قدر معزز اور کریم آدمی تھا میری

مراویہ سے ہے جب وہ بے شمار شکر سے جنگ کرتے ہیں تو وہ بہت جنگجو

ثابت ہوتے ہیں۔

المداثنی نے بیان کیا ہے کہ معاویہ نے جمیل بن کعب ثعلبی کو قید کر لیا وہ سادات ربیعہ میں سے تھا اور حضرت علیؓ

معاویہ اور جمیل بن کعب

کا پیر و کار اور مددگار تھا۔ جب وہ معاویہ کے سامنے کھڑا ہوا تو معاویہ نے کہا اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے تجھ پر قوت بخشی ہے کیا تو نے جنگِ جمل کے روز نہیں کہا تھا کہ

« اُمت ایک عجیب معالے میں پڑ گئی ہے اور کل حکومت اس کے لیے ہوگی

جو غالب آجائے گا اور میں نے سچ بات کہی ہے کل عرب کے سردار ہلاک ہو

جائیں گے۔»

اس نے کہا یہ نہ کہہ یہ ایک معیبت ہے، معاویہ نے کہا کہ اس نعمت سے بڑی کون سی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص پر کامیابی بخشی ہے جس نے ایک گھنٹہ میں میرے کئی حامی اصحاب کو قتل کر دیا تھا، اسے قتل کر دو، اس نے کہا اے اللہ گواہ رہو کہ معاویہ نے مجھے تیری راہ میں قتل نہیں کیا اور نہ اس لیے قتل کیا ہے کہ تو میرے قتل سے راضی ہے بلکہ اس نے مجھے دنیا کے سامان کے عیے قتل کیا ہے پس اگر وہ ایسا کرے تو تو بھی اس سے وہی سلوک کرنا جس کا وہ اہل ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو تو اس سے وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے، معاویہ نے کہا اللہ تیرا ستیا ناس کرے، تو نے مجھے حد درجہ کی بیخ گالی دی ہے پھر اس نے اُسے چھوڑنے کا حکم دے دیا اور معاویہ نے نعمان بن منذر کے اشعار سے مثال بیان کی اور نعمان کے سوا یہ اشعار کسی سے نہیں کہے جیسا کہ ابن الکلبی نے بیان کیا ہے۔

« اور بادشاہ بڑی باتوں کو اپنی فضیلت کے باعث معاف کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی سزا دے دیتے ہیں اور یہ سزا ان کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ لوگ ان کی فضیلت کو جان لیں اور ان کی سزا سے خوف پیدا ہو۔»

لوط بن یحییٰ اور ابن دُاب اور الہیثم بن عدی وغیرہ

معاویہ اپنی موت کے وقت

ناقلین اخبار نے بیان کیا ہے کہ جب معاویہ کی

موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا ہے
 ”یہ موت ہے جس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا اور موت کے بعد جو چیزیں پڑتی
 ہیں وہ بڑی بھیانک اور قبیح ہیں۔“

پھر کہا اے اللہ لغزشوں کو معاف فرما اور جو شخص تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا
 اور نہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے اس کے جہل پر اپنے حلم کی سخاوت کر، اور تو وسیع مغفرت والا
 ہے اور خطا کار کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، اس بات کا پتہ سعید بن المسیب کو چلا تو انہوں
 نے کہا کہ اس نے اس مستی کی طرف رغبت کی ہے کہ اس جیسی کوئی مستی اُسے مرغوب
 نہ تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُسے عذاب نہ دے گا۔

اور محمد بن اسحاق وغیرہ ناقلین آثار نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ مرض الموت کے
 آغاز میں حمام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی جسمانی کمزوری کو دیکھا تو اس کے فنا ہونے
 پر اور بڑھا پے کے آثار کو دیکھ کر رو پڑے اور مثال کے طور پر کہا ہے

میں زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلدی جلدی مجھے توڑ رہا ہے اور میرے
 کچھ حصے کو لے گیا ہے اور کچھ کو چھوڑ گیا ہے میرے طول و عرض پر
 مر بانی فرما زمانے نے مجھے دیر تک کھڑا رہنے کے بعد بٹھا دیا ہے۔“

اور جب ان کا وقت قریب آگیا اور ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ صحت یاب
 ہونے سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے

اے کاش میں حکومت کو ایک ساعت نہ دیکھتا اور نہ لذات میں اپنی
 آنکھوں کو اندھا کرتا اور میں دو بوسیدہ چادروں والے شخص کی طرح
 ہوں جو صرف زلزلے میں گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ قبرستان والوں سے

جا ملا۔ ۵

مسعودی بیان کرتا ہے کہ معاویہؓ اور علیؓ کے بہت سے واقعات ہیں، ہم نے
 ان میں سے مشہور واقعات کو بیان کیا ہے اور جو کچھ اس کے دور میں ہوا اُسے ہم نے
 اپنی دونوں کتابوں ”اختیار الزمان“ اور الاوسط میں بیان کر دیا ہے اور ان کے علاوہ ہم
 نے اپنی کتابوں میں صرف آثار کو بیان کیا ہے اور یہ باب وسیع اور اس کتاب میں بہت
 سی باتیں آگے پیچھے بیان ہوئی ہیں اور جو شخص اختصار سے بیان کرنے کا ذمہ دار ہوا اس کے

یہ زیادہ بیان کرنا جائز نہیں۔

اس کتاب کے ہر باب میں ہم صرف ہر نوع کے علوم و واقعات میں سے عمدہ باتوں اور منتخب آثار کو بیان کریں گے تاکہ ہم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے اور جسے چھوڑا ہے اس پر نظر ڈالنے والا اس سے اپنے مطلب پر استدلال کر سکے اور اپنی پہلی کتب میں ہم نے ان کے اوصاف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے،

اب ہم اختصار کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کی کچھ فضیلت بیان کریں گے، کیونکہ وہ بعد والوں پر حجت ہیں اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ ہیں وباللہ التائید۔

صحابہؓ اور ان کی مدح کا بیان علیؓ، عباسؓ اور ان کی فضیلت

عبداللہ بن عباسؓ، معاویہؓ کے پاس گئے تو ان کے معاویہؓ اور عبداللہ بن عباسؓ | پاس سردارانِ قریش بیٹھے ہوئے تھے جب آپ سلام کر کے بیٹھ گئے تو معاویہ نے انہیں کہا، میں آپ سے کچھ مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو!

معاویہؓ نے کہا تو ابو بکرؓ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ کی تعریف | اس نے کہا اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے خدا کی قسم وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا اور بڑی باتوں سے روکنے والا تھا اور اپنے گناہوں کو جانتا تھا اور خدا تعالیٰ سے خائف تھا اور شبہات سے ڈانٹنے والا تھا اور نیکی کا حکم دینے والا تھا اور قائم البیل اور صائم النہار تھا اور اپنے ساتھیوں سے تقویٰ میں بڑھ کر تھا اور زہد و عفت میں ان کا سردار تھا۔ پس اس شخص پر اللہ کا غضب ہو جو اس پر طعن کرے۔

حضرت عمرؓ کے تعریف | معاویہؓ نے کہا اے ابن عباسؓ، تو عمرؓ کا

کے متعلق کیا کہتا ہے ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ابو حفص (عمرؓ) پر رحم فرمائے ، قسم بخدا وہ اسلام کے حلیف ، یمنوں کی پناہ گاہ احسان کا منتہی ایمان کا محل ، کمزوروں اور راست رو لوگوں کی پناہ گاہ تھے ، انہوں نے صبر و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق کو قائم کیا یہاں تک کہ دین کو واضح کر دیا اور ممالک کو فتح کیا اور لوگوں کو امن دیا پس جو شخص ان کی تنقیص کرے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر لعنت کرے ۔

حضرت عثمانؓ کی تعریف

معاویہؓ نے تم عثمانؓ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
ابن عباسؓ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو عمر و پر رحم فرمائے ،
قسم بخدا وہ بہترین مددگار اور نیک آدمی تھے ، سحری کے وقت بہت اُٹھنے والے اور دوزخ کے ذکر کے وقت بہت گریہ کرنے والے اور ہزیمتی کے وقت تیار اور ہر بخشش کے وقت بہت سبقت کرنے والے ، حیا دار اور وفا دار تھے ، حبشِ عُسرت کے تیار کرنے والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور جو شخص ان پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ڈالتا ہے ، معاویہ نے کہا تو علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتا ہے ۔

حضرت علیؓ کی تعریف

ابن عباسؓ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو الحسن سے راضی ہو
قسم بخدا وہ ہدایت کا علم ، تقویٰ کی پناہ گاہ ،
عقل کے اترنے کی جگہ ، سخاوت کا سمندر ، دانش کا پہاڑ ، مخلوق کے لیے بلندی کی پناہ اور
عظیم راہ کا داعی اور مضبوط کڑے کو پکڑنے والا تھا ، وہ مومنوں اور متقیوں سے بہتر اور
چادر قمیص پہننے والوں سے افضل اور جوتا پہننے والوں اور دوڑنے والوں سے نیک اور
بولنے پڑھنے والوں سے فیض اور انبیاء اور مصطفیٰ کے سوا سب سے زیادہ ہمرانہ اور
صاحبِ القبلیتین تھا کیا کوئی شخص اس کی ہمسری کر سکتا ہے کہ وہ سبیلین کا باپ ہے ، کیا
کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ وہ خیر النساء کا خاندان ہے کیا کوئی اس سے فوقیت حاصل
کر سکتا ہے ، وہ بلد الامین کا باسی اور شیروں سے کڑنے والا اور جنگوں میں چالیں چلنے والا
ہے ، میری آنکھوں نے اس جیسا آدمی نہ دیکھا ہے اور نہ آئندہ دیکھیں گی اور جو اس کی
تنقیص کرے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی لعنت ہو ۔
معاویہؓ نے کہا اے ابن عباسؓ تو نے اپنے عم زاد کی بہت تعریف کی ہے ، اپنے

باپ عباسؓ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔

حضرت عباسؓ کی تعریف | ابن عباسؓ نے کہا، اللہ تعالیٰ ابو الفضل عباسؓ پر رحم فرمائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور صفی اللہ کی آنکھ۔

کی ٹھنڈک اور چچاؤں کا سردار تھا اس کے اخلاق اپنے سخی آباء کے سے تھے اور عقل اپنے بزرگ اجداد کی سی تھی، اس کی فضیلت کے اسباب بہت تھے اور اس نے بیت اللہ، سقیہ، مشاعر اور تلاوت کا انتظام کیا اور وہ ایسا کیوں نہ ہوتا اس کا انتظام اس سے بھی کیا جو سب مخلوقات سے معزز تھا معاویہ نے کہا اے ابن عباسؓ تو اپنے اہل بیت کے متعلق فصیح اور عمدہ گفتگو کرنے والا ہے اس نے جواب دیا میں ایسا کیوں نہ ہوں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلما التاویل۔ اے اللہ اے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا فرما پھر اس گفتگو کے بعد ابن عباسؓ نے کہا۔

عام صحابہؓ کی تعریف | اے معاویہؓ اللہ تعالیٰ کی ثنا بڑھی ہے اور اس کے نام پاک ہیں، اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ سے

مخصوص فرمایا ہے جنہوں نے اُسے اپنے جان و مال پر ترجیح دی اور ہر حالت میں اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی تعریف فرماتا ہے "رحماء بینہم" وہ دین کے نشانات کے ذمہ دار بنے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے خالص اجتہاد کیا یہاں تک کہ اس کی راہیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے وسائل قوی ہو گئے اور نعماء الہی نمایاں ہو گئیں اور اس کا دین مضبوط ہو گیا اور اس کے نشانات واضح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے شرک کو ذلیل کیا اور سردارانِ شرک کو ختم کیا اور ان کے ستونوں کو مٹا دیا اور خدا کا بول بالا ہو گیا اور کفار ذلیل ہو گئے، پس ان پاکیزہ نفوس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ زندگی میں بھی اولیاء اللہ تھے اور بعد الموت بھی زندہ ہوں گے اور وہ بندگانِ خدا کے خیر خواہ تھے اور وہ آخرت میں پہنچنے سے قبل ہی آخرت کی طرف سفر کر گئے تھے اور وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ابھی تک اس میں موجود ہیں، معاویہؓ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا اے ابن عباسؓ بس کرو، کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔

یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے دور کا بیان

مختصر حالات | یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی، اس کا دور حکومت آٹھ راتیں کم تین سال آٹھ ماہ تھا اور معاویہؓ نے اپنی موت سے قبل اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں

سے بیعت لی، اس بارے میں عبداللہ بن ہمام سلولی کہتا ہے کہ
 ”یزید نے اپنے باپ سے حکومت کو جلدی جلدی حاصل کیا، اسے معاویہ سے
 یزید سے لے لے، حکومت کو تم سے محبت ہو گئی ہے پس اسے جلدی جلدی
 لے لو اور اس سے دور نشانے نہ مارو۔“

اور یزید ۱۷ صفر ۶۴ھ کو دمشق کے علاقے میں حوایین کے مقام پر ۳۳ سال کی عمر
 میں فوت ہو گیا اس بارے میں غزوہ قبیلہ کا ایک آدمی کہتا ہے کہ
 ”اے وہ قبر جو حوایین میں ہے تو نے اپنے اندر تمام لوگوں سے بڑے آدمی
 کو چھپایا ہوا ہے۔“

اور اخطل نصرانی نے اس کا مثنیہ کہا وہ اپنے قصیدہ میں کہتا ہے کہ
 ”میری زندگی کی قسم، خالد نے لحد میں ایک ایسے فوٹ شدہ شخص کو اتارا
 ہے جو کمر و ردل اور کینہ پرور نہ تھا وہ حوایین میں اقامت پذیر ہے اور
 وہاں سے جدا ہونے والا نہیں، صبح کی بارش اُسے اور اس کی قبر کو سیراب کرے۔“

حضرت حسین بن علی بن ابی طالبؑ اور ان کے ساتھ اہلبیت اور پیروکاروں میں سے قتل ہونے والے لوگوں کا بیان

اہل کوفہ کا حسین کو دعوت دینا | جب معاویہؓ فوت ہو گئے تو اہل کوفہ نے حضرت
 حسینؓ کے ساتھ مراسلت کی کہ ہم نے اپنے آپ کو

آپ کی بیعت کے لیے روکا ہوا ہے اور ہم آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مرجاؤں گے اور ہم آپ کی وجہ سے جمعہ اور جماعت میں بھی حاضر نہیں ہوتے۔
مدینہ میں یزید کی بیعت کے لیے حضرت حسین سے مطالبہ کیا گیا لیکن بات طے کرنے میں تاخیر ہو گئی اور آپ اپنے غلاموں کو تحفے دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔

”میں طلوع صبح کے وقت سووے بازی سے غارت گری کرنے والے سے نہیں ڈرا اور نہ مجھے یزید کے لیے بلا یا گیا تھا، جس روز موت کے خوف کی وجہ سے میرے ساتھ ظلم ہوا، موتیں مجھے دیکھ رہی تھیں کہ میں کترا جاؤں۔“

مسلم بن عقیل کا حضرت حسین سے پہلے کوفہ جانا | آپ مکہ آگئے اور اپنے عم زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا اور اسے کہا کہ اہل کوفہ کی طرف جاؤ اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اگر وہ درست ہے تو مجھے بتانا میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گا، حضرت مسلم نصف رمضان کو مکہ سے چلے اور ۵ شوال کو کوفہ پہنچ گئے، ان دنوں کوفہ کا امیر نعمان بن بشیر انصاری تھا، آپ خفیہ طور پر عوسجہ نامی آدمی کے ہاں فروکش ہوئے، جب آپ کی آمد کی خبر مشہور ہو گئی تو بارہ ہزار کوفیوں نے آپ کی بیعت کی اور بعض کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار نے کی۔ پس آپ نے حضرت حسین کو اطلاع دی اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔

حضرت ابن عباس کا حضرت حسین کو نصیحت کرنا | جب حضرت حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا

تو حضرت ابن عباس نے انہیں آکر کہا اے عم زاد، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، وہ لوگ بد عہد ہیں اور آپ کو صرف جنگ کے لیے بکار ہے ہیں، جلد بازی سے کام نہ لیجیے اور اگر آپ نے اس سرکش سے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے اور مکہ میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تو یمن کی طرف چلے جائیے کیونکہ وہ گوشہ تنہائی میں ہے اور وہاں پر آپ کے مددگار اور بھائی بھی ہیں، پس وہاں اقامت اختیار کیجیے اور اپنے داعیوں کو پھیلا دیجیے اور اہل کوفہ اور اپنے عراقی مددگاروں کی طرف لکھیے کہ وہ اپنے امیر کو نکال

باہر کریں اور اگر وہ اس بات کی قوت پائیں اور اُسے وہاں سے نکال دیں تو وہاں پر آپ کا کوئی شخص دشمن نہ ہوگا پھر وہاں چلے جانا لیکن میں ان کی بد عہدی سے مطمئن نہیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے، نیز وہاں پر قلعے اور گھاٹیاں بھی ہیں، حضرت حسینؑ نے جواب دیا اے عم زاد! میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ اور مشفق ہیں لیکن مسلم بن عقیل نے مجھے لکھا ہے کہ تمام اہل شہر میری بیعت اور مدد کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں اور میں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے کہا وہ لوگ آپ کے دیکھے بھالے اور آزمائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے باپ اور بھائی کے اصحاب ہیں اور وہ کل آپ کو اپنے امیر کے ساتھ مل کر قتل کر دیں گے، اور اگر آپ چلے گئے اور ابن زیاد کو آپ کے جانے کی اطلاع مل گئی تو وہ انہیں آپ کی طرف دوڑائے گا اور جن لوگوں نے آپ کی طرف خط لکھے ہیں وہ آپ کے شدید ترین دشمن ہیں اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور کوفہ جانا چاہیں تو اپنے بچوں اور مستورات کو ساتھ نہ لے جائیں، خدا کی قسم مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ حضرت عثمانؓ کی طرح عورتوں اور بیٹوں کے دیکھتے دیکھتے قتل ہو جائیں گے، اس بات کے جواب میں حضرت حسینؑ نے کہا خدا کی قسم مجھے اس جگہ قتل ہو جانا مکہ میں ٹھہرنے سے زیادہ محبوب ہے حضرت ابن عباسؓ مایوس ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے اور عبداللہ بن زبیرؓ کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے اے ابن زبیرؓ تیری آنکھ ٹھنڈی ہو، اور یہ شعر پڑھنے لگے

”اے عمر کی چندول تیرے لیے فضا خالی ہو گئی ہے پس تو اندھے دے اور گیت گا، اور جسے چاہے مٹھونگا مار۔“

حسینؑ عراق کی طرف جا رہا ہے اور تجھے اور حجاز کو اکیلا چھوڑ رہا ہے۔“

حضرت حسینؑ اور حضرت ابن زبیرؓ | حضرت ابن زبیرؓ کو اطلاع ملی کہ وہ کوفہ جا رہے ہیں اور وہی اس پر سب سے زیادہ گراں تھے اور مکہ میں ان کے ٹھہرنے نے اُسے غمزہ کیا ہوا تھا کیونکہ لوگ اُسے حضرت حسینؑ کے برابر خیال نہیں کرتے تھے اور کوئی چیز اُسے حضرت حسینؑ کے مکہ سے چلے جانے سے زیادہ محبوب نہ تھی، اس نے آکر کہا اے ابو عبداللہؓ آپ کا عندیہ کیا ہے؟ خدا کی قسم جو لوگ خدا کے نیک بندوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کو ترک کرنے کے بارے

میں اللہ سے ڈرتا ہے۔

حضرت حسین علیہ السلام نے جواب دیا میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، ابن زبیر نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اگر وہاں پر آپ کی طرح میرے مددگار ہوتے تو میں بھی وہاں جانے سے کنارہ کش نہ ہوتا۔ پھر اس ڈر سے کہ کہیں وہ انتہام نہ لگائیں کہنے لگا اگر آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور آپ ہمیں اور اہل حجازہ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتے تو ہم اُسے قبول کرتے اور جلدی سے آپ کی طرف آتے اور آپ یزید اور ابوبیزید سے بیعت کے زیادہ حق دار ہیں۔

ابوبکر بن ہشام کی نصیحت

ابوبکر بن ہشام نے حضرت حسینؑ کے پاس آکر کہا اے عم زاد، رشتہ داری مجھے تم پر ہریان کر رہی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیسے نصیحت کروں، آپ نے کہا اے ابوبکر تو ان لوگوں میں سے ہے جو نہ خائن ہیں اور نہ ان پر انتہام لگایا جاسکتا ہے تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ، اس نے کہا آپ کا باپ سب سے سابق اور اسلام میں بہتر اور بڑا جنگ جو تھا اور لوگ اس سے مؤخر تھے اور اسی سے زیادہ باتیں سننے اور اسی پر اجماع کرتے تھے پس وہ معاویہؓ کی طرف گیا تو اہل شام کے سوا سب اس پر متفق تھے اور وہ معاویہ سے زیادہ معزز تھا۔ لوگوں نے اُسے چھوڑ دیا اور دنیا کی حرص و لالچ میں اس کی مدد نہ کی۔ پس انہوں نے اُسے گھونٹ گھونٹ غصہ پلایا اور ان کی مخالفت کی یہاں تک کہ وہ رضا الہی سے فوت ہو گئے پھر انہوں نے آپ کے باپ کے بعد آپ کے بھائی سے جو سلوک کیا اُسے آپ نے دیکھا ہے پھر آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ اور بھائی پر زیادتی کی، آپ ان کے ساتھ شامیوں اور عراقیوں سے اور اس شخص کے ساتھ جنگ کریں گے جو آپ سے زیادہ طاقت ور اور تیار ہی کیے ہوئے ہے اور لوگ اس سے بہت خائف ہیں اور اس سے بہت سی امیدیں بھی رکھتے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ ان کی طرف جا رہے ہیں تو وہ مال دے کر لوگوں کو سرکش بنا دیں گے وہ دنیا کے غلام ہیں۔ اور جس نے آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ آپ سے لڑے گا اور آپ کو چھوڑ دے گا پس اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، حضرت حسینؑ نے کہا اے عم زاد اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے آپ نے اپنی رائے کو اچھی طرح پیش کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو

فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس نے کہا اے ابو عبد اللہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے پاس ہمارا احتساب ہوگا۔ پھر اس نے حادث بن خالد بن العاص بن ہشام مخزومی والی کہ کے پاس جا کر کہا کہ

”ہم کتنے ہی ناصحین کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا اور غیب کی مشکوک باتیں خیر خواہ کو پالیتی ہیں۔“

اس نے کہا یہ کیا بات ہے تو اس نے اُسے وہ باتیں بتائیں جو اس نے حضرت حسین سے کہی تھیں اور کہا رب کعبہ کی قسم میں نے اُن کی خیر خواہی کی ہے۔

یزید کی تیاری | یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ اُسے کوفہ کا والی مقرر کیا جانا ہے چنانچہ وہ بصرہ سے سوار ہو کر جلد جلد کوفہ آیا اور اپنے اہل اور حشم و خدم کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے سیاہ علمے کا ڈھانا باندھا ہوا تھا اور حجر پر سوار تھا۔ لوگ چونکہ حضرت حسین کی آمد کی توقع لگائے بیٹھے تھے ابن زیاد نے لوگوں کو سلام کہا تو انھوں نے کہا اے ابن رسول اللہ تجھ پر سلام، آپ بہت اچھے موقع پر آئے ہیں یہاں تک کہ وہ گورنر کے محل میں جا پہنچا جہاں نعمان بن بشیر مقیم اور قلعہ بند تھا اس نے جھانک کر کہا اے ابن رسول اللہ میرے اور آپ کے درمیان کونسی بات ہے اور آپ کو میرے ملک میں آنے پر کس بات نے آمادہ کیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا اے ناز و نعمت میں پلنے والے تمہاری نیند لمبی ہو گئی ہے اور اس نے اپنے منہ سے ڈھٹا اتار دیا، اس نے پہچان کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور لوگوں نے ابن مرجانہ ابن مرجانہ پکارنا شروع کر دیا اور اُسے سنگریزے مارے مگر وہ ان پر سح کر محل میں داخل ہو گیا اور جب ابن زیاد کو، مسلم بن عقیل کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ ہانی بن عروہ مرادی کے ہاں چلے گئے ہیں تو اس نے مسلم پر جاسوس مقرر کر دیے انہوں نے ان کے ٹھکانے کو معلوم کر لیا اور محمد بن اشعث نے ابن قیس کو ہانی کی طرف بھیجا، اس نے آکر اس سے مسلم کے متعلق پوچھا اس نے انکار کر دیا تو ابن زیاد نے اُسے سخت سست کہا، ہانی نے کہا کہ زیاد تیرے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے اور میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، کیا تجھے مہلانی ہیں کوئی دلچسپی ہے، ابن زیاد نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو او زبیر سے اہلبیت صحیح و سلامت اپنے اموال کے ساتھ

اہل شام کی طرف چلے جائیں ، اب وہ شخص آگیا ہے جو تجھ سے اور تیرے آقا کے حق سے زیادہ حق دار ہے ابن زیاد نے کہا اسے میرے قریب کر دو ، انہوں نے اسے (ہانی کو) قریب کیا تو اس نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی چھڑی کو اس کے منہ پر مارا یہاں تک کہ اس کی ناک شکستہ ہو گئی اور ابرو پھٹ گیا اور اس کے زخماں کا گوشت بکھر گیا اور اس نے چھڑی کو اس کے منہ اور سر پر مارا کہ توڑ دیا اور ہانی نے اپنے ہاتھ کو ایک پولیس میں کی تلوار کے دستے پر مارا مگر اس آدمی نے اُسے کھینچ لیا اور اُسے تلوار نہ دی اور ہانی کے اصحاب نے دروازے پر شور مچا دیا کہ ہمارے صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے ، پس ابن زیاد نے انہیں ڈرایا اور اُسے ایک کمرے میں بند کرنے کا حکم دیا جو اس کی نشست گاہ کے پہلو میں تھا اور ابن زیاد نے قاضی شریح کو لوگوں کے پاس بھیجا اس نے ان کے پاس گواہی دی کہ وہ زندہ ہے اور اُسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔

حضرت مسلم بن عقیل پر حملہ اور گرفتاری | جب مسلم کو اس کا روائی کا پتہ چلا جو ابن زیاد نے ہانی کے ساتھ کی تھی تو

اس نے منادی کو حکم دیا تو اس نے پکارا " اے منصور " یہ ان کا شعار تھا پس اہل کوفہ نے ایک دوسرے کو اس شعار کے ساتھ آواز دی تو ایک ہی وقت میں اٹھارہ ہزار آدمی اکٹھے ہو گئے اور ابن زیاد کی طرف گئے تو وہ ان سے بچنے لگا ، انہوں نے محل میں اس کا محاصرہ کر لیا ، ابھی مسلم نے شام نہیں کی تھی کہ اس کے ساتھ صرف ایک سو آدمی رہ گیا ، اور جب اس نے لوگوں کو اپنے آپ سے الگ ہونے دیکھا تو وہ کندہ کے دروازوں کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ دروازے پر نہیں پہنچا تھا کہ اس کے ساتھ تین آدمی رہ گئے پھر وہ دروازے سے باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ تھا وہ حیرت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا اُسے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اُسے کہاں جانا ہے اور نہ ہی اُسے کوئی راستہ بتانے والا تھا پس وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور انگشت بندھاں ہو کر کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگا اُسے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اشعث بن قیس کی لوندی کے گھر پہنچ گیا اور اس سے پانی مانگا ، اس نے اُسے پانی پلایا پھر اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے اُسے سب سرگزشت سنائی اس نے ترس کھا کر آپ کو پناہ دے دی ، اس کا بیٹا آیا تو اُسے آپ کی جگہ کا علم ہو گیا

اس نے صبح کو محمد بن اشعث کے پاس جا کر اُسے بتایا اور ابن اشعث نے جا کر ابن زیاد کو اطلاع دے دی، اس نے کہا جاؤ اُسے میرے پاس لاؤ اور اس نے اس کے ساتھ عبداللہ بن عباس سلمیٰ کو ستر آدمی دے کر بھیجا تو انہوں نے گھڑیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلم نے بھی تلوار کے ساتھ ان پر شدید حملہ کیا اور انہیں گھر سے نکال دیا پھر انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کو پتھر مارنے لگے اور سرکنڈوں کے سروں کو آگ لگا کر انہیں چھتوں کے اوپر سے ان پر پھینکنے لگے، جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا کیا یہ سب لوگ مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے آئے ہیں، اے دل! موت کی طرف جا، جس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، پھر آپ تلوار سونت کر گلی کی طرف نکلے اور ان سے جنگ کی، آپ کے اور بکیر بن حمران الاحمری کے درمیان دو دو ہاتھ ہوئے اور بکیر نے مسلم کے منہ پر تلوار ماری جس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور تلوار دوسرے ہونٹ میں کھب گئی اور مسلم نے بھی اس کے سر پر زبردست وار کیا پھر دوسرا وار اس کے کندھے پر گیا، قریب تھا کہ وہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا:

”میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شریفانہ طور پر قتل ہوں گا اگرچہ موت کو میں ایک کڑوی چیز دیکھ رہا ہوں، ہر شخص ایک دن اس بڑی چیز سے ملاقات کرنے والا ہے میں جھٹلائے جانے اور دھوکا کھانے سے ڈرتا ہوں۔“

جب لوگوں نے مسلم کی یہ حالت دیکھی تو محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر اُسے کہا تو نہ جھٹلایا جائے گا اور نہ تجھے دھوکا دیا جائے گا اور اس نے آپ کو امان دے دی تو مسلم نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا اور وہ انہیں ایک خچر پر سوار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے اور ابن اشعث نے امان دیتے وقت آپ کی تلوار اور کپڑے چھین لیے تھے ایک شاعر ابن اشعث کی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے:

”تو نے ہزدلی سے اپنے چچا کو چھوڑ دیا کہ تو اس کے ورے لڑے گا۔“

حالانکہ اگر تو نہ ہوتا تو وہ محفوظ ہوتا۔ اور تو نے آل بیت محمد کے ایک

آنے والے آدمی کو قتل کر دیا اور اس کی تلواروں اور زہروں کو چھین لیا۔“

حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کا قتل | جب مسلم، محل کے دروازے پر گئے تو اپنے ایک ٹھنڈے سے ٹکے کی طرف دیکھا اور ان

سے پانی مانگا تو مسلم بن عمرو باہلی — یعنی ابوقتیبہ بن مسلم نے لوگوں کو پانی دینے سے منع کر دیا، پس عمرو بن حریت جا کر ایک پیالے میں پانی لایا اور جب اس نے پیالے کو آپ کے منہ کے ساتھ لگایا تو وہ خون سے بھر گیا، تو اس نے اُسے گرا دیا اور دوسرا پیالہ بھر کر لایا اور جب اس نے اُسے آپ کے منہ کے قریب کیا تو آپ کے اگلے دانت اس میں گر پڑے اور وہ خون سے لبریز ہو گیا تو آپ نے کہا الحمد للہ، اگر یہ پانی میری قسمت میں ہوتا تو میں اسے ضرور پینا، پھر آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، پس جب اس نے اپنی بات ختم کی تو مسلم اُسے سخت جواب دینے لگے پھر وہ محل کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے اس احمری کو بلایا جسے مسلم نے تلوار مادی تھی اور اُسے کہا کہ تو اس کی گردن مار دے تاکہ تو اپنی چوٹ کا بدلہ لے لے پس انہوں نے آپ کو محل کے اوپر چڑھایا اور بکیر احمری نے آپ کی گردن مار دی اور آپ کے سر کو زمین پر گرا دیا، پھر انہوں نے اس کے بعد آپ کے جسم کو بھی گرا دیا پھر اس نے ہانی بن عروہ کے متعلق حکم دیا اور اُسے بازار میں نکال کر باندھ کر مار دیا گیا اور وہ چلا چلا کر اُسے آل مراد کے آل مراد کہہ رہا تھا اور وہ ان کا شیخ اور سردار تھا اور وہ اس وقت چار ہزار زرہ پوشوں اور آٹھ ہزار پیادوں میں سوار ہو کر چلتا تھا اور جب اس کے کندی حلیف اس کا ساتھ دیتے تو وہ تیس ہزار زرہ پوشوں میں چلا کرتا تھا مگر ان کے سردار نے ان کی بزدلی کی وجہ سے اپنا کوئی مددگار نہ پایا، ایک شاعر ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کا مرثیہ کہتے ہوئے اور جو تکلیف انہیں پہنچی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے

اگر تجھے یہ علم نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے تو ہانی اور ابن عقیل کو بازار میں دیکھ، اس بہادر آدمی کی طرف دیکھ جس کے چہرے کو تلوار نے توڑ پھوڑ دیا تھا اور دوسرا مقتول ہو کر چادر میں گر رہا تھا، انہیں امیر کے حکم سے مارا گیا پس وہ راستہ چلنے والوں کے لیے داستان بن گئے، تو ایک جسم کو دیکھے گا جس کے رنگ کو موت نے تبدیل کر دیا ہے اور ہر راستے پر خون کو بہتے دیکھے گا، کیا لڑائی کرنے والوں کے نام پونہی باقی رہیں گے حالانکہ نذج نے اس کے خون کا بدلہ طلب کیا ہے وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو ایک حیا دار و شیزہ سے بھی زیادہ حیا دار تھا اور دو دھاتی تلوار

سے زیادہ کاٹ کرنے والا تھا۔“

پھر ابن زیاد نے بکیر بن حمران کو بلایا جس نے مسلم کی گردن ماری تھی اور کہا کیا تو نے اُسے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اس نے کہا جب تم اُسے قتل کرنے کے لیے اوپر لے جا رہے تھے تو وہ کیا کہ رہا تھا اس نے جواب دیا وہ تکبیر و تہلیل اور تسبیح و استغفار کر رہا تھا۔ اور جب ہم نے اُسے مارنے کے لیے قریب کیا تو اس نے کہا اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر جس نے ہمیں دھوکا دیا اور ہماری تکذیب کی پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہمیں قتل کیا ہے میں نے کہا میں اس خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تجھ سے قصاص لینے کی توفیق دی اور میں نے اُسے تلوار ماری جس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو اس نے مجھے کہا اے غلام کیا مجھ سے اپنے خون کے بدلہ میں یہ خراش تیرے لیے کافی نہیں۔

ابن زیاد نے کہا اے موت کے وقت یہ فخر؟ بکیر کہتا ہے پھر میں نے دوسری تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور پھر ہم نے اس کے سر کے بعد اس کا جسم بھی نیچے گر ادیا۔

کوفہ میں مسلم کا ظہور ۸ ذوالحجہ ۶۳۷ھ کو ہوا اور یہ وہی دن ہے جس دن حسین کہ سے کوفہ کے لیے چلے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ۹ ذوالحجہ ۶۳۷ھ کو بدرہ کے روزہ یوم عرفہ تھا پھر ابن زیاد کے حکم سے مسلم کے جثہ کو صلیب دیا گیا اور آپ کے سر کو دمشق لے جایا گیا حضرت مسلم، بنی ہاشم میں سے پہلے شخص ہیں جن کے جثہ کو صلیب دیا گیا اور آپ کا سر پہلا سر ہے جسے دمشق لے جایا گیا۔

حضرت حسینؑ کی ابن زیاد کی فوج کے ساتھ جنگ | جب حضرت حسینؑ قادیان پہنچے تو آپ کو حرمین یزید

تمیھی ملا اس نے کہا اے پسر رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ نے کہا میں اس شہر میں جانا چاہتا ہوں اس نے آپ کو مسلم کے قتل کے واقعات بتائے، پھر کہنے لگا واپس چلے جائیے میں اپنے پیچھے کوئی بھلائی چھوڑ کر نہیں آیا کہ آپ کے لیے اس کی امید دکھوں، آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم کے بھائیوں نے آپ سے کہا خدا کی قسم ہم اپنا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یا ہم سب قتل ہو جائیں گے، حضرت

حسینؓ نے کہا تمہارے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، پھر آپ آگے چلے تو آپ کو عمرو بن سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں عبید اللہ بن زیاد کے سوار ملے، آپ کو بلا کی طرف مڑ گئے، عمرو کے ساتھ اس کے اہل بیت اور اصحاب ہیں سے پانچ سو سوار اور ایک سو پچاس آدمی تھے۔ جب حسینؓ کے خلاف بہت سی فوج اکٹھی ہو گئی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی جائے فرار نہیں تو آپ نے کہا اے اللہ! ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے ہمیں بلا یا کہ وہ ہماری مدد کریں گے پھر وہی ہمیں قتل کرتے ہیں پس آپ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، آپ کو نذرج کے ایک آدمی نے قتل کیا اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر رجز پڑھتا ہوا اُسے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔

میری سواری کو سونے اور چاندی سے بھر دو میں نے ایک ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جو ماں اور باپ کے لحاظ سے بہترین آدمی تھا اور نسب کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر تھا۔“

ابن زیاد نے اُسے سر سمیت بیزید بن معاویہ کی طرف بھجوا دیا، وہ بیزید کے ہاں گیا تو اس کے پاس ابو بزرہ اسلمی بیٹھا ہوا تھا اس نے بیزید کے سامنے سر کو رکھ دیا تو وہ آپ کے منہ پر چھڑی مارنے لگا اور کہنے لگا۔

”ہم ان جوانوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیتے ہیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں جب کہ وہ نافرمان اور ظالم ہوتے ہیں۔“

ابو بزرہ نے اُسے کہا اپنی چھڑی کو اٹھا لو خدا کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کو آپ کے منہ پر رکھ کر چومتے تھے، حضرت حسینؓ کے قتل کے موقع پر جو فوجیں موجود تھیں اور جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور آپ کو قتل کیا وہ سب کے سب خاص کوفہ کے رہنے والے تھے ان میں کوئی شامی آدمی نہ تھا اور حضرت حسینؓ کے ساتھ عاشورہ کے روز کربلا میں قتل ہونے والے ستاسی آدمی تھے، جن میں آپ کا بیٹا علی اکبر بھی تھا وہ رجز پڑھتا ہوا کہتا تھا۔

”میں علی بن حسینؓ بن علیؓ ہوں، ہم اور بیت اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں خدا کی قسم ہمارے بارے میں لے پالک کا

بیٹا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

اہل بیت میں سے شہداء کو کر بلا | آپ کے بھائی حسن بن علیؑ کے بیٹوں میں سے جو قتل ہوئے ان کے نام یہ ہیں :- عبداللہ بن حسن قاسم بن حسن اور ابو بکر بن حسن اور آپ کے بھائیوں میں سے قتل ہونے والوں کے نام یہ ہیں :- عباس بن علی ، عبداللہ بن علی ، جعفر بن علی ، عثمان بن علی ، اور محمد بن علی اور جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں میں سے قتل ہونے والوں کے نام یہ ہیں :- محمد بن عبداللہ بن جعفر اور عون بن عبداللہ بن جعفر اور عقیل بن ابی طالب کے بیٹوں میں سے قتل ہونے والوں کے نام یہ ہیں :- عبداللہ بن عقیل اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل ، یہ ۱۰ محمد اسمہ کا واقعہ ہے۔

شہادت کے وقت حضرت حسینؑ کی عمر | حضرت حسینؑ پچپن سال کی عمر میں شہید ہوئے اور بعض کہتے

ہیں کہ اسیٹھ سال کی عمر میں شہید ہوئے اور بعض اس کے علاوہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جس روز حضرت حسینؑ قتل ہوئے ان کے جسم پر تینتیس نیزوں اور تلوار کی چوٹیں ضربوں کے نشان تھے زید بن شریک تمیمی نے آپ کی بائیں ہاتھیلی پر تلوار مار دی اور سنان بن انس نخعی نے آپ کو نیزہ مارا اور پھر گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے :-

”اور کونسی مصیبت نے حضرت حسینؑ کے ساتھ اس صبح کو انصاف کیا جب سنان نے آپ کی ہاتھیلی کو الگ کر دیا۔“

اور آپ کے ساتھ آپ کے چار انصاف اور دیگر عربوں میں سے باقی جو اصحاب آپ کے ساتھ قتل ہوئے ہم ان کی گنتی کو پہلے پیش کر چکے ہیں اس بارے میں نبی اکرمؐ کا غلام مسلم بن قتیبہ کہتا ہے :-

”اے میری آنکھ آنسو بہا اور چلا اور آل رسول کی خوبیاں بیان کر، اور حضرت علیؑ کی صلب کے نو اور حضرت عقیلؑ کے پانچ مارے جانے والوں کے فضائل بیان کر، اور نبی کے عم زاد عون کے فضائل بیان کر جو ان کا بھائی تھا اور مصائب سے سہا ہونے والا نہ تھا۔ اور حضرت نبی کریمؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام کو دہاں چھوڑ دیا گیا اور وہ صیقل شدہ تلواروں کے ساتھ اس پر غالب آگئے اور ان کے ادھیڑ عمر کے آدمی کے مناقب بیان کر وہ عام ادھیڑ عمر آدمیوں کی طرح نہ تھا۔

اور زیاد اور اس کا بیٹا اور خاندن والی بڑھیا جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ

ان پر لعنت کرے۔“

عمر بن سعد نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حضرت حسینؑ کی لاش کو روند ڈالیں

اس حکم کے جواب میں اسحاق بن حیات حضرمی نے ایک جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کی لاش کو روند دیا اور شہریوں نے جو بنی عامر کے قبیلے سے تھے جو بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت حسینؑ اور آپ کے ساتھیوں کو قتل ہونے کے ایک روز بعد دفن کر دیا اور حضرت حسینؑ کے ساتھ جنگ کے دوران عمرو بن سعد کے جو آدمی مارے گئے ان کی تعداد اٹھاسی ہے۔

حضرت علیؑ بن ابی طالب کے بیٹوں کے

اسماء کا بیان

حضرت علیؑ کے بیٹوں اور ان کی ماؤں کے نام | حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت محسنؑ،

حضرت ام کلثوم کبریٰ اور حضرت زینب کبریٰ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہراءؑ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں، اور حضرت محمد کی والدہ کا نام خولہ بنت ابیاس الحنفیہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جعفر بن قیس بن مسلمہ حنفی کی دختر تھیں اور حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر رضا کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود نہشلی تھا۔ اور حضرت عمر اور حضرت رقیہ کی ماں تغلیبہ تھی اور حضرت یحییٰ کی والدہ کا نام اسماء بنت عمیس نخعیہ تھا،

اور قبل ازیں ہم اس کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے اور انہوں نے اسماء کے لیے عون، محمد اور عبد اللہ کو پیچھے چھوڑا اور حضرت جعفر کی اولاد، عبد اللہ بن جعفر سے چلی اس کے بعد اسماء بنت عمیس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شادی کی اور محمد بن ابوبکر، اسماء کے پاس رہ گئے پھر اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی تو اس کے پاس بیٹے باقی رہ گئے اور وہ ایک حرشیہ بڑھیا کی دختر تھی جو دامادوں کے لحاظ سے بڑی معزز تھی اور قبل ازیں اس کتاب میں حرشیہ بڑھیا کے دامادوں کا ذکر گزر چکا ہے جن میں سب سے اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت جعفر اور حضرت عباسؓ اور حضرت عبد اللہ کی والدہ ام البنین بنت حرام الوحیدیہ تھی اور رملہ اور ام الحسن کی والدہ، ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھی اور ام کلثوم صغریٰ اور زینب صغریٰ اور جمانہ اور میمونہ اور خدیجہ اور فاطمہ اور ام الکرام اور نفیسہ اور ام سلمہ اور اس کے باپ کی ماں تھی۔

ہم نے اپنی کتاب "اخیار الزمان" میں آل ابی طالب کے انساب اور ان کی اولاد اور ان کے قتل کے مقامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد | حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد
ان پانچ بیٹوں سے

چلی ہے حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت محمدؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عباسؓ اور ان کے انساب کو انتہا تک بیان کیا گیا ہے اور جن کی اولاد نہیں ہوئی اور جن کے اولاد ہوئی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی ہاشم کے علاوہ دیگر قریش کے انساب کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور زبیر بن بکارت نے اپنی کتاب "انساب قریش" میں ان کا ذکر کیا ہے اور آل ابی طالب کے انساب کے متعلق اس سے بہتر کتاب وہ ہے جو طاہر بن یحییٰ علوی حسینی سے مدینۃ النبی میں لکھی گئی ہے اور آل ابی طالب کے انساب کے متعلق بہت سی کتب تصنیف کی گئی ہیں جن میں سے کتاب العباس من ولد العباس بن علی اور کتاب ابی علی الجعفری اور کتاب المہلوس العلوی من ولد موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

طف کے مقتول کا مرتبہ | اور طف کے مقتول کے متعلق سلیمان بن قتہ اس کے مرتبہ میں کتنا ہے جسے زبیر بن بکاء نے اپنی کتاب النساب

قریش میں بیان کیا ہے کہ

”اور آل ہاشم میں سے طف کے مقتول نے قریش کی گردنیں جھکا دی ہیں پس اگر انہوں نے اُسے بیت اللہ میں پناہ لینے والے کے پیچھے لگا دیا تو وہ عادی طرح ہو جائیں گے جو اپنے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئی تھی، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ حسینؑ کے قتل ہونے سے زمین بیجا ہو گئی ہے اور ملکوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں پس اللہ تعالیٰ مکانوں اور مکینوں کو تباہ نہ کرے اگرچہ وہ میرے خیال کے برعکس خالی ہو گئے ہیں۔“

یزید کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

اور اس کے بعض عجیب و غریب کام

یزید کا عبس و فود کے لیے خرچ | جب یزید کو حکومت مل گئی تو وہ اپنے گھر آیا اور تین دن تک لوگوں سے نہ ملا، اور اس کے

دروازے پر عرب کے اشراف اور ممالک کے وفود اور فوجوں کے امراء، اس کے باپ کی تعریف کرنے اور اُسے حکومت کی مبارک باد دینے کے لیے جمع ہو گئے، جب چوتھا دن ہوا تو وہ پرانڈہ مو اور غبار آلود حالت میں باہر نکلا اور منبر پر چڑھ گیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد کہنے لگا کہ معاویہ اللہ کی رستی میں سے ایک رستی تھا اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اُسے لمبا کیا اور جب چاہا اُسے کاٹ دیا اور وہ اپنے پیشروؤں سے کمتر اور بعد میں آنے والوں سے بہتر تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے تو وہ اس کا اہل ہے اور اگر اُسے سزا دے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوگی اور اس کے بعد مجھے حکومت ملی ہے اور میں جہالت سے عذر نہیں کرتا اور نہ طلب علم میں مشغول ہوتا ہوں، تم آرام سے کام کرو، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے تو

وہ ہو جاتی ہے، ذکر الہی کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ پھر منبر سے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس نے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی لوگ اس کے پاس گئے مگر انہیں اس بات کا پتہ نہ تھا کہ وہ اُسے مبارک بادیں یا اس سے تعزیت کریں تو عاصم بن ابی صفی نے اُٹھ کر کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آپ کو خلیفۃ اللہ کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا ہے اور آپ کو خلافت الہیہ دی گئی ہے اور آپ نے خدا کی عطا کردہ چیزوں کو دیا ہے، معاویہ اپنا حصہ پورا کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کے بعد آپ کو سرداری ملی ہے پس اللہ تعالیٰ سے بڑی مصیبت کے ثواب کی امید رکھو اور افضل علیہ پر اس کا شکر کر، بیزید نے کہا اے ابن ابی صفی میرے قریب ہو اور وہ قریب ہو گیا یہاں تک کہ اس کے نزدیک ہو کہ بیٹھ گیا۔

پھر عبداللہ بن مازن نے اُٹھ کر کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین! آپ کو بہترین باپ کا صدمہ اٹھانا پڑا ہے اور تیرا اچھا نام رکھا گیا ہے اور تو نے بہترین چیزیں عطا کی ہیں پس اللہ تعالیٰ اس نوازش پر آپ کو مبارک باد دے اور رعیت کے بارے میں تیری مدد کرے، قریش اپنے حکمرانوں کے بعد صدمہ سیدہ تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے تیری خلافت کے ذریعے ان پر احسان کیا ہے اور اس کے بعد عقبی میں بھی کرے گا۔
پھر کہنے لگا

”اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ خلافت عطا کی ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور محمد بن نے اُسے تجھ سے روکنے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ اُسے تیرے پاس لے آیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا ہاتھ تیرے گلے میں ڈال دیا، بیزید نے اُسے کہا اے ابن مازن میرے قریب ہو جا اور وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، پھر عبداللہ بن ہمام نے اُٹھ کر کہا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت پر اجر دے اور صبر عطا فرمائے اور عطا یا میں برکت دے اور تجھے رعیت کی محبت عطا فرمائے، معاویہ اپنے راستے پر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور انہیں خوشی عطا فرمائے اور ان کے بعد تجھے اچھے کاموں کی توفیق دے، تجھے بڑی مصیبت اٹھانی

پڑی ہے اور مجھے بہت کچھ ملا ہے اور مجھے ان کے بعد حکمرانی ملی ہے، اور بڑی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا ہے اور تو نے قیمتی چیزوں کو عطا کیا ہے پس اس بڑی مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ اور افضل عطا پر اس کا شکریہ ادا کر اور اپنے خالق کی حمد کر اور اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے فائدہ پہنچائے اور تیری حفاظت کرے اور تیرے ذریعے ہماری حفاظت کرے اور کہنے لگا ہے

”اے یزید صبر کر تو ایک محبت کرنے والے سے جدا ہو گیا ہے اور اُس کے عطیے پر شکر کر کہ اس نے تجھے حکومت کے لیے پسند کر لیا ہے لوگوں میں تیری مصیبت کی مثال موجود نہیں اور نہ تیری طرح کسی کا انجام ہے تجھے تمام مخلوق کی اطاعت عطا کی گئی ہے، تو ان کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تیری نگرانی کرتا ہے اور معاویہ کا جانشین ہم میں موجود ہے تجھے موت کی خبر دی گئی ہے پس ہم تیری موت کی خبر نہ سنیں۔“

یزید نے کہا ابن ہمام میرے قریب آ جاؤ اور وہ بھی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر لوگ اس سے تعزیت کرنے اور اُسے خلافت کی مبارک باد دینے لگے اور جب وہ اپنی نشست گاہ سے اُٹھا تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور قوم میں اس کے مقام کے لحاظ سے مال دیا اور ان کے عطیات میں اضافہ کیا اور ان کے مراتب کو بلند کیا اور ہم نے اپنی کتاب ”اخبار الزماں“ میں یزید کے حالات اور اپنے باپ کی وفات کے وقت اس کی غیر حاضری اور اپنے باپ کی بیماری کی خبر سن کر حمص کی جانب جانے اور دمشق میں ثنیۃ العقاب میں آنے کے واقعات کو بیان کیا ہے، اس لیے ان واقعات کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

یزید اور عبد الملک کے درمیان گفتگو | کئی مؤرخین نے اور اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان یزید کے پاس آ کر کہنے لگا، میری زمین کے ایک طرف تمہاری تھوڑی سی زمین ہے، مجھے کچھ اور زمین چاہیے پس تم مجھے وہ زمین جاگیر میں دے دو اس نے کہا اے عبد الملک! میں کسی چھوٹی بڑی بات سے گھبرانے والا نہیں مجھے اس زمین کے متعلق بتاؤ ورنہ میں

کسی دوسرے آدمی سے دریافت کروں گا، اس نے کہا حجاز میں اس سے زیادہ قیمتی زمین موجود نہیں، اس نے کہا میں نے تجھے وہ زمین بطور جاگیر دے دی۔ عبد الملک نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اُسے دُعادی، جب وہ چلا گیا تو یزید کہنے لگا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خلیفہ بن جائے گا اگر انہوں نے سچ کہا ہے تو ہم نے اس سے احسان کیا ہے اور اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو ہم نے اس سے صلہ رحمی کی ہے۔

یزید اور اس کے خمال کی بد کرداری | یزید، گانے بجانے اور کتوں، بندروں اور

چیتوں کا دلدادہ اور شراب نوش تھا ایک روز وہ شغل سے نوشی کے لیے بیٹھا تو اس کے دائیں جانب ابن زیاد تھا اور یہ حضرت حسین کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، وہ اپنے ساتی کے پاس آکر کہنے لگا

”مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم نرم ہڈیوں کو بھی سیراب کر دے، پھر ابن یٰ

انہ کو بھی ایسا ہی جام بھر کر دے جو میرے نزدیک میرا ہرانا اور امین ہے

اور میری غنیمت اور جہاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔“

پھر اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں، پس انہوں نے گانا شروع کر دیا، اور یزید کے اصحاب یزید کی طرح بد کردار تھے اور اس کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گانے کا دور دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے، اور لوگوں نے کھلے بندوں شراب نوشی شروع کر دی، اس کے پاس ایک بندر تھا جس کی کنیت ابو قیس تھی وہ بھی محفل سے نوشی میں موجود ہوتا اور اسے تکیہ لگا کر دیتا اور وہ بڑا خبیث بندر تھا اور وہ اُسے ایک جنگلی گدھی پر جو بندھی ہوئی ہوتی تھی چڑھا دیتا اور لگام اور زین لگا کر وہ اسے گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا، کبھی کبھی وہ سب سے آگے بڑھ جاتا

اور بالنس کو اکھاڑ لیتا اور گھوڑوں سے پہلے ہی حجرہ میں داخل ہو جاتا اور ابو قیس پر سرج اور زور لیشیم کی قبا ہوتی اور وہ آستین چڑھانے ہوئے ہوتا اور اس کے سر پر لیشیم کی منقش چمک دار رنگوں کی دیبن ہوتی اس روز شام کے ایک شاعر نے اس بارے میں کہا

”ابو قیس کو اس کی لگام کے زائد حصے سے پھیلے اور اگر تو گر پڑے تو

اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی تم میں سے کسی شخص نے اس بندر کو دیکھا ہے

جو امیر المومنین کے گھوڑوں سے گدھی کو دوڑا کر آگے لے گیا۔“

اور یزید کے جبر و تشدد اور لوگوں کے اس کی حکومت کے مطیع ہونے کے متعلق احوص

کتاب ہے :-

”وہ ایک ایسا مبارک بادشاہ ہے کہ بادشاہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور

قریب ہے کہ اس کی بیٹیت سے پہاڑ ٹل جائیں، اور بلخ، دجلہ اور فرات اور

اور جس علاقے کو وہ سیراب کرتے ہیں اور دریائے نیل سب اس کو ٹیکس

ادا کرتے ہیں۔“

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ احوص نے یہ اشعار حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد

اس کا مرثیہ کہتے ہوئے کہے تھے۔

حضرت حسینؓ کے قتل کے متعلق اقوال | جب حضرت حسین بن علی بن ابی طالب

کربلا میں قتل ہو گئے اور آپ کا سر یزید

کے پاس لے جایا گیا تو عقیل بن ابی طالب کی دختر اپنی قوم کی حیران اور برہنہ سر عورتوں

کے ساتھ باہر نکلی، کیونکہ ان عورتوں کو سادات کے قتل کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی

اور وہ کہہ رہی تھی :-

”اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری

امت ہو کر میرے بعد میری اولاد اور میرے اہل کے ساتھ کیا سلوک کیا

ہے تو تم کیا جواب دو گے نصف لوگ قید ہو گئے ہیں اور نصف خون ہیں

لت پت ہیں، یہ میری جزا نہیں ہے۔ میں نے یہ کب نصیحت کی تھی کہ

تم میرے رشتہ داروں میں میرے بعد مشر پیدا کرنا۔“

اور ابن زیاد نے حضرت حسینؓ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے متعلق ابوالاسود

الاؤلی اپنے قصیدہ میں کہتا ہے :-

”میں پریشانی اور دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابن زیاد کی حکومت

کا خاتمہ کرے اور ان کو ان کی بد عہدی اور خیانت کی وجہ سے عا د و ثمود

کی طرح تباہ کرے۔“

جب یزید اور اس کے کارکنوں کا ظلم

لوگوں پر عام ہو گیا اور پس منبت رسول

اہل مدینہ اور یزید کے عمال

اور اس کے انصاف کے قتل کی وجہ سے اس کا فسق نمایاں ہو گیا اور اس کی شراب نوشی اور فرعونی سیرت عیال ہو گئی بلکہ فرعون اپنی رعیت کے ساتھ اس سے زیادہ عادلانہ سلوک کرنے والا اور اپنے خواص و عوام سے زیادہ انصاف کرنے والا تھا، اہل مدینہ نے اس کے عامل — عثمان بن محمد بن ابی سفیان — اور مروان بن الحکم اور دیگر بنی امیہ کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ واقعہ ۳۳ھ میں ابن زبیرؓ کے درویش اور خدا پرست بننے اور اپنی جانب دعوت دینے کے وقت ہوا اور یزید کے عامل اور بنی امیہ کے اخراج کی کاروائی ابن زبیر کی اجالت سے ہوئی جب ان لوگوں کو گرفتار نہ کر سکے اور نہ انہیں ابن زبیرؓ کے پاس لے جاسکے تو مروان نے اس بات کو ہی غنیمت خیال کیا اور وہ لوگ بہ سرعت تمام شام کی طرف گئے اور اہل مدینہ نے بنی امیہ اور یزید کے عامل کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی اطلاع یزید کو پہنچائی، اس نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں شامی فوج کو مدینہ کی طرف بھیجا، مسلم نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اور لوٹنا اور قتل کیا اور وہاں کے لوگوں نے اس بات پر اس کی بیعت کی کہ وہ یزید کے غلام ہیں اور اس نے مدینہ کا نام (نقشہ) ”بدبودار“ رکھا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا ہے، نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ تعالیٰ اُسے خوفزدہ کرے گا۔“ اور اس مسلم بن عقبہ مجرم مسرف نے اللہ کی اس پر لعنت ہو اس کا یہ نام رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب یزید نے اس فوج کو بھیجا تو اس کے سامنے یہ شعر پڑھا ہے

”الوبکر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جب معاملہ کھل جائے اور لوگ وادی القریٰ میں پہنچ جائیں تو سکران نے وہ لوگ اکٹھے کیے جنہیں تو دیکھ رہا ہے۔“

الوبکر سے مراد، عبداللہ بن زبیرؓ ہیں کیونکہ ان کی کنیت الوبکر تھی اور یزید کو السکران

الخیر کہا جاتا تھا اور اس نے ابن زبیرؓ کی طرف لکھا ہے

”میں تیرے آسمانی خدا کو بلاتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے خلاف عک اور اشعر

قبیلے کے لوگوں کو بلایا ہے اے ابو خبیب اُن سے تو کیسے بچ سکے گا، اور

فوج کے آنے سے پیشتر اپنے لیے کوئی تدبیر سوچ لے۔“

حورہ کا معرکہ | جب فوج مدینہ کے قریب ایک جگہ پہنچی جو حورہ کے نام سے مشہور ہے تو اس فوج کا سالار اہل مدینہ سے جنگ کے لیے نکلا، جن کے

بیڈر عبد اللہ بن مطیع العدوی اور عبد اللہ بن حنظلہ الفیل انصاری تھے اور اس عظیم جنگ میں بنی ہاشم، دیگر قریش، انصار اور دوسرے لوگوں میں سے بے شمار لوگ قتل ہو گئے اور آل ابی طالب میں سے جو لوگ مارے گئے ان میں عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب اور جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب بھی تھے اور آل ابی طالب کے علاوہ بنی ہاشم سے فضل بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد اللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عتبہ بن ابی لہب بن عبد المطلب مارے گئے اور دیگر قریش سے نوے سے زائد آدمی اور اتنے ہی انصار کے آدمی مارے گئے اور جو لوگ شمار میں نہیں آسکے ان کو چھوڑ کر دیگر لوگوں میں سے چار ہزار آدمی مارے گئے اور لوگوں نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ بیزید کے غلام ہیں اور جس نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اُسے اس نے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سجاد اور علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے سوا تلوار کی دھار پر رکھ لیا اور معرکہ حرہ کے متعلق محمد بن اسلم کہتا ہے

”اگر تم نے حرہ کے روز ہمیں قتل کیا ہے تو ہم اسلام کی خاطر قتل ہونے والے پہلے لوگ ہیں ہم نے بدر کے روز تمہیں ذلیل کر چھوڑا تھا اور ہم اپنی تلواروں کو اس حال میں لے کر لوٹے تھے کہ وہ تمہارے خون سے بدبودار ہو گئی تھیں۔“

اور لوگوں نے علی بن حسین سجاد کو قبر کی پناہ لیے دُعا کرتے دیکھا، انہیں مسرف کے پاس لایا گیا تو وہ ان پر بہت ناراض تھا اور اس نے آپ سے اور آپ کے آباء سے بیزاری کا اظہار کیا اور جب اس نے دیکھا کہ آپ قریب آگئے ہیں تو وہ کانپنے لگا اور آپ کی خاطر کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا مجھ سے اپنی ضروریات کے متعلق کچھ کہو مگر آپ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، ہاں جن لوگوں کو وہ تلوار سے قتل کرنا چاہتا تھا ان کی سفارش کی پھر آپ واپس چلے گئے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ ہم نے آپ کو دونوں لب ہلاتے دیکھا ہے آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اس وقت دُعا کر رہا تھا۔

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَنَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا
أَقْلَنَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

و ادراكك في نحره ، اسالك ان تؤتيني خيرا و تكفيني شرا -

مسلم بن عقبہ سے کہا گیا ہم نے تجھے اس نوجوان اور اس کے اسلاف کو سب و شتم کرتے دیکھا ہے اور جب وہ تیرے پاس آیا ہے تو تو نے اس کی عزت افزائی کی ہے اس نے جواب دیا یہ میری مرضی سے نہیں ہو بلکہ اس کے رعب سے میرا دل بھر گیا تھا۔

اور علی بن عبد اللہ بن عباس کے ماموں کنزہ قبیلے سے تھے انہوں نے آپ کو مسلم سے بچا لیا اور ربیعہ کے لوگ بھی اس کی فوج میں شامل تھے ، علی اس بار سے میں کہتے ہیں

”میرا باپ عباس ، بنی لوی کا سردار ہے اور میرے ماموں بنی ولیعہ کے

بادشاہ ہیں جس روز مسرف اور بنی لکیعہ کی فوج آئی انہوں نے میری حفاظت

کی ، اس نے میرے متعلق اس بات کا ادا وہ کیا تھا جس میں کوئی عزت نہ

تھی مگر اس کے ورے ربیعہ کے ہاتھ حائل ہو گئے۔“

اور جب اہل مدینہ پر وہ افتاد پڑی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ، لوٹا گیا

غلام بنایا گیا اور قیدی بنایا گیا اور کچھ باتوں کے ذکر کرنے سے ہم نے اعراض کیا ہے

تو مسرف ، شامی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف چل پڑا تاکہ یزید کے حکم کے

مطابق ابن زبیرؓ اور اہل مکہ سے جنگ کرے یہ ۶۳ھ کا واقعہ ہے اور جب وہ قدید مقام

پر پہنچا تو مسرف (مسلم بن عقبہ) مر گیا ، اللہ اس پر لعنت کرے ، اور اس نے حصین بن نمیر کو

فوج پر اپنا نائب مقرر کیا ، حصین نے مکہ آکر مکہ کا گھیراؤ کر لیا اور ابن زبیرؓ نے بیت اللہ

کی پناہ لے لی اور انہوں نے اپنا نام عائد بالبت رکھا ہوا تھا اور آپ اسی نام سے مشہور

ہو گئے یہاں تک کہ شعراء نے بھی اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے سلیمان

بن قثم کے قول کا ذکر کر آئے ہیں کہ

”اگر تم نے اُسے بیت اللہ کی پناہ لینے والے کے پیچھے لگا دیا تو تم عاد کی طرح

ہو جاؤ گے جو اپنے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئی تھی۔“

اور حصین نے اپنے شامی ساتھیوں کے ساتھ

مل کر منجیقوں کو مکہ پر نصب کر دیا اور مسجد کے

کعبہ پر منجیقوں سے سنگباری

اور گرد جو پہاڑیاں اور راستے تھے ان پر بھی منجیقیں نصب کر دیں۔ ابن زبیرؓ مسجد میں

تھے اور ان کے ساتھ مختار بن ابی عبید ثقفی بھی دیگر اصحاب کے ساتھ شامل تھا۔ اور ان شرائط کے ساتھ ان کی بیعت امامت میں شامل تھا کہ ان کی رائے کی مخالفت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی حکم عدولی کرے گا پس منجنيقوں کے پتھر پے در پے بیٹ اللہ پے برسے لگے اور پتھروں کے ساتھ آگ اور مٹی کا تیل اور کتان کے ٹکڑے اور دیگر جلنے والی چیزیں بھینکی جانے لگیں، کعبہ منہدم ہو گیا اور اس کی عمارت جل گئی اور ایک بجلی گری جس نے منجنيق چلانے والے گیارہ آدمیوں کو جلا کر رکھ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ زیادہ آدمیوں کو جلا دیا یہ واقعہ یزید کی وفات سے گیارہ دن قبل اسی سال ۳۷ ھ بیع الاول کو ہوا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور اہل مکہ کی حالت بہت خراب ہو گئی اور پتھروں، آگ اور تلوار سے مسلسل اذیت جاری رہی اس بارے میں ابو جزیہ مدنی کہتا ہے کہ

”ابن زبیر نے بہت ہی بُرا کام کیا ہے اس نے مقام اور مصیبت کو جلا دیا ہے۔“

یزید اور دوسرے لوگوں کے حالات نہایت عجیب ہیں اور شراب نوشی کرنے اور پسر بنت رسول کے قتل کرنے اور وصی پر لعنت کرنے اور بیت اللہ کے گرانے اور جلانے اور خونریزی کرنے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے عیوب بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کے متعلق توحید کے منکر اور رسولوں کے مخالف کی طرح غفران الہی سے مایوسی کی وعید وارد ہوئی۔ ہم قبل انہیں ان میں سے مشہور واقعات کو اپنی پہلی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں۔

معاویہ بن یزید بن معاویہ، مروان بن الحکم مختار بن ابی عبید اور عبد اللہ بن زبیر کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

معاویہ بن یزید کے مختصر حالات | مسعودی بیان کرتا ہے کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ

بنا اور اس کی حکومت چالیس روز تک رہی اس کے بعد وہ مر گیا اور بعض کہتے ہیں کہ دو ماہ تک رہی اور بعض کچھ اور مدت بیان کرتے ہیں اس کی کنیت ابو بکر تھی اور خلیفہ بننے پر وہ ابو لیلیٰ کنیت کرتا تھا اور عرب میں یہ کنیت کمزور آدمی کی ہوا کرتی تھی اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے

”میں دیکھتا ہوں کہ فتنہ کی ہنڈیاں جوش مار رہی ہیں اور ابو لیلیٰ کے بعد حکومت اس کی ہوگی جو غالب آجائے گا۔“

اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنو امیہ لکھے ہو کر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ اپنے اہل بیت میں سے جسے اہل سمجھتے ہیں اس کے متعلق وصیت کر دیجیے اس نے کہا قسم بخدا، میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا پس میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ تم جلد اس کی حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہو اور میں جلد اس کی تلخی کو حاصل کرنے والا ہوں اے اللہ میں اس سے بیزار اور انگ ہوں اے اللہ! میں اہل شوریٰ کی طرح کوئی گروہ نہیں پاتا کہ میں خلافت کا کام ان کے سپرد کر دوں اور وہ جس کو اس کا اہل سمجھیں اُسے خلیفہ بنا لیں۔ اس کی والدہ نے اُسے کہا کاش میں حیض کا ایک چیتھڑا ہوتی اور تجھ سے یہ بات نہ سُنتی، اس نے ماں کو جواب دیا اے ماں کاش میں حیض کا ایک چیتھڑا ہوتا اور یہ کام میرے سپرد نہ ہوتا۔ بنو امیہ تو اس کی حلاوت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں اور میں اس کے بوجھ اور اس کا استحقاق رکھنے والے لوگوں کو روکنے کا بوجھ اٹھا کر واپس جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اس سے بری ہوں اور اس کی وفات کے سبب کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اُسے کوئی چیز پلائی گئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرا۔ اور بعض کے نزدیک اُسے طاعون ہوئی ہے اور وہ ۲۲ سال کی عمر میں فوت ہوا اور دمشق میں دفن کیا گیا اور اس کی نماز جنازہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے پڑھائی تاکہ اس کے بعد حکومت اس کے لیے ہو، لیکن جب اس نے دوسری تکبیر کہی تو اُسے نیزہ مارا گیا اور وہ نماز مکمل کرنے سے قبل ہی گر کر مر گیا پس عثمان بن عتبہ بن ابی سفیان آگے آگیا تو لوگوں نے کہا ہم تیری بیعت کرتے ہیں اس نے کہا لیکن میں جنگ و قتال نہیں کروں گا تو انہوں نے اس کی یہ بات نہ مانی اور وہ مکہ آ کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔

پس آل حرب سے حکومت جاتی رہی اور ان میں کوئی ایسا آدمی نہ رہا جو حکومت کا خواہاں ہوتا یا اس کی طرف دیکھتا اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کی امید رکھتا تھا۔ اور اہل عراق نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور انہوں نے عبداللہ بن مطیع العدوی کو کوفہ کا عامل مقرر کیا۔

مختار کوفہ میں مختار بن ابی عبید ثقفی نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایک ایسی قوم سے واقف ہوں کہ کاش ان کے لیے کوئی ایسا آدمی ہوتا جو نرم دل اور کام کرنا جانتا ہوتا تو وہ آپ کے لیے ان میں سے ایسی فوج تیار کرتا جو شامیوں پر غالب آجاتی ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کوفہ میں بنی ہاشم کے شیعہ، آپ نے کہا تم ہی وہ آدمی بن جاؤ پس آپ نے اُسے کوفہ کی طرف بھیجا اور وہ اس کی ایک جانب جا کر اتر پڑا اور طالبیوں اور ان کے شیعوں پر اونچی آواز سے روتے لگا۔ اور ان سے محبت اور ان کے لیے غم کا اظہار کرنے لگا اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ترغیب دینے لگا، پس شیعہ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور اس نے قصر امارت کی طرف جا کر وہاں سے ابن مطیع کو نکال دیا اور کوفہ پر غالب آگیا اور اس نے اپنے لیے ایک گھر اور باغ بنایا جس پر بیت المال سے بہت سا مال خرچ کر دیا اور لوگوں کو بھی بہت سا مال و منال دیا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ ابن مطیع کو کوفہ سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ وہاں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ زحمت بھی دینے لگا کہ جو کچھ وہ خرچ چکا ہے اُسے بیت المال کے حساب میں ڈال دیں، مگر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نہ مانی تو مختار نے ان کی اطاعت اور بیعت سے انکار کر دیا اور مختار نے علی بن حسین سجاد کو خط لکھا کہ وہ ان کی بیعت کرنا چاہتا ہے اور ان کی امامت کی دعوت دینا چاہتا ہے اور اس نے ان کی طرف بہت سا مال بھی بھیجا مگر علی سجاد نے اُسے قبول کرنے اور اس کے خط کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور مسجد نبوی میں سب لوگوں کے سامنے اُسے بڑا بھلا کہا اور اس کے کذب و فجور اور اس کے آل ابی طالب کی طرف میلان کا اظہار کر کے لوگوں کے پاس جانے کا ذکر کیا۔

جب مختار، علی بن حسین سے مایوس ہو گیا تو اس نے ان کے چچا محمد بن حنفیہ کی طرف بھی یہی بات لکھی، علی بن حسین نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں کچھ جواب نہ دیں، کیونکہ

وہ ہم سے اظہارِ محبت کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اور اس کا باطن ، اس کے ظاہر کے خلاف ہے اور وہ ان کے دشمنوں میں سے ہے ، دوستوں میں سے نہیں ، اور ان پر اس کی حقیقت کو واضح کرنا واجب ہے جیسا کہ انہوں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کا اظہار کیا ہے ، پس ابنِ حنیفہ نے آکر ابنِ عباس کو اس بات کی خبر دی تو ابنِ عباس نے انہیں کہا کہ ایسا نہ کرنا ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو ابنِ زبیر سے کیا تعلق ہے چنانچہ ابنِ حنیفہ نے ابنِ عباس کی بات مان لی اور مختار کے عیوب بیان کرنے سے سکوت اختیار کر لیا۔

اور کوفہ میں مختار کا زور بڑھ گیا اور اس کے آدمی بھی زیادہ ہو گئے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اور وہ لوگوں کو ان کی حیثیت اور عقل کے مطابق دعوت دینے لگا ، کسی کو کہتا کہ وہ محمد بنِ حنیفہ کی امامت کی دعوت دے رہا ہے اور کسی کو کہتا کہ اس کے پاس فرشتہ وحی لاتا ہے اور اسے غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس نے حضرت حسینؑ کے قاتلوں کا تعاقب کر کے انہیں قتل کیا اور اس نے عمرو بنِ سعد بن ابی وقاص زہری اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا ، یہی وہ شخص ہے جس نے کربلا کے روز حضرت حسینؑ سے جنگ کی ذمہ داری لی تھی پس اہل کوفہ کا میلان و محبت اس کے ساتھ بڑھ گیا۔

حضرت ابنِ زبیرؓ کا حال | ابنِ زبیرؓ نے خلافت کی خواہش کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی اور عبادت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا

میرا پیٹ صرف ایک بالشت ہے ، دنیا اس میں نہیں سما سکتی اور میں خانہ کعبہ اور رب کی پناہ لینے والا ہوں اور بنی ہاشم کو ان کے بخل کی وجہ سے ان سے بہت تکلیف پہنچی اس بار میں زبیر کا غلام ابو حرہ کہتا ہے ۔

” غلام ، خلیفہ پر عیب لگاتے ہیں اور بھوک اور جنگ کی شکایت کرتے ہیں

اگر کوئی بادشاہ ہم پر غالب آ جائے تو وہ ہمیں کیا تکلیف دے گا۔“

اور یہی غلام ابنِ زبیرؓ سے جدا ہونے کے بعد کہتا ہے ۔

” اور وہ ہمیشہ سورہ اعراف پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرا دل ریشم کی طرح نرم

ہو گیا ، اگر تبرا پیٹ ایک بالشت ہوتا تو تو میرا ہو جاتا اور تو مساکین کو بہت

مال دیتا میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اس کا غلام رہا ہوں اور اس نے مجھے

فلاح کی امید پر ضائع کر دیا ہے، میری زندگی کی قسم حق تلف ہو گیا ہے۔“

پھر کہتا ہے ۷

اے سوار! اگر تو مکہ جاٹے تو عوام کے بڑے بیٹے کو پیغام دے دینا اور اگر تجھ سے پوچھا جاٹے کہ کون سا بیٹا تیری مراد ہے تو تو بتانا کہ وہ جوہر ایک کو کہتا پھرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی پناہ لیے ہوئے ہوں اور مذموم اور رکن کے درمیان بہت قتلام کرتا ہے۔“

اور سخاک بن فیروز دلمی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے ۷

تو ہمیں کہتا ہے کہ تجھے ایک مٹھی غذا کافی ہے اور تیرا پیٹ ایک بالشت یا اس سے کم ہے اور جب تو کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو تو اسے ایسے کھا جاتا ہے جیسے جند کی آگ پیری کی لکڑی کو کھا جاتی ہے اور جب تو آسائش سے رات بسر کرتا ہے تو اس وقت اگر تو کسی قریبی کو جزا دے تو عمرو پر ہر بانی کرنے والا اس کے بعد تجھے اور دے گا۔“

یزید بن معاویہ نے ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو

ابن زبیر اور ان کا بھائی عمرو

مدینہ کا والی مقرر کیا تو وہ وہاں سے ایک فوج لے کر مکہ کی طرف ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے چلا، اس فوج کا سالار اس کا بھائی

عمرو بن زبیر تھا جو عبد اللہ سے منحرف تھا۔ جب جنگ ہوئی تو عمرو کے آدمی شکست کھا گئے

اور انہوں نے عمرو کو چھوڑ دیا اور اس کا بھائی عبد اللہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے اُسے

مسجد الحرام کے دروازے پر بدمعہ کھڑا کر کے اس قدر کوڑے مارے کہ وہ مر گیا۔

عبد اللہ بن زبیر نے حسن بن محمد بن حنفیہ کو

ابن زبیر اور عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ

عادم کے قید خانے میں قید کر دیا یہ قید

خانہ بڑا وحشت ناک اور تاریک تھا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے ایسی تدبیر

کی کہ وہ قید خانے سے بھاگ گیا اور راستے سے ہٹ کر پہاڑوں پر سے ہوتا ہوا منی میں

آ گیا، جہاں اس کا باپ محمد بن حنفیہ موجود تھا اس بارے میں بہت لوگوں نے اشعار

کہے ہیں ۷

تو جس سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی پناہ لی ہوئی ہے

حالانکہ پناہ لینے والا مظلوم تو عارم کے قید خانے میں ہے اور جو شخص اس
شیخ کو منی کے خیف مقام میں دیکھے گا، جان لے گا کہ وہ ظالم نہیں، وہ
نبی اللہ کا ہم نام اور اس کے وصی کا بیٹا ہے اور بیٹریوں کو کھولنے والا
اور تادانوں کا ادا کرنے والا ہے۔“

اور ابن زبیر نے مکہ میں رہنے والے تمام ہاشمیوں کا شعب میں محاصرہ کر لیا اور
ان کے لیے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کیں اگر ان میں آگ کا ایک شرارہ بھی پڑ جاتا تو ان میں
سے ایک آدمی بھی موت سے نہ بچتا اور ان لوگوں میں محمد بن حنفیہ بھی شامل تھے۔

ابن زبیرؓ اور اہلبیت رسولؐ اور نوفلی نے علی بن سلیمان سے اور اس نے
فضیل بن عبد الوہاب کوفی سے اور اس نے

ابو عمر ان رازی سے، اور اس نے فطر بن خلیفہ سے اور اس نے دیال بن حرملہ سے بیان
کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں مختار کی طرف سے اہل کوفہ میں سے ابو عبد اللہؓ
جدلی نے جمع کیا تھا، ہم چار ہزار سواروں کے ساتھ اس کے ساتھ چلے تو ابو عبد اللہؓ نے
کہا کہ یہ بہت زیادہ سوار ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ ابن زبیرؓ کو اطلاع پہنچی تو وہ بنی ہاشم
کا کام تمام کر دے گا پس میرے ساتھ چلو، پس ہم آٹھ سو گھوڑوں کے رسالہ میں اس
کے ساتھ گئے اور ابن زبیرؓ کو اسی وقت پتہ چلا جب جھنڈے اس کے سر پہ لہرا رہے
تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم بنی ہاشم کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شعب میں ہیں،
ہم نے انہیں نکالا تو ابن حنفیہ نے ہمیں کہا، جو تم سے جنگ کرے اس کے ساتھ جنگ
کرنا، اور جب ہم نے ابن زبیرؓ کو دیکھا تو ہم بچھڑ گئے اور اس کی طرف بڑھے تو اس نے
کعبہ کے پر دوں کی پناہ لے لی اور کہنے لگا میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔

اور نوفلی اپنی تاریخ کی کتاب میں ابن عائشہ سے اور اس نے اپنے باپ سے اور
اور اس نے حماد بن سلمہ سے بیان کیا ہے کہ جب میں شعب میں بنی ہاشم کے محاصرے اور
ان کو جلانے کے لیے لکڑیوں کے جمع کرنے کا ذکر ہوتا تو عروہ بن زبیر اپنے بھائی کو معذرت
قرار دیتا اور کہتا کہ اس کا مقصد انہیں خوف زدہ کرنا تھا تا کہ وہ اس کی اطاعت میں داخل
ہو جائیں جب کہ انہوں نے پہلے ہی بیعت کا انکار کر دیا تھا، اس جگہ اس واقعہ کا ذکر
کہنا ضروری نہ تھا، اس کا ذکر ہم نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے جو اہلبیت کے مناقب اور

حالات کے متعلق ہے اور اس کا نام "حدائق الاذمان" ہے۔

اور ابن زبیر نے تقریباً کہتے ہوئے کہا کہ سب لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے اور محمد بن حنفیہ کے سوا کسی نے میری بیعت سے تخلف نہیں کیا، میرے اور اس کے درمیان غروب آفتاب تک کی میعاد ہے پھر میں اُسے گھر سمیت آگ لگا دوں گا، اور ابن عباس نے آ کر ابن حنفیہ کو کہا اے علم زاد میں تیرے بارے میں اس کے متعلق مطمئن نہیں اس لیے اس کی بیعت کر لے، ابن حنفیہ نے جواب دیا اُسے میری جانب سے ایک قومی حجاب روک دے گا، پس ابن عباس سورج کی طرف دیکھنے لگے، اور ابن حنفیہ کی بات کے متعلق سوچنے لگے، اس وقت سورج غروب ہوا چاہتا تھا، پس جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے انہیں ابو عبید اللہ جدلی سواروں کے ساتھ آ ملا، اور انہوں نے ابن حنفیہ سے کہا ہمیں اس کے متعلق اجازت دو مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ایلہ کی طرف چلے گئے اور وہاں کئی سال تک مقیم رہے پھر ابن زبیر قتل ہو گیا۔

اسی طرح، عمر بن شیبہ نمیری نے عطاء بن مسلم سے وہ بات بیان کی ہے جس کے متعلق

ہمیں ابو الحسن ہرانی مصری نے مصر میں اور ابو اسحق جوہری نے بصرہ میں خبر دی تھی اور

ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اُسے بیان کیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابن حنفیہ کے

پاس گئے اور یہ شیعہ کیسائی تھے جو محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں اور کیسائیہ نے

محمد بن حنفیہ کی امامت کے قول کے بعد آپس میں جھگڑا کیا ہے اور ان میں سے بعض

توان کی موت پر قطعی یقین رکھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے اور

وہ "رضوائی" کے پہاڑوں میں زندہ ہیں اور پھر ان میں سے ہر فریق نے اختلاف کیا

ہے اور انہوں نے مختار بن ابی عبید تقفی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اپنا نام

کیسائیہ رکھا ہے کیونکہ اس کا نام کیسان اور کنیت ابو عمرہ تھی اور یہ نام اُسے حضرت علیؑ

نے دیا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ کیسان ابو عمرہ، مختار کے علاوہ کوئی اور شخص ہے

اور ہم نے کیسائیہ کے فرقوں اور دیگر شیعہ فرقوں اور امامت کے گروہوں کے حالات

اپنی کتاب المقالات فی اصول الدیانات میں بیان کیا ہے اور ہم نے ہر فریق کے

اقوال کا ذکر کیا ہے اور جو بات وہ اپنے مذہب کی تائید میں پیش کرتا ہے اُسے بھی

بیان کیا ہے اور ان لوگوں کا قول بھی ذکر کیا ہے جو بیان کرتے ہیں کہ ابن حنفیہ اپنے اصحاب کی

ایک جماعت کے ساتھ شعب رضوی میں داخل ہو گئے ہیں اور اس وقت تک ان کے متعلق کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی۔ اور مؤرخین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ کثیر شاعر کیسانی تھا اور وہ کہتا تھا کہ محمد بن حنفیہ ہی وہ مہدی ہے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ نثر اور ظلم سے بھر لو رہے اور زبیر بن بکار نے اپنی کتاب "النساب قریش" میں انساب آل ابی طالب کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ کثیر اپنے اشعار میں ابن حنفیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے جن کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ

”وہ مہدی ہے اس کے متعلق ہمیں احبار کے بھائی کعب نے گذشتہ صدیوں میں خبر دی ہے جب وہ مجھے بلائے تو اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو ٹھنڈا کرے وہ اللہ کا امین ہے جو سوال میں نرمی برتا ہے اور اس نے میرے خیال میں میری اچھی ثناء کی اور میرے بچوں کا اور میرا حال پوچھا۔“

نیز کثیر ان کے متعلق مزید کہتا ہے کہ

”آگاہ رہو کہ آئمہ قریش میں سے ہیں اور حق کے چاروں والی برابر ہیں، علی اور ان کے بیٹوں بیٹے اسباط ہیں اور یہ ایمان اور نیکی کی سبط ہے اور ایک سبط کو کربلا نے غائب کر دیا ہے اور ایک سبط کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہاں تک کہ وہ ان سواروں کی رہنمائی کرے جن کے پیچھے حفصہ ہے وہ رضوی میں غائب ہو گیا ہے اور ایک عرصے سے ان میں نظر نہیں آ رہا اور اس کے پاس شہد اور پانی ہے۔“

اور سید حمیری جو کیسانی تھا ان کے متعلق کہتا ہے کہ

”وصی سے کہہ دو کہ میری جان آپ پر قربان ہو ”جیل رضوی“ میں آپ کا قیام بہت لمبا ہو گیا ہے اس بات نے اس گروہ کو بڑا نقصان دیا ہے

۱۰۹ ایک نسخہ میں ہے مجھے عمیر نے بتایا۔

جس نے ہم میں سے آپ سے دوستی کی ہے اور آپ کا نام خلیفہ اور امام رکھا ہے اور آپ کے بارے میں انہوں نے سب اہل زمین سے دشمنی کی ہے آپ ان سے مترسال سے غائب ہیں اور ابن خولہ نے موت کا مزا نہیں چکھا اور نہ زمین نے اس کی ہڈیوں کو چھپایا ہے اور وہ رضوی پہاڑ کے پیچھے چلا گیا ہے اور اس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔“

بیز سید جمیری ان کے متعلق مزید کہتا ہے کہ
 اے شعب رضوی جو شخص تیرے پاس ہے اُسے کیا ہو گیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا حالانکہ ہم اس کی محبت میں دیوانے ہوئے جاتے ہیں، کتنی مدت تک یہ صورت حال رہے گی، اے ابن رسول تو زندہ ہے اور تجھے رزق دیا جاتا ہے۔“

اور سید کے اور اشعار بھی ہیں جو ہماری اس کتاب میں نہیں آسکتے۔ علی بن محمد نوفلی نے اپنی کتاب الاحیاء میں بیان کیا ہے جسے ہم نے ابوالعباس بن عمار سے سنا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں جعفر بن محمد نوفلی نے بتایا اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسماعیل ساحر نے بتایا جو سید جمیری کا راوی تھا کہ سید کیسایتہ کے اعتقاد پر مرا اور اس نے اس قصیدہ کے بارے میں، جس کا پہلا مصرعہ یہ ہے کہ ”میں اللہ کے نام کے ساتھ جعفری ہو گیا ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے۔“

کہا ہے کہ یہ اس کا قول نہیں، اور عمر بن شیبہ جمیری نے مساد بن سائب سے بیان کیا ہے کہ ابن زبیر نے چالیس روز خطبہ دیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ان پر درود پڑھنے سے کوئی چیز مانع نہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں میں اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔

ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے درمیان گفتگو | سعید بن جبیر بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن عباسؓ، ابن زبیرؓ کے پاس گئے تو ابن

زبیرؓ نے انہیں کہا آپ ہی ہیں جو مجھے ڈانٹتے اور سخیل قرار دیتے ہیں؟ ابن عباسؓ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو سیر ہو اور اس کا بیٹا کسی بھوکا ہو، ابن زبیرؓ نے کہا کہ میں اس گھرانے

سے تمہارے بغض کو چالیس سال سے چھپائے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان لمبی گفتگوئیں ہوئیں اور ابن عباس اپنی جان کے خوف سے مکہ سے طائف چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے یہ واقعہ عمر بن شبہ نمیری نے سوید بن سعید سے بیان کیا ہے جو اسے سعید بن جبیر تک پہنچاتے ہیں جسے ہم سے ہرانی نے مصر میں اور کلابی نے بصرہ میں بیان کیا تھا اور ان دونوں کے علاوہ بھی لوگوں نے اسے عمرو بن شبہ سے بیان کیا ہے۔

ابن حنفیہ اور ابن زبیر کے درمیان نوک جھونک

نوفلی نے اپنی کتاب الاخبار میں ولید بن ہشام مخزومی سے

بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ابن زبیر نے خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دے کی یہ خبر ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو پہنچی تو وہ آگے بھاگے یہاں تک کہ اس کے سامنے ان کی کرسی رکھ دی گئی اور وہ اس پر چڑھ گئے اور کہنے لگے اے گروہ قریش! تم روسیاء ہو جاؤ کیا تمہاری موجودگی میں علی رضی اللہ عنہ کے نقائص بیان کیے جائیں گے، یقیناً علی رضی اللہ عنہ ایک کتنا تیر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر پھینکا تھا جو ان کے کفر کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا تھا اور جو ان کے کھانے پر ان کو قے کرا دیتا تھا اور یہ بات انہیں گراں گزرتی تھی پس انہوں نے آپ پر جھوٹی تمتمیں لگائیں اور ہم اس کی پارٹی ہیں جو اس کے بلند احکام پر چلتے ہیں اور انصار کے عمدہ آدمیوں کے بیٹے ہیں اگر ہمیں کبھی حکومت ملی تو ہم ان کی ہڈیوں کو بکھیر دیں گے اور ان کے جسموں کو ننگا کر دیں گے اور اس وقت ان کے جسم بوسیدہ ہو چکے ہوں گے اور ظالموں کو نپتہ چل جائے گا کہ وہ کونسی جگہ جا رہے ہیں پھر ابن زبیر نے دوبارہ تقریر شروع کی اور کہا میں بنی فواطم کو باتیں کرنے میں معذور سمجھتا ہوں، ابن حنفیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ محمد نے کہا اسے ابن ام رومان! میں کیوں بات نہ کروں؟ کیا فاطمہ بنت محمد میرے باپ کی بیوی اور میری بہن کی ماں نہیں اور کیا فاطمہ بنت اسد بن ہاشم میری دادی نہیں اور کیا فاطمہ بنت عمرو بن عائد میرے باپ کی دادی نہیں؟ خدا کی قسم اگر خدیجہ بنت خویلد نہ ہوتی تو میں بنی اسد کی ہر ہڈی کو توڑ دیتا، اور اگر مجھے اس راہ میں تکالیف آتیں تو میں صبر کرتا۔

ابن زبیر کا، ابن عباس کے نقائص بیان کرنا

ہمیں ابن عمار نے، علی بن محمد بن سلیمان نوفلی سے بتایا وہ کہتا تھا کہ مجھے ابن

عائشہ اور عتبہ نے اپنے باپوں کے طریق سے بتایا اور ان دونوں کے الفاظ قریباً قریباً ایک جیسے ہی تھے کہ ابن زبیر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو منعہ کے متعلق فتوے دیتے ہیں اور حواری رسول اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تنقیص کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کی طرح اندھا کر دیا ہے اور وہ ابن عباس پر تعریض کر رہا تھا، ابن عباس نے کہا اے جو ان! میری طرف متوجہ ہو، ابن زبیر نے کہا اے

”جس نے ریچھ کو تیرا مارا اس نے انصاف کر دیا جب ہم کسی کو وہ سے جنگ میں ملتے ہیں تو اس کے پہلے حصے کو پچھلے حصے کی طرف لوٹا دیتے

ہیں۔“

اور منعہ کے متعلق تو نے جو کہا ہے اس کے متعلق اپنی ماں سے پوچھو وہ تجھے بتائے گی کیونکہ منعہ کی پہلی انگلیٹھی اس انگلیٹھی سے روشن ہوئی جو تیری ماں اور تیرے باپ کی تھی اس کی مراد منعہ الحج سے ہے اور تیرا ”ام المومنین“ کہنا، ہماری وجہ سے ہے یعنی تو ہماری وجہ سے حضرت عائشہ کو ام المومنین کہہ رہا ہے اور ہماری وجہ سے ہی اس پر حجاب کا حکم لگایا گیا اور یہ جو تو نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری، تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ میں تیرے باپ سے جنگ میں ملا تھا اور اس وقت میں امام ہدایت کے ساتھ تھا اور اگر وہ ایسا تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں تو اس نے ہم سے بھاگ کر کفر کیا ہے پس ابن زبیر رضی اللہ عنہما خاموش ہو گیا اور اپنی ماں اسماءؓ کے پاس چلا گیا اور اسے ان باتوں کی اطلاع دی تو اس نے کہا اس نے درست کہا ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ اس واقعہ میں بڑوہ اور عوسجہ کے بیان سے کچھ افضلے بھی ہیں ہم نے سب واقعہ کو اور جو کچھ لوگوں نے منعہ النساء اور منعہ الحج کے بارے میں کہا ہے بیان کر دیا ہے اور اس بارے میں ان کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے منعہ کو اور پالتو گدھوں کو خبیر کے سال حرام قرار دیا تھا اسے بھی بیان کیا ہے اور ربیع بن سبرہ نے جو حدیث اپنے باپ سے بیان کی ہے اور اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے نیز حضرت عمرؓ کے قول کا بھی ذکر کیا ہے کہ ”منعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔“ اور اگر میں نے پہلے منع کیا ہوتا تو اس کے کرنے والے سے ایسا ایسا سلوک کرتا، اور جو جابرؓ سے روایت کی گئی ہے کہ ہم رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع زمانے میں متعہ کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کی دیگر باتوں کو اپنی کتاب الاستبصار اور "الصفوة" اور "الواجب فی الفروض اللوازم" میں بیان کیا ہے اور پاؤں کے دھونے اور مسح کرنے اور موزوں پر مسح کرنے اور طلاق سنت اور طلاق عدت اور طلاق تعدی کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے اُسے بھی بیان کیا ہے۔ نوفلی نے ابی عاصم سے اور اس نے ابن جریر سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے منصور بن ثیبہ نے صفیہ بنت ابی عبید سے اور اس نے اسماء بنت ابی بکر سے بتایا وہ کہتی تھیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں آئے تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حلال ہو گئی اور میں نے کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو لگائی یہاں تک کہ میں زبیر کے پہلو میں آ بیٹھی، اس نے مجھے کہا اٹھ کر چلی جاؤ۔ میں نے کہا تجھے کس بات کا ڈر ہے اس نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ میں تجھ پر سوار نہ ہو جاؤں، اور یہی ابن عباس کی مراد تھی۔

اور اس حدیث کو نوفلی کے علاوہ بھی لوگوں نے ابی عاصم سے بیان کیا ہے اور لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے بعض کا خیال ہے کہ آپ کی مراد متعہ الحج سے تھی کیونکہ زبیر نے اسماء کے ساتھ باکرہ ہونے کی حالت میں اسلام میں شادی کی تھی، پس اس سے مراد متعہ النساء کیسے ہو سکتا ہے۔

ابن زبیر اور حصین بن نمیر کے درمیان مکالمہ

جب یزید بن معاویہ فوت ہو گیا اور معاویہ ابن یزید حکمران بنا تو اس کی

خیر حصین بن نمیر اور ان شامیوں کو بھی پہنچ گئی جو اس کی فوج میں موجود تھے اس وقت وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا لہذا انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور مکہ میں اتر پڑے اور حصین نے عبداللہ سے مسجد میں ملاقات کی اور اُسے کہا اے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کو شام لے جاؤں اور آپ کی بیعت خلافت لوں، عبداللہ نے بلند آواز سے کہا، کیا اہل حرہ کے قتل کے بعد ایسا ہو سکتا ہے نہیں خدا کی قسم جب تک میں ہر آدمی کے عوض پانچ شامیوں کو قتل نہ کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا، حصین نے کہا اے ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تجھے دانا خیال کرتا ہے وہ احمق ہے، میں تجھ سے آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور تو مجھ سے

بلند آواز سے بات کرتا ہے، میں تجھے خلیفہ بنانے کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ جنگ ختم ہو جائے اور تو خیال کرتا ہے کہ تو ہم سے جنگ کر رہا ہے، عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کون قتل ہوتا ہے اور شامی، حصین کے ساتھ اپنے ملک کی طرف واپس چلے گئے، پھر جب وہ مدینہ کی طرف گئے تو اہل مدینہ ان پر آواز دے گئے اور انہیں دھمکیاں دینے لگے اور اپنے حرہ کے مقتولین کو یاد کرنے لگے پس جب یہ بات بڑھ گئی اور فتنہ کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تو روح بن زبیر نے جو اس فوج میں موجود تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھ کر کہا اے اہل مدینہ یہ تم ہمیں کیا دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نے آپ لوگوں کو کلب کے کسی آدمی کی بیعت کی دعوت نہیں دی اور نہ ہی بلقیں، لخم اور جذام اور نہ کسی اور عرب اور ان کے کسی حلیف کی بیعت کی دعوت دی ہے بلکہ ہم نے آپ کو قریش کے اس قبیلے یعنی بنو امیہ کے ایک آدمی کی طرف دعوت دی ہے اور پھر زبیر بن معاویہ کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اور اسی کی اطاعت پر ہم نے تم سے جنگ کی ہے، پس تم ہمیں ہی دھمکیاں دیتے ہو؟ خدا کی قسم ہم بڑے نیرہ باز اور موت کو ترجیح دینے والے ہیں، تم کیا چاہتے ہو، اور یہ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔

ابن زبیر کا ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ کو تعمیر کرنا

صنعا سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ رنگ برنگ چھوٹے چھوٹے پتھر لائے گئے جنہیں ابراہیم حبشی نے اپنے تعمیر کردہ گرجے میں لگایا تھا اور ان کے ساتھ سنگ مرمر کے تین نقش و نگار والے ستون بھی تھے جن کے نقوش میں سندروس (ایک قسم کا گوند) اور کئی قسم کے رنگ بھرے گئے تھے، اس سنگ مرمر کو دیکھنے والا اسے سونا خیال کرتا تھا، ابن زبیر نے قریش کے ستر شیوخ کی موجودگی میں کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا کیونکہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اس وقت ان کے اخراجات ختم ہو گئے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی وسعت کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اساس سے سات ہاتھ کم کر دیا تھا ابن زبیر نے تعمیر کے وقت مذکورہ ہاتھوں کا اضافہ کر لیا اور اس میں رنگ برنگے پتھر ڈالے اور ستون بنائے اور اس کے دو دروازے بنائے ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے ایک اور دروازہ باہر جانے کے لیے کعبہ کی تعمیر اسی طرح قائم رہی یہاں تک کہ حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور اس نے عبدالملک بن مروان

کو لکھا کہ ابن زبیر نے بیت اللہ میں یہ اضافہ کیا ہے تو عبد الملک نے اس کے گرانے کا حکم دے دیا اور اُسے دوبارہ اسی جگہ جس جگہ پر تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں وہ قریش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نیز حجاج کو ایک دروازہ بنانے کا حکم دیا تو اس نے تعمیل حکم کی۔ ابن زبیر کی حکومت مضبوط ہو گئی اور شام میں ان کی بیعت لی گئی اور طبرستان کے سوا، دیگر اسلامی منابر پر اس کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ لیکن حسان بن مالک بن بجدل نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار کر دیا اور خالد بن یزید بن معاویہ کی بیعت کا ارادہ کیا، مکہ میں ابن زبیر کی بیعت کا متولی عبد اللہ بن مطیع العدوی تھا اس بارے میں قضاعہ اسدی کہتا ہے جس نے ابن زبیر کی بیعت کر کے پھر اُسے توڑ دیا تھا۔

”ابن مطیع نے مجھے بیعت کی دعوت دی تو میں اس کے پاس آیا اور میرا دل اس بیعت سے مانوس نہیں تھا، پس اس نے مجھے کھڑو راہا تھ پکڑا یا اور جب میں نے اُسے اپنے ہاتھ سے چھو تو وہ خلفاء کے ہاتھوں میں سے نہ تھا۔“

عبید اللہ بن زیاد اور خلافت | یزید بن معاویہ اور معاویہ بن یزید فوت ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد لبصرہ کا امیر تھا اس نے تقریر کر کے لوگوں کو ان

دونوں کی موت کی اطلاع دی اور یہ کہ ان میں سے کسی کو بھی شور مئی کے مشورے سے خلیفہ نہ بنایا گیا تھا اور کہنے لگا آج کوئی علاقہ تمہارے علاقے سے وسیع نہیں اور نہ کسی کی تعداد تم سے زیادہ ہے اور نہ کسی کے پاس تم سے زیادہ مال ہے، تمہارے بیت المال میں ایک کروڑ درہم موجود ہے اور تمہارے جانباز ساٹھ ہزار ہیں، اور ان کا اور ان کے عیال کا عطیہ ساٹھ لاکھ ہے پس تم اپنی پسند کے آدمی کو تلاش کرو جو تمہارے کام کو سنبھالے اور تمہارے دشمنوں سے لڑے اور تمہارے مظلوم کا انصاف کرے اور تمہارے درمیان اموال کو تقسیم کرے تو لبصرہ کے اشراف میں سے احنف بن قیس تمیمی، قیس بن المثنم سلمی اور سمع بن مالک العبیدی نے اُسے جا کر کہا اے امیر! ہم تیرے سوا، کسی آدمی کو ایسا نہیں پاتے، اس نے کہا اگر تم میرے سوا کسی اور کو عامل بناتے تو میں اس کی سمع و اطاعت کرتا۔

نوٹہ کا اس کی اطاعت سے انکار کرنا | عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمرو بن حریت

خزاعی کوفہ کا عامل تھا عبید اللہ بن زیاد نے اُسے لکھا کہ بصرہ کے لوگوں نے مجھے امیر بنا لیا ہے نیز اُسے حکم دیا کہ وہ بھی کوفیوں کو حکم دے کہ وہ بھی اہل بصرہ کی طرح اس کی اطاعت میں آ جائیں چنانچہ عمرو بن حرث نے منبر پر چڑھ کر تقریر کی اور لوگوں کو اہل بصرہ کے متعلق بتایا کہ وہ عبید اللہ کی اطاعت میں داخل ہو چکے ہیں تو یزید بن رویم شیبانی نے کھڑے ہو کر کہا خدا کا شکریہ ہے جس نے ہماری فتموں کو آزاد کیا ہے ہمیں بنی امیہ کی ضرورت نہیں اور نہ ابن مرجانہ کی امارت کی ضرورت ہے (مرجانہ عبید اللہ کی ماں کا نام ہے) اور اس کے باپ زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا جیسا کہ ہم نے بھی بیان کیا ہے (بیعت صرف اہل حجاز کی ہے پس اہل کوفہ بنی امیہ کی ولایت اور ابن زیاد کی امارت سے دست بردار ہو گئے اور انہوں نے غور کر کے اپنا امیر مقرر کرنے کا ارادہ کیا، ایک پارٹی نے کہا کہ عمرو بن سعد بن ابی وقاص امارت کا اہل ہے جب انہوں نے اُسے امیر بنانے کا ارادہ کیا تو ہمدان، کہلان، انصار، ربیعہ اور نضج کی عورتیں روتی، چلاتی اور حسینؑ کا نوحہ کرتی ہوئی جامع مسجد میں داخل ہو گئیں اور کہنے لگیں کیا عمرو بن سعد قتل حسین سے راضی نہیں ہوا کہ اس نے ہم پر کوفہ کا امیر بننا چاہا ہے۔ لوگ دوپڑے اور انہوں نے عمرو سے منہ پھیر لیا۔ اور ان میں سب سے نمایاں ہمدان قبیلے کی عورتیں تھیں اور حضرت علی علیہ السلام ہمدان کی طرف بڑا میلان رکھتے تھے اور انہیں ترجیح دیتے تھے اور کہتے تھے

”اگر میں جنت کے دروازے پر دربان ہوتا تو ہمدان قبیلہ سے کہتا کہ سلامتی

کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

اور فرمایا ہے

”میں نے ہمدان کو تیار کیا اور انہوں نے حمیر کو تیار کیا۔“

صفین میں ان سے ایک آدمی بھی معاویہ اور اہل شام کے ساتھ نہ تھا۔ ہاں غوطہ دمشق کے کچھ لوگ شامل تھے، غوطہ ایک بستی ہے جو عین ثرما کے نام سے مشہور ہے اس وقت یعنی ۳۳۲ھ تک ان میں سے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں۔

جب ابن زبیر کو اہل کوفہ کے متعلق اطلاع ملی تو انہوں نے جیسا کہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں عبد اللہ بن مطیع العدوی کو ان کی طرف بھیجا تو اس نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی یہاں تک کہ مختار اس کے پیچھے پیچھے گیا۔

مروان بن الحکم کی تدبیر | جب مروان بن الحکم نے دیکھا کہ لوگ ابن زبیر کی بیعت پر متفق ہیں اور اس کی بات کو قبول کرتے ہیں تو اس نے بھی ان کے ساتھ مل جانے کا ارادہ کیا مگر عبید اللہ بن زیاد نے اس کے شام آنے پر اسے اس بات سے روک دیا اور کہا کہ تو بنی عبد مناف کا شیخ ہے اس لیے جلد بازی نہ کر، مروان جابیہ کی طرف چلا گیا جو جولان کے علاقے میں دمشق اور اردن کے درمیان واقع ہے اور صخاک بن قیس فہری نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور ان کا سردار بن گیا اور مروان سے الگ ہو گیا اور دمشق جانا چاہا مگر اس سے پہلے عمرو بن سعید اشدق وہاں پہنچ گیا اور صخاک نے حوران اور البثنہ کی طرف جا کر ابن زبیر کی دعوت کا پرچار کیا اور اشدق اور مروان کی ملاقات ہوئی تو اشدق نے مروان سے کہا، کیا جو بات میں تمہیں کہتا ہوں تم اس میں میری اور اپنی بھلائی سمجھتے ہو؟ مروان نے کہا وہ کیا بات ہے، اس نے کہا میں لوگوں کو اس شرط پر تیری طرف دعوت دیتا ہوں اور تیرے لیے ان کی بیعت لیتا ہوں کہ تیرے بعد حکومت میرے لیے ہوگی، مروان نے کہا، نہیں، بلکہ خالد بن یزید بن معاویہ کے بعد ہوگی۔ اشدق اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مروان کی بیعت کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا پھر اشدق، اردن میں حسان بن مالک کے پاس گیا اور اسے مروان کی بیعت کی رغبت دلائی تو وہ بیعت کرنے پر مائل ہو گیا۔

مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی بیعت کی گئی اس کی کنیت ابو عبد الملک تھی اور اس کی ماں آمنہ بنت علقمہ بن صفوان تھی اور یہ اس وقت اردن میں تھا یہ سب سے پہلا شخص ہے جس کی اہل اردن نے بیعت کی اور اس کی بیعت مکمل ہو گئی، کہتے ہیں کہ مروان پہلا شخص تھا جس نے ایک جماعت کی رضامندی کے بغیر بزور شمشیر بیعت لی اور ان چند لوگوں کے سوا جنہوں نے اسے اس بات پر آمادہ کیا تھا باقی سب لوگوں نے اسے اس بات سے ڈرایا اور مروان کے سوا، پہلے لوگوں نے اعوان و انصار اور تعداد کے ساتھ لوگوں کی بیعت لی تھی اور اس نے اس طرح لی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

اور مروان نے اپنے بعد خالد بن یزید اور خالد کے بعد عمرو بن سعید اشدق کے لیے بیعت لی، مروان کو لوگ "خیط باطل" کا لقب دیتے تھے اس بارے میں اس کا بھائی عبدالرحمن بن الحکم کہتا ہے

”اللہ تعالیٰ اس قوم پر لعنت کرے جس نے لوگوں پر حیث باطل کو امیر بنا دیا ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا اُسے نہیں دیتا۔“

اور حسان بن مالک نے — جو شام میں قحطان کا سردار تھا —

مروان پر وہ شرط عائد کیں جو اس نے معاویہ، اس کے بیٹے یزید اور اس کے بیٹے معاویہ بن یزید پر عائد کی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ ان کے دو ہزار آدمیوں کے لیے دو ہزار روپے تنخواہ مقرر کرے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کا بیٹا اور اس کا عم زاد کھڑا ہوگا اور یہ کہ انہیں امر و نہی اور آگے بٹھانے کا حق حاصل ہوگا اور ہر کام ان کی رائے اور مشورے سے ہوگا تو مروان نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ مالک بن ہبیرہ بشکری نے اُسے کہا کہ ہماری گردنوں میں تمہاری بیعت کا جو نہیں ہوگا۔ اور ہم صرف دنیاوی مال کے لیے جنگ کریں گے اور اگر تو ہمارے ساتھ معاویہ اور یزید کی طرح سلوک کرے تو ہم تیری مدد کریں گے اور اگر تو نے کوئی اور روش اختیار کی تو خدا کی قسم ہمارے نزدیک انسب قریش برابر ہیں تو مروان نے اس کے مطالبے کو مان لیا۔

مروان، صخاک بن قیس فہری کی طرف جنگ کے لیے گیا اور قیس اور دیگر مہری اور نزار وغیرہ

مروان اور صخاک بن قیس کی جنگ

صخاک کے ساتھ مل گئے تھے اور اس کے ساتھ قنعاہ کے لوگ بھی تھے جن کا سردار وائل بن عمرو العدوی تھا اور اس کے پاس وہ جھنڈا بھی تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے لیے باندھا تھا اور صخاک اور اس کے ساتھیوں نے ابن زبیر کی خلافت کا اظہار کیا اور مروان اور صخاک اور ان دونوں کے ساتھیوں کی جنگ دمشق سے چند میل کے فاصلے پر مرج راہط میں ہوئی، اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں جن میں کبھی کسی کا اور یمانیوں اور ان کے جنگلی لوگوں نے جو مروان کے ساتھ تھے ان پر حملہ کر دیا تو ابن زبیر کی فوج کا سالار قیس بن صخاک قتل ہو گیا جسے تیم اللات کے ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کے ساتھ جو نزاری تھے وہ بھی قتل ہو گئے اور قیس کے آدمیوں میں بہت قتلام ہوا جس کی مثال

کبھی نہیں دیکھی گئی اس بارے میں مروان بن الحکم کہتا ہے —
 ”جب میں نے دیکھا کہ لوگ تو مجسم جنگ بن گئے ہیں اور مال غضب کرنے کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا، تو میں نے غسان، کلب اور سکستین کے

آدمیوں کو بلایا جو بڑے سخت آدمی ہیں، اور قبیلہ بھی ایک طرف ہو کر چل رہا تھا اور دہلی اور ٹنیاں چھلانگیں مار رہی تھیں جو سرداروں اور سخت اطاعت گزار لوگوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔“

اور اس بارے میں اس کا بھائی عبدالرحمن بن الحکم کہتا ہے کہ
”میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل مرج کی باتیں، اہل فرات، اہل فیض اور نیل کے رہنے والوں تک پہنچ چکی ہیں۔“

اور زفر بن حارث عامری ثم الکلابی، صخاک کے ساتھ تھا، جب تلوار چلتی چلتی دور تک اس کی قوم میں چلی گئی تو وہ بھاگ گیا اور اس کے ساتھ بنو سلیم کے بھی دو آدمی تھے اس نے ان دونوں کے گھوڑوں کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور ان دونوں کو مردان کے یمانی سواروں نے آپلایا، ان دونوں نے صخاک سے کہا تم اپنی جان بچاؤ، ہم دونوں مارے جائیں گے پس وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگ گیا اور ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور اس دن کے بارے میں زفر بن حارث کلابی نے بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں سے یہ شعر بھی ہے

”میری زندگی کی قسم کہ راہط کی جنگ نے مردان کے لیے خونریز دشمنی چھوڑی ہے اور روڑی پر بھی سبزہ آگ آنا ہے لیکن دلوں کی کجی باقی رہتی ہے، تیرا باپ نہ رہے مجھے اپنے ہتھیار دکھا، میں جنگ کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں کیا وہ کلبی چلے جائیں گے جنہیں ہمارے تیر نہیں لگے اور راہط کے مقتول بونہی پڑے رہیں گے، اور تو نے اس سے پہلے میرے فرار اور اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑنے کی غلطی کو نہیں دیکھا؟ اور اس شب، جب میں دو جماعتوں کے ساتھ جا رہا تھا میں نے اپنے مخالفوں اور موافقوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا اگر میں نے اس سے بڑائی کی ہے تو کیا وہ ایک دن، میرے اچھے دنوں کو برباد کر دے گا، کیا ابن عمرو اور ابن معن اور ہمام کے پے در پے قتل ہونے کے بعد مجھے کوئی خواہش رہ سکتی ہے۔“

لوگ اپنی فوجوں کے ساتھ ان لوگوں سے جا ملے جو ارض شام کے معرکہ میں موجود تھے، نعمان بن بشیر حمص کا والی تھا اور اس نے صخاک کی مدد کرتے ہوئے ابن زبیر کے

حق میں تقریب کی اور جب اُسے اس کے قتل ہو جانے اور زبیری فوجوں کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ حمص سے بھاگ گیا اور شب بھر حیران و ششدر ہو کر چلتا رہا، خالد بن عدی الکلاعی نے اس کا تعاقب کیا اور وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو حمص سے اس کے ساتھ چلے تھے، اس نے اُسے مل کر قتل کر دیا اور اس کے سر کو مروان کے پاس بھیج دیا اور زفر بن حارث کلابی شکست کھا کر قرقیسیا پہنچ گیا اور وہاں پر حکمران بن گیا اور مروان کے لیے شام درست ہو گیا تو اس نے اپنے آدمی اور کازند سے اس میں پھیلا دیے۔ پھر مروان شام سے اپنی فوج کے ساتھ اہل مصر کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا اور قبرستان کے پاس ایک خندق کھودی، یہ لوگ زبیری تھے اور ابن زبیر کی طرف سے ان کا رئیس عبدالرحمن بن عتبہ بن جعدم تھا، اس وقت فسطاط کا لیڈر اور سردار ابو شد بن کریب بن ابہہ ابن الصباح تھا ان کے اور مروان کے درمیان معمولی جھڑپ ہوئی وہ صلح پر راضی ہو گئے تو مروان نے اکید بن الحمام کو جو مضر کا شہسوار تھا، باندھ کر قتل کر دیا اور ابو شد نے مروان سے کہا خدا کی قسم اگر تو چاہے تو ہم شہر میں اس کے لیے نئے سرے سے سولی تیار کریں مروان نے کہا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں اور وہاں سے واپس چلا گیا اور مھر پر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو عامل مقرر کر گیا۔

مروان شام آیا تو طبرہ سے دو میل کے فاصلے پر حمیرہ میں فروکش ہوا جو اردن کے علاقے میں ہے اور حسان بن مالک کو بلایا اور اُسے ترغیب و ترہیب دی تو حسان نے لوگوں میں تقریب کرتے ہوئے انہیں مروان کے بعد عبدالملک بن مروان اور عبدالملک کے بعد عبدالعزیز بن مروان کی بیعت کی دعوت دی اور کسی نے اس کی مخالفت نہ کی۔

۱۲۵ھ میں مروان، دمشق میں فوت ہوا مؤرخین اور

مروان بن الحکم کی موت

اصحاب سیر اور ان کے حالات سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے اس کی موت کے سبب کے متعلق اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ نیزہ لگنے سے فوت ہوا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فاخہ بنت ابی ہاشم بن عتبہ نے جو خالد بن یزید بن معاویہ کی ماں تھی، اُسے قتل کیا تھا کیونکہ مروان نے پہلے اپنے اور اپنے بعد خالد بن یزید اور خالد کے بعد عمرو بن سعید کے لیے بیعت لی اور پھر حالات کو دیکھ کر اس میں تبدیلی کر دی اور اپنے بعد اپنے

بیٹے عبد الملک اور عبد الملک کے بعد عبد العزیز کے لیے بیعت لی تو خالد بن یزید نے اس کے پاس آکر سختی سے گفتگو کی تو وہ اس سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا اے رطبہ کے بیٹے تو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مروان نے اسے ذلیل کرنے کے لیے اس کی ماں فاخرہ سے شادی کر لی تھی خالد نے اپنی ماں کے پاس آکر مروان کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اُسے برا بھلا کہا اور مروان سے اُسے جو سبکی اٹھانی پڑی تھی اس کے بارے میں اس سے شکایت کی، اس کی ماں نے کہا اس کے بعد وہ تجھے عیب نہیں لگائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے اس کی ناک پتہ تکبیر دکھ دیا اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ اس کے اُوپر بیٹھ گئی یہاں تک کہ وہ مر گیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے اس کے لیے زہر آلود دودھ تیار کیا اور جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اُسے وہ دودھ دیا جسے اس نے پی لیا، تو اس کی جان نکلنے لگی۔ اس کی زبان بند ہو گئی، عبد الملک اور اس کے دوسرے بیٹے اس کے پاس آئے تو مروان نے اپنے سر کے ساتھ اُم خالد کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس نے اُسے قتل کیا ہے اور اُم خالد کہنے لگی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں کہ تو نزع کے وقت بھی مجھے نہیں بھولا، وہ تم کو میرے متعلق وصیت کر رہا ہے پھر وہ مر گیا اس کی خلافت نو ماہ چند دن رہی اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ماہ رہی اور بعض نے اس کے علاوہ کچھ اور مدت بھی بیان کی ہے جسے ہم بنو امیہ کی مدت حکومت کے ذکر کے وقت بیان کریں گے انشاء اللہ۔

مروان کے خصائل | مروان ۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوا اس کی عمر کے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا تھا اور اس کی پیدائش ہجرت کے دو سال بعد ہوئی وہ اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے تین ماہ بعد مر گیا اور ابن حنیئم نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مروان آٹھ سال کا تھا اور مروان کے بیس بھائی اور آٹھ بہنیں تھیں اور اس کے گیارہ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں لڑکوں کے نام یہ ہیں عبد الملک، عبد العزیز، عبد اللہ، ابان، داؤد، عمر، ام عمر، عبد الرحمن ام عثمان، عمرو، ام عمرو، بشر، محمد اور معاویہ، اور ان میں سے کس کی اولاد ہوئی اور کون لاد لہ رہا اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

یزید بن معاویہ کی اولاد | یزید بن معاویہ نے اپنے پیچھے مروان سے بھی زیادہ اولاد چھوڑی اس نے معاویہ، خالد، عبد اللہ اکبر، ابو سفیان

عبداللہ اصغر، عمر، عاتکہ، عبدالرحمن عبداللہ جس کا لقب اصغر تھا، عثمان، عقبہ اعور، ابوبکر، محمد یزید، ام یزید، ام عبدالرحمن اور رطلہ کو اپنے چھپے چھوڑا۔
اس کے باپ معاویہ بن ابی سفیان نے جو اولاد چھوڑی اس کے نام یہ
معاویہ کی اولاد ہیں عبدالرحمن، یزید، عبداللہ، ہندا، رطلہ اور صفیہ۔

عبدالملک بن مروان کے دور حکومت کا بیان

مختصر حالات
عبدالملک بن مروان کی بیعت یکم رمضان ۶۵ھ کو ہوئی اس نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کے لیے مکہ بھیجا اور عبداللہ ۱۰ جمادی الآخرہ ۶۳ھ کو منگل کے روز قتل ہوئے ابن زبیر کی حکومت نو سال دس راتیں رہی ہم اسی کتاب میں آگے چل کر بنی امیہ کی مدت حکومت کے بیان کے موقع پر ابن زبیر کی مدت حکومت کا بھی ذکر کریں گے، شعبان ۱۲ھ میں ابن اشعث کا فتنہ برپا ہوا اور عبدالملک بن مروان ۱۴ شوال ۱۶ھ کو ہفتہ کے روز دمشق میں فوت ہوا، بیعت کے روز سے لے کر وفات تک اس کی حکومت ۲۱ سال ڈیڑھ ماہ بنتی ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے بعد زندہ رہا اور ۱۳ سال ۳ ماہ ۲۳ دن لوگ اس کی حکومت پر متفق رہے اور ہم عنقریب بیان کریں گے کہ اس نے کیا کچھ کیا جب لوگ اس کے موافق تھے، وہ چھیاٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر اس سے زیادہ تھی وہ شعر مدح، فخر اور تقریب کو پسند کرتا تھا، بڑا بخیل تھا اور خونریزی کا دلدادہ تھا اس کے کارندے بھی ایسے ہی تھے جیسے حجاج عراق میں مہلب خراسان میں، اور ہشام بن اسماعیل مدینہ میں اور دیگر مقامات پر بھی اس کے کارندے اسی قسم کے تھے، حجاج ان سب سے زیادہ خونریز تھا اور اس باب کے ساتھ ہی ہم جامع طور پر اس کا ذکر کریں گے۔

۱۷ ایک نسخہ میں باسٹھ سال مذکور ہے۔

عبدالملک کے حالات و واقعات کا ذکر

اس کے دور کی ایک جھلک اور عجیب غریب واقعات کا بیان

عبدالملک کے ساتھ شعبی کی ہم نشینی | جب عبدالملک کو حکومت مل گئی تو اسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے حالات

سے آگاہ ہونے کا شوق ہوا تو اسے شعبی کے سوا ہم نشینی کے لیے کوئی مناسب آدمی نہ ملا۔

اور جب اسے اس کے پاس لایا گیا اور اس سے ہم نشینی کی اور اس کے ہاں صاحب مرتبہ ہو گیا۔

تو اس نے اسے کہا اے شعبی! بڑی بات میں میری مدد نہ کرنا اور میری مجلس میں میری غلطی کو

نہ دہرانا اور مجھے مبارک باد، چھینک اور سوال کا جواب دینے اور تعزیت کا مکلف نہ کرنا،

اور نہ اس بات سے غرض رکھنا کہ امیر صبح و شام کیا کرتا ہے اور مجھ سے اتنی بات کرنا جتنی

میں جا ہوں اور میری مدح کی بجائے مجھ سے درست بات سنانا اور یہ بات سمجھ لے کہ صبح

سنانا، صبح کہنے سے بڑی بات ہے اور جب تو مجھے گفتگو کرتے سنے تو کوئی چیز تجھ

سے رہ نہ جائے میری بات توجہ سے سنانا، اور تو مجھے اپنی آنکھ اور کان سے بنانا

کہ تو میری بات کو سمجھ گیا ہے اور میرے جواب میں طمع سازی نہ کرنا اور نہ اس میں اضافہ کرنا۔

کیونکہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو بادشاہوں کو جھوٹی باتوں میں لگا کر تھکا دیتا ہے اور

اس سے بڑا وہ ہے جو ان کے حق کو حقیر خیال کرتا ہے اور اسے شعبی جان لے کہ اس سے

کمزورہ شخص ہے جو گزشتہ احسان کو برباد کرتا ہے اور حرمت کے حق کو ساقط کرتا

ہے اور بسا اوقات خاموشی اختیار کرنا، بولنے سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے نیز صبح بات

کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔

ہواؤں کے چلنے کی جگہ | ایک روز عبدالملک نے شعبی سے کہا، ہوا کہاں سے

چلتی ہے اس نے جواب دیا امیر المؤمنین مجھے

علم نہیں، عبدالملک نے کہا شمال میں چلنے کی جگہ نبات النعش (ستاروں کے نام)

کے طلوع کی جگہ سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک ہے اور باد صبا کے چلنے کی جگہ

سُورُج کے طلوع ہونے کی جگہ سے سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ تک ہے اور جنوبی ہوا سے چلنے کی جگہ سہیل کی جائے طلوع سے سُورُج کے غروب ہونے کی جگہ تک ہے اور مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا کی جگہ سُورُج کے غروب ہونے کی جگہ سے بنات النعش کے طلوع ہونے کی جگہ تک ہے۔

۱۵۰ میں کو فہم شیعوں میں لچل مچی اور انہیں حضرت حسین علیہ السلام کے شیعہ تحریک قتل کرنے اور ان کی مدد نہ کرنے پر ملامت اور ندامت ہوئی انہوں نے خیال کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت حسینؑ کو بلا کر ان کی مدد نہیں کی اور وہ ان کے پاس ہی قتل ہو گئے اور وہ ان کی کوئی نصرت نہیں کر سکے انہوں نے خیال کیا کہ اب یہ جرم اسی طرح دھویا جاسکتا ہے کہ وہ ان کے قاتلوں کو یا جو ان کے قتل میں شریک تھے انہیں قتل کر دیں لہذا وہ اپنے میں سے پانچ آدمیوں سلیمان بن صد خزاعی، سبب بن نجبه، فزارمی، عبد اللہ بن سعد بن نعیل ازدی، عبد اللہ بن دال تمیمی اور قاعہ بن شداد بجلی کے پاس فریاد لے کر گئے اور مختار بن ابی عبید تقفی کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد انہوں نے مقام نخیلہ پر پڑاؤ ڈال دیا کیونکہ مختار ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ خروج کا ارادہ رکھتے تھے روکتا تھا، اور اس بارے میں عبد اللہ بن احمر، خروج اور قتال کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے

”میں ہوش میں آگیا اور میں نے عشق اور خوبصورت عورتوں کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ منادی کو جواب دو، اور جب وہ دُعا سے پہلے ہدایت کی طرف دعوت دے تو تم اُسے کہو اے داعی ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں۔“

ایک لمبی نظم میں وہ خروج کی ترغیب دیتا ہے اور حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھ قتل ہونے والوں کا مہمہ کہتا ہے اور ان کے شیعوں کو ان سے تخلف کرنے کی وجہ سے ملامت کرتا ہے اور یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے اور ان کی مدد نہ کرنے انہوں نے جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف امانت اختیار کر لی ہے وہ اسی نظم میں کہتا ہے

”اے بہترین آباؤ اجداد والے اگر تو اہل دین کو موت کی خبر دینے والا ہے

تو حضرت حسین کی موت کی خبر دے ، چاہیے کہ حسین پر وہ شخص روئے جس کا توشہ ختم ہو چکا ہے اور وہ بھوکا اور غریب ہے اور وہ یتیم بھی روئیں جو مدگاروں کی شکایت کرتے ہیں ، حسین علیہ السلام نیزوں کا نشانہ بن گئے اور وہ طف کے پاس بے لباس ہو کر مقیم ہو گئے ، کاش میں وہاں حاضر ہوتا تو میں ان کے دشمنوں کو مارتا ، اور اللہ تعالیٰ اس قبر کو جو طف کی غربی جانب ہے اور جس کے اندر بزرگی اور تقویٰ دفن ہے ، صبح کے بادلوں سے سیراب کرے ، اور اے امت تو بے وقوفی سے گمراہ ہو گئی ہے خدا کے حضور جھک کر اس واحد متعال کو راضی کر لو ۔“

پھر وہ لوگ چل پڑے ان کے آگے آگے وہ سردار تھے جن کے نام ہم نے بتائے ہیں اور عبداللہ بن احمد کہہ رہا تھا ۔

”وہ ترش رو ہو کر ہمیں لے کر نکلیں اور وہ ہمارے بہادروں کو اٹھائے ہوئے نہیں اور ہم وہاں پر ظالم اور گمراہ کن سرداروں سے لڑنا چاہتے ہیں ، اور ہم نے اولاد اور اموال اور شرم و حیا والی خوب صورت عورتوں اور پانزیوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم نفل و نعمت کرنے والے خدا کو راضی کریں ۔“

یہ لوگ دریا ئے فرات کے کنارے قرقیسا تک پہنچ گئے وہاں پر **معركة عين الورد** | دربارین حادث کلابی موجود تھا اس نے ان کی مہمان نوازی کی اور یہ قرقیسا سے چلے تاکہ عین الورد تک پہلے پہنچ جائیں اور شام سے عبید اللہ بن زیاد ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیس ہزار جوانوں کے ساتھ چلا ، اس کے مقدمہ پر رقبہ کے پانچ الگ الگ امراء تھے جن میں حصین بن نمیر سکونی ، شرجیل بن ذی الکلاء حیمری ، ادھم بن محرز باہلی ، ربیعہ بن مخریق غنوی اور جبہ بن عبد اللہ خثعمی شامل تھے ، جب یہ لوگ عین الورد پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی ، اس سے قبل ان کے ہرا دل دستوں میں بھی جھڑپیں ہو چکی تھیں اور زبردست جنگ اور بہت سے لوگوں کے قتل ہو جانے کے بعد سلیمان بن صرد خزاعی شہید ہو گیا ، اس نے جنگ میں شجاعت دکھائی اور لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اسے یزید بن حصین بن نمیر نے تیرا کر اُسے قتل کر دیا اس کے بعد مسیب بن نجبة فزازی نے جھنڈا اٹھو لیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر کردہ اصحاب

میں سے تھا اور اس نے لوگوں پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا ہے
 "در اندر زلفوں اور اُم بھرے ہوئے سینے والیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جنگ اور لوٹ
 کے روز میں ایال دارِ حملہ آور شیر سے بھی زیادہ شجاع ہوتا ہوں"

وہ لڑتا ہوا مارا گیا تو تراہیوں نے خوب جنگ کی اور تلواروں کے نیام توڑ دیے لیکن رات
 کے وقت شامیوں کی فوج جنت جنت پکارتی ہوئی، البتہ اب کے اصحاب پر پل پڑی تراہیوں کا
 جھنڈا عبداللہ بن سعد بن نفیل نے پکڑ لیا اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے بصری اور مدائنی بھائی
 پانچ سو شمشادوں کے ساتھ منشی ابن محزمہ اور سعد بن حذیفہ کی سرکردگی میں دوڑتے آ رہے تھے
 اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہماری کوتاہی ہمیں معاف فرما ہم نے توبہ کر لی ہے، عبداللہ بن
 سعد بن نفیل سے جنگ کے دوران کہا گیا کہ بصرہ اور مدائن سے ہمارے بھائی ہمیں آٹے ہیں اس نے
 کہا کاش وہ اس وقت آتے جب ہم زندہ ہوتے اور اس وقت اہل مدائن میں سے جو لوگ
 ان کے ساتھ آ کر ملے ان میں سب سے پہلے شہید ہونے والا کثیر بن عمرو مدنی تھا، سعد بن
 ابی سعد حنفی اور عبداللہ بن الحنظل طائی کو بھی نیزے لگے نیز عبداللہ بن سعد بن نفیل قتل ہو گیا۔
 اور بقیہ تراہیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مقابلہ میں آئے والے شامیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے
 اس لیے وہ الگ ہو کر واپس چلے گئے اس وقت ان کا امیر رفاعہ بن شداد بھلی تھا۔
 ابو الحویرث العبیدی بقیہ لوگوں میں سمجھے رہ گیا اور شامیوں نے ان کی قلت کے باوجود
 جب ان کی جنگ اور صبر کو دیکھا تو ان سے جنگ کرنے یا چھوڑنے کا مطالبہ کیا پس
 اہل کوفہ اپنے شہر چلے گئے اور اہل بصرہ اور مدائن اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے۔
 عین الوردہ کی طرف جاتے اور واپس آتے ہوئے تراہیوں کے ایک آدمی کو بلند آواز
 یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے

"اے آنکھ! صرد پرورد، جب رات ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ روتنا تھا، اور
 جب جنگ سخت ہو جاتی تو تو اُسے شیر خیال کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ

- ۱۔ ایک نسخہ میں ہے منقی بن محزمہ اور سعید بن حذیفہ۔
 ۲۔ ایک نسخہ میں ہے سعید بن سعید کو نیزہ لگا۔
 ۳۔ ایک نسخہ میں عبداللہ بن سعید بن نفیل ہے۔

کی اطاعت کرتا ہوا قابل تعریف حالت میں گزر گیا ہے۔

ابو مخنف لوط بن یحییٰ اور دیگر اصحاب سیر و تواریخ نے ان لوگوں کے ناموں کا جو عین الوردہ کے معرکہ میں سلیمان بن عمرو کے ساتھ قتل ہوئے تھے لیکن وہ نام بہت قلیل ہیں ابو مخنف نے اپنی اس کتاب میں جو اس نے عین الوردہ کے تراویوں کے حالات و واقعات پر لکھی ہے، ایک طویل قصیدے کا ذکر کیا ہے جسے اس نے اعشی ہمدانی کی طرف منسوب کیا ہے وہ عین الوردہ کے تراویوں کا مرتبہ لکھتے ہوئے ان کے کارناموں کو بھی بیان کرتا ہے۔

”وہ گھاٹی کے ورے فوج کے ساتھ چلتا ہوا ابن زیاد کی طرف گیا، اور ان

لوگوں میں کچھ لوگ تو تقوئے کے طلب گار اور کچھ تائب تھے، اور وہ عین الوردہ

میں ایک ایسی فوج کے ساتھ نبرد آئے جو ان سے بہت زیادہ تھی پس انہوں

نے اُسے کاٹنے والی تلواروں سے خوش آمدید کہا، پھر اس کے بعد شام سے

ایک اور فوج ان کے پاس آگئی جو کمندر کی موجوں کی طرح ہر جانب ٹھاٹھیں مار

رہی تھی، پس یہ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی فوج تباہ ہو

گئی اور ان میں سے چند دستوں کے سوا کوئی باقی نہ بچا اور ڈٹ کر جنگ

کرنے والے قتل ہو گئے جب کہ ان پر باد صبا اور باد جنوب چلتی تھی اور

خزاعی سردار یوں پچھڑا پڑا تھا گویا اس نے کبھی جنگ ہی نہیں کی، اور

بنی شمیخ کا سردار اور اپنی قوم کا شہسوار سب تیمی لشکر کے ساتھ تھے اور

عمرو بن عمرو بن بشر اور خالد اور بکر اور جلیس بن غالب نے کھوپڑیوں کو

ٹوڑ دینے والی شمشیر زنی اور نیزہ زنی کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا اور

عراق اور اہل عراق کے بہترین لشکر تجھے برسنے والے سیاہ بادل میرا ب

کریں، جب نوجوان عورتوں کی پازیموں سے تلواریں نمایاں کی جائیں تو ہمارے

شہسواروں اور حامیوں کو ڈور نہ کرو، اور اگر تم قتل ہو جاؤ تو قتل ہونا

سب سے بڑھ کر قابل عزت موت ہے اور ہر جوان کو کسی دن، کسی

مصیبت کا نشانہ بننا ہے، اور وہ اس وقت تک قتل نہیں ہوئے

جب تک انہوں نے خوراک کے متلاشی شیروں کی طرح کسی دستوں کو

تباہ نہیں کر دیا۔“

اور بعض کہتے ہیں کہ عین الوردہ کا معرکہ ۶۶ھ میں ہوا تھا۔

۶۶ھ میں عبدالملک بن مروان کے دور میں حضرت علی رضا کا قرآن پاک کی تعریف کرنا

حضرت علی کا ساتھی حادثہ اعور فوت ہو گیا اس نے حضرت علی رضا کے پاس جا کر کہا یا امیر المؤمنین کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے احادیث کو لازم کر لیا ہے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ایسا کیا ہے اس نے جواب دیا ہاں، آپ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ "عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔" میں نے کہا یا رسول اللہ اس فتنہ سے کوئی چیز نکلے گی، فرمایا،

کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے اور بعد کی خبریں ہیں اور جو باتیں تمہارے درمیان ہو رہی ہیں ان کا اس نے فیصلہ کر دیا ہے وہ قول فیصل ہے بے ہودہ کلام نہیں، اور جس نے اُسے خوشی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اُسے توڑ کر رکھ دے گا اور جس نے اس کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کی اللہ تعالیٰ اُسے گمراہ کر دے گا وہ خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے اس سے عقلوں میں کجی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی زبانوں میں التباس پیدا ہوتا ہے اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے اور نہ اس جیسا علم مل سکتا ہے اور وہ ایسی شان دار کتاب ہے کہ جب جنات نے اُسے سنا تو کہا ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے جس نے اس کی باکی اس نے سچ کہا اور جس نے اس سے منہ پھیرا اس نے دشمنی کی اور جس نے اس پر عمل کیا اُسے اجر ملے گا۔ اور جس نے اس سے تمسک کیا اُسے صراط مستقیم کی طرف راہنمائی ملے گی اے اعوان ان باتوں کو یاد رکھو۔

جیسا کہ ہم معرکہ عین الوردہ میں بیان کر چکے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کا قتل

جب وہ موصل پہنچا۔ (یہ ۶۶ھ کا واقعہ ہے) تو اس کی اور ابراہیم بن اشتر نخعی کی خاندان کے مقام پر جنگ ہوئی ابراہیم مختار کی طرف سے عراقی سواروں کا سالار تھا، ان کے درمیان دبر دست جنگ ہوئی جس میں ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد حصین بن نمیر، شمر بن ذی الجناح

۱۳۲ ج ۲ میں یہ لکھا ہے اور ایک نسخہ میں "جارد" اور دوسرے میں "جارد" لکھا ہے۔

ابن حوشب ذی ظلم، عبداللہ بن ایاس سلمی، ابو شرس، غالب باہلی اور شام کے اشراف قتل ہو گئے یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس فوج میں عمیر بن حباب سلمی ابن زیاد کے مہینہ کا کمانڈر تھا اور اس کے دل میں اس سلوک کا رنج تھا جو مرج راہط کے روز اس کی قوم جو مضر قبیلے سے تھی اور دوسرے نژاد یوں کے ساتھ رواد کھا گیا تھا اس نے پکارا کہ قیس، مضر اور نژاد کے بدلے لے لو۔ پس مضر اور ربیعہ کے نژاد ہی اپنی ہی فوج کے قحطانی شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور عمیر نے خفیہ طور پر ابراہیم بن اشتر کو یہ بات لکھ دی تھی اور ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، ابراہیم بن اشتر، ابن زیاد وغیرہ کا سر مختار کے پاس لے گیا جس نے اُسے عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ میں بھیج دیا۔

بہر طرف اضطراب عبدالملک بن مردان شامی فوجوں کے ساتھ گیا اور ابن زیاد کے معاملے کے انتظار میں بطنان میں فرودکش ہوا اُسے اس کے اور اس کے

ساتھیوں کے قتل ہونے اور رات کو اس کی فوج کی شکست کی خبر مل گئی اور اسی رات اُسے حبیش بن ولجہ کے قتل کی بھی اطلاع ملی جو وہ مدینہ میں ابن زبیر سے جنگ کرنے والی فوج کا کمانڈر تھا پھر اسے ابن زبیر کی طرف سے ناقل بن قیس کے فلسطین میں داخل ہونے اور مدینہ سے مصعب بن عمیر کے فلسطین جانے کی اطلاع ملی نیز اُسے شاہ روم لادمی بن فلنط کے چلنے اور شام جاتے ہوئے مصعبہ میں اترنے کی اطلاع ملی، پھر اُسے دمشق کے متعلق اطلاع ملی کہ وہاں کے غلاموں، اوباشوں اور بدکاروں نے اہل دمشق کے خلاف خروج کر دیا ہے اور الجبل میں مقیم ہو گئے ہیں پھر اُسے یہ اطلاع ملی کہ دمشق کے قید خانوں میں جو لوگ قید تھے۔ وہ قید خانے کے دروازے کھول کر باہر نکل گئے ہیں اور بددوں کے سواروں نے حمص، بعلبک اور دوسرے علاقوں پر غارت گری کی ہے اور اس رات کو اسے اور بھی بُری خبریں موصول ہوئیں مگر اس رات سے قبل عبدالملک کو کبھی اتنا خوش باش روشن رو زبان آدرا اور مضبوط دل نہیں دیکھا گیا اس نے بُردلی کا اظہار نہ کیا اور شاہ روم کی طرف تحائف اور اموال بھیج کر اس نے اُسے مشغول کر دیا اور اس سے صلح کر لی اور فلسطین کی طرف چلا گیا جہاں ناقل بن قیس ابن زبیر کی طرف سے موجود تھا، دونوں فوجوں کی اجنادین کے مقام پر جنگ ہوئی تو ناقل بن قیس اور اس کے عام ساتھی مارے گئے اور باقی شکست کھا گئے، فوج کی شکست اور اس کے قتل کی خبر مصعب بن زبیر کو راستے میں ملی تو وہ

واپس مدینہ چلا گیا اس بارے میں مروانیوں کے کلب قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ
 ”ہم نے اجنادین میں حبین اور منذر کے قصاص میں سعد اور نائل کو قتل کیا ہے۔“
 عبد الملک واپس دمشق آکر وہاں فردکش ہو گیا اور ابراہیم بن اشتر نے نصیبین میں پڑاؤ
 کیا اور اہل جزیرہ اس سے محفوظ ہو گئے پھر اس نے نصیبین پر اپنا جانشین مقرر کیا اور
 کوفہ میں مختار کے ساتھ آ ملا۔

مصعب اور مختار ثقفی کے درمیان جنگ اور مختار کا قتل

۶۶۷ء میں مصعب

بن زبیر بصرہ سے چلا

اس کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے اُسے عراق کا والی بنا کر بھیجا تھا وہ حروراء میں اُترا اور
 اس کی اور مختار کی جنگ ہوئی اور ان کے درمیان عظیم جنگیں اور حد سے زیادہ قتل عام
 ہوا اور مختار کو شکست ہوئی محمد بن اشعث اپنے دو بیٹوں سمیت قتل ہو گیا اور مختار کوفہ کے
 قصر امارت میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا وہ ہر روز مصعب اور اس کے کوفی ساتھیوں وغیرہ
 سے لڑنے کے لیے باہر نکلتا مختار کے ساتھ بے شمار شیعہ تھے جو کیسانہ کے خشبیہ فرقے سے
 تعلق رکھتے تھے ایک روز وہ اپنے سیاہی مائل سفید رنگ نچر پر سوار ہو کر ان کی طرف آیا تو نبی حنیفہ
 کے ایک جوان عبدالرحمن بن اسد نے اس پر حملہ کر کے اُسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ لیا اور
 اس کے قتل کے متعلق شور ڈال دیا پس اہل کوفہ اور مصعب کے ساتھیوں نے اُسے ٹکڑے
 ٹکڑے کر دیا، قصر امارت میں باقی ماندہ مختار کے ساتھیوں کو امان دینے سے انکار کر دیا
 تو انہوں نے جنگ کی پہاں تک کہ بے بس ہو گئے پھر مصعب نے انہیں امان دی اور
 اس کے بعد انہیں قتل کر دیا، مختار کے ساتھ جو آدمی مارے گئے ان میں عبید اللہ بن علی بن
 ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے مختار سے عبید اللہ کے بچ نکلنے اور بصرہ چلے جانے اور
 مصعب سے اپنی جان کے خوف سے اس کی فوج کے ساتھ جانے کے بارے میں
 اس کے واقعات اور دیگر حالات کو ہم نے اپنی کتاب اخبار الزمان میں بیان کیا ہے،
 مصعب نے مختار کے ساتھ جن لوگوں کو قتل کیا، اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد
 ساڑھے ہزار ہے یہ سب کے سب خون حسین کے بدلہ کے طالب اور آپ کے دشمنوں کے

۱۷ اور ایک نسخہ میں ہے کہ مصعب کے ساتھ قتل ہونے والوں میں عبداللہ بن حسین بن علی

بھی تھے۔

قاتل تھے مصعب نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا نام خشیبہؓ لکھا نیز مصعب نے کوفہ وغیرہ میں شیعوں کے قتل کا تتبع کیا اور مختار کی بیویوں کے پاس آکر انہیں کہا کہ اس سے بیزاری کا اظہار کرو تو سمرہ بن جندب فزاری اور نعمان بن بشیر انصاری کی بیٹیوں کے سوا سب نے بیزاری کا اظہار کر دیا ان دونوں نے کہا ہم اس شخص سے کیسے بیزاری کا اظہار کریں جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ روزہ دار شب زندہ دار تھا اور اس نے اللہ اور رسول کی خاطر لیس ہنت رسول اور ان کے اہل اور اس کے شیعوں کے لیے اپنے خون کو بہا یا پس اللہ تعالیٰ نے اُسے ان پر طاقت دی یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا مصعب نے اپنے بھائی عبد اللہ کو ان دونوں عورتوں کے حالات اور گفتگو کے متعلق اطلاع دی تو عبد اللہ نے لکھا کہ اگر وہ دونوں ان باتوں سے رجوع کریں اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں تو ٹھیک ورنہ دونوں کو قتل کر دو، پس مصعب نے ان دونوں کو تلوار پر پیش کیا تو سمرہ کی دختر نے رجوع کر لیا اور اس پر لعنت کی اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر تو تلوار کے ساتھ مجھے کفر کی طرف دعوت دیتا تو میں کفر اختیار کر لیتی اور میں گواہی دیتی ہوں کہ مختار کافر تھا مگر نعمان بن بشیر کی دختر نے انکار کیا اور کہا مجھے شہادت مل رہی ہے کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ایک موت ہے اس کے بعد جنت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے پاس جانا ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہو گا کہ میں ابن ہند کے پاس آکر اس کی اتباع کروں اور ابن ابی طالب کو چھوڑ دوں؟ اے اللہ گواہ رہ کہ میں تیرے نبی اور تیری بیٹی کے بیٹے اور اہلبیت اور ان کے شیعوں کی منتع ہوں پھر اس نے اُسے باندھ کر قتل کر دیا اس بارے میں شاعر کہتا ہے

”میرے نزدیک سب سے عجیب تر واقعہ خولہ صورت دراز گردن عورت کے قتل ہونے کا ہے، انہوں نے اُسے بغیر جرم کے قتل کر دیا ہے اس مقتولہ کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر قتل و قتال کو واجب کیا ہے اور خولہ صورت عورتوں پر دامنوں کا گھسیٹنا واجب کیا ہے۔“

ہم نے اس کتاب میں مہلب اور اس کے نافع بن اذرق کو قتل کرنے کا ذکر نہیں کیا

۱۔ ایک نسخہ میں ہے کہ ان کا نام حسینیہ لکھا۔

یہ ۶۵ھ کا واقعہ ہے نافع وہ شخص ہے جس کی طرف خوارج میں سے ازارقہ منسوب ہوتے ہیں اور ہم نے اپنی کتاب اخبار الزمان میں مہلب اور اس کے خلف و سلف کے ساتھ خوارج کی جنگوں کا ذکر کیا ہے اور ہم نے مراد اس بن عمرو بن بلال تمیمی، عطیہ بن اسود حنفی، مہلب سکونی، شوذب شیبانی، سوید شیبانی، قطامہ شیبانی، ابی ندیب، فطری بن نجاۃ اور منجاک بن قیس شیبانی کی شان کا ذکر کیا ہے اور مہلب کے ساتھ ابن ماجہ خارجی کی جنگ اور اس کے قتل ہونے کا ذکر کیا ہے اور مہلب کو اس روز ان پر کامیابی حاصل ہوئی اور عبدالبرہ کے حالات اور یمن کے خوارج جیسے ابو حمزہ، مختار بن عوف ازدی، ابن بسیر العیثی کے حالات کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ہم اس سے قبل اپنی کتاب المقالات فی اصول الدیانات میں اباضیہ میں سے خوارج کے فرقوں کا ذکر کر چکے ہیں اور وہ از دیہیں سے عمان کے سر فرودش ہیں اور ازارقہ کے دیگر فرقوں اور نجدات اور حمیریہ اور جابیہ اور صفریہ وغیرہ خارجی فرقوں اور ان کے علاقوں جیسے بلاد سجارد اور تل اعفر جو دیار ربیعہ میں سے ہیں اور السن اور البواریج اور حدلیقہ جو موصل کے قریب ہیں کا ذکر کر چکے ہیں پھر جو کردوں میں سے آذربائیجان کے علاقے میں آباد ہو گئے جو سر فرودشوں کے نام سے مشہور ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور اسلم جو ابن شادلوہیہ کے نام سے مشہور ہے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ آذربائیجان اور ان، بلیقان اور آرمینیا کے مصنافات پر قابض ہو گیا تھا جو ابن ابی الساج کے زیر نگین تھے اور ان میں سے جو بلاد سجستان اور جبال ہرات و کوہستان اور خراسان کے علاقے بوٹنگ اور بلاد دکران میں اس سمندر کے ساحل پر جو سندھ اور کرمان کے درمیان ہے آباد ہو گئے تھے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی اکثریت صفریہ اور حمیریہ ہے اور ان میں سے کچھ بلاد حمران اصغر اور صاھک میں جو کرمان اور فارس کے درمیان ہے آباد ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ بلاد تہرت المغرب اور بلاد حضرت موت اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔

۶۸ھ میں عبد الملک کی حکومت میں
حضرت عبد اللہ بن عباس کی وفات

ابوالعباس عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ۶۹ھ میں طائف میں فوت ہوئے ان کی والدہ کا نام لبابہ بنت حارث بن حزن تھا جو عامر بن صعصعہ کی اولاد میں سے تھی ان کی عمر ۱۱ سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہجرت سے تین سال قبل ہوئی تھی اور سعید بن جبیر نے

ابن عباسؓ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں دس سال کا تھا عبد اللہ بن عباس کی نماز جنازہ محمد بن حنفیہ نے پڑھائی حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ پر رونے کی وجہ سے آپ کی بیٹائی جاتی رہی تھی، وہ گیسو دراز تھے اور بالوں کی سفیدی کو حنا کا رنگ دیتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ

”اگر چہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کا نور لے لیا ہے مگر میرے دل اور زبان میں نور ہے۔ اور میرا دل بڑا تیز فہم اور میری عقل میں خلل نہیں اور میرے منہ میں ایک شمشیر بڑا ہے جس پر تلوار کی طرح نشان لگے ہوئے ہیں۔“

جب ابن عباسؓ نے اپنی خالہ میمونہ کے گہرے حور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، وضو کے لیے پانی رکھا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا ”اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تاج و تاج کا علم دے۔“

ابن عباس سے کہا گیا کہ حضرت علیؓ نے حکیم کے دن (جس دن تالیوں اور حضرت علیؓ کے درمیان فیصلہ ہونا تھا) ابو موسیٰ کی جگہ آپ کو اپنا نمائندہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا: انہیں اس بات سے قضا و قدر کی تدبیر کرنے والے نے وقت کی کمی اور ابتلا کی تکلیف نے روکا تھا اور خدا کی قسم اگر وہ مجھے ابو موسیٰ کی جگہ بھیجتے تو میں بنے بنائے کو توڑ کر اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑ کر ان کے انفس میں حائل ہو جاتا، جب پرندہ اڑ جاتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں اور جب وہ قریب ہو کر گزرتا ہے تو میں اڑ جاتا ہوں لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے اور افسوس باقی رہ گیا ہے اور ہر دن کے ساتھ کل کا دن بھی ہے اور آخرت متقین کے لیے بہتر ہے۔

حضرت ابن عباس کے کئی لڑکے تھے، علی، یہ عباسی خلفاء کا دادا ہے، عباس، محمد، فضل، عبد الرحمن، عبید اللہ اور لبا بہ ان کی ماں زرعہ بنت مشرح الکندیہ تھیں، محمد عبید اللہ اور فضل کے ماں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

۱۔ ایک نسخے میں ان کی ماں کا نام زعبہ بنت مشرح مرقوم ہے۔

۳۴ھ میں عبد الملک بن مروان نے عمرو بن سعید بن العاص اشقی
عمرو بن سعید اشقی کا قتل

امیہ بن عبد شمس بن مناف، اور وہ بڑا بہادر اور فصیح و بلیغ اور دیر آدمی تھا، اس کے اور عبد الملک کے درمیان حکومت کی طلب کے لیے مذاکرات، خط و کتابت اور طویل مکالمے ہوئے۔ عبد الملک نے اُسے لکھا کہ تو خلافت کی آرزو رکھتا ہے حالانکہ تو اس کا اہل نہیں تو عمرو نے اسے جواب دیا نعمتوں کے ملنے نے تجھے سرکش بنا دیا ہے اور عہد شکنی کی بونے تجھے غافل کر دیا ہے، تو جس بات پر موافقت کرتا ہے پھر اس پر ڈالتا ہے اور جس بات سے کو چھوڑتا ہے پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر مسائل کی کمزوری حکومت کے طلبکار کو مایوس کر دیتی تو نہ حکومت منتقل ہوتی اور نہ اصحاب عزت ذلیل ہوتا اور عنقریب واضح ہو جائے گا کہ بغاوت کا مقتول اور غفلت کا اسیر کون ہے، عبد الملک زفر بن حارث کی طرف گیا وہ قرظیسا اور بلا درجہ میں تھا اس نے دمشق میں عمرو بن سعید کو اپنا جانشین بنایا کہ اسے اطلاع ملی کہ عمرو نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی ہے تو وہ واپس دمشق آیا اور عمرو دمشق میں قلعہ بند ہو گیا تو عبد الملک نے اس سے رحم کی اپیل کی اور کہا اپنے خاندان کے معاملے اور ان کے اتفاق کو نہ بگاڑ اور جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے ابن زبیر کو طاقت حاصل ہوگی، اپنے گھر واپس چلا جا اور میں تیرے متعلق وصیت کروں گا اس پر اس نے رضا مندی کا اظہار کیا اور صلح کر لی تو عبد الملک پانچ سو سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا وہ جہاں جاتا سوار بھی اس کے ساتھ جاتے اور سعید اس سے کنارہ کش ہو گیا۔ اہل سیر نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ عبد الملک نے اسے کیسے قتل کیا بعض کا خیال ہے کہ عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا تیرا بڑا ہو گیا تو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ جب عمرو داخل ہو تو دروازے کو بند کر دے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا پھر ایسا ہی کرنا، عمرو بڑا متکبر آدمی تھا اور کسی کو اپنے سے بڑا نہ سمجھتا تھا اور جب کسی کی طرف جانا تو پیچھے کی طرف التفات نہ کرتا۔ پس جب دربان نے دروازہ کھولا تو عمرو داخل ہو گیا لیکن دربان نے اس کے ساتھیوں کو اندر نہ آنے دیا عمرو اپنے درمیان میں چلتا گیا اس کا خیال تھا کہ اس کے اصحاب بھی حسب معمول اس کے ساتھ ہی داخل ہو گئے ہیں، عبد الملک نے دیر تک اسے سرزنش کی پھر اس نے اپنے باڈی گارڈ کے کمانڈر ابو زبیر عتہ کو حکم دیا کہ وہ اسے قتل کر دے، جب عبد الملک نے اس کے ساتھ سختی سے گفتگو کی تو اس نے کہا اے عبد الملک تو اس طرح مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے گویا تجھے مجھ پر فضیلت حاصل ہے؟ خدا کی قسم اگر

میں چاہوں تو میرے تیرے درمیان جو عہد ہے اُسے توڑ دوں اور پھر تجھ سے نبرد آزما ہو جاؤں
عبد الملک نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں اس نے کہا تو میں نے ایسا کر دیا ہے عبد الملک نے
کہا اے ابوز عیزعہ اپنا کام کرو، عمرو نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو انہیں وہاں موجود نہ پایا تو
وہ عبد الملک کے قریب ہو گیا اس نے کہا تو میرے قریب کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا تاکہ
تیری رشتہ داری مجھے مس کرے واضح رہے کہ عمرو کی ماں عبد الملک کی چچی تھی جو حکم بن ابی
العاص بن دائل کی بیوی تھی، پس ابوز عیزعہ نے اُسے تلوار مار کر قتل کر دیا تو عبد الملک نے
اُسے کہا کہ اس کا سر اس کے اصحاب کی طرف پھینک دو، جب انہوں نے اس کے سر کو دیکھا
تو وہ منتشر ہو گئے پھر عبد الملک باہر نکل کر منبر پر چڑھا اور عمرو کا ذکر کر کے اس کے
عیوب بیان کرنے لگا اور اس کی مخالفت اور دشمنی کا ذکر کر کے منبر سے یہ شعر پڑھتے ہوئے
اُتر آیا ہے

”میں نے اُسے اپنے قریب کیا تاکہ خاندان میں سکون ہو اور میں پر سکون دانا
کی طرح حملہ کروں اور وہ میری اطاعت سے غضب ناک ہو گیا اور وہ شخص
خطا کار نہیں جس کا راستہ احسان کرنے والے کی طرح ہو۔“
اور بعض کہتے ہیں کہ عمرو اپنے گھر سے عبد الملک کے پاس جانے کے لیے نکلا تو
قالین پر ٹھوکر کھائی تو اس کی بیوی نائلہ بنت فریض بن وکیع بن مسعود نے اُسے کہا میں
تجھ سے خدا کے نام پر اپیل کرتی ہوں کہ اس کے پاس نہ جا، اس نے کہا اس بات کو چھوڑ
خدا کی قسم اگر میں سو یا ہوا ہوں تو وہ مجھے نہ جگائے (یعنی وہ مجھ سے ڈرتا ہے) اور وہ زرہ
پن کر چلا گیا جب عبد الملک کے پاس پہنچا تو بنی امیہ کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ
کھڑے ہو گئے، جب دروازے بند کر دیے گئے تو عبد الملک نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے تجھ پر قابو پایا تو میں
تجھے طوق کے ساتھ باندھ دوں گا پس طوق لایا گیا اور اس کی گردن میں ڈال کر کس دیا گیا، عمرو
کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کو قتل کرنے لگا ہے تو اس نے کہا اے امیر المومنین میں آپ کو
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، عبد الملک نے اُسے کہا اے ابو امیہ کیا وجہ ہے کہ تو زرہ پن کر
آیا ہے، کیا تو جنگ کے لیے آیا ہے؟ پس عمرو کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے بُرائی کرے گا

۱۔ ایک نسخہ میں نائلہ بنت فریض بن وکیع بن مسعود ہے۔

تو اس نے کہا میں آپ سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ مجھے طوق پہنے ہوئے لوگوں میں لے جائیں، عبد الملک نے اُسے کہا تو مجھے دھوکا دیتا ہے اور میں نجد سے زیادہ دھوکا باز ہوں؛ تیری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے لوگوں میں لے جاؤں تو وہ تجھے مجھ سے بچالیں اور چھڑا لیں، پھر عبد الملک نماز کے لیے نکلا اور اپنے بھائی عبد العزیز کو حکم دیا — وہ اس دن مصر سے آیا ہوا تھا — کہ جب میں نکل جاؤں تو اسے قتل کر دینا اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے قتل کرنے کا حکم اپنے بیٹے ولید کو دیا تھا، جب عبد العزیز اس کے قریب ہوا تو عمرو نے اسے رشتہ داری کا واسطہ دیا تو اس نے اُسے چھوڑ دیا اور جب عبد الملک نماز سے فارغ ہو کر واپس آیا اور اسے زندہ دیکھا تو عبد العزیز سے کہا خدا کی قسم میں نے صرف تمہاری وجہ سے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ یہ حکومت نہ حاصل کرے پھر اس نے اُسے پہلو کے بل لٹا دیا تو عمرو نے اُسے کہا اے ابن زرقاء کیا خیانت کرتے ہو؟ اور اس نے اُسے قتل کر دیا اور عمرو کا بھائی یحییٰ بن سعید دروازے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا کہ اُسے توڑ دے، تو ولید اور عبد الملک کے غلام اس کے پاس گئے اور ان کے درمیان لڑائی ہو گئی اور ولید اور یحییٰ لڑ پڑے تو یحییٰ نے اس کے سر میں پتھور ماری تو وہ بچھڑ کر گر پڑا اور عمرو کا سر لوگوں کی طرف پھینک دیا گیا، پس جب انہوں نے اُسے دیکھا تو وہ منتشر ہو گئے۔ پھر مکان کے اوپر سے ان پر دنانیر کی تھیلیاں پھینکی گئیں تو وہ جنگ چھوڑ کر ان کے اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے اور عبد الملک نے کہا، تیرے باپ کی زندگی کی قسم کہ اگر یہ لوگ ولید سے لڑتے تو اپنا بدلہ لے لیتے، ولید کو تلوار لگی تو وہ گم ہو گیا اور یہ اس طرح ہوا کہ ابراہیم بن عدی نے جنگ کے شور میں اُسے اکٹھا کر کاغذات والے مکان میں داخل کر دیا پھر عبد الملک یحییٰ بن سعید کے پاس آیا اور لوگوں نے عبد الملک پر اتفاق کر لیا اور اس کے مطیع ہو گئے۔ جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں جنہیں ہم نے اپنی کتاب اخبار الزمان میں بیان کیا ہے اور ہم نے اس کی بہن کے اشعار کا بھی ذکر کیا ہے جو ولید بن عبد الملک کی بیوی تھی، ان کا ذکر اس کتاب میں منصور کے حالات میں آئے گا کیونکہ وہی جگہ ان کے ذکر کے لائق ہے تاکہ بات کا تسلسل قائم رہے۔

عبد الملک شکرہ کا بقیہ سال دمشق میں ہی مقیم رہا اور مختار اور اس کے اصحاب کے قتل کے بعد جب عراق کا علاقہ مصعب بن زبیر کے لیے اُصاف ہو گیا تو وہ وہاں سے چل کر

ایک جگہ پہنچا جو جزیرہ کے پاس باجمیرہ کے نام سے مشہور ہے اور وہ عبد الملک سے جنگ کرنے کے لیے شام جا رہا تھا اُسے اطلاع ملی کہ خالد بن عبد اللہ بن خالد بن اسید اپنے بیٹوں اور کئی غلاموں کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر کی بیعت توڑ کر مکہ سے بصرہ کی طرف آ رہا ہے، تو وہ بصرہ کی نواح میں فرود کش ہو گیا اور ربيعہ اور مضر کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے جن میں عبد اللہ بن ولید مالک بن مسمع البکری، صفران بن اہتم تمیمی اور صعصعہ بن معاویہ احنف کا چچا بھی شامل تھا، پس بصرہ میں ان کی جنگیں ہوئیں اور آخری جنگ خالد بن عبد اللہ سے ہوئی اور وہ اپنے دونوں بیٹوں سمیت خشکی میں بھاگ گیا یہاں تک وہ عبد الملک کے ساتھ جا ملا، مصعب بصرہ واپس آ گیا یہ کھڑے کا واقعہ ہے پھر وہ عراق سے باجمیرا واپس آ گیا۔ اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے :-

”اے مصعب تو ہر روز چلتا ہے اور روزانہ باجمیرا میں ہی ہوتا ہے۔“

عبد الملک بن مروان قرظیساویس آتھا تو نہ قرظ بن حارث عامری کلابی نے اس کا محاصرہ کر لیا اور وہ ابن زبیر کا داعی تھا پس اس نے امامت و بیعت کو قبول کر لیا اور عبد الملک چل کر نصیبین آیا۔ جہاں پر حارث کے دو غلام بزید اور حبشی ان دو ہزار سواروں کے ساتھ موجود تھے جو مختار کے ساتھیوں میں سے پج گئے تھے اور وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دیتے تھے پس اس نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے اس کی امامت کو مان لیا اور اس کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔

مصعبؓ میں عراقیوں کے ساتھ مل کر عبد الملک سے جنگ کرنے نکلا، عبد الملک بھی مصر، جزیرہ اور شام کی فوجوں کے ساتھ اس کے قریب ہوا اور مسکن مقام پر جو عراق میں جبلہ کے کنارے ایک بستی ہے ان کی جنگ ہوئی، عبد الملک کے ہرادل دستے کا کمانڈر حجاج بن یوسف بن ابی عقیل ثقفی تھا، بعض کہتے ہیں کہ پچھلے دستے کا کمانڈر تھا۔ عبد الملک نے اس کے کام کی تعریف کی، پھر عبد الملک نے مصعب کی فوج کے عراقی رڈسا وغیرہ کو خفیہ طور پر لکھا اور انہیں ترغیب و ترہیب دی اور جن لوگوں کے نام اس نے چٹھیاں لکھیں ان میں ابراہیم بن اشتر نخعی بھی تھا جب اس کا جاسوس خط لے کر آیا تو اس نے اُسے اپنے گھر میں قید کر دیا اور خط کو کھولنے سے قبل ہی اُسے مصعب کے پاس لے آیا تاکہ وہ اس کے مندرجات سے آگاہ ہو جائے، مصعب نے اُسے پوچھا کیا تو نے اسے پڑھا ہے اس نے کہا میں اس با

سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ امیر کے پڑھنے سے قبل اُسے پڑھوں اور میں قیامت کے روز اس کی بیعت اور اطاعت سے دست کش ہو کر عمد شکن بن کر آؤں، جب مصعب نے اس کے مضمون پر غور کیا تو اس نے اس میں اس کے لیے امان اور ولایت اور عراق کی پسندیدہ جاگیروں کے متعلق بات پائی، پھر ابراہیم نے مصعب سے کہا، کیا فوج کے کمانڈروں میں سے کوئی کمانڈر آپ کے پاس خط لایا ہے؟ مصعب نے کہا نہیں تو ابراہیم نے کہا خدا کی قسم اس نے ان سے خط و کتابت کی ہے اور مجھے اس وقت تک خط نہیں لکھا جب تک دوسروں کو خط نہیں لکھ لیے اور انہوں نے وہ خط اس لیے تجھ تک نہیں پہنچائے کہ وہ اس سے راضی ہیں اور تجھ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، پس میری بات مان لے اور میں ان سے پہل کرنا ہوں تو انہیں تلوار کی دھار پر رکھنے کا حکم دے یا ان میں سے کچھ لوگوں کو بیڑیاں ڈال دے اور اس آدمی کو نکال دے مگر مصعب نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ اس کی فوج میں بیعیہ کے جو آدمی تھے وہ اس سے ابن زیاد بن ظبیان البکری کے قتل کر دینے کی وجہ سے کنارہ کش ہو گئے، ابن زیاد بیعیہ کے سرداروں اور بکر بن وائل کے لیڈروں میں سے تھا اور ابراہیم بن اشتر مصعب کے مقدمہ الجیش کے اگلے سواروں میں شامل ہو کر گیا اور عبد الملک کے سواروں سے بھڑ گیا، اس کے مقدمہ الجیش کا کمانڈر اس کا بھائی محمد بن مروان تھا پس عبد الملک کو ابراہیم کے آنے اور اس کے بھائی محمد کے ساتھ جنگ کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے محمد کی طرف اطلاع بھیجی کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تو آج جنگ نہ کرنا، عبد الملک کے ساتھ ایک نجومی تھا اس نے عبد الملک کو بتایا کہ تو آج سواروں کے ساتھ اس سے جنگ نہ کرنا کیونکہ یہ منحوس دن ہے اور وہ تین دن کے بعد اس سے جنگ کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا محمد نے اسے اطلاع دی کہ میں نے اپنی جان کی قسم کھائی ہے کہ میں ضرور جنگ کروں گا اور تیرے نجومی کی جھوٹی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔ پس عبد الملک نے نجومی اور دیگر حاضرین کو کہا کیا تم نہیں دیکھتے؟ پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ مصعب اپنے بھائی کی طرف دعوت دیتا ہوں اے اللہ اس کی مدد فرما جو ہم میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہتر ہے، جب محمد بن مروان اور ابن اشتر کی جنگ شروع ہوئی تو محمد یہ رجز پڑھ رہا تھا

”میرے جیسا شخص تجھ جیسے شخص سے چھیننے کا زیادہ حق دار ہے جس کے پاؤں

سفید اور دم لمبی ہے۔“

پس وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، عتاب بن فرقان تمیمی نے کہا اور وہ ابن اشتر کے ساتھ تھا، اسے ابراہیم لوگوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اب انہیں واپسی کا حکم دو یہ بات اس نے اس کے قریب ہونے پر حسد کرتے ہوئے کہی تھی، ابراہیم نے اسے کہا وہ کیسے واپس جائیں، دشمن ان کے سامنے کھڑا ہے، عتاب نے کہا مہینہ کو واپسی کا حکم دو، مگر ابراہیم نے یہ بات قبول نہ کی پس عتاب نے مہینہ والوں کے پاس جا کر انہیں واپسی کا حکم دے دیا اور جب وہ اپنے میدان سے ہٹ گئے تو محمد کا بیسرہ ان پر ٹوٹ پڑا اور لوگ واپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ابراہیم کے سواہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اس پر مسلسل نیزہ باری ہونے لگی۔ وہ کئی نیزوں سے بچا اس کے ساتھیوں نے بھی اسے بچایا، پھر وہ اپنی زمین سے اکھڑ گیا اور جوانوں نے اس کو گھیر لیا اور اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ شجاعت دکھانے اور خونریزی کرنے کے بعد قتل ہو گیا اور اس کے سر کے لینے کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے، بعض کا خیال ہے کہ عبید بن میسرہ جو پہلے بنی شکر کا اور پھر بنی رفاعہ کا غلام تھا اس نے اس کا سر لیا تھا، اور ابراہیم کے جتنے کو عبد الملک کے پاس لا کر اس کے سامنے ڈال دیا تھا، پس اسے حصین بن نمیر نے لے کر اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ سے جلا دیا۔

اور اس رات کی صبح کو، عبد الملک اپنی جگہ سے چل پڑا اور ارض السوداء میں دیر جا ملین میں جا اتر ا اور عبید اللہ بن زیاد بن زیاد بن ظبیان اور عکرمہ بن ربیع، ربیعہ کے جھنڈوں کی طرف آئے اور انہیں عبد الملک کی فوج میں شامل کر دیا اور اس کی اطاعت اختیار کر لی پھر لوگوں کی جنگ ہوئی تو مصعب اکیلا رہ گیا اور اس کے مقبری اور مہینی ساتھی اس سے الگ ہو گئے، وہ سات آدمیوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا جن میں اسماعیل بن طلحہ بن عبید اللہ تمیمی اور اس کا بیٹا عیسیٰ بن مصعب بھی تھے اس نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے کہا اے بیٹے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جان بچالے اور مکہ میں اپنے چچا کے ساتھ جا ل، اور اسے بتا کہ عراقیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور مجھے چھوڑ دے میں قتل ہو جانے والا ہوں، اس نے مصعب سے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا قریش کی عورتیں یہ بات نہ کریں گی کہ میں تجھ کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور نہ میں تیرے بارے کبھی انہیں کوئی بات بتاؤں گا مصعب نے اسے کہا اگر یہ بات ہے تو میرے آگے آگے چلو تاکہ میں تیرا امتحان کر لوں پس عیسیٰ آگے ہو گیا اور لڑنا ہوا مارا گیا۔

محمد بن مروان نے اپنے بھائی عبد الملک سے کہا کہ وہ مصعب کو امان دے دے تو عبد الملک نے ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جو اس کے پاس موجود تھے، پس علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب نے اُسے کہا، اُسے امان نہ دینا اور خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نے کہا اُسے امان دے دو تو علی اور خالد کے درمیان اونچی آواز سے تلخ کلامی ہو گئی یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، پس عبد الملک نے اپنے بھائی محمد کو حکم دیا کہ وہ مصعب کو جا کر امان دے دے اور جو وہ چاہتا ہے وہ بھی دے دے۔ محمد مصعب کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا پھر کہنے لگا اے مصعب میری طرف آؤ، میں تیرا عم زاد محمد بن مروان ہوں۔ امیر المؤمنین نے تیرے مال و جان اور جو کچھ تو نے کیا ہے اس کے متعلق تجھے امان دی ہے اور تو جس ملک میں رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے اور اگر وہ تیرے متعلق کوئی اور ارادہ کرتا تو وہ اُسے تجھ پر وار د کر دیتا پس میں تجھے تیری جان کے متعلق خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔

شامیوں میں سے ایک آدمی عیسیٰ بن مصعب کا سر کاٹنے کے لیے آیا تو اس کی غفلت میں مصعب اس کی طرف پلٹا اور شامیوں نے اس آدمی کو آواز دے کر کہا تو ہلاک ہو جائے فلاں شیر تیری طرف آ رہا ہے مصعب نے آگے بڑھ کر اُسے چیر کر رکھ دیا۔ پھر مصعب کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی گئیں اور وہ پیادہ ہو گیا تو عبید اللہ بن زیاد بن طبعیان اس کے پاس آ گیا اور دونوں میں دو دو ہاتھ ہوئے، پہلے مصعب نے اس کے سر پر تلوار ماری اور مصعب کا زخم کے باعث خون بہہ چکا تھا اور عبید اللہ نے اُسے تلوار مار کر قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر عبد الملک کے پاس لے آیا تو عبد الملک نے سجدہ کیا اور عبید اللہ بن زیاد نے اپنی تلوار کے قبضے کو پکڑ کر اسے نیام سے کھینچا اور اس کا اکثر حصہ کھینچ لیا تا کہ عبد الملک کو حالت سجدہ ہی میں مار دے پھر وہ پشیمان ہوا اور انا اللہ پڑھنے لگا، اس کے بعد وہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں سے دلیری جاتی رہی ہے جب میں نے ارادہ کیا اور کچھ نہ کہا اگر میں چاہتا تو عرب کے دو بادشاہوں عبد الملک اور مصعب کو ایک پل میں قتل کر دیتا اور عبید اللہ نے مصعب کے سر کی آدھ پر بطور مثال یہ شعر پڑھا ہے

”بادشاہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم اس کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہیں

اور ان کا قتل کرنا ہم پر حرام نہیں ہے۔“

عبد الملک نے کہا مصعب جیسا جو ان قریش میں کب پیدا ہوگا؟ اور مصعب، ارحم الراحمین

۲۴ صہ کو منگل کے روز قتل ہوا، عبد الملک نے مصعب اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے متعلق حکم دیا کہ انہیں دیر جاٹلیق میں دفن کیا جائے پھر عبد الملک نے اہل عراق کو اپنی بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے اس کی بیعت کر لی۔

مسلم بن عمرو باہلی، معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کے زیر احسان تھا اس دن وہ مصعب کی فوج میں تھا عبد الملک اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے اپنے لیے امان حاصل کی اس سے پوچھا گیا کہ تو مرنے والا ہے اور جو زخم تجھے پہنچا ہے اس کی وجہ سے تو زندگی کی امید نہیں رکھتا تو امان کو کیا کرے گا اس نے جواب دیا تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے اور میرا بیٹا میرے بعد امن سے رہے جب اُسے عبد الملک کے سامنے دکھا گیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے تلوار مارنے والے کا ہاتھ کاٹ دے اس نے تیرا کام کیوں نہیں تمام کیا؟ کیا آلِ حرب نے تیرے ساتھ جو احسانات کیے ہیں تو ان کی ناشکری کرتا ہے پھر اس نے اُسے مال اور بیٹے کے متعلق امان دے دی اور وہ اسی وقت مر گیا۔

عراق کے علاقے میں دیر جاٹلیق میں مصعب کے قتل ہونے کے متعلق عبد اللہ بن قیس الرقیبات کہتا ہے :-

”اور دیر جاٹلیق میں قتل ہو کر مقیم ہونے والے نے دو مشروں کو عار اور ذلت سے دوچار کر دیا، پس نہ بکر بن وائل نے اللہ کی بات مانی اور نہ جنگ کے وقت قہم نے صبر کیا، لیکن اس نے عہد کو ضائع کر دیا اور اس روز وہاں پر کوئی با وفا مہر مردار نہ تھا، اللہ تعالیٰ بصری اور کوفی کو ملامت کی جزا دے، ملامت کرنے والے کو بھی ملامت کی جاتی ہے۔“

اس بارے میں ایک اور شامی شاعر کہتا ہے :-

”میری زندگی کی قسم ہمارے سواروں کو دجلہ کے کنارے مصعب کے لیے قراء کر دیا گیا تھا، اور وہ ہر لمبے نیزے والے اور سیدھے پھل والے اور لومڑے مذاق کرتے تھے، جب کبھی اہل عراق کے منافق پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا تو اسے راضی نہیں کیا گیا، ہم جنگ کے روز اس کے قریب ہوئے تو وہ گم شدہ چیز کو کم ہی تلاش کرنے والا تھا۔“

مصعب بڑا صاحبِ حسن و جمال اور خوب صورت آدمی تھا اس کے متعلق ابن الرقیبات

کتاب ہے ۵

”مصعب اللہ کی طرف سے ایک شعلہ ہے جس کے چہرے سے تارکیاں دُور ہو جاتی ہیں۔“

چار سردار ایک مکان میں | المنقری بیان کرتا ہے کہ مجھے سوید بن سعید نے بتایا وہ

کتاب ہے کہ ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے محمد بن عبد الرحمن سے اور اس نے ابو مسلم نخعی کے طریق سے بیان کیا وہ کتاب ہے کہ میں نے دیکھا حضرت حسینؑ کے سر کو لاکہ کوفہ کے دار الامارۃ میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا پھر میں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کو اسی جگہ لایا گیا اور اسے مختار کے سامنے رکھا گیا، پھر میں نے مختار کے سر کو دیکھا کہ اُسے لاکہ مصعب بن زبیرؓ کے سامنے رکھا گیا اور پھر میں نے مصعب بن زبیرؓ کے سر کو دیکھا کہ اُسے لاکہ عبد الملک کے سامنے رکھا گیا۔ یہ بات اس طرح پہ بھی بیان ہوئی ہے راوی کتاب ہے کہ عبد الملک نے مجھے پریشان دیکھ

کر پوچھا کیا بات ہے تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس جگہ پر حضرت حسینؑ کے سر کو ابن زیاد کے سامنے پڑا دیکھا، پھر اس میں داخل ہوا تو ابن زیاد کے سر کو مختار کے آگے پڑا دیکھا، پھر داخل ہوا تو مختار کے سر کو مصعب بن زبیرؓ کے سامنے پڑا دیکھا اور اب یہ مصعب کا سر آپ کے سامنے پڑا ہے اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے راوی بیان کرتا ہے کہ عبد الملک اچھل کر کھڑا ہو گیا اور نشست گاہ کے اوپر جو محراب بنا ہوا تھا اس کے گرانے کا حکم دے دیا، یہ بات ولید بن خباب وغیرہ سے بھی بیان کی گئی ہے۔

لوگوں کا عبد الملک کی بیعت کرنا | عبد الملک دیر جا تلیق سے چل کر کوفہ کے بیرونی حصے نخیلہ میں فروکش ہوا تو اہل کوفہ نے جا کر

اس کی بیعت کی اس نے لوگوں سے خفیہ خط و کتابت کر کے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا اور انعامات، جاگیریں اور خلعتیں دیں اور لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق مراتب دیے اور عام ترغیب و ترہیب کی پھر لصرہ پر خالد بن عبد اللہ بن خالد بن اسد کو اور کوفہ پر اپنے بھائی بشر بن مروان کو حاکم مقرر کیا اور اس کے ساتھ شامیوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا جو اہل مشورہ اور اصحاب الرائے افراد پر مشتمل تھی جن میں روح بن زبیرؓ جدامی بھی تھا نیز حجاج بن یوسف کو مکہ میں ابن زبیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور خود بقیہ اہل شام

کے ساتھ دارالسلطنت دمشق چلا گیا۔

روح بن زنباع اور بشر بن مروان | بشر بن مروان ایک ماہر ادیب تھا جو شعر

داستان گوئی، غنا اور شراب نوشی کا دلدادہ تھا اس کے بھائی عبدالملک نے اُسے کہا کہ روح تیرا وہ چچا ہے جس کے صدق و عفاف اور خیر خواہی اور محبت اہل بیت کی وجہ سے تجھے کسی امر کا فیصلہ اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے تو بشر اس سے منقبض ہوا اور اپنے ندیموں سے کہنے لگا مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم نے تکلفی کرتے رہے تو روح یہ بات امیر المومنین کی طرف لکھ دے گا حالانکہ میں اُنس و اجتماع کو پسند کرتا ہوں جسے وہ پسند نہیں کرتا تو اُسے ایک عراقی ندیم نے کہا کہ میں ایسے لطیف طریق پر آپ کی مدد کروں گا کہ وہ بغیر کسی شکایت اور ملامت کرنے کے تجھے چھوڑ کر امیر المومنین کی طرف چلا جائے گا جس سے بشر خوش ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تو یہ کام کر دے تو میں تجھے بہت اچھا انعام دوں گا، روح بڑا غیرت مند تھا اس کی ایک لونڈی تھی جب وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف یا کسی اور جانب جانا تو قفل لگانے کے بعد واپس آنے تک دروازے پر مہر لگا دیتا، پس اس نوجوان نے ایک دو ات لی اور شام کے وقت چھپتا چھپاتا روح کے گھر آیا، روح نماز کے لیے گیا ہوا تھا روح کے نکلنے کے وقت وہ نوجوان ڈیوڑھی تک پہنچ گیا اور سیرٹھی کے نیچے چھپا رہا اور رات بھر تدبیریں کرتا رہا یہاں تک کہ روح کے کمرے تک پہنچ گیا اور روح کے سونے کی جگہ کے قریب ترین جو دیوار تھی اس پر لکھ دیا یہ

”اے روح اس بیوہ اور بیٹیوں کا کون ذمہ دار ہوگا جب تجھے موت کا پیغام دینے والا اہل مغرب کی موت کی خبر دے گا، اور ابن مروان کی موت قریب آگئی ہے پس اے روح بن زنباع اپنے لیے کوئی تدبیر کر لے۔“

اور تجھے نرم و نازک نوجوان لڑکیاں دھوکا نہ دیں اور تو خیر خواہ داعی کی بات سن کر رافوہ است پر آجا۔“

پھر وہ اس کے مکان سے ڈیوڑھی میں واپس آ کر شب با ش ہو گیا جب صبح ہوئی روح نماز کے لیے نکلا تو اس کے نوکر اس کے پیچھے پیچھے چلے اور وہ نوجوان بھی کھیس

بدل کر ان میں مل جل گیا جب روح نے واپس آکر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اُسے وہ عبارت نظر آئی، اس نے اُسے پڑھا تو وہ اس سے خوف زدہ ہو گیا اور اسے ایک عجیب بات سمجھا اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے کمرے میں میرے سوا کوئی انسان داخل نہیں ہوتا اور میرے عراق میں رہنے میں اب کوئی بھلائی نہیں پھراٹھ کر بشر کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا اے میرے بھتیجے اگر تجھے امیر المومنین سے کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ اس نے کہا اے چچا کیا آپ جانا چاہتے ہیں اس نے جواب دیا ہاں، اس نے کہا، کیوں تو نے کوئی بُری بات دیکھی یا محسوس کی ہے جس کی وجہ سے آپ ٹھہر نہیں سکتے اس نے کہا خدا کی قسم نہیں اللہ تعالیٰ تیرا اور تیری بادشاہی کا بھلا کرے، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے امیر المومنین کے پاس واپس جانا ضروری ہے، اس نے اُسے قسم دی کہ وہ اُسے اس کے متعلق بتائے تو اس نے اُسے بتایا کہ امیر المومنین فوت ہو چکے ہیں یا چند دنوں تک مر جائیں گے اس نے پوچھا آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ تو اس نے اُسے اس تحریر کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہا کہ میرے کمرے میں میرے اور فلاں لونڈی کے سوا کوئی آدمی داخل نہیں ہوتا اور یہ بات کسی جن یا فرشتے نے لکھی ہے، بشر نے اُسے کہا آپ ٹھہریے مجھے اُمید ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں مگر اُسے کوئی چیز نہ روک سکی اور وہ شام کی طرف چلا گیا اور بشر گانے بجانے اور شراب نوشی میں مصروف ہو گیا، جب روح عبد الملک سے ملا تو اس نے اس کے آنے کو اچنبھا سمجھتے ہوئے کہا تیرا آنا، بشر کے ساتھ کسی حادثہ کی وجہ سے ہوا ہے یا تو اس کی کسی بات کو ناپسند کیا ہے، تو اس نے بشر کی سیرت کی تعریف کی اور کہا ایسا نہیں ہے بلکہ میں ایک بات کی وجہ سے آیا ہوں جس کا تذکرہ میں آپ سے خلوت میں کروں گا، عبد الملک نے اپنے ہم نشینوں سے چلے جانے کو کہا اور روح کو تنہائی میں ملا تو اس نے اُسے بات بتائی اور شعر بھی سنانے پس عبد الملک کھلکھلا کر ہنسا اور کہنے لگا، بشر اور اس کے ساتھیوں پر تیری موجودگی گراں گزری تو انہوں نے تیرے ساتھ یہ حیلہ بازی کی ہے لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔

عبد اللہ بن زبیر کو اپنے بھائی مصعب کی وفات کی خبر ملنا | جب عبد اللہ کو اپنے بھائی مصعب کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے بیان کرنے سے پہلو تہی کی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کی

گلیوں میں غلاموں اور لونڈیوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تب عبداللہ منبر پر چڑھا اور اس کی پشیمانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اس نے کہا اس خدا کی تعریف جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لوگو آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرگز ذلیل نہیں کرے گا جو حق پر ہے اور اس کو ہرگز عزت نہیں دے گا جس کی پارٹی شیطان دوستوں کی ہے، ہمارے پاس عراق سے ایک خبر آئی ہے جس نے ہمیں غم بھی دیا ہے اور خوش بھی کیا ہے اور وہ خبر مصعبؓ کے قتل کی ہے ہمیں جس بات نے غمگین کیا ہے وہ ایک قریبی عزیز کی جدائی پر غم کی سوزش ہے جسے مصیبت کے وقت ایک قریبی عزیز محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد صبر جمیل کی طرف لوٹ آتا ہے اور جس بات نے ہمیں خوش کیا ہے وہ یہ کہ اس کا قتل ہونا شہادت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے اور ہمارے لیے بہتر چیز بنائے گا اور خدا کی قسم ہم آل ابی العاص کی طرح طبعی موت نہیں مرتے، ہم صرف نیرود سے موقع پر ہی مرجاتے ہیں اور تلواروں کے سائے تلے قتل ہو کر مرنے ہیں، لوگو! آگاہ رہو کہ دنیا اس رب قہار کی طرف سے ایک عارضی چیز ہے جس کی شاہی کوزدال اور نغیر نہیں، اور اگر دنیا میری طرف آئے تو میں اسے شریعتاً آدمی کی طرح نہیں لوں گا اور اگر وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے تو میں اس پر غمگین اور ذلیل آدمی کی طرح نہیں روؤں گا۔

حجاج مکہ میں | حجاج طائف آکر کئی ماہ تک وہاں ٹھہرا رہا پھر مکہ آکر اس نے ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا اور عبد الملک کی طرف لکھا کہ میں ابوقبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب عبد الملک کے پاس اس کا خط پہنچا جس میں ابن زبیر کے محاصرہ اور ابوقبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جانے کا ذکر تھا تو عبد الملک نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان لوگوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا جو اس کے پاس موجود تھے نعرہ تکبیر کی آواز جامع دمشق میں پہنچی تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا اور جب بازاہ والوں تک یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، پھر انہوں نے حقیقت حال کو دریافت کیا تو انہیں بنایا گیا کہ حجاج نے مکہ میں ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ابوقبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ اسے ہمارے پاس بیٹریوں میں جکڑ کر نہ لائے اور اس کے سر پر لمبی ٹوپی

ہوا اور وہ ملعون ترابی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہمارے پاس سے گزرے حجاج نے مکہ میں ابن زبیر کا محاصرہ ماہ ذوالحجہ ۶۲ھ میں کیا، اسی سال مصعب قتل ہوا، ابن زبیر کے متعلق ہم اہل دمشق کے قول کا ذکر کر چکے ہیں جسے عمرو بن شیبہ نمیری نے ابن عاصم سے بیان کیا ہے، ابن زبیر نے حجاج کو بیت اللہ کے طواف سے روک دیا چنانچہ حجاج لوگوں کے ساتھ عرفہ میں ذرہ اور خود کا احرام پہننے کھڑا ہوا، اس وقت اس کی عمر ۳۳ سال تھی، ابن زبیر نے مکہ میں قربانی کی اور حجاج کی وجہ سے عرفہ کی طرف نہ گیا، حجاج نے مکہ میں ابن زبیر کا محاصرہ پچاس راتوں تک جاری رکھا۔

ابن زبیر اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے

اس وقت ان کی عمر سو سال تھی لیکن ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا تھا اور نہ ہی بال سفید ہوئے تھے اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی خلل ہوا تھا جیسا کہ ہم قبل ان میں اس کتاب میں ان کے حالات بیان کر چکے ہیں۔ ابن زبیر نے کہا اے ماں تو اپنے آپ کو کیسے پاتی ہے اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں تکلیف میں ہوں ابن زبیر نے ماں کو کہا، موت میں راحت سے اس نے جواب دیا شاید تو میرے لیے موت کا متمنی ہے اور میں اس وقت تک موت کو پسند نہیں کرتی جب تک تیرے متعلق دو خبروں میں سے ایک خبر نہ ملے، یا تو تو قتل ہو تو مجھے تیری وجہ سے ثواب ہو اور یا تو کامیاب ہو تو میری آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوں اور پھر عبد اللہ نے اپنے بارے میں اور اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کی کہ جب وہ چیخ و پکار کو سنیں تو وہ اس کی ماں اسماء کے پاس آجائیں، عروہ بن زبیر اپنے چچا عبد الملک کا ہمنا تھا اور حجاج کو مسلسل عبد الملک کے خطوط آ رہے تھے کہ وہ عروہ کا خیال رکھے اور اس کے مال و جان کو تکلیف نہ دے پس عروہ حجاج کے پاس گیا اور واپس آکر اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ خالد بن عبد اللہ بن خالد اور عمرو بن عثمان بن عفان یہ دونوں تجھے اور تمہارے ساتھیوں کو جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، اس پر تمہیں عبد الملک کی امان دیتے ہیں اور تو جس ملک میں جانا چاہتا ہے چلا جا اور اس بات کا صفا من اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ باتیں کہیں مگر عبد اللہ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی ماں اسماء نے اُسے کہا اے میرے بیٹے اس تجویز کو قبول نہ کر جس کے قبول کرنے میں تجھے قتل ہونے کا خوف ہو اور عزت کی موت مر، اور قید

ہونے سے پہلے اس نے کہا اے میری ماں مجھے خوف ہے کہ وہ میرے قتل کے بعد میرا مثلہ کر دے گا۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا ذبح کر دینے کے بعد بکری کو کھال اتارنے کی تکلیف ہوتی ہے؟ نماز کے وقت انہوں نے ابن زبیر پر حملہ کر دیا لیکن اس نے بیت اللہ کی پناہ لے لی اور وہ آواز سے بلند کر رہے تھے کہ اے ذات النطاقین کے بیٹے، تو ابن زبیر نے بطور مثال یہ شعر پڑھا ہے

”اور چغل خوروں نے اُسے عار دلائی کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ تیری طرف سے یہ شکایت اس کے لیے عار کی بات ہے۔“

پھر اس نے دیکھا کہ ایک پارٹی تلواریں لیے اس کی طرف آ رہی ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ مصری ہیں، ابن زبیر نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ امیر المومنین عثمان کے قاتل ہیں اور اس نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک آدمی کو تلوار سے دو نیم کر دیا اور کہا اے ابن حام صبر کر، پھر شامیوں اور مصریوں نے اس پر حملہ کر دیا، وہ مسلسل ان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھاتا رہا یہاں تک کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا اور بیت اللہ کی طرف واپس آنے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا ہے

”اور میں عار کے بدلے اپنی زندگی فروخت کرنے والا نہیں اور نہ ہی موت کے خوف سے سیر پھرتی تلاش کرنے والا ہوں۔“

اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو پھر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نے ان پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کر دیا ہے

”میرے ساتھیوں کو گردن مارنے نے ایک راہ پر چلا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جنگ سخت ہو گئی ہے۔“

تب حجر اسد کے پاس آیا تو اس نے اس کی پیشانی پر زور سے ٹھپڑ مار کر اس کی پیشانی کو خون آلود کر دیا اور پھر اس کے زخم کو مزید وسیع کر دیا اور کہا ہے

”ہمارے زخموں کا خون ہمارے ایڑیوں پر نہیں بہتا بلکہ ہمارے قدموں پر بہتا ہے۔“

پس اس نے انہیں مسجد سے نکال دیا اور اپنے لقیہ ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ کے پاس آ گیا اور انہیں کہنے لگا، تلواروں کے نیام پھینک دو اور تم میں سے ہر آدمی

اپنی تلوار کو اس طرح بچائے جیسے وہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی تلوار توڑ کر عورت کی طرح نہ بیٹھے اور تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ پوچھے کہ عبداللہ کہاں ہے اور جو میرے متعلق پوچھے تو میں سب سے اگلے دستے میں ہوں گا پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا

”اے میرے رب! شامی فوج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے بیت اللہ کے پردوں کو بچھاڑ دیا ہے، اے میرے رب میں ایک کمزور اور مظلوم آدمی ہوں، اپنی جناب سے میری مدد کے لیے فوج بھیج۔“

ہزاروں شامیوں نے ہر دروازے سے اس پر حملہ کر دیا، اور اس نے بھی حملہ کیا اور اُسے پتھروں سے کچل دیا گیا اور وہ پچھڑ کر گر گیا تو اس کے دو غلام اُسے بچانے کے لیے اس پر جھک گئے اور ان میں سے ایک کہہ رہا تھا

”غلام، اپنے آقا کو بچاتا ہے اور خود بھی بچتا ہے۔“

یہاں تک کہ وہ سب قتل ہو گئے اور اس کے ساتھ بھی منتشر ہو گئے اور حجاج کے حکم سے اُسے صلیب دیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کا قتل ۱۲ جمادی الاولیٰ ۳۰ھ کو منگل کے دن ہوا۔

اس کی والدہ اسماعیل نے اس کے دفن کرنے کے متعلق حجاج سے گفتگو کی مگر اس نے اس کی یہ بات نہ مانی، تو اس نے حجاج سے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ

”ثقیف کے ایک کذاب اور ایک بربادی انگن ظاہر ہو گا۔“

کذاب تو مختار تھا اور بربادی انگن کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ تو ہے، اور ہم اس کتاب میں حجاج کے حالات کی ایک جھلک پیش کریں گے اگرچہ ہم انہیں مبسوط طور پر اپنی پہلی کتب میں بیان کر چکے ہیں۔

حجاج تین سال تک مکہ، مدینہ، حجاز، یمن اور یامہ کا والی رہا۔

پھر بصرہ میں بشر بن مروان کی موت کے بعد اُسے عراق کی ولایت بھی دے دی

گئی۔

عبدالملک کے زمانے میں حضرت جابر بن عبد اللہ مدینہ میں ۸۱ھ میں

جابر بن عبد اللہ

فوت ہو گئے۔ آپ کی نظر ختم ہو چکی تھی اور عمر نوے سال سے اُوپر تھی۔ آپ معاویہؓ کے پاس دمشق میں آئے تو اس نے کئی روز تک آپ کو ملاقات کی اجازت نہ دی، جب اس نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے فرمایا اے معاویہؓ! کیا تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا کہ جس نے فاقہ کش اور حاجت مند کو روکا، قیامت کے روز جب اُسے فاقہ اور حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اُسے روک دے گا تو معاویہؓ نے ناراض ہو کر آپ سے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عنقریب تم میرے بعد خود پسندی کو پاؤ گے پس صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض پر آ جاؤ، تو نے صبر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا تو نے مجھے وہ بات یاد دلا دی ہے جو میں فراموش کر چکا تھا اور اپنی سواری پر بیٹھ کر واپس آ گئے، معاویہ نے ان کی طرف چہ سودینا بھیجے جسے انہوں نے واپس کر دیا اور اُسے لکھا۔

”اور جب تو نگر می اور قناعت اکٹھی ہوں گی تو میں قناعت کو اختیار کروں گا

اور محض ٹھنڈے پانی سے گزارہ کر لوں گا، اور جب مجھے کوئی امر پیش

آئے گا تو میں اپنے نفس کے خلاف فیصلہ کروں گا اور کسی لوگ ایسے ہیں

کہ جن کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، اور میں

حیا کا لباس زیب تن کر لوں گا اور میں نے تو نگر می کا مقام دیکھ لیا ہے

میں اس کے لیے اپنی عزت کو بڑھ نہیں لگاؤں گا۔“

اور آپ نے معاویہ کے ایچی سے کہا کہ لوگوں کے جگر چبانے والی عورت کے بیٹے

سے کہ دینا کہ تو اپنے اعمال نامہ میں کبھی ایسی نیکی نہیں پائے گا جس کا سبب میں بنوں۔

۸۱ھ میں حضرت محمد بن علی بن ابی طالب ابن حنفیہ عبدالملک کے

محمد بن حنفیہ

زمانے میں مدینہ میں وفات پا گئے اور بقیع میں دفن ہوئے آپ کی

نماز جنازہ ابان بن عثمان نے ان کے بیٹے ابی ہاشم کی اجازت سے پڑھائی، محمد بن حنفیہ

کی کنیت ابوالقاسم تھی آپ کی وفات ۶۵ سال کی عمر میں ہوئی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ

آپ ابن زبیر سے بھاگ کر طائف چلے گئے اور وہیں وفات پائی اور بعض کہتے ہیں کہ

آپ ایلہ کے علاقے میں فوت ہوئے اور آپ کی قبر کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے

قبل ازیں ہم کیسا نیکہ کا قول بیان کر چکے ہیں کہ ان میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ آپ "رضوی" پہاڑ میں ہیں آپ کے مندرجہ ذیل بیٹے تھے، حسن، ابو ہاشم، عبد اللہ، جعفر اکبر، حمزہ اور علی، اُم ولد سے جعفر اصغر اور عون، ام جعفر سے اور فاسم و ابراہیم۔

ہم سے نصر بن علی نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں ابو احمد زبیری نے یونس بن ابی اسحاق سے بتایا وہ کہتا ہے کہ ہمیں سہل بن عبید بن عمرو الخابوری نے بتایا کہ ابن حنیفہ نے عبد الملک کی طرف لکھا کہ حجاج ہمارے شہر میں آیا ہے اور میں اس سے مخالف ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو اُسے مجھ پر زبان اور ہاتھ سے غلبہ نہ دے تو عبد الملک نے حجاج کی طرف لکھا کہ محمد بن علی نے مجھے لکھا ہے کہ وہ تجھ سے معافی چاہتا ہے پس اس پر ہاتھ نہ ڈالنا اور میں نے زبان اور ہاتھ سے تجھے اس پر غلبہ نہیں دیا پس اس سے متعرض نہ ہو، حجاج اُسے طواف کرتے ملا تو ہونٹ کاٹ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین نے مجھے تیرے متعلق کیوں اجازت نہیں دی تو محمد نے اُسے کہا تیرا ابراہیم کیا تجھے علم نہیں کہ ہر دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تین سو ساٹھ نگاہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک نظر سے اور شاید اس نے ان نگاہوں میں سے ایک نگاہ سے مجھے بھی دیکھا ہو اور اس نے مجھ پر رحم کیا ہو اور مجھ پر تجھے زبان اور ہاتھ سے غلبہ نہ دیا ہو، ماہ اوی بیان کرتا ہے کہ حجاج نے یہ بات عبد الملک کو لکھی اور عبد الملک نے یہ بات شاہ روم کو لکھی اور اس نے شاہ روم کو دھمکی دی ہوئی تھی تو شاہ روم نے معاویہ کو لکھا کہ یہ بات نہ تو اور نہ تیرے آباؤ اجداد کہہ سکتے ہیں یہ بات صرف نبی یا نبی کے اہل بیت کا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے۔

شاہ روم اور شعبی | شعبی بیان کرتا ہے کہ عبد الملک نے مجھے شاہ روم کی طرف بھیجا جب میں اس کے ہاں پہنچا تو اس نے جس بات کے متعلق بھی مجھ سے

پوچھا میں نے اس کا جواب دیا، ایچی اس کے ہاں لمبا قیام نہیں کرتے تھے۔ اس نے مجھے بہت دنوں تک روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے جانا چاہا اور جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تو بھی شاہی خاندان سے ہے میں نے کہا نہیں بلکہ میں ایک عام عرب ہوں تو اس نے چپکے سے مجھے ایک رقعہ دیا اور کہا کہ جب تو اپنے آقا کے پاس پہنچ کر اُسے خط پہنچانے تو یہ رقعہ بھی اُسے پہنچا دینا، شعبی بیان کرتا ہے کہ میں نے عبد الملک کے پاس پہنچ کر اُسے

خط پہنچا دیے اور یہ رقعہ پہنچانا بھول گیا اور جب میں قصر امارت کے ایک کمرے میں جا کر وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے وہ رقعہ یاد آ گیا، پس میں نے واپس آ کر اُسے رقعہ پہنچا دیا اور جب اس نے اُسے پڑھا تو مجھے کہا کہ اس نے یہ رقعہ دینے سے قبل تجھے کوئی بات کہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، اس نے مجھے کہا تھا کہ کیا تو شاہی خاندان سے ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں بلکہ میں ایک عام عرب ہوں، پھر میں اس کے ہاں سے چلا آیا اور جب میں دروازے پر پہنچا تو مجھے واپس بلا یا گیا، جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو عبد الملک نے مجھے کہا، کیا تجھے پتہ ہے کہ رقعہ میں کیا تھا؟ میں نے جواب دیا نہیں اس نے کہا، اُسے پڑھو اور جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مجھے اس قوم پر تعجب آتا ہے جس میں اس قسم کے آدمی ہوں کہ وہ دوسروں پر کیسے بادشاہ بن جاتے ہیں میں نے عبد الملک سے کہا خدا کی قسم اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو میں اُسے نہ اٹھاتا اور اس نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اس نے تجھے نہیں دیکھا، اس نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ اس نے تیری وجہ سے مجھ پر حسد کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور وہ مجھے تیرے قتل پر برا لگینختہ کرنا چاہتا ہے، شعبی کہتا ہے کہ یہ روایت شاہ و روم تک پہنچی تو اس نے کہا عبد الملک نے جو بات کہی ہے میں نے وہی ارادہ کیا تھا۔“

معاویہ کا عبد الملک کی تعریف کرنا | حضرت معاویہؓ کے پاس عبد الملک کا ذکر

کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ تین باتوں کا پابند اور تین باتوں کا تارک ہے جب بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے اور بات کو اچھی طرح سنتا ہے اور جب اس کی مخالفت کی جائے تو آسان بات کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور جھگڑے، غیبت اور ایسی بات کا تارک ہے جس سے اُسے معذرت کرنی پڑے، عبد الملک کے ایک ہم نشین نے اُسے ایک روز کہا کہ میں آپ سے خلوت میں ملنا چاہتا ہوں جب وہ اس سے علیحدگی میں ملا تو عبد الملک نے اُسے کہا کہ تین شرطوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے کہ میری تعریف نہ کرنا میں اُسے تجھ سے بہتر جانتا ہوں، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا میں وہ تجھ سے نہیں سنوں گا اور میرے پاس جھوٹ نہ

بولنا کیونکہ جھوٹے کی کوئی رائے نہیں ہوتی تو اس نے کہا کیا آپ مجھے واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا آپ جب چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

عبدالملک اور اس کا تحائف قبول کرنے والا عامل

الہشیم اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ

عبدالملک کو اس کے ایک عامل کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ تحائف قبول کرتا ہے تو اس نے اُسے اپنے پاس واپس بلا یا جب وہ عبدالملک کے پاس آیا تو اس نے اُسے کہا کہ جب سے تو حکمران بنا ہے تو تحائف قبول کرتا ہے اس نے عبدالملک کو کہا یا امیر المومنین آپ کا ملک آباد اور خراج وافر اور رعیت خوش حال ہے، عبدالملک نے کہا میں نے جو بات

تجھ سے دریافت کی ہے اس کا جواب دو، کیا جب سے میں نے تمہیں حکمران بنا یا ہے تم تحائف قبول کرتے ہو اس نے جواب دیا ہاں۔ عبدالملک نے کہا کہ اگر تم تحفہ قبول کر کے اس کا بدلہ نہیں دیتے تو تم کینے ہو اور اگر تم تحفہ دینے والے کو اس مال سے دیتے ہو جو تمہارا نہیں یا تم اس سے اتنا طلب کرتے ہو جتنا مال کفایت نہیں کر سکتا تو تم خائن اور ظالم ہو اور جو بھی تم نے کام کیا ہے وہ کینگی یا خیانت یا بناوٹی جہالت سے خالی نہیں اور اُسے اس کے عہدے سے ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔

عمر و بن بلال کا عبدالملک اور اس کی بیوی کے درمیان صلح کرانا

المنقری نے الفی سے

بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ولید بن اسحق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ عائکہ بنت بیزید بن معاویہ جس کی ماں اُم کلثوم بنت عبد اللہ بن عامر تھی، عبدالملک بن مروان کی بیوی تھی وہ عبدالملک سے ناراض ہو گئی، اس نے اُسے ہر طرح سے راضی کرنا چاہا مگر وہ نہ مانی وہ اُسے بہت محبوب تھی پس اس نے اپنے خواص کے پاس شکایت کی تو بنی اسد کے ایک آدمی عمرو بن بلال نے جس نے زبیر بن عبد المطلب کی بیوی کی شادی کی ہوئی تھی اُسے کہا کیا میں اُسے راضی کر دوں اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں کر دیں، تو وہ باہر گیا اور عبدالملک کی بیوی کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا، اس کے خواص نے اس سے پوچھا اے ابو حفص تم کیوں روتے ہو اس نے کہا مجھے اپنے چچا کی بیٹی کی مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت لے دی اور عائکہ نے

مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ امیر المومنین معاویہ، یزید، مروان اور عبد الملک کے ساتھ میرے کیسے تعلقات رہے ہیں اور دو بیٹوں کے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں اور میرے ایک بیٹے نے حملہ کر کے دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور امیر المومنین نے کہا کہ میں قاتل کو قتل کروں گا، میں نے اُسے کہا کہ میں مقتول کا ولی ہوں اور میں نے معاف کر دیا ہے مگر وہ بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ میں اپنی رعیت کو یہ عادت نہیں ڈالنا چاہتا، وہ میرے بیٹے کو کل صبح قتل کرنے والے ہیں، میں آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ جو بات میں نے امیر المومنین سے کہی ہے اس بات پر انہیں رضامند کر دیں، اس نے کہا میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں نے کہا میرے خیال میں آپ کسی نفس کو زندہ کرنے سے بڑی نیکی نہیں کر سکتیں، اس کے خواص، خادم اور نوکر بھی مسلسل یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے میرے کپڑے لادو، اس نے کپڑے زیب تن کیے، اس کے اور عبد الملک کے درمیان ایک دروازہ تھا جسے اس نے بند کیا ہوا تھا اس نے اس کے کھولنے کا حکم دیا پھر اندر داخل ہو گئی تو ایک خواجہ سمرادوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین یہ عا کہ ہے اس نے کہا تو ہلاک ہو گیا تو نے اُسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اور ابھی عبد اللہ خاموش رہا تو اس نے کہا خدا کی قسم اگر عمرو بن بلال کے مرتبے کا خیال نہ ہوتا تو میں تیرے پاس نہ آتی، کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور وہ مقتول کا وارث ہے اور اس نے اُسے معاف کر دیا ہے اور تو اس کے قتل کا ارادہ کیسے ہوئے ہے، عبد الملک نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اس نے منہ پھیر لیا تو اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور انہیں بوسہ دیا تو اس نے کہا اچھا جو تو کہتی ہے ویسے ہی ہوگا اور تین باز نکاح کرنے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے پھر عبد الملک چلا گیا اور اپنے خواص کی مجلس میں جا بیٹھا، عمرو بن بلال آیا تو اس نے اُسے کہا اے ابو حفص تو نے اُسے لانے کے لیے نہایت لطیف جیلہ کیا ہے اب جو تو کہتا ہے کہ، اس نے کہا یا امیر المومنین ایک ہزار دینار اور ایسی کھیتی جس میں آلات زراعت اور غلام ہوں، عبد الملک نے کہا میں نے یہ سب کچھ تجھے دیا اس نے کہا میرے بچوں اور گھروالوں کا وظیفہ بھی چاہیے

اس نے کہا میں نے یہ سب کچھ تجھے دیا، غانمہ کو بھی اطلاع مل گئی تو کہنے لگی مجھے لے جانے والے پر ہلاکت ہو اس نے مجھ سے فریب کیا ہے۔

عبدالملک نے حجاج کی طرف لکھا کہ مجھے فتنہ کی تعریف بتاؤ اس نے عبدالملک کو لکھا کہ فتنہ پوشیدہ مشورہ

حجاج کا فتنے کی تعریف کرنا

سے جو ان ہوتا ہے اور شکایات سے کاٹا جانا ہے اور تقاریر سے بچے دیتا ہے عبدالملک نے اسے لکھا کہ تو نے فتنہ کی بہت اچھی تعریف کی ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے آگے ہیں ٹھیک رہیں تو تو ان کو اکٹھے رہنے کا پابند بنا اور انہیں علیحدگی کا موقع بھی دے اور انہیں ضرورت مند بناٹے رکھ۔

یہیں المنقری نے بتایا کہ ہمیں ابو الولید الصباح بن الولید نے بتایا وہ کتنا ہے کہ ہم سے ابو ریاش ضبہ بن نفاقہ نے مقلس بن سابق و مشقی پھر سکسکی سے روایت بیان کی کہ جب عبدالملک کو ابن اشعث کی علیحدگی کی اطلاع ملی تو اس نے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اہل عراق نے میری مدت حیات کے ختم ہونے سے قبل ہی میرے مقررہ وقت کے متعلق جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اے اللہ جو ہم سے بہتر ہیں ہمیں ان پر مسلط نہ کرنا اور نہ انہیں ہم پر مسلط کرنا جس سے ہم بہتر ہیں اے اللہ شاہمیوں کی تلوار کو عراقیوں پر مسلط کرنا کہ وہ تیری رضا کو حاصل کر لیں تو اپنی ناراضگی کو ان پر نہ بڑھانا۔

عبدالملک نے حجاج کو خط لکھا تو میرے نزدیک

عبدالملک کا خط حجاج کے نام جسے وہ سمجھ نہ سکا

سالم ہے مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس فقرے سے عبدالملک کی مراد کیا ہے، پس اس نے قتیبہ بن مسلم کی طرف اس فقرے کے مفہوم کی دریافت کے لیے خط لکھا اور خط کو ایک ایچی کے ہاتھ بھیجا جب ایچی قتیبہ کے پاس گیا اور اسے خط دیا تو ایچی نے گوز مار دیا، جس سے وہ بہت ہشیمان ہوا۔ قتیبہ نے خط کو پڑھا اور اسے بیٹھ جانے کو کہنا چاہا۔

تو اس نے کہا کہ میں گوز مارتا ہوں، قتیبہ نے کہا یہ کام تو تو کر چکا ہے اور قتیبہ نے شرمندہ ہو کر کہا کہ میں نے تجھے بیٹھ جاؤ کے سوا اور کوئی بات کہنے کا ارادہ نہیں کیا مگر تو نے غلطی کی ہے اس نے کہا میں نے غلطی کی ہے تو تو نے بھی غلطی کی ہے۔ قتیبہ نے کہا یہ تو ایک جیسی بات نہیں، میں تو اپنے منہ سے غلطی کرتا ہوں اور تو اپنے سر سے

غلطی کرتا ہے، امیر کو یہ بات بتا دینا کہ سالم ایک آدمی کا غلام تھا اور اس کے ہاں اُسے بڑا شرف حاصل تھا اور اس کے متعلق اس کے پاس بہت شکایات کی جاتی تھیں تو اس نے کہا کہ

”وہ مجھے سالم سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں اور میں انہیں چکر دے رہا ہوں اور ناک اور کان کے درمیان کی کھال سالم ہے۔“

عبدالملک کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک تیرا مقام سالم کا سا ہے جب وہ حجاج کے پاس خط لایا تو اس نے اُسے خراسان کی گورنری لکھ دی۔

یہ واقعہ ایک آدمی سے اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خالد بن عبداللہ قسری کی مجلس میں تھا کہ اس نے گوز مار دیا اور جب ناشتہ آیا تو یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، خالد نے اُسے کہا بیٹھ جاؤ وہ نہ مانا تو اُس نے اُسے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو ضرور گوز مارے گا اس نے کہا میں تو گوز مار چکا ہوں تو خالد پشیمان ہو گیا، اس سے معذرت کی اور اُسے مال دینے کا حکم دیا۔

عبدالملک کو یا قوت اور موتیوں سے مرصع ایک ڈھال تحفہ میں دی گئی جسے اس نے بہت پسند کیا اس وقت اس کے پاس اس کے خواص اور خلوٹیوں کی ایک جماعت بھی بیٹھی تھی اس نے اپنے ایک ہم نشین خالد نام سے کہا کہ ڈھال کو ٹھول کر دیکھ۔ اس سے اس کا مقصد اس کی مضبوطی کو جانچنا تھا اس نے کھڑے ہو کر اُسے ٹھولا تو اس نے گوز مار دیا جس سے عبدالملک اور اس کے ہم نشین ہنس پڑے عبدالملک نے کہا گوز کی دیت کتنی ہے، ایک آدمی نے کہا چار سو دہم اور ایک مخمل کی چادر، پس اس نے یہ چیزیں اس آدمی کو ادا کرنے کا حکم دیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں ایک یہ شعر پڑھنے لگا

”کیا خالد، ڈھال کے چھوٹنے سے گوز مارتا ہے اور امیر اُسے اس کام کے سہرا حجام دینے پر عطیات دیتا ہے، اس گوز کے کیا کہنے جو تو بگڑی لاتا ہے اور اے گوز تیرے کیا کہنے جس نے فقیر کو غنی کر دیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اگر وہ بھی گوز مارتے تو وہ بھی اس مال کو حاصل کرتے جو ان کے ساتھی کو ملا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ گوز مارنا غنی کر دیتا ہے تو ہم گوز مارتے اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے۔“

عبدالملک نے کہا اس آدمی کو چار ہزار درہم دے دو، ہمیں تیرے گوز کی ضرورت نہیں

۴

احمد بن سعید دمشقی طوسی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کتاب الاخبار
عبدالملک کا حج کرنا میں جو الموثقیات کے نام سے مشہور ہے، بیان کیا ہے کہ ہمیں

زبیر بن بکار نے بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن یزید نے عقبہ بن ابولہب
کے طریق سے بتایا وہ کہتا ہے کہ ایک سال عبدالملک نے حج کیا اور لوگوں کو عطیات دینے کا
حکم دیا میں نے ایک تھیلی نکالی جس پر لکھا تھا "یہ صدقہ کی تھیلی ہے" تو اہل مدینہ نے اس کے
قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں مال غنیمت سے عطیہ ملتا ہے پس عبدالملک نے
منبر پر بیٹھ کر کہا کہ اے گروہ قریش ہماری اور تمہاری مثال زمانہ جاہلیت کے ان دو بھائیوں کی
سی ہے جو سفر پر نکلے اور ایک درخت کے سائے میں تپھروں پر بیٹھ گئے جب شام کا وقت
قرب آیا تو تپھروں کے نیچے سے ایک سانپ منہ میں دینا لیسے ان کے پاس آیا اور اُسے
ان کے پاس پھینک دیا انہوں نے کہا یہ دینا کسی خزانے کا ہے وہ وہاں پر تین دن تک
ٹھہرے رہے اور ہر روز سانپ ان کی طرف ایک دینا پھینک دیتا، ایک بھائی نے
دوسرے سے کہا ہم کب تک اس سانپ کا انتظار کرتے رہیں گے آؤ ہم اس سانپ
کو مار دیں اور اس خزانے کو کھود کر حاصل کر لیں؟ اس کے بھائی نے اُسے منع کیا
اور کہا تجھے کیا معلوم کہ تو ہی ہلاک ہو جائے اور مال کو حاصل نہ کر سکے مگر وہ نہ مانا اور کھماڑا
لے کر جو اس کے پاس ہی تھا سانپ کا انتظار کرنے لگا جب وہ سانپ باہر آیا تو اس نے
اُسے ضرب لگائی جس سے اُس کا سر زخمی ہو گیا مگر یہ اُسے مار نہ سکا، سانپ نے
جوش میں آ کر اُسے مار دیا اور اپنے بل میں واپس چلا گیا اور اس کے بھائی نے اسے دفن کر
دیا اور وہیں پر ٹھہرا رہا جب دوسرا دن ہوا تو سانپ باہر نکلا اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی
تھی لیکن اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس نے سانپ سے کہا اے سانپ خدا کی قسم جو
تجھے تکلیف پہنچی ہے میں اس سے راضی نہیں تھا اور میں نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے
سے منع بھی کیا تھا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہم اپنے درمیان اللہ تعالیٰ کو صائم بنا
لیں، نہ تو مجھے نقصان پہنچانا اور نہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا اور جس جگہ پر تو تھا اس
جگہ واپس چلا جا۔ سانپ نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا کیوں ایسا نہیں ہو

سکتا، اس نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو مجھے کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا اور تو اپنے بھائی کی قبر کو دیکھتا رہے گا اور میرا نفس بھی تجھے گوارا نہیں کرے گا اور میں اس سر کے زخم کو یاد کرتا رہوں گا اور پھر اس نے انہیں نابغہ کا شعر سنایا یہ

دیس محبوبہ نے کہا کہ میں قبر کو دیکھتی ہوں اور تو میرے مقابل میں کلہاڑے کی چوٹ کو دیکھتا ہے جو میرے سر پر لگی ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے گودے کو توڑ دینے والی ہے

اے گرد و قریش! حضرت عمر بن الخطاب تمہارے حکمران بنے تو وہ بڑے سخت، تند مزاج اور تمہیں تنگ کرنے والے تھے تم نے ان کی سمیع و اطاعت کی پھر حضرت عثمان تمہارے حکمران بنے وہ نرم مزاج اور سخی آدمی تھے تم نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور ہم نے حرہ کے روز تم پر مسلم کو حکمران بنا کر بھیجا تم نے اُسے قتل کر دیا اے گرد و قریش! ہمیں علم ہے کہ تم ہمارے ساتھ کبھی محبت نہیں کر سکتے اور جنگ حرہ کا تذکرہ کرتے رہو گے اور ہم تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتے اور ہم حضرت عثمانؓ کے قتل کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔

المداثنی اور ابن دأب نے بیان کیا ہے کہ **روح بن زنباع اور عبد الملک**

اس نے عبد الملک کے اعراض اور جفا کو دیکھ کر ولید بن عبد الملک سے کہا کہ کیا تم میری حالت کو نہیں دیکھ رہے جو امیر المومنین کے اعراض کی وجہ سے میرے شامل حال ہے یہاں تک کہ میری طرف درندوں نے اپنے منہ کھول دیے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ولید نے اُسے کہا تم ان کے ساتھ کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے وہ مسکرا دیں جیسے شاہ فارس ساہور بن ساہور کے ندیم مرزبان نے کی تھی، روح نے پوچھا بادشاہ کے ساتھ اس کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ ولید نے کہا کہ مرزبان، ساہور کا داستان گو تھا، اس نے ساہور کی بدسلوکی کو محسوس کیا تو اس نے کتوں کے بھونکنے اور بھیڑیوں کے چیخنے اور گدھوں کے رینکنے اور مرغوں کے بانگ دینے اور چچراؤ گھوڑے کے ہنہانے اور اس قسم کی آوازیں نکالنا سیکھ لیا اور پھر ایک تدبیر کے ذریعے بادشاہ کی خلوت گاہ اور بستر کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اور اپنے نشانات کو پوشیدہ رکھا جب بادشاہ خلوت میں آیا تو وہ کتے کی طرح بھونکا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کتا ہی ہے، بادشاہ نے کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ تو وہ بھیڑیوں کی طرح چیخا۔ تو بادشاہ اپنے تخت سے اتر آیا تو وہ گدھوں کی طرح رینکا تو بادشاہ بھاگ گیا، غلام

نشانات اور آوازوں کے پیچھے گئے اور جب کبھی وہ اس کے قریب ہوئے تو وہ اس آواز کو چھوڑ دیتا اور کسی دوسرے جانور کی آواز نکال دیتا تو وہ اس سے رُک گئے پھر وہ اکٹھے ہو کر اس پر پل پڑے اور اُسے اس جگہ سے نکال لیا جب انہوں نے اُسے دیکھا تو بادشاہ سے کہا کہ یہ مذاق کرنے والا مرد بان ہے تو بادشاہ بہت ہنسنا اور اُسے کہنے لگا تو ہلاک ہو جائے تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسخ کر کے کنا، بھیڑیا اور گدھا اور تمام مخلوق کی طرح بنا دیا تو بادشاہ نے اُسے خلعت دینے کا حکم دیا اور اُسے اس کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا اور اس نے اس ذریعہ سے بادشاہ کو از سر نو خوش کر دیا تو روح نے ولید سے کہا کہ جب امیر المومنین اپنی جگہ پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تو مجھ سے پوچھنا کہ کیا عبد اللہ بن عمر مزاح کرتے یا سنا کرتے تھے، ولید نے کہا میں ایسا کروں گا کہ حضرت ابن عمر نہ مزاح کرتے تھے اور نہ مزاح کے متعلق کچھ جانتے تھے (ولید پہلے چلا گیا اور اس کے پیچھے سچھے روح گیا اور جب یہ اطمینان کے ساتھ امیر المومنین کے پاس بیٹھ گئے تو ولید نے روح سے کہا اے ابو زرعتہ! کیا حضرت ابن عمر مزاح کرتے یا سنا کرتے تھے، روح نے کہا مجھے ابن ابی عتیق نے بتایا ہے کہ ان کی بیوی عاتکہ بنت عبد الرحمن مخزومیہ نے ان کی بیجو کی اور کہا ہے

”اللہ تعالیٰ اس چیز کو فنا کر دے جس سے تو زندگی گزارتا ہے اور تو اپنی زندگی

کو بازی میں ہار دے، تو نے اپنے مال کو بے دریغ طور پر ہرزانیہ عورت اور شراب کے لیے خرچ کر دیا ہے۔“

ابن عتیق عورتوں سے محبت کی باتیں کرنے والا اور بڑا سنس مکھ تھا، اس نے یہ دُشعر ایک دفعہ میں لکھے اور ہا ہر چلا گیا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابن عمر آ رہے ہیں، کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن ذرا اس دفعہ کو ملاحظہ فرمائیے اور اس بارے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، جب عبد اللہ نے ان اشعار کو پڑھا تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہا اور اُسے کہنے لگے جس شخص نے ان اشعار میں میری بیجو کی ہے تیری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اُسے معاف کر دیں گے اور اس سے درگزر فرمائیں گے اے ابو عبد الرحمن خدا کی قسم اگر میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں اُسے اچھی طرح

بے وقوف بناؤں گا تو ابن عمر پر لڑزہ طاری ہو گیا اور ان کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگے ، تجھ پر خدا کا غضب ہو تجھے کیا ہو گیا ہے ؟ اس نے کہا وہی کچھ ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے اور دونوں الگ الگ ہو گئے ، پھر چند دنوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عمر نے اس سے اعراض کیا تو اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن میں اس آدمی سے ملا تھا جس نے دو شعر کہے تھے اور میں نے اُسے بے وقوف بنایا تھا تو حضرت ابن عمر بے ہوش ہو گئے جب اس نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے قریب ہو کر آپ کے کان میں کہنے لگا کہ وہ شعر کہنے والی میری بیوی تھی تو حضرت ابن عمر نے اُٹھ کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور مسکرائے اور کہنے لگے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے مزید ایسا کرنا ، تو عبد الملک ہنس پڑا یہاں تک اپنے پاؤں سے مٹی کھودنے لگا اور روح سے کہنے لگا اے روح تیرا استیاناں ہونیری باتیں کیسی شان دار ہیں اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا یا پس روح اُٹھ کر اس کے پاس گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین کیا کسی گناہ کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں یا اکتاہٹ کی وجہ سے کیا ہے تو میں صبر کرتا ہوں اور اس کے بدلے کا امیدوار ہوں ، عبد الملک نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ اعراض کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے نہ تھا اور پھر دوبارہ اس کے حالات اچھے ہو گئے۔

عبد الملک الہمدانی اور سلیمان بن منصور

اس قسم کی ایک حکایت عبد الملک بن ہشام الہمدانی سے بھی بیان کی گئی ہے ، وہ سلیمان بن منصور کا داستان گو تھا سلیمان نے اس سے بدسلوکی کی تو ایک روز وہ اس کے پاس عین دوپہر کو سخت گرمی کے وقت آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے اُسے کہا کہ اس وقت امیر کے پاس جانے کی اجازت نہیں اس نے اُسے کہا اُسے میرے مرتبہ کے متعلق بناؤ ، وہ گیا اور اس نے اس کے لیے اجازت طلب کی ، سلیمان نے اُسے کہا کہ اُسے حکم دو کہ وہ کھڑا کھڑا سلام کرے اور زیادہ وقت نہ لے پس دربان باہر آیا اور اُسے اندر جانے کی اجازت دی اور اُسے جلدی واپس آنے کا حکم دیا پس اس نے اندر جا کر کھڑے ہو کر سلام کہا پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے کہ میں کل شام کو اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا اور ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ مؤذن نے اذان دے دی ، میں مسجد کے قریب ہوا ، اور پھر میں بند مسجد کے اوپر چڑھا اور پھر چڑھتا

اسی چلا گیا سفیان نے کہا تو آسمان تک پہنچ گیا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک کر دی یا طمطمانی آدمی آگے بڑھا اور اس نے لوگوں کی ایسے کلام میں امانت کرانی جس کو میں سمجھتا ہی نہ تھا اور نہ اس زبان کو جانتا تھا اس نے کہا "ویل لكل زممة زماملا وعدة" اس نے کہا "ویل لكل همزة ملزة الذي جمع مالا وعددة" اور اس کے پیچھے ایک شرابی بھی کھڑا تھا جو نشہ کی وجہ سے عقل و ہوش میں نہ تھا جب اس نے اس کی قراءت کو سنا تو اپنے دونوں ہاتھ پاؤں مار کر کہنے لگا "ایر عجبکی در لیلکافی حرام قارنگ و مصلیک" تو سلیمان کو اس قدر ہنسی آئی کہ وہ اپنے بستر پر لٹنے لگا اور کہنے لگا اے ابو محمد میرے قریب ہو جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین آدمی ہے پھر اُسے خلعت دیا اور کہنے لگا:-
 دروازے پر بیٹھا کرو اور ہر روز آیا کرو اور پھر اس کے حالات اچھے ہو گئے۔

حجاج کے عجیب و غریب واقعات و خطبات

اور

بعض کارنامے

حجاج کی خونریزی کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے پاس تھی وہ سحری کے وقت
 اس کے پاس آیا تو وہ خلال کر رہی تھی اس نے اُسے طلاق دے دی، اس نے پوچھا تو نے مجھے طلاق کیوں دی ہے؟ کیا تو نے مجھ سے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس نے تجھے میرے بارے میں شک میں ڈال دیا ہے اس نے جواب دیا ہاں میں سحری کے وقت تیرے پاس آیا تھا اور تو خلال کر رہی تھی پس اگر تو نے جلدی ناشتہ کر لیا ہے تو تو بہت حریص ہے اور اگر تو نے رات اس حالت میں گزار دی ہے کہ کھانا تیرے دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا تو تو گندی ہے، اس نے کہا یہ دونوں باتیں نہیں ہوئیں بلکہ میں نے مسواک کے ٹکڑوں سے خلال کیا ہے، اس کے بعد یوسف بن ابی عقیل ثقفی نے اس سے شادی کر لی جو حجاج کا باپ ہے اس کے ہاں حجاج بن یوسف بگڑی ہوئی صورت میں پیدا ہوا اس کی

دُبر نہ تھی تو اس کی دُبر کی جگہ پر سوداچ کیا گیا، اس نے اپنی ماں اور کسی دوسری عورت کے پستان سے دُدھ پینے سے انکار کر دیا جس سے وہ بہت پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ شیطان ان کے سامنے حادثہ بن کلمہ کی شکل میں آکر کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یوسف کے ہاں نواہر سے ایک ہر شے پیدا ہو سکتی ہے، حجاج کی ماں کا نام نواہر تھا، اور وہ اپنی ماں یا کسی دوسری عورت کے پستان سے دودھ نہیں پیتا اس نے کہا کہ اس کے لیے ہر روز ایک بخری کا سیاہ رنگ کا بچہ ذبح کرو اور اس کے خون میں اسے لتھیڑو اور اس کے چہرے پر بھی لٹو تو یہ چوتھے روز پستان کا دُدھ پئے گا راوی کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس لیے وہ بعد میں خونریزی سے باز رہا ہی نہ سکنا تھا کیونکہ اس کی ابتداء اسی سے ہوئی تھی اور حجاج خود اپنے متعلق بتاتا تھا کہ اُسے خونریزی کرنے اور ایسے امور کے ارتکاب میں بہت مزہ آتا ہے جو دوسرے نہ کر سکتے ہوں اور اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی ان کی طرف سبقت نہ کر سکتا ہو۔

عبدالملک کا مہلب کو خوارج سے جنگ کرنے پر مقرر کرنا

ابن ابی جعفر محمد بن سلیمان بن داؤد

بصری المنقری نے بتایا کہ مجھے ابن عائشہ وغیرہ نے بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ جب خوارج بصرہ پر غالب آگئے تو عبدالملک نے ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی جسے انہوں نے شکست دے دی پھر اس نے دوسری فوج بھیجی تو اُسے بھی انہوں نے شکست دے دی تو عبدالملک نے کہا بصرہ اور خوارج سے کون بڑے گا اُسے بتایا گیا کہ مہلب بن ابی صفیر کے سوا اور کوئی یہ کام نہ انجام نہیں دے سکتا تو اس نے مہلب کی طرف آدمی بھیجا اس نے کہا جب تک میں ابیں بصرہ سے نہ نکالوں تو میں گناہ گار ہوں گا، عبدالملک نے کہا اگر تو ابیں دہاں سے نکال دے تو تو میری حکومت میں شریک ہوگا اس نے کہا حکومت کا دہتا میرا حصہ ہوگا اس نے کہا نصف ہوگا، اس نے کہا خدا کی قسم میں اس سے کچھ بھی کم نہیں لوں گا مگر تم جو انوں سے میری مدد کرو اور جب تو خرابی پیدا کر دے تو تیرا مجھ پر کوئی حق نہ ہوگا، لوگ کہنے لگے کہ عبدالملک نے عراق پر ایک کمزور آدمی کو مقرر کیا ہے عبدالملک کہنے لگا کہ میں نے مہلب کو خوارج سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے جب وہ دجلہ پار کر گیا تو اس نے عبدالملک کو لکھا کہ میرے پاس ان سے لڑنے کے لیے آدمی

میں پس یا تو تو میری طرف آدمی بھیج اور یا ان کے اور بصرہ کے درمیان جگہ خالی کر دے، عبد الملک اپنے اصحاب کے پاس گیا اور کہنے لگا تم ہلاک ہو جاؤ، عراق سے کون پیٹے گا؟ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی لیکن حجاج نے کھڑے ہو کر کہا میں عراق کا قضیہ طے کروں گا عبد الملک نے کہا تم بیٹھ جاؤ پھر کہنے لگا تم ہلاک ہو جاؤ عراق سے کون پیٹے گا؟ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور حجاج نے تیسری بار کھڑے ہو کر کہا امیر المؤمنین خدا کی قسم میں اس کا قضیہ طے کروں گا، اس نے کہا تو عراق کا بھڑ ہے اور اس نے اُسے شاہی فرمان لکھ دیا جب وہ قادیسیہ پہنچا تو اس نے فرج کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے اور پیچھے چلے اور اس نے ایک اونٹ منگوا یا جس پر کجا وہ بڑا ہوا تھا وہ اس پر بغیر کسی گدی اور زین کے بیٹھ گیا اور خط کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سفری لباس پہن لیا اور اپنا عمامہ باندھ لیا اور اکیلا ہی کوفہ میں داخل ہو کر منادی کرنے لگا۔ کہ نماز جمع ہونے والی ہے اور ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو اپنے مالی و مالی کے ساتھ بیس یا تیس سے زائد آدمیوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہو پس یہ ڈھاٹا باندھ کر اور اپنی گماندہ پر رکھ کر منبر پر چڑھ گیا اور اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا، لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم اسے سنگریزے ماہیں اتنے میں محمد بن عمر الدارمی اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد میں آیا اور جب اس نے حجاج کو منبر پر بیٹھے دیکھا کہ نہ وہ ایک طرف ہوتا ہے اور نہ بولتا ہے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ بنی امیہ پر لعنت کرے جو اس قسم کے آدمیوں کو عراق کا حکمران بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عراق کو برباد کر دے جو اس قسم کا آدمی اس کا حکمران ہو پھر اس نے اُسے سنگریزے ماہنے کے لیے مسجد کے سنگریزوں پر ہاتھ مارا اور کہا خدا کی قسم کہ اگر بنی امیہ کو اس سے بھی بڑا آدمی ملتا تو وہ ضرور اُسے ہمارے پاس بھیجتے اور جب اس نے اُسے سنگریزے ماہنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھر کے ایک آدمی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے اس آدمی کو مارنے سے باز رہ تاکہ ہم اس کی بات کو سن سکیں اور ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا یہ آدمی گونگا ہو گیا ہے اور بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور ایک دوسرا آدمی کہنے لگا کہ یہ بدو ہے اس کو کوئی دلیل نہیں سوجھ رہی، پس جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو اس نے اپنے چہرے سے ڈھاٹا اتارا اور کھڑا ہو گیا اور عمامے کو اپنے سر سے ہٹا دیا بخدا اس نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور سب سے پہلے یہ شعر پڑھا

”میں صبح کا بیٹھا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھ جانے والا ہوں اور جب میں اپنا
 عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لو گے۔“

بخدا میں اٹھتی ہوئی نگاہوں اور لمبی گردنوں
 اور پکے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے

عراق آنے پر حجاج کی تقریر

توڑنے کا وقت آ گیا ہے اور میں ہی ان سروں کو توڑنے والا ہوں اور میں اس خون کو بھی
 دیکھ رہا ہوں جو ظالموں اور ڈاڑھیوں کے درمیان پینکتا ہے۔
 ”یہ جنگ کا وقت ہے پس گھوڑوں کو دوڑاؤ اور رات نے انہیں ایک
 ایسے ہانکنے والے کے سامنے جمع کر دیا ہے جو توڑ پھوڑ دینے والا ہے، اور
 وہ اونٹوں اور بکریوں کا چرواہا نہیں اور نہ ہی تختے پر گوشت کاٹنے والا
 قصاب ہے۔“

تیز اس نے کہا کہ یہ

”رات نے ایک مضبوط آدمی کے لیے فوج کو جمع کر دیا ہے جو بڑا بانکا
 اور گر جنے والے بادل سے بھی خراج لینے والا ہے، اور وہ مہاجر
 بدو نہیں۔“

تیز کہا

”اور جنگ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا ہے اور انہوں نے بہت
 جدوجہد کی ہے اور جنگ سخت ہو گئی ہے اور وہ بھی سخت ہو گئے
 ہیں، اور کمان، اس میں کنواری لڑکی کے ہاتھ کی طرح یا اس سے بھی
 زیادہ سخت چلتے کی طرح ہو گئی ہے۔“

امیر المومنین نے اپنے ترکش کو جھاڑا تو اس نے مجھے سب سے زیادہ تلخ مزہ، تیز
 دھار اور مضبوط چوٹ لگانے والا پایا پس اگر تم ٹھیک رہے تو تمہارے امور ٹھیک رہیں گے
 اور اگر تم نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے راستوں کو اختیار کیا تو تم مجھے ہر گھات میں موجود
 پاؤ گے خدا کی قسم میں تمہاری کسی لغزش کو قبول نہیں کروں گا اور نہ تمہارے کسی غدر کو قبول
 کروں گا، اے اہل عراق تم اہل شقاق و نفاق اور برے اخلاق کے حامل ہو، خدا کی قسم مجھے
 انجیر کی طرح ٹھوکا نہیں لگایا جا سکتا اور نہ میں کسی حادثے سے پریشان ہوتا ہوں اور نہ میں

قتل ہونے سے بھاگتا ہوں مجھے تجربہ کے بعد تلاش کیا گیا ہے خدا کی قسم میں تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا اور نرم و نازک ہاتھ پاؤں والی عورت کی طرح تمہیں پٹیاں باندھوں گا اور تمہیں وطن سے دُور رہنے والے اونٹوں کی طرح مار دوں گا اور تم کو پتھروں سے زخمی کرنے کی طرح زخمی کروں گا، اے اہل عراق تم نے بہت دفعہ ذلالت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور تم ہلاکت کے راستے پر چلے ہو اور تم نے بڑے طریقوں کو اختیار کیا ہے اور تم جمالت میں بڑھ گئے ہو، اے ڈنڈے کے غلام اور لونڈیوں کے بچو! میں حجاج بن یوسف ہوں خدا کی قسم جو وعدہ کرتا ہوں اُسے پورا کرتا ہوں اور جسے بوسیدہ کر دیتا ہوں اُسے پھاڑ دیتا ہوں اور ان پارٹیوں اور قبیل ذوال سے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس سے بچ کر رہو، اے کمیننی عورتوں کے بچو! یہ تمہارے کام نہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے اور میرا شکار بننے سے احتیاط کرے، اے عراقیو! تمہاری مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے **مَثَلُ قَرِيْبَةٍ كَانَتْ اٰمِنَةً مَطْمِئِنَةً يٰٓاَيُّهَا رِزْقُهَا رِخْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِنِعْمِ اللّٰهِ فَاذْقَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ**

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ۵

”یعنی اس بستی کی طرح ہے جو پُر امن اور مطمئن تھی اور اسے ہر جگہ سے بافراغت رزق ملتا تھا پس اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اُسے بھوک اور خوف کا مزہ اچکھایا۔“

لہذا جلدی کرو اور درست ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ اور بیٹھے نہ ہو اور مشالیت کرو اور بیعت کرو اور عاجز بنو اور جان لو کہ میں زیادہ باتیں اور کچھ اس نہیں کیا کرتا اور نہ تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو، صرف تلوار کا سونٹنا باقی ہے پھر میں سردی اور گرمی میں اُسے

۱۶ ترجمہ (اللہ نے بیان کی) مثال ایک بستی کی جو امن چین والی تھی، اسے بافراغت رزق ملتا تھا ہر جگہ سے، پس کفر کیا اس نے اللہ کی نعمتوں سے تو چکھا دیا اللہ نے اسے لباس بھوک اور خوف کا ان کے اعمال کے سبب۔

(النحل آیت ۱۱۲)

نیام میں نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں کو امیر المومنین کے لیے سیدھا کر دے اور تمہارے خود دار لوگ اس کے مطیع ہو جائیں اور میں نے غور و فکر کے بعد صدق کو نبی کے ساتھ پایا ہے اور نبی کو جنت میں پایا ہے اور جھوٹ کو فحور کے ساتھ پایا ہے اور فحور کو آگ میں پایا ہے۔

آگاہ ہو کہ امیر المومنین نے مجھے تمہیں عطیات دینے اور تمہیں تمہارے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے مہلب کے ساتھ بھجوانے کا حکم دیا ہے اور میں نے تمہیں اس بات کا حکم دے دیا ہے اور تمہیں تین دن کی مہلت دے دی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو عہد دیا ہے اور وہ مجھ سے اس کا مواخذہ کرے گا اور وہ مجھ سے اس عہد کو پورا پورا لے گا اور مہلب کی طرف فوج بھیجنے کے بعد میں نے جس آدمی کو دیکھا اس کو قتل کر دوں گا اور اس کا مال لوٹ لوں گا۔ اے غلام ذرا امیر المومنین کا خط پڑھ کر انہیں سنا دو۔ کاتب نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی طرف سے عراق کے مسلمان مومنوں کی طرف۔ تم پر سلامتی ہو اور میں تمہارے ساتھ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حجاج نے کہا اے غلام خاموش ہو جاؤ پھر اس نے غضب ناک ہو کر کہا اے اہل عراق اے اہل نفاق و شقاق اور بڑے اخلاق کے حاملو! اور تفرقہ بازو اور گمراہو! امیر المومنین تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم انہیں سلام کا جواب نہیں دیتے خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا اور تمہیں اس ادب کے سوا کوئی اور ادب سکھاؤں گا یہ ابن سمیہ کا لکھا یا ہوا ادب ہے جو عراق میں پولیس کا انچارج تھا، اے غلام خط کو پڑھو پولیس وہ سلام کے الفاظ پڑھنا تو حاضرین مسجد نے کہا و علیٰ امیر المومنین السلام و رحمة اللہ وبرکاتہ! پھر اس نے منبر سے اتر کر لوگوں کو عطیات دینے کا حکم دیا، مہلب اس وقت ہرجانہ قدق میں ازادقہ (خوارج) سے برہنہ پیکار تھا۔

جب تیسرا دن ہوا تو حجاج بنفس نفیس لوگوں کو بھیجنے کے لیے بیٹھا تو اس کے پاس سے عمیر بن صبابی تمیمی برہنہ اور پھر بنی مدادیہ کا ایک آدمی گزرنا جو کوفہ کے اشراف میں سے تھا اور وہ بھی مہلب کی فوج میں تھا اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے میں ایک پیر فرقت اور علیل و ضعیف آدمی ہوں اور میرے کئی لڑکے ہیں اور میری جگہ ان میں سے

جو طاقنور اور اچھا شہسوار ہو، امیر اس کو منتخب کر لیں، حجاج نے کہا، بوڑھے کی جگہ جوان آدمی کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب وہ بوڑھا چلا گیا تو عنبہ بن سعید اور مالک بن اسماء نے اُسے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں اس نے کہا نہیں، ان دونوں نے کہا وہ عمیر بن منبہ بن قیس ہے جس نے امیر المومنین عثمان پر حملہ کر کے ان کے مقتول ہونے کی حالت میں ان کی ایک پسلی توڑ دی تھی، حجاج نے کہا اُسے میرے پاس لاؤ، اُسے لایا گیا تو حجاج نے اُسے کہا اے بوڑھے تو ہی امیر المومنین کے قتل کے بعد ان پر حملہ کر کے ان کی پسلی توڑنے والا ہے، اس نے جواب دیا، عثمان نے میرے بوڑھے باپ کو قید کر دیا تھا اور وہ قید ہی میں مر گیا تھا حجاج نے کہا اچھا تو امیر المومنین عثمان کے ساتھ تو از خود جنگ کرتا ہے اور از اذقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دوسرے آدمی بھیجتا ہے کیا یہ تیرے باپ ہی کا شعر نہیں ہے

”میں نے ارادہ کیا اور کچھ نہ کر سکا اور کاش کہ میں کچھ کرتا اور اس کی بیوی کو لہ لادیتا“ اے شیخ خدا کی قسم تیرے قتل ہو جانے میں دونوں شہروں کی بھلائی ہے پھر وہ نظر اٹھا کر سیدھا اس کی طرف آیا کبھی وہ اپنی ڈاڑھی کو کاٹتا اور کبھی چھوڑ دیتا پھر اس کے پاس آ کر کہا اے عمیر تو نے منبر پر میری تقریر سنی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے جیسا آدمی جھوٹ بولے اے غلام اسے جا کر قتل کر دو تو اس نے اُسے قتل کر دیا اور جب وہ قتل ہو گیا تو لوگ ہر مشکل اور آسان راستے پر چل پڑے اور مہلب کی تلاش میں جدھر منہ آیا ادھر نکل گئے اور پل پر اس قدر اثر دھام ہو گیا کہ بعض لوگ دریائے فرات میں گر پڑے تو پل کے انچارج نے آ کر حجاج کو کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، بعض لوگ دریائے فرات میں گر پڑے ہیں اس نے کہا تیرا بہا ہو یہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس فوج کے لوگوں کا پل پر اس قدر اثر دھام ہو گیا تھا کہ پل تنگ ہو گیا اس نے کہا جا کہ ان کے لیے دروازہ پل تیار کرو۔

عبداللہ بن زبیر اسدی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا جب وہ لجاہن کے قریب تھا تو اُسے اپنی قوم کا ایک آدمی ابراہیم نام ملا، اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ ابن زبیر نے کہا شہر ہی شہر ہے اور مہلب کی فوج سے عمیر قتل ہو چکا ہے اور کہنے لگا

”میں جب ابراہیم سے ملا تو میں نے اُسے کہا کہ اب معاملہ بڑا خطرناک اور مشکل ہو گیا ہے، تو تیاری کر لے یا تو صباہی کے بیٹے عمیر سے ملاقات کرے گا یا مہلب سے، یہ دو باتیں ہیں جن سے تیری نجات اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تو عقاب کے ایک سالہ چنگبرے بچے پر سوار ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اگرچہ خراسان اس کے نزدیک تھا مگر اس نے اُسے بازار کی جگہ یا اس سے بھی زیادہ قریب جگہ پر دیکھ لیا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو حجاج اپنی تلوار کو عمر بھر نیام میں نہیں کرے گا یہاں تک کہ بچے کو بوڑھا کر دے۔“

لوگ بھاگتے ہوئے فوج کے اسلحہ وغیرہ کی طرف گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ ہماری جگہ پر ہی ہمیں تو شہ بھیج دو اور حجاج نے پُل کے انچارج سے کہا، پُل کو کھول دو اور کسی کے جانے میں حائل نہ ہو اور اس نے مہلب کو ایک نشانی بھیجی ابھی دسواں دن نہیں ہوا تھا کہ لوگ مہلب کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے پوچھا عراق پر کس کو عامل مقرر کیا گیا ہے، خدا کی قسم یہ کوئی مرد ہے اور اب بحد دشمن کے لیے ہلاکت ہوگی انشاء اللہ۔

حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو سبستان، بستان اور ابن اشعث کا خدو ج | رنج کا عامل مقرر کیا وہ وہاں سے ترکی اقوام کے ساتھ

ہندو آتما ہوا وہ لوگ ترکوں کی انواع ہی تھے جنہیں غوز اور خلیج کہا جاتا تھا اور اس نے ان کے ملحقہ ممالک کے قبیل وغیرہ جیسے ہندوستانی بادشاہوں سے بھی جنگ کی قبل انہیں ہم اس کتاب میں ہندوستانی بادشاہوں اور دنیا کے دیگر بادشاہوں کے مراتب کا ذکر کر چکے ہیں اور ہم نے ان میں سے ہر ایک بادشاہ کی مملکت اور اس کے علاقے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان میں سے چیدہ بادشاہوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں اور یہ بات بھی واضح کی ہے کہ بلاد ہند میں سے اس علاقے کے ملحقہ علاقوں کے تمام بادشاہ قبیل کہلواتے ہیں، پس ابن اشعث نے حجاج کی اطاعت چھوڑ دی اور بلادِ کرمان کی طرف چلا گیا پھر اس نے عبد الملک کی اطاعت اختیار کر لی، حجاج بصرہ کی طرف چل پڑا اور ابن اشعث حجاج کی طرف چل پڑا اور اس نے عظیم جنگیں لڑیں اور عبد الرحمن بن اشعث کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے

”اس نے بادشاہوں کی اطاعت کا جو اتار پھینکا اور اس کے جھنڈے تلے

میدانوں کے لوگ اور اقوام کے تشریف سزاواروں نے مارچ کیا۔
 حجاج بن یوسف نے عبد الملک کو ابن اشعث کے حالات لکھے تو عبد الملک نے اس کی
 طرف لکھا میری زندگی کی قسم کہ اس نے اللہ کی اطاعت کو اپنے دائیں ہاتھ سے اور اس کی
 حکومت کو اپنے بائیں ہاتھ سے خیر باد کہا ہے اور وہ دین سے برہنہ ہو کر نکل گیا ہے
 اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت اور ان کا استیصال امیر المؤمنین
 کے ہاتھوں ہوگا اور اطاعت کے چھوڑنے کے متعلق میرا جواب ایک شاعر کے یہ اشعار
 ہیں۔

”بر دبا می اور علم اور کل تک ان کے انتظار میں نہ ہیں مگر زوری دکھاؤں گا اور
 نہ میرے کہنے میں کمی ہوگی، میرا خیال ہے کہ گردش روزگار اور جہالت تمہیں
 ایک خوف ناک راستہ پر ڈال دے گی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے پشتے
 کو کوئی خوف نہیں اور میرا نیزہ ٹوٹنے پر بھی نرم نہیں ہوتا۔“
 ابن اشعث کو فہ میں آیا تو حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا جس میں ابن اشعث کی فوج
 کی کثرت کا ذکر کیا اور اس سے امداد مانگی اور اپنے خط میں لکھا:-
 اے اللہ کے غوث مدد کر، اے اللہ کے غوث مدد کر، اے اللہ کے غوث
 مدد کر، پس عبد الملک نے اُسے فوج سے مدد دی اور اُسے لکھا میں حاضر
 ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔

دیرالجماحم کے معرکے اور ابن اشعث کا قتل | حجاج اور ابن اشعث کی ڈبھیڑ دیرالجماحم
 کے مقام پر ہوئی ان کے درمیان

۸۰ سے زائد معرکے ہوئے جن میں بے شمار مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی یہ واقعہ ۸۲ھ
 کو ہوا۔ اور ابن اشعث کو شکست ہوئی وہ بھاگ کر ہندوستانی بادشاہوں کے پاس
 پہنچ گیا اور حجاج مسلسل اس کے قتل کی تدبیریں کرتا رہا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا اور اس کا
 سر لایا گیا تو حجاج نے کوفہ کے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر کہنے لگا اے عراقیو! شیطان تمہارے اندر داخل ہو گیا
 ہے اور تمہارے گوشت، ہڈیوں اور اطراف و اعصاب میں رچ بس گیا ہے اور تمہارے
 خون کی دگوں میں دوڑتا پھرتا ہے اور پسلیوں اور گودے تک پہنچ گیا ہے اور اس نے

وہاں اختلاف، شقاق اور لفاق کو بھڑایا ہے پھر اس نے وہاں آلتی پالتی مار کر گھونسلہ بنا لیا ہے اور اس میں انڈے بچے دیے ہیں اور تم نے اُسے اپنا رانا بنا لیا ہے اور تم اس کی پیروی کرتے ہو اور تم نے اُسے اپنا لیڈر بنا لیا ہے اور تم اس کی اطاعت کرتے ہو نیز تم نے اُسے اپنا مشیر بنا لیا ہے اور تم اس سے مشورہ طلب کرتے ہو، کیا تم میرے اہواز کے سائق نہیں جب تم نے مجھ سے خیانت کرنے کی کوشش کی اور تم نے میرے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کو چھوڑ دے گا اور پس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم شکست کھا کر اور چھپ چھپ کر کھسکتے پھرتے تھے اور ڈرتے ہوئے منتشر ہو رہے تھے اور تم میں سے ہر آدمی نے بزدلی اور خوف کے مارے اپنی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، پھر یوم الزاویہ کو اور یوم الزاویہ کیا ہے؟ وہاں پر تم نے بزدلی دکھائی اور لڑکھڑاگے اور خدا تعالیٰ نے تم سے بیزاری کا اظہار کیا تم اپنے کندھوں پر تلواریں رکھے بھاگے جا رہے تھے اور تمہارا دوست تم سے ایڑیوں کے بل پھر گیا تھا جب تم ہر کے ہوئے اونٹوں کی طرح اپنے وطنوں کو بھاگے اور آدمی نہ اپنے بیٹوں کے متعلق پوچھتا تھا اور نہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا تھا یہاں تک کہ تمہارا دوست نے تمہیں کاٹ کر رکھ دیا اور بیڑوں نے تمہیں توڑ پھوڑ دیا اور دیر الجاحم کے روز وہاں پر بڑی جنگیں اور عظیم معرکے ہوئے۔

”وہاں پر ایسی تلوار چلی جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے اڑا دیتی تھی اور دوست کو دوست سے فافل کر دیتی تھی۔“

اے عراقیو! میں تم سے کس چیز کی امید رکھوں؟ یا کس بات کی توقع رکھوں، اور میں تم پر کس وجہ سے رحم کھاؤں اور تمہیں کس چیز کے لیے سنبھال کر رکھوں، کیا عداوتوں کے بعد جھوٹی باتیں بنانے یا جھلا لگین لگانے کے بعد جھلانگ لگانے کے لیے سنبھال رکھوں۔ میں تمہاری کس بات کو دیکھوں اور تمہاری کس چیز کا انتظار کروں اگر تمہیں تمہاری سرحدوں پر بھیجا جائے تو تم بزدلی دکھاتے ہو اور اگر تم امن میں ہو یا خوف میں تو منافقت کرتے ہو، نہ تم کسی نیکی کی جزا دیتے ہو اور نہ کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو۔

اے عراقیو! جب کسی بھونکنے والے نے تمہیں بھونکنے کو کہا ہے یا کوئی گمراہ تم پر

ناراض ہوا ہے یا کسی عہد شکن نے تمہیں چلنے کو کہا ہے اور یا کسی سرکش نے تم سے مدد طلب کی ہے تو تم نے اس کی تابعداری کی ہے اور اس کی بیعت کی ہے اور اس کو پناہ دی ہے اور اُسے کفایت کی ہے۔ اے عراقیو! تم ہر فتنہ پرور کو سے کی طرح کاٹیں کاٹیں کرنے والے اور جھوٹے آدمی کے پیروکار اور انصار ہوتے ہو، اے عراقیو! تمہیں تجربات نے فائدہ نہیں دیا اور نہ وعظ و نصیحت تمہیں بچا سکتا ہے اور نہ جنگوں سے تم نے کوئی عبرت حاصل کی ہے، تمہارے سینوں میں وہی بات پڑے گی جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کاموں کے آغاز و انجام کے وقت الجھا دے گا۔

اے شامیو! میں تمہارے لیے اس شتر مرغ کی طرح ہوں جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے گندگی کو دور کرتا ہے اور انہیں بادش سے پناہ دیتا ہے اور انہیں بھیڑیوں اور دیگر جانوروں سے بچاتا ہے اس کی موجودگی میں نہ ان کی طرف گند آ سکتا ہے اور نہ ہلاکت اور نہ انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔

اے شامیو! تم تعداد اور تیاری والے ہو اور جنگ میں ڈھال ہو اگر ہم جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرتے ہو اور اگر ہم جنگ سے پہلو تہی کریں تو تم بھی کرتے ہو، تمہاری اور عراقیوں کی مثال ایسے ہی جیسے نابغہ بن جعدہ نے کہا ہے کہ ”اور اگر ان کا حصہ انہیں آواز دے تو وہ انہیں نہیں ملتا اور نہ ہماری تکذیب ہوتی ہے، جیسے یہو کا قول ہے کہ ہم نے سچ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اُسے قتل کیا ہے اور نہ وہ صلیب دیا گیا ہے“

عبدالملک کا حجاج کو خط | جب حجاج نے دیر الجاحم کے قیدیوں کو قتل کرنے اور اموال کے عطا کرنے میں اسراف سے کام لیا

تو اس کی اطلاع عبدالملک کو بھی مل گئی، اس نے حجاج کو لکھا، ابا بعد! امیر المومنین کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے خود بینی کرنے اور اموال کے عطا کرنے میں اسراف و تبذیر سے کام لیا ہے اور امیر المومنین کسی آدمی میں ان دونوں باتوں کو پسند نہیں کرتے انہوں نے تیرے متعلق قتلِ خطا میں دینت کا اور قتلِ عمد میں مقاصد کا فیصلہ کیا ہے اور اموال کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں جس جس جگہ سے لیا گیا ہے وہاں واپس کیا جائے پھر ان کے متعلق امیر المومنین کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے کیونکہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے

ایمن ہیں اور حق کا روکنا اور ناجائز طور پر عطا کرنا دونوں باتیں ان کے ہاں برابر ہیں اور اگر تو نے مال دینے سے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں تو وہ تیرے کام نہیں آئیں گے اور اگر تو نے انہیں اپنے لیے دیا ہے تو تو ان کے کسی کام نہ آسکے گا اور عنقریب تجھے امیر المومنین کے دو حکم ملیں گے نرم اور سخت، پس تجھے اطاعت کے سوا اور کسی بات سے اُٹس نہ ہو اور معصیت کے سوا کوئی بات تجھے خوفزدہ نہ کرے اور امیر المومنین کے متعلق تو ہر گمان کر سکتا ہے مگر تو غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اور جب تجھے کسی قوم پر فتح حاصل ہو تو جنگ سے کنارہ کشی کرنے والے کو اور قیدی کو قتل نہ کرنا اور خط کے نیچے لکھا ہے

اور جب تو میرے ناپسندیدہ امور کو نہیں چھوڑے گا اور میری رضا کو طلب نہیں کرے گا، اور اس سے ڈرے گا جس سے تیرے جیسا شخص اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے ڈرتا ہے، تو اس سے دودھ دوہنے والا دودھ کو صنایع کر دے گا، پس اگر تو نے مجھ سے نقصان، سناں غفلت دیکھی ہے تو کبھی پانی پینے والے کو پھندا بھی لگ جاتا ہے، اور اگر تو مجھ سے اموی حملے کو دیکھے تو میں اس بات کا اہل ہوں، پس تو مجھے ملامت نہ کر اور حوادث اکٹھے ہو گئے ہیں اور تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا بدلہ تجھے ملے گا، اور میری طرف سے جو احکام تجھے مل رہے ہیں ان سے آگے نہ بڑھ، یہ تجھ پر کسی دن ندبہ کرنے والی عورتوں کو کھڑا کر دیں گے، اور لوگوں کے حق کو علم کے ہوتے ہوئے کم نہ کر اور جس کو خدا نہیں دینا چاہتا اُسے نہ دے۔“

ان شان دار اشعار کو ہم نے عبد الملک کے قول سے انتخاب کیا ہے۔

حجاج کا جواب | جب حجاج نے عبد الملک کے خط کو پڑھا تو اُسے لکھا۔

ابعد! مجھے امیر المومنین کا خط ملا جس میں مال و جان کے متعلق میرے اسراف و تبذیر کا ذکر ہے، میری زندگی کی قسم میں نے سزا کے مستحق لوگوں کو اتنی ہی سزا دی ہے جس کے وہ مستحق ہیں اور اہل طاعت کے حق کے متعلق میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں پس اگر ان

سرکشوں کو میرا قتل کر دینا امر ان سے اور اطاعت کنندوں کو میرا عطیہ دینا
 تہذیب سے توجو کچھ ہو چکا ہے اذیر المؤمنین اس کے کرنے میں مجھے معذور سمجھیں
 اور آئندہ کے لیے میرے لیے ایک حد مقرر کر دیں میں انشاء اللہ اسی تک
 رہوں گا، ولا قوۃ الا باللہ۔ بخدا نہ مجھ میں کوئی دیت ہے اور نہ قصاص، اور
 نہ میں نے لوگوں کو غلطی سے قتل کیا ہے کہ ان کی دیت دوں اور نہ میں نے ان
 پر ظلم کیا ہے کہ ان کا قصاص ادا کروں، میں نے اگر لوگوں کو کچھ دیا ہے تو
 آپ کی وجہ سے دیا ہے اور اگر قتل کیا ہے تو آپ کی خاطر کیا ہے اور میں
 آپ کے جن دو حکموں کا منتظر ہوں ان میں سے نرم حکم تیاری ہے اور بڑا
 حکم آدائش ہے اور میں نے تیاری کے لیے جلاز کو تیار کر دیا ہے، اور
 آدائش کے لیے صبر اختیار کیا ہے اور خط کے نیچے لکھا ہے

اور جب میں آپ کی رضانا نہ چاہوں اور آپ کی ایذا سے بچوں تو میرے
 دن کے شمارے غائب نہ ہوں گے اور خلیفہ کے بعد کسی آدمی کے لیے کوئی ڈھکا
 نہیں وہ جو کام کرتا ہے اس کے ذریعے سے بچتا ہے، اور اہل قرابت میں سے
 آپ جس کے ساتھ صلح کرتے ہیں میں اس سے صلح کرتا ہوں اور جس سے
 آپ صلح نہ کریں میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور جب حجاج آپ کا کوئی گناہ
 کرے تو صلح کے وقت اس پر نڈبہ کرنے والی عورتیں کھڑی ہوں، اور جب خیر خواہی
 کے لیے کسی ہریان کے نزدیک نہیں ہوتا تو اس سے دور ہو جاتا ہوں جس کے
 بچھو میری طرف دھرتے چلے آتے ہیں یعنی میری شکایت کرتا ہے، پس
 وہ کون شخص ہے جو میری بخشش کی امید رکھتا ہے اور میرے حملہ سے
 بچتا ہے اور زمانہ کے مصائب بے شمار ہیں، پس آپ مجھ پر رضامندی
 کی حد تک رہیے میں اس حد سے عمر بھر تجاوز نہیں کروں گا، یہاں تک کہ
 دودھ دوہنے والا دودھ کو واپس کھنوں میں بھیج دے ورنہ مجھے اور
 معاملات کو چھوڑ دو کیونکہ میں ہریان اور نرم خو ہوں اور تجربات نے
 مجھے خوب مضبوط بنا دیا ہے۔
 یہ حجاج کے نشان دار اشعار ہیں جنہیں ہم نے انتخاب کیا ہے۔

جب عبد الملک کو اس کا خط ملا تو اس نے کہا کہ ابو محمد میرے حملے سے ڈر گیا ہے اب میں ہرگز دوبارہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اُسے ناگوار ہو۔

حجاج کو ایک مہربان محدث کی تلاش

حماد الراویہ بیان کرتا ہے کہ حجاج ایک رات کو فہم میں جاگتا رہا اور اس نے چوکیدار سے کہا کہ مسجد سے میرے پاس ایک محدث کو لاؤ تو وہ ایک بڑے جسیم آدمی کو ملا اور اس سے کہنے لگا امیر کو جواب دو اور وہ اُسے اپنے ساتھ لے آیا اور امیر کے سامنے پیش کر دیا اس نے نہ سلام کیا اور نہ بات کی۔ حجاج نے اُسے کہا، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ مگر وہ پھر بھی نہ بولا اس نے چوکیدار سے کہا اُسے باہر لے جاؤ خدا تجھے غارت کرے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے پاس کسی محدث کو لاؤ تو میرے پاس ایک مرعوب آدمی کو لے آیا ہے جس کا دل ہی بیٹھ گیا ہے پس حجاج دراہم کی ایک ٹھیلی لے کر مسجد کی طرف گیا اور لوگوں کو دراہم دینے لگا اور وہ لینے لگے یہاں تک کہ وہ اس شیخ تک بھی پہنچ گیا اس نے اُسے دراہم دیے اس نے انہیں پھینک دیا، حجاج نے اُسے دوبارہ دراہم دیے تو اس نے انہیں واپس کر دیا، حجاج نے تین بار اسی طرح کیا، پھر حجاج نے اس کے قریب ہو کر کہا میں حجاج ہوں تو اس نے دراہم لے لیے، حجاج نے محل میں آکر چوکیدار سے کہا اُسے میرے پاس لاؤ، وہ آیا تو اس نے بڑے مضبوط دل اور تیز زبان کے ساتھ سلام کہا، حجاج نے اُسے کہا تم کس قبیلے کے آدمی ہو اس نے جواب دیا میں بنی ثیبیان میں سے ہوں، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا سمیرہ بن الجعد، حجاج نے کہا اے سمیرہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے اس نے جواب دیا وہ میرے سینے میں ہے اگر میں نے اس پر عمل کیا تو میں اس کی حفاظت کروں گا اور اگر میں نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کو ضائع کر دوں گا، حجاج نے کہا کیا تو فریضہ رعلم میراث کو جانتا ہے اس نے جواب دیا میں صلب کو فریضہ دیتا ہوں اور دادے کے متعلق اختلاف کو جانتا ہوں، حجاج نے کہا کیا توفیقہ جانتا ہے اس نے جواب دیا مجھے اپنے اہل کی ضروریات کا علم ہے اور میں اپنی قوم کے اندھوں کی راہنمائی کرتا ہوں حجاج نے کہا کیا تو نجوم کو جانتا ہے اس نے جواب دیا میں چاند کی منازل کو جانتا ہوں اور میں سفر میں اس سے راہنمائی حاصل کرتا ہوں حجاج نے کہا کیا تم شعر و روایت کرتے ہو اس نے جواب دیا کہ میں مثل اور شاہد

کی روایت کرتا ہوں، حجاج نے کہا مثل کو تو ہم جانتے ہیں، شاید کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ عربوں کی جنگوں کے اشعار کا ایک شاہد ہوا کرتا تھا میں اس شاہد کی روایت کرتا ہوں حجاج نے اُسے اپنا داستان گو بنا لیا اور جو بات بھی وہ اس سے پوچھتا اس کے متعلق اس کے پاس علم موجود پاتا وہ خوارج کا ہم مسلک تھا اور قطری بن فجاہ تمیمی کے اصحاب میں سے تھا فجاہ اس کی ماں تھی، جو بنی شیبان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ تمیم کا آدمی تھا اور قطری اس وقت مہلب سے جنگ لڑ رہا تھا اور جب قطری کو حجاج کے ہاں سمیرہ کے مقام کا پتہ چلا تو اس نے اس کی طرف کچھ اشعار لکھے جن میں یہ اشعار بھی تھے کہ

”جب ہم نہ رہیں ہیں کہ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اوبابن عبد کے درمیان بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، ہم مہلب کے شہسواروں سے جہا کرتے ہیں اور تلواروں کی ضرب پر ہم سب صبر کرتے ہیں، اور وہ اپنے امیر کے پاس ریشم کا تہ بند گھسیٹتے جاتا ہے حالانکہ وہ امیر تقولے اللہ کا حکم دینے والا نہیں، اے ابوجعد تیرا وہ علم و علم اور عقل اور تیرے شریف آباء کی میرا کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ موت بہر حال میں آنے والی ہے اور قبروں سے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھنا بھی ضروری ہے اور ثواب رب کی طرف سے ملتا ہے پس کچھ لوگ فائدے میں اور کچھ خسارے میں رہیں گے، اور جو کچھ تو نے حاصل کیا ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے اور دنیا میں تیری زندگی پرندے کی اڑان کی طرح ہے، اے ابوجعد باندہ آجا تیرے حکمران اس اندھیرے میں پہنچا رہے ہیں جس نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اور ایسی توبہ کر جو تجھے شہادت عطا کرے کیونکہ تو گتہ گار ہے کافر نہیں، اور ہماری طرف چلا آتھے جہاد میں غنیمت ملے گی اور تجھے اس تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا، اور یہی وہ انتہائی مقصد ہے جس کے ثواب کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ جب کہ ہر تاجر

دنیا میں تو تگر می حاصل کر لیتا ہے۔“
جب اس نے قطری کا خط پڑھا تو رو پڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے ہتھیار لے لیے اور قطری سے جا ملا، حجاج نے اُسے بہت تلاش کیا مگر

اس پر قابو نہ پاسکا۔ حجاج کو صرف اس کا ایک خط ملا جس میں قطری کے وہ اشعار تھے جو اس نے اُسے لکھے تھے اور خط کے نیچے اس نے حجاج کو یہ اشعار لکھے :-

” اور حجاج کو کون یہ اطلاع دے کہ سمیرہ، خوارج کے دین کے سوا ہر دین سے عداوت رکھتا ہے، اس نے لوگوں کو اپنے ہم نواؤں کے سوا لعنت کرنے والے اور درمیانے راستے کو چھوڑنے والے پایا ہے پس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آگیا ہوں اور میری مصیبت کو خدا کے سوا کوئی دُور کرنے والا نہیں، میں ایک ایسی جماعت کی طرف آگیا ہوں جس کے لوگ دن کو جنگ کے وقت بن کے شیر ہوتے ہیں، اور جب رات چھا جاتی ہے تو وہ رونے والی عورتوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ حکیم کے لیے بلاتے ہیں، خدا کی قسم وہ عمرو کے فیصلے کو تیز ہواؤں کی طرح سمجھتے ہیں اور ابن قیس کا فیصلہ بھی اسی قسم کا ہے پس مضبوط رسی کو پکڑ لو جو بوسیدہ ہونے والی نہیں۔“

حجاج نے یہ خط غنیمت بن سعید کی طرف پھینک کر کہا کہ یہ ہمارے شیبانی داستان گو کا خط ہے وہ خارجی تھا جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں تھا ابو جعد سمیرہ بن المعجد جو حجاج کا داستان گو تھا کے بہت سے اشعار ہیں جن میں سے یہ اشعار بھی ہیں :-

” میں مصائب اور زمانے اور موت کے حالات سے متعجب ہوں کہ وہ آدمی کے پاس اس جگہ سے آجاتے ہیں جس کا اُسے سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور خدائی نور کے بعد ان کے پاس ضلالت کو لے آتے ہیں، اور بخدا ہمارے کہ قوت اس سے مخفی نہیں اور وہ سفر و حضر میں ہمارا محافظ ہوتا ہے، اور وہ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہے اور اس کے ورے آسمان ہے اور وہ اس کے اوپر سے ارواح کو چلتے پھرتے دیکھتا ہے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر کسی دوسرے خارجی کے ہیں۔

خوارج کی متفقہ اور اختلافی باتیں

خوارج کی جماعتوں میں سے اباضیہ اور انصار قہر وغیرہ کے بہت اچھے واقعات ہیں جن کا ذکر

ہم نے اپنی دونوں کتابوں "اخبار الزمان" اور "اللاوسط" میں کیا ہے نیز ہم نے خوارج کے متفقہ اصولوں کا بھی ذکر کیا ہے جیسے حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کی تکفیر کرنا اور مسلم امام کے خلاف خروج کرنا اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب کی تکفیر کرنا اور ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری اور عمرو بن العاص سہمی دونوں بیچوں اور ان کے فیصلے سے بیزاری کا اظہار کرنا اور ان لوگوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرنا جو ان دونوں کے فیصلے کو درست قرار دیں یا اس سے رضامند ہوں اور حضرت معاویہ اور ان کے مددگاروں اور مقلدوں اور مجہولوں کو کافر

قرار دینا، ان سب باتوں پر خوارج میں سے جو روئی اور شذاتہ (سرفروشن) متفق ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے توحید، وعدہ و وعید اور امامت وغیرہ کے بیان میں اختلاف کیا ہے قبل ازیں اس کتاب میں ہم حکمین کے باب میں اس بات کا ذکر کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے صفین میں جس شخص نے حکم بنایا وہ عروہ بن ادیہ تمیمی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بزید بن عاصم محارب تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بنی سعد بن زید مناتہ بن تمیم کا ایک آدمی تھا اور سب سے پہلے صفین میں جس شخص نے عدالت سے جھکڑا کیا

وہ بنی بیکر کا ایک آدمی تھا اور جو بیعہ کے ان سرداروں میں سے تھا جو حضرت علیؓ کے ساتھ تھے اس نے اس روز کہا لا حکم الا للہ ولا طاعت لمن عصى بہ خدا کے حکم کے سوا کوئی حکم نہیں اور نافرمان کی کوئی اطاعت نہیں اور صف سے باہر نکل گیا اور جہا کہ حضرت علیؓ کے اصحاب پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا پھر اس نے حضرت معاویہ کے اصحاب پر حملہ کر دیا مگر وہ اس سے بچ گئے اور وہ ان میں سے کسی آدمی کو قتل نہ کر سکا پھر اس نے دوبارہ حضرت علیؓ کے اصحاب پر حملہ کر کے ہمدان کا ایک آدمی قتل کر دیا۔

بعض خوارج کا ذکر

الہیثم بن عدی، ابوالحسن المدائنی اور قاضی ابوالنختری وغیرہ نے خوارج اور ان کی اصناف کے وہ حالات بیان کیے ہیں جو انہوں نے اپنی کتب میں بیان کیے ہیں، مؤلفین نے ان کے فروعی اختلافی مسائل اور ان کے متفقہ اصولوں کو بیان کیا ہے، ہم نے ان کے اکثر اختلافات کو اپنی کتاب

”المقالات فی اصول الدیانات“ میں بیان کیا ہے ، ہم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تحکیم کے وقت سے لے کر ہر زمانے میں ان سے خروج کرتے رہے ہیں ، سب سے آخر میں خروج کرنے والا آدمی دیار ربیعہ سے تھا اس نے بنی حمدان کے خلاف خروج کیا یہ ۱۸ھ کا واقعہ ہے ، وہ آدمی عرون کے نام سے مشہور تھا جو بلاد کفر توتی سے نکل کر نصیبین میں آیا ، اس کی اہل نصیبین سے جنگ ہوئی جس میں وہ قید ہو گیا ان میں سے بھی بہت سے آدمی مارے گئے ، ابو شعیب نامی ایک شخص بنی مالک ربیعہ میں نکلا جو المقتدر باللہ کے ہاں پہنچ گیا ۲۳ھ کے بعد بلاد عمان میں جو بردی وغیرہ کا ملحقہ علاقہ ہے اس میں اباضیہ نے خروج ، تحکیم اور جنگیں کیں اور ایک امام کو انہوں نے مقرر کیا جو قتل ہو گیا اور اس کے سب ساتھی بھی قتل ہو گئے ۔

۳۷ھ میں حجاج کی شیب خارجی کے ساتھ جنگیں ہوئیں

حجاج اور شیب خارجی

اور سخت خونریزی کے بعد حجاج بھاگ گیا اس کے اتنے ساتھی باقی رہ گئے کہ انہیں چھڑی کے ساتھ گنا جاسکتا تھا وہ کوفہ میں آکر قصر امارت میں قلعہ بند ہو گیا ، شیب اور اس کی والدہ اور اس کی بیوی غزالہ بھی صبح کے وقت کوفہ میں داخل ہو گئیں غزالہ نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھے گی اور ان دو رکعتوں میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھے گی پس وہ جامع مسجد میں ستر آدمیوں کے ساتھ آئے اور وہاں صبح کی نماز پڑھی اور نذر کو پورا کرنے کے بعد غزالہ وہاں سے چلی گئی تو اس سال لوگوں نے کوفہ میں کہا ہے

”غزالہ نے اپنی نذر پوری کر لی ہے اے اللہ اس کو نہ بخش۔“

غزالہ شجاعت اور شہسواری میں بڑا مقام رکھتی تھی ، شیب کی ماں بھی ایسی ہی تھی جب عبد الملک کو حجاج کے بھاگنے اور شیب کے خوف سے قصر امارت میں قلعہ بند ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے شیب سے لڑنے کے لیے سفیان بن ابرہہ وکلبی کی سرکردگی میں شام سے بہت سی فوج بھیجی ، وہ کوفہ میں حجاج کے پاس آیا اور انہوں نے جا کر شیب سے جنگ کی ، شیب کو شکست ہوئی ، غزالہ اور اس کی ماں قتل ہو گئیں اور شیب اپنے ساتھی شہسواروں کے ساتھ بھاگ گیا ، سفیان نے شامیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اُسے اہواز میں جا ملا پس شیب بھاگ گیا اور جب وہ حیل کے پل پر پہنچا تو اس کا

گھوڑا بدک گیا وہ بھاری لوہے کی زرہ اور خود پہنے ہوئے تھا گھوڑے نے اُسے پانی میں گرا دیا اس کے ایک ساتھی نے کہا امیر المومنین! کیا ڈوب کر مرو گے اس نے کہا یہ عزیز و علیم خدا کی تقدیر ہے و جیل نے اُسے مُردہ حالت میں اپنے کنارے پر پھینک دیا، اور حجاج کو بذریعہ ڈاک اطلاع دی گئی تو حجاج نے اس کے پیٹ پھاڑنے اور اس کا دل نکلانے کا حکم دیا اس کا دل نکالا گیا تو وہ پتھر کی طرح سخت تھا جب اُسے زمین پر مارا جاتا تو وہ اس سے اُچھل جاتا جب اُسے چیرا گیا تو اس کے اندر گیند کی طرح ایک اور دل تھا اُسے چیرا گیا تو اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھر نکلا۔

۱۲۰۰ میں حجاج نے ابن اشعث کے ساتھ جانے، اس کے خط

ابن القریۃ

لکھنے اور اس کی تقادیر تیار کرنے کی وجہ سے ابن القریۃ کو قتل کر دیا ابن القریۃ کو علم اور فصاحت و بلاغت میں ایک خاص مقام حاصل تھا ہم نے اس کے قتل کے واقعہ اور حجاج کے ساتھ اس کی گفتگو کو اپنی کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے، اُسے باندھ کر تلوار سے ساتھ قتل کیا گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ حجاج نے اس کے پاس آکر اُس کے سینے میں نیزہ مارا تھا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا تھا۔

ابن القریۃ کہتا تھا کہ لوگ تین قسم کے ہیں عاقل، احمق اور فاجر، عاقل کا دین اس کی شریعت، علم اس کی طبیعت اور اچھی رائے اس کی خصلت ہوتی ہے اگر بولتا ہے تو ٹھیک بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جواب دیتا ہے اور اگر علم کی بات سُنتا ہے تو اُسے یاد رکھتا ہے اور اگر فہم و فراست کی بات سُنتا ہے تو اُسے آگے بیان کرتا ہے جو احمق ہے وہ بات کرتا ہے تو جلد بازی سے کام لیتا ہے اور اگر اس کے پاس بات بیان کی جائے تو بھول جاتا ہے اور اگر اُسے بڑی بات پر آمادہ کیا جائے تو آمادہ ہو جاتا ہے اور فاجر وہ ہے اگر تو اُسے ایسا بنائے تو وہ تجھ سے خیانت کرتا ہے اور اگر تو اس کی مصاحبت کرے تو وہ تجھ پر عیب لگاتا ہے اور اگر وہ کسی بات کو چھپائے تو چھپا نہیں سکتا اور اگر اُسے کوئی بات سکھائی جائے تو سیکھ نہیں سکتا۔ اور اگر بات کرتا ہے تو سچ نہیں بولتا اور اگر اُسے کوئی بات سمجھائی جائے تو اُسے سمجھ نہیں سکتا۔

یعلیٰ اخیلیہ اور حجاج | المدائنی نے بیان کیا ہے کہ حجاج اپنے ندیموں کے

سامنے خوش خلقی اور بشاشت کا اظہار نہیں کیا کرتا تھا مگر جس روز اس کے پاس لیلے اخیلیہ آئی اس روز اس نے بشاشت کا اظہار کیا، حجاج نے اُسے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب تو توبہ بن الحمیر کی قبر سے گزری تو تو نے اُس سے منہ پھیر لیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے اس سے وفا نہیں کی اگر وہ تیری جگہ ہوتا اور تو اس کی جگہ ہوتی تو وہ تجھ سے اعراض نہ کرتا، اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے میں معذور تھی اس نے پوچھا تجھے کیا عذر تھا، اس نے جواب دیا میں نے اُسے یہ شعر کہتے سنا ہے کہ

”اگر لیلے اخیلیہ مجھے اس وقت سلام کہتی جب میرے اوپر پتھر اور چٹانیں
پڑی ہوتیں تو میں اُسے خوشی سے سلام کہتا یا اُسے قبر کی جانب سے
بولنے والے پرندے کی آواز آتی۔“

میرے ساتھ ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اس کے ان اشعار کو سنا تھا تو میں نے اس کی تکذیب کو ناپسند کیا حجاج نے اس کی اس بات کی تحسین کی اور اس کی ضروریات کو پورا کیا اور خوب دل کھول کر اس سے باتیں کیں، اس دن سے زیادہ خوش اُسے کبھی نہیں دیکھا گیا۔

حماد الراویہ نے اس بات کو ایک اور طرح بیان کیا ہے وہ یہ کہ لیلے کے خاوند نے جب کہ وہ رات کے وقت توبہ کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ لیلے کو یہ قسم دی کہ وہ اس کی قبر کے پاس جا کر اُسے سلام کہے اور اس کے ان اشعار کی تکذیب کرے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے خاوند نے اُسے قسم دی اور وہ سواری سے اتر کر اس کی قبر کے پاس آئی اور سفید بادلوں کی طرح اس کے آنسو اس کے سینے پر بہ رہے تھے اس نے کہا اے توبہ السلام علیک ابھی اس کا سلام پورا نہیں ہوا تھا کہ قبر بھٹ گئی اور اس میں سے سفید کبوتری کی طرح ایک پرندہ نکلا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور مر گئی پس وہ اس کے کفن و دفن میں لگ گئے اور اُسے توبہ کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

عربوں کی بعض عادات | ہم نے تین ازبیں اس کتاب میں الہام الصدیٰ اور الصفر کے متعلق عربوں کی بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ عرب مرے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی ایک جانب اونٹنی کو باندھ دیتے تھے اس پر ایک عرق پیر

یا گدی ڈال دیتے تھے اور اس کا نام "البلیتہ" رکھتے تھے انہوں نے اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں جن کا ذکر ان کے خطبات نے اپنے خطبات میں کیا ہے وہ کہتے ہیں "البلا یا علی الولایا" ان میں سے بعض دائیں طرف سے بائیں جانب گزرنے والے سے برمی فال اور بائیں سے دائیں جانب گزرنے والے سے نیک فال لیتے تھے اور بعض اس کے برعکس بھی فال لیتے تھے نجدی دائیں سے بائیں گزرنے والے سے نیک فال لیتے ہیں اور اہل تہامہ اس کے اُلٹ کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہم قبل ازیں عبید الراعی کا قول پیش کر چکے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے اصحاب کو سہز نش کرنا
المنقری نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں عبد العزیز بن الخطاب

کو فی نے بتایا کہ ہمیں فضیل بن مرزوق نے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ جب بسربن ارطاة کو یمن پر غلبہ حاصل ہو گیا — اس سے پہلے وہ عبید اللہ بن عباس کے دونوں بیٹوں کے قبضہ میں تھا — اور اہل مدینہ مکہ اور یمن جو تھے سوتھے — حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے حمد و ثناء الہی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بسربن ارطاة یمن پر غالب آ گیا ہے اور خدا کی قسم میں اس قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے مقبوضہ علاقوں پر غالب آتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق پر ہیں بلکہ وہ اپنے آقا کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے راست روی اختیار کرتے ہیں اور تم میری نافرمانی کرتے ہو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو، وہ اپنے شہروں کی اصلاح کرتے ہیں اور تم اپنے شہروں کو خراب کرتے ہو اے اہل کوفہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو دس دس دینار کے بدلے فروخت کر دوں پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں ان سے اکتا چکا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں مجھے ان کے بدلے میں بڑا آدمی دے دے اے اللہ جلد ہی ان پر تقفی جو ان کو مستط کر دے جو دامن کو گھسیٹ کر چلنے والا اور بہت کج رو ہے جو ان کی سبزی کو کھا جائے اور ان کی اون کو پہن لے اور ان میں جاہلیت کے طریقے کے مطابق فیصلے کرے، نہ ان کی نیکی قبول کرے نہ ہی ان کی برائی سے درگزر کرے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت تک حجاج پیدا نہیں ہوا تھا۔

حجاج کا نعمت کے متعلق سوال کرنا

ایمیں الجوهری نے سلیمان بن ابی الشیخ الواسطی سے، اس نے محمد بن یزید سے اس نے

سفیان بن حسین سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ حجاج نے الجوهری سے پوچھا کہ نعمت کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، امن، کیونکہ میں نے خوفزدہ آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا حجاج نے کہا مجھے کچھ اور بتاؤ اس نے جواب دیا، صحت، کیونکہ میں نے بیمار کو دیکھا ہے کہ وہ بھی زندگی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، حجاج نے کہا کچھ مزید بتاؤ اس نے جواب دیا، شباب، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھا آدمی بھی زندگی سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، حجاج نے کہا، کچھ اور بتاؤ اس نے جواب دیا، تونگری، کیونکہ میں نے محتاج کو دیکھا ہے کہ وہ بھی زندگی سے فائدہ حاصل نہیں کرتا حجاج نے کہا کچھ اور بتاؤ اس نے کہا میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔

ایمیں الجوهری نے مسلم بن ابراہیم ابی عمرو الفراهیدی سے اس نے صلت بن دینار سے بتایا وہ کہتا

حجاج کی تقریر۔ جب لوگوں نے اس کی موت کی جھوٹی طخبرہ اڑادی۔

ہے کہ حجاج بیمار ہو گیا تو اہل کوفہ نے اس کی موت کی جھوٹی طخبرہ اڑادی۔ جب وہ اپنی بیماری سے رو بصحت ہو گیا تو وہ اپنی بیساکھیوں پر جھک کر چلتے ہوئے منبر پر چڑھا اور اس نے کہا کہ اہل شقاق و نفاق کے نتھنوں میں شیطان نے پھونک ماری ہے کہ حجاج مر گیا ہے، حجاج مر گیا تو کیا ہوا خدا کی قسم میں موت کے بعد سب بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو دنیا میں ہمیشہ رکھنے پر راضی نہیں ہوا مگر جس کو اس نے ذلیل کر دیا یعنی ابلیس خدا تعالیٰ کے صالح بندے حضرت داؤد نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد اس جیسی حکومت کسی کے پاس نہ ہو اور ایسے ہی ہوا پھر وہ فنا ہو گئے گویا کبھی ننھے ہی نہیں۔ لوگو! تم سب ایک آدمی کی طرح ہو اور ہر زندہ مرنے والا ہے اور ہر تر خشک ہونے والا ہے اور ہر آدمی اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنی قبر میں لے جایا جائے گا اور اس کے لیے تین ماٹھ لمبی اور دو ماٹھ چوڑی زمین کھودی جائے گی۔ زمین اس کے گوشت کو کھا جائے گی اور اس کے خون اور پیپ کو چوس لے گی اور دونوں حبیب رمال اور اولاد واپس آکر ایک دوسرے

سے حصہ لیں گے اس کا پیارا بیٹا اس کے پیارے مال سے حصہ لے گا اور جو لوگ جانتے ہیں وہ عنقریب میری بات کو سمجھ لیں گے۔ والسلام

حجاج کی دھمکی آمیز تقریر المنقری نے ہمیں مسلم بن ابراہیم ابی عمرو الفراء صیدی سے اس نے صلت بن دینار سے بتایا وہ بیان کرتا ہے

کہ میں نے حجاج کو کہتے سنا کہ **رَفَاتِقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** کہ تم مقدور بصر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس میں ایک بات کو دہرایا گیا ہے **(وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا)** اور سنو اور اطاعت کرو، اور یہ حکم عبد اللہ خلیفۃ اللہ اور نجیب اللہ عبد الملک کے لیے ہے خدا کی قسم اگر عبد الملک لوگوں کو اس گھاٹی میں داخل ہونے کا حکم دے اور وہ کسی اور گھاٹی میں داخل ہو جائیں تو ان کا خون میرے لیے حلال ہوگا مجھے ان اہل حمراء کے بارے میں معذور سمجھا جائے ان میں سے ایک آدمی زمین کی طرف پتھر پھینکتا ہے اور کہتا ہے جہاں تک یہ پہنچے گا وہاں تک خدا کی کشتائش ہوگی میں انہیں مٹے ہوئے نشان اور گزرے ہوئے کل کی طرح بنا دوں گا مجھے ہذیل کے غلام کے متعلق بھی معذور خیال کیا جائے جو قرآن پاک کو بدویوں کے رجز کی طرح پڑھتا ہے خدا کی قسم اگر وہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، یعنی عبد اللہ بن مسعود کو اور مجھے سلیمان بن داؤد (علیہ السلام) کے متعلق بھی معذور سمجھا جائے انہوں نے اپنے رب سے کہا: اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جس جیسی حکومت میرے بعد کسی کی نہ ہو، خدا کی قسم میں نے جہاں تک سمجھا ہے یہ حاسد اور بخیل بندے تھے۔“

حجاج اور عبد اللہ بن ہانی المنقری نے ہمیں عبید بن ابی السری سے اس نے محمد بن ہشام بن السائب سے اس نے اپنے باپ

عبد الرحمن بن السائب سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ ایک روز حجاج نے عبد اللہ بن ہانی سے کہا وہ یمن کے اود قبیلے کا آدمی تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا وہ حجاج کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل ہوا تھا اور بیت اللہ کو جلانے میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کے متبعین و نصاریٰ میں سے تھا، خدا کی قسم ہم نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا۔ پھر اس نے اسماء بن خارجہ کی طرف آدمی بھیجا۔ وہ فزارہ قبیلے کا آدمی تھا۔ کہ تو اپنی بیٹی کی شادی عبد اللہ بن ہانی

سے کر دے اس نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا اور یہ کوئی عزت کی بات بھی نہیں، اس نے کوڑا منگوا یا تو وہ کہنے لگائیں اس سے شادی کر دوں گا پس اس نے اس سے لڑکی کی شادی کر دی پھر اس نے سعید بن قیس الہمدانی رئیس الیمانہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ بن ہانی سے کر دے اس نے کہا کیا وہ اودقییلے سے ہے خدا کی قسم میں اس سے شادی نہیں کروں گا اور نہ اس میں کوئی عزت کی بات ہے حجاج نے کہا تلوار لاؤ، اس نے کہا مجھے چھوڑو تاکہ میں گھر والوں سے مشورہ کر لوں اس نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس سے شادی کر دے تاکہ یہ فاسق تجھے قتل نہ کرے تو اس نے اس سے شادی کر دی تو حجاج نے اسے کہا اے عبداللہ میں نے تجھ سے بنی فزارہ کے سردار کی بیٹی اور ہمدان کے سردار اور کہلان کے عظیم آدمی کی بیٹی بیاہ دی ہے حالانکہ وہاں کوئی اود نہیں اس نے جواب دیا اللہ امیر کا بھلا کرے ایسا نہ کہو، ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو کسی عرب میں موجود نہیں حجاج نے کہا وہ کونسی خوبیاں ہیں اس نے جواب دیا ہماری کسی مجلس میں کبھی امیر المؤمنین عثمان کو بڑا بھلا نہیں کہا گیا، حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے اس نے کہا کہ صفین میں امیر المؤمنین معاویہ کے ساتھ ہمارے ستر آدمی حاضر ہوئے تھے اور البوتراب کے ساتھ ہمارا صرف ایک آدمی شامل ہوا تھا اور خدا کی قسم جہاں تک مجھے علم ہے وہ بڑا آدمی تھا حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے، اس نے کہا ہمارے کسی آدمی نے اس عورت سے شادی نہیں کی جو البوتراب سے محبت اور دوستی رکھتی ہو، حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے اس نے کہا اور ہم میں سے ہر شخص کی بیوی نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر حسین قتل ہو گئے تو وہ اس خوشی میں بکری یا اونٹ کے دس بچے ذبح کرے گی اور ہر عورت نے ایسا ہی کیا حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے اس نے کہا ہمارے جس آدمی کے سامنے بھی یہ بات پیش کی گئی کہ البوتراب کو سب دشتم کرو اور اس پر لعنت ڈالو، اس نے ایسا ہی کیا، اور میں نہیں مزید بتاتا ہوں کہ البوتراب کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین اور ان کی والدہ حضرت فاطمہؓ پر بھی لعنت ڈالی جاتی ہے۔ حجاج نے کہا خدا کی قسم یہ ایک خوبی کی بات ہے اس نے کہا کہ ہمیں جو صباحت و ملاحت حاصل ہے کسی غریب کو حاصل نہیں اور ہمیں پڑا۔ کیونکہ وہ سخت سیاہ قام، چمپک میں مبتلا، فریب،

لٹکے ہوئے ہونٹوں والا، بھینگا، بد صورت اور کربہ المنظر تھا۔

حجاج اور شعبی | المنقری نے جعفر بن عمر الحرصی سے اور اس نے مجدی بن رجا سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران بن مسلم بن ابی بکر العذلی کو کہتے

سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے شعبی کو کہتے سنا کہ مجھے باندھ کر حجاج کے پاس لایا گیا جب میں اس کی ملاقات کو گیا تو یزید بن مسلم مجھے ملا اور کہنے لگا اے شعبی تیرے دونوں پہلوؤں میں جو علم ہے اس پر انا اللہ، آج سفارش کا دن نہیں، امیر کے سامنے اپنے بارے میں شرک و نفاق پر قائم ہونے کی بات کر اس طرح تو اس سے نجات پانے کا استحقاق رکھے گا جب میں اس کی ملاقات کو گیا تو محمد بن الحجاج مجھے ملا اس نے مجھے یزید حبیبی بات کہی اور جب میں حجاج کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا اے شعبی تو بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور حملے کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے ہمارے بیٹھنے کی جگہ سخت بنا دی گئی تھی اور ہمارا صحن قحط زدہ کر دیا گیا تھا راستہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم نے بے خرابی کا ٹھہرا لگایا اور خوف کا ٹاٹ بنایا اور ہم قتلہ میں پڑ گئے۔ حالانکہ ہم اس میں نیک اور متقی نہ تھے نہ ہی فاجر اور قوی تھے حجاج نے کہا اس نے سچ کہا ہے خدا کی قسم انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر کے نیکی نہیں کی اور نہ ہی فاجر کر کے قوی ہوئے ہیں۔ اسے چھوڑ دو، شعبی بیان کرتا ہے پھر وہ فرانس کا محتاج ہوا تو اس نے کہا تم بہن، ماں اور دادے کے متعلق کیا کہتے ہو میں نے جواب دیا اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ نے اختلاف کیا ہے عبد اللہؓ، زیدؓ، عثمانؓ، علیؓ اور ابن عباسؓ نے، حجاج نے کہا اس بارے میں ابن عباسؓ نے کہا کہا ہے اور وہ متقی آدمی تھا؟ میں نے جواب دیا اس نے دادے کو باپ قرار دیا ہے اور ماں کو تیسرا حصہ دیا ہے اور بہن کو کچھ نہیں دیا، حجاج نے کہا عبد اللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے جواب دیا اس نے اسے چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے بہن کو نصف دیا ہے اور ماں کو چھٹا حصہ دیا ہے اور دادے کو تیسرا حصہ دیا ہے، حجاج نے کہا اس بارے میں زید نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے اسے نو حصوں میں تقسیم کیا ہے ماں کو تین حصے بہن کو دو حصے اور دادے کو چار حصے دیے ہیں، حجاج نے کہا اس بارے میں امیر المومنین عثمانؓ نے کیا کہا ہے؟ میں نے جواب دیا انہوں نے اسے

تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ، حجاج نے کہا اور اس بارے میں ابو تراب نے کیا کہا ہے
 میں نے کہا اس نے اسے چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے بہن کو نصف حصہ ، ماں کو تیسرا حصہ
 اور دادے کو چھٹا حصہ دیا ہے ، اور وی بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ناک پر مارا اور
 کہا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی بات کو چھوڑا نہیں جاسکتا پھر قاضی سے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین
 عثمان کے مذہب کے مطابق حکم دے دو۔

المنقری نے ابی عبد الرحمن عقیبی سے اور اس نے اپنے باپ
 سے ہمیں بتایا کہ حجاج نے حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خطاب

حجاج کا ارادہ حج

کرتے ہوئے کہا اے اہل عراق! میں نے تم پر محمد کو عامل مقرر کیا ہے اُسے تم میں کوئی
 دلچسپی نہیں اور تم بھی اُسے اس کا اہل نہیں سمجھتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف
 کے بارے میں جو وصیت کی تھی میں نے اس کے برخلاف اُسے وصیت کی ہے آپ نے
 وصیت فرمائی تھی کہ ان کے محسن کی بات کو قبول کیا جائے اور ان کے خطا کار سے
 درگزر کیا جائے اور میں نے اُسے وصیت کی ہے کہ وہ نہ تمہارے محسن کی بات کو قبول
 کرے اور نہ تمہارے خطا کار سے درگزر کرے اور مجھے علم ہے کہ جب میں تم کو چھوڑ
 کر چلا جاتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے ساتھی نہیں دیے اور اس کے
 متعلق جلد بازی کرنے سے تمہیں فراق کے سوا کسی بات نے نہیں روکا اور میں تمہیں
 اس کا فوری جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی خلافت نہیں دی۔ پھر وہ
 منبر سے نیچے اتر آیا۔

عبید اللہ بن ابی مخارق کا ایک کام کی ذمہ داری لینا اور مشورہ کرنا

محمد بن جعفر سے اس نے ابیہثم بن عدی سے اور اس نے ابو عبد الرحمن الکنانی سے اور اس
 نے ابن عباس الہمدانی سے اور اس نے عبید اللہ بن ابی مخارق سے ہمیں بتایا کہ حجاج نے
 مجھے فلوجہ پر عامل مقرر کیا ، میں نے پوچھا کیا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مشورہ
 لیا جائے ، انہوں نے کہا جمیل بن صہیب ہے میں نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو میرے
 پاس ایک بہت عمر رسیدہ آدمی آیا جس کے دونوں ابرو اس کی دونوں آنکھوں پر
 گرے ہوئے تھے اس نے کہا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور تم نے مجھے تکلیف دی

ہے میں نے کہا میں آپ سے امن و برکت اور مشورہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنے دونوں دربانوں کو حکم دیا تو انہوں نے ریشم کا ایک پردہ لگا دیا، اس نے کہا آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حجاج نے مجھے فلوجہ پر عامل مقرر کیا ہے اور وہ ایسا آدمی ہے جس کے شر سے امن میں نہیں رہا جاسکتا آپ مجھے اس بارے میں کوئی مشورہ دیں اس نے کہا تجھے حجاج کی رضا، بیت المال کی رضا اور اپنے نفس کی رضا میں سے کونسی چیز زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو راضی کروں میں حجاج سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بہت سخت اور حد سے تجاوز کر جانے والا آدمی ہے اس نے کہا میری چار باتوں کو یاد رکھ اپنے دروازے کو کھول دے کوئی تیرا دربان نہ ہو اور جو آدمی تیرے پاس آئے اُسے تیری ملاقات کا یقین ہو تیرے عمال تجھ سے ڈرنے کے زیادہ حق دار ہیں اور اپنے کارکنان سے لمبی نشست کر، کیونکہ جو عامل لمبی نشست کرتا ہے اس کے مقام سے خوف محسوس کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان تیرے حکم مختلف نہیں ہونے چاہئیں بلکہ شریف اور کمینے کے لیے تیرا حکم ایک ہی ہو اور تیرے کسی کارکن کو تجھ سے کوئی طمع نہ ہو اور اپنے کارکنوں سے کوئی تحفہ قبول نہ کر کیونکہ تحفہ دینے والا، دو گنے بدلہ کے بغیر راضی نہیں ہوتا پھر اس میں اور بھی بڑی باتیں بھی پائی جاتی ہیں لوگوں کی گدیوں کے درمیان سے لے کر ان کی دُموں کی جڑ تک ان کی کھال اتار دے تو وہ تجھ سے راضی رہیں گے اور حجاج تیرے خلاف کچھ نہ کر سکے گا۔

المنقری نے یوسف بن موسیٰ القطان سے، اس نے جریر سے، اس نے مغیرہ سے اس نے ربیع بن خالد سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے حجاج کو منبر پر بیان کرتے سنا کہ کیا تم میں سے کسی کو اپنے گھر کا جانشین زیادہ اچھا لگتا ہے یا اپنا ایلچی جو تمہارے کام کو گیا ہوا ہو، تو میں نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا اور اگر میں نے کسی قوم کو تم سے جنگ کرتے دیکھا تو میں ان کے ساتھ مل کر تجھ سے جنگ کروں گا وہ دیر الجماجم میں لڑتا ہوا قتل ہو گیا۔

المنقری نے العنقی سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کیا
غضبان بن قبعثری سے حجاج نے غضبان بن قبعثری کو، ابن اشعث کے الگ ہو جانے کے بعد اس کی خبر لانے کو بھیجا وہ اس کے پاس سے روانہ ہو کر بلاد کرمان میں

پہنچا تو خیمہ لگا کر اس میں فروکش ہو گیا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بدو نے آکر اُسے السلام علیک کہا، غضبان نے کہا۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی بات ہے، بدو نے اُسے کہا تو کہاں سے آیا ہے میں نے جواب دیا اپنے پیچھے سے، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو، میں نے جواب دیا اپنے آگے، اس نے کہا کیسے آئے ہو میں نے کہا اپنے گھوڑے پر آیا ہوں اس نے کہا کس چیز میں آئے ہو، میں نے کہا اپنے کپڑوں میں آیا ہوں اس نے کہا کیا تم مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دیتے ہو، میں نے کہا تمہارے پیچھے تمہارے لیے بڑی وسیع جگہ ہے اس نے کہا خدا کی قسم مجھے تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تو مجھے یہ طعنہ نہ دے خدا کی قسم تو ان دونوں چیزوں کو نہ چکھے گا اس نے کہا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا یہی کچھ تمہارے پاس ہے، میں نے کہا میرے پاس ایک سخت درخت کا ڈنڈا ہے جسے میں تیرے سر پر پاروں گا اس نے کہا گرمی نے میرے پاؤں کو جلا دیا ہے میں نے کہا ان پر پیشاب کر دو ٹھنڈے ہو جائیں گے اس نے کہا میرا یہ گھوڑا کیسا ہے؟ میں نے کہا میں اس کو دوسرے بڑے گھوڑے سے اچھا سمجھتا ہوں اور دوسرے کو اس سے زیادہ چست سمجھتا ہوں اس نے کہا مجھے بھی اس کا پتہ ہے میں نے کہا اگر تو جانتا ہوتا تو مجھ سے دریافت نہ کرتا اس کے بعد بدو اُسے چھوڑ کر چلا گیا پھر وہ عبدالرحمن بن اشعث کے پاس گیا تو اس نے کہا اے غضبان تیرے پیچھے کیا ہے، اس نے کہا، شر، اور قبل اس کے کہ حجاج تجھے ہلاک کرے اُسے ہلاک کر دو پھر اس نے منبر پر چڑھ کر حجاج کے معائب پر تقریر کی اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور ابن اشعث کے ساتھ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ ابن اشعث قید ہو گیا اور غضبان کو بھی اس کے ساتھ کپڑا لیا گیا جب اُسے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا _____ اے غضبان تو نے بلا ذکر مان کو کیسے پایا اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، کرمان ایسا ملک ہے جس کا پانی کم پھیل، ادنیٰ قسم کی کھجور، چور، دلیر اور گھوڑے کمزور ہیں اور اگر وہاں فوج زیادہ ہو جائے تو بھوکے رہے اور کم ہو جائے تو ضائع ہو جائے، اس نے کہا کیا تو ہی وہ شخص نہیں جس نے یہ خبیث بات کہی تھی کہ قبل اس کے کہ

حجاج تجھے ہلاک کرے اُسے ہلاک کر دو“ اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے جس شخص کو یہ بات کہی گئی تھی اس کو اس نے فائدہ نہیں دیا اور جس کے بارے میں کہی گئی ہے اسے اس نے نقصان نہیں دیا، اس نے کہا میں مخالف اطراف سے تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور پھر تجھے صلیب دوں گا اس نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے میں اُسے ایسا کرتے نہیں پاتا پس حجاج کے حکم سے اسے بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، حجاج کے قصر واسط بنانے تک یہ وہیں رہا، جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ اس کے صحن میں بیٹھا اور کہنے لگا تم میرے اس گنبد کو کیسا پاتے ہو، لوگوں نے کہا تجھ سے پہلے اس جیسا گنبد کسی کے لیے نہیں بنایا گیا اس نے کہا اس کے باوجود اس میں ایک عیب ہے کیا تم میں کوئی شخص ہے جو مجھے اس کے متعلق اطلاع دے؟ انہوں نے کہا قسم بخدا ہم تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتے تو اس نے غضبان کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اُسے پابجولاں لایا گیا جب وہ حجاج کے سامنے پیش ہوا تو حجاج نے اُسے غضبان میں تجھے فریب محسوس کرتا ہوں اس نے کہا ابے امیر قید و آسودگی نے مجھے فریب کر دیا ہے اور جو امیر کا مہمان ہو وہ فریب ہو ہی جاتا ہے اس نے پوچھا تم نے میرے گنبد کو کیسا پایا ہے اس نے کہا اس جیسا گنبد کسی کے لیے تعمیر نہیں کیا گیا مگر اس میں ایک عیب ہے اور اگر امیر مجھے امان دیں تو میں ان لوگوں کو اس کے متعلق بتاؤں، اس نے کہا ہم نے امان دی، اس نے کہا تو نے اسے اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں کسی اور کے بیٹوں کے لیے بنایا ہے جس سے نہ تو لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ آسودگی حاصل کرتا ہے اور جو اس کی لذیذ اور مزے دار چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا اُسے کیا ہے، اس نے کہا اسے واپس لے جاؤ یہی وہ خبیث بات کہنے والا ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے بیڑیوں نے میرا گوشت کھا لیا ہے اور میری بیڑیوں کو چھیل دیا ہے اس نے کہا اُسے اٹھا کر لے جاؤ جب لوگوں نے اُسے اٹھایا تو وہ کہنے لگا۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنالہ مقربین“ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے حالانکہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے“

لے یہ دُعا سواری پر چڑھتے اور اترتے وقت پڑھی جاتی ہے۔

اس نے کہا اسے اتار دو اور جب وہ زمین پر بیٹھ گیا تو کہنے لگا اللہم انزلنی منزلاً مبارکاً و انت خیر المنزّلین۔ اے اللہ مجھے مبارک جگہ اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے اس نے کہا اسے گھسیٹو اور جب انہوں نے اُسے گھسیٹا تو وہ کہنے لگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ حَرِيْبِيَا وَ مَرْسِيْهَا اَنْ رَّبِّيْ لِعَفْوِ رَحِيْمٍ ۝ اللّٰهُ هِيَ كَيْ نَامُ كَيْ سَاخِذُ
اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس نے کہا اسے آزاد کر دو۔

المنقری نے عبداللہ بن محمد بن حنفی تمیمی سے اور اس نے حسین بن علی حنفی سے بیان کیا ہے کہ جب بشر بن مردان ہلاک ہو گیا اور حجاج کو عراق کا والی بنایا گیا اور عراقیوں کو یہ اطلاع ملی تو غضبان بن قبعثری ثیبانی نے کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور حمد و ثنائے الہی کے بعد کہا، اے عراقیو اور کوفیو، عبدالملک نے تم پر وہ حاکم مقرر کیا ہے جو نہ تمہارے محسن کی بات قبول کرے گا اور نہ تمہارے خطا کار سے درگزر کرے گا وہ ظالم اور غاصب حجاج ہے، آگاہ رہو مصعب کی مدد نہ کرنے اور اُسے قتل کرنے کی وجہ سے عبدالملک کے ہاں تمہارا مقام ہے اس خبیث کو راستے میں ہی مل کر قتل کر دو یہ بات تمہاری علیحدگی متصور نہ ہوگی، اور جب وہ تمہارے منبر اور تمہارے تخت اور تمہارے قصر امارت کے صحن میں آ بیٹھا اور تم نے اُسے قتل کیا تو یہ بات تمہاری علیحدگی متصور ہوگی، پس میری بات مانو اور قبل اس کے کہ وہ تمہیں ہلاک کرے تم اُسے ہلاک کر دو، اہل کوفہ نے اُسے کہا اے غضبان تو بزدل ہو گیا ہے ہم اس کی روش کو دیکھتے ہیں اگر ہم نے کوئی بُری بات دیکھی تو ہم اُسے بدل دیں گے اس نے کہا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔

جب حجاج کوفہ میں آیا اور اُسے غضبان کی بات کی اطلاع ملی تو اس نے اُسے قید کرنے کا حکم دے دیا وہ تین سال اس کی قید میں رہا یہاں تک کہ حجاج کے پاس عبدالملک کا خط آیا جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ اس کے پاس تیس لونڈیاں بھیج دی جائیں جن

لہذا یہ ادعیہ سواری پر چڑھتے اور اترتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔

میں دس نجیبہ اور دس تعد النکاح اور دس ذوات الاحلام ہوں۔ جب اس نے خط پر غور کیا تو وہ لونڈیوں کے اوصاف کو نہ سمجھ سکا اس نے یہ خط اپنے دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی اسے نہ سمجھ سکے ان میں سے ایک نے کہا اس خط کو وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو ابتداءً دیہاتی ہو کیونکہ اُسے دیہات والوں کے متعلق واقفیت ہوتی ہے پھر اس نے جنگ کی ہو تو اُسے جنگ کرنے والوں سے واقفیت ہوتی ہے پھر اس نے شراب پی ہو تو وہ شرابیوں کا سا بکواس کرتا ہے حجاج نے کہا ایسا آدمی کہاں ہے اُسے بتایا گیا کہ تیری قید میں ایسا آدمی موجود ہے اس نے کہا وہ کون ہے، بتایا گیا کہ غضبان ثیبانی اس نے اُسے بلایا جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو حجاج نے کہا تو وہ شخص ہے جس نے کوفیوں سے کہا تھا کہ قبل اس کے کہ میں انہیں ہلاک کروں وہ مجھے ہلاک کر دیں، اس نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے اس بات نے نہ کہنے والے کو فائدہ دیا ہے اور نہ اُسے نقصان پہنچایا ہے جس کے متعلق کہی گئی ہے، اس نے کہا مجھے امیر المؤمنین نے ایک خط لکھا ہے میں اس کے مضمون کو نہیں سمجھ سکا کیا تو اُسے سمجھ سکتا ہے اس نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ خط پڑھ کر سنا یا گیا تو اس نے کہا یہ خط بڑا واضح ہے حجاج نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا عورتوں میں نجیبہ وہ ہوتی ہے جس کی کھوپڑی بڑی ہو اور گردن لمبی ہو اور اس کے دونوں کندھوں اور دونوں پستانوں کے درمیان فاصلہ ہو اس کی منھیلی بڑی ہو اور گھٹنا موٹا ہو، اس قسم کی عورت جب بچہ جنتی ہے تو وہ حملہ آور شیر کی طرح ہوتا ہے اور تعد النکاح وہ ہوتی ہیں جن کے سرین بڑے ہوں اور پستان ڈھلکے ہوئے ہوں اور بہت گوشت والی ہوں یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اور خواہش کو پورا کرتی ہیں اور پیاسے کو سیراب کرتی ہیں اور ذوات الاحلام سے مراد پینتیس سال سے چالیس سال کی عورتیں ہیں۔ یہ عورتیں آدمی کو اس طرح چوس لیتی ہیں جیسے دودھ دوہنے والا اونٹنی کو دودھ لیتا ہے، اس کے ہر بال، ناخن اور گ کو نچوڑ لیتی ہیں حجاج نے کہا مجھے بڑی عورت کے متعلق بتاؤ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے عورتوں میں بڑی عورت وہ ہوتی ہے جس کی گردن چھوٹی ہو، پتلے گھٹنے والی ہو اور جلد چھلانگ لگاتی ہو اور قبیلے کی عورتوں کے درمیان اچھی عورت وہ ہے جب وہ ناراض ہو تو اس کے لیے سو عورت ناراض ہو جائے اور جب کسی بات کو سُننے تو کہے نہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گی جب تک میں اسے اس کی جگہ پر نہ ٹکادوں اور جس

کے پیٹ میں بچی ہو اور اس کے بعد پھرتی ہو اور اس کی گود میں بھی بچی ہو، حجاج نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو پھر اس نے کہا تیرا بڑا ہو مجھے بہترین عورت کے متعلق بتاؤ اس نے کہا بہترین عورت وہ ہے جو سرو قد ہو اور زمین سے بہت کچھ حاصل کرنے والی ہو، بہت محنت کرنے والی اور بہت بچے دینے والی ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور گود میں بھی بچہ ہو اور اس کے پیچھے بھی بچہ ہو، حجاج نے کہا مجھے بڑے آدمی کے متعلق بتاؤ اس نے کہا بڑا آدمی وہ ہے جو سیدھے بالوں والا، میل جول رکھنے والا اور قبیلے کی عورتوں میں قابل تعریف ہو جب ان میں سے کسی عورت کا ڈول کنوٹیں میں گر جائے تو وہ کنوٹیں میں اتر کر اُسے نکال دے اور وہ اُسے بھلائی کی دعا دیں یا کہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو بھرائی سے بچائے۔

حجاج نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو پھر حجاج نے کہا مجھے بہترین آدمی کے متعلق بتاؤ اس نے کہا بہترین آدمی وہ ہے جس کے متعلق شامخ تغلیبی کہتا ہے کہ
 ”وہ نوجوان ادنیٰ معیشت سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی قبیلے کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، وہ نوجوان چادر کو بھرتا ہے اور اپنے نیزے کو سیراب کرتا ہے اور آہن غرق بہادر کے سر پر ضرب لگاتا ہے۔“

حجاج نے کہا بس کافی ہے ہم نے کتنا عرصہ تیرے عطیہ کو روکا ہے اس نے کہا تین سال، اس نے اُسے تین سال کا عطیہ دینے کا حکم دیا اور اُسے آزاد کر دیا۔

کوفہ اور بصرہ کی تعریف | المنتقری نے محمد بن ابی السری سے اس نے ابن ہشام سے اور اس نے ابو عبد اللہ نخعی سے اور اس نے ابو عبد اللہ نخعی سے بیان کیا کہ جب حجاج دیر الجاحم کے معرکوں سے فارغ ہوا تو کوفہ اور بصرہ کے اشراف کے ساتھ عبد الملک کو ملنے کے لیے گیا وہ عبد الملک کے پاس ہی تھے کہ ایک روز شہروں کا تذکرہ شروع ہو گیا، محمد بن عمیر عطار نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے کہ سرزمین کوفہ، بصرہ سے اونچی ہے اس کی گرمی اور گہرائی بھی زیادہ ہے اور شام سے نشیب میں ہے اور اس کی نسبت یہاں بیماری اور ٹھنڈک بھی کم ہے اس کے قریب دریائے فرات ہے جس کا پانی شیریں اور پھل لذیذ ہیں، خالد بن صفوان اہمیتی نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے ہم ان سے بڑے صحراؤں والے اور رات کو تیز چلنے والے

اور قند اور ہاتھی دانت اور ساکھو کے درختوں والے ہیں ہمارا پانی صاف ہے اور ہمارا میوہ عفو ہے ، ہمارے ہاں صرف سردار پیچھے سے لانگنے والے اور کائیں کائیں کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں ، حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کا بھلا کرے ہیں دونوں شہروں سے واقفیت رکھتا ہوں اور میں نے ان دونوں کو خوب پامال کیا ہے ، اس نے اُسے کہا تو ہمارا مہدی ہے تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ ، اس نے کہا کہ بصرہ تو ایک ایسی بوڑھی عورت کی طرح ہے جس کے بال سیاہ اور سفید ہوں اور وہ بدبو دار اور گندہ دہن ہو اور اس کے پاس تمام زیورات اور زیب و زینت کا سامان ہو ، اور کوفہ ایک نوجوان خوب صورت عورت کی طرح ہے جس کے پاس نہ زیور ہے نہ سامانِ زیب و زینت ، عبد الملک نے کہا میں کوفہ کو بصرہ پر ترجیح دیتا ہوں۔

حجاج کا دنیا کی تعریف کرنا المنقری نے عمرو بن الحباب الباہلی سے اور اس نے اسماعیل بن خالد سے بیان کیا کہ میں نے شعبی کو کہتے سنا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حجاج کو ایسی باتیں کرتے سنا کہ اس سے قبل کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی ، میں نے اُسے کہتے سنا کہ اما بعد ، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر فنا کو اور آخرت پر بقا کو فرض کر دیا ہے پس اس کے لیے فنا نہیں جس کے لیے اس نے بقا فرض کر دی ہے اور جس پر اس نے فنا فرض کر دی ہے اس کے لیے بقا نہیں پس تمہیں دنیا کی موجود چیزیں آخرت کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں دھوکا نہ دیں ، امیدوں کی طوالت عمر کی مدت کو کم کر دیتی ہے۔

مہلب کا ایچی حجاج کے پاس المنقری نے سہل بن تمام بن ہذیل سے ، اس نے عباد بن حبیب بن مہلب سے اور

اس نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ جب مہلب نے عبد ربہ بن الصعتر کو کہہ مان میں قتل کیا تو کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی لاؤ جو صاحب عقل و معرفت و بیان ہوتا کہ میں اُسے حجاج کے پاس ان لوگوں کے سروں کے ساتھ بھیجوں جنہیں ہم نے قتل کیا ہے انہوں نے اُسے بشر بن مالک الجرشنی کے متعلق بتایا جب وہ حجاج کے پاس آیا ، تو اس نے

۱۹۲ ایک نسخہ میں سہل بن تمام بن ہذیل سے ہے۔

پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا بشر بن مالک الجرشى، اس نے پوچھا تو نے مہلب کو کیسے چھوڑا اس نے جواب دیا میں نے اُسے اچھے حال میں چھوڑا ہے اس نے اپنی آرزو کو حاصل کر لیا ہے اور جس سے وہ خائف تھا اس سے امن میں آ گیا ہے اس نے پوچھا قطر کا تم سے کیسے پرچ گیا اس نے جواب دیا، جیسے ہم نے اس کے متعلق تدبیر کی تو اس نے ہمارے متعلق تدبیر کی، اس نے پوچھا کیا تم نے اُسے تلاش نہیں کیا اس نے جواب دیا وہ شکست خوردہ تھا اور شکست کی نسبت سنجیدگی اختیار کرنا ہمارے لیے زیادہ اہم تھا اس نے کہا بنو مہلب کیسے تھے اس نے کہا وہ امن میں ہوں تو شب خون کے دشمن ہیں اور گھر پہنچنے تک مشعل بردار ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اور ان میں سے افضل کون ہے اس نے جواب دیا یہ بات ان کے باپ سے دریافت کیجیے وہ جس کے سپرد کام کرے وہ اُسے کر گزرتا ہے، اس نے کہا مجھے بتاؤ انہیں عقل کہاں سے آئی ہے اس نے کہا گول چیز کو اپنے کنارے کا پتہ نہیں ہوتا اس نے کہا مہلب کے بیٹوں کو اپنے باپ سے کیا نسبت ہے اس نے جواب دیا مہلب کو ان پر اسی قسم کی فضیلت حاصل ہے جیسے ان کو دوسرے لوگوں پر ہے اس نے پوچھا فوج کا کیا حال تھا اس نے جواب دیا خدا تعالیٰ نے ان کو راضی کر دیا تھا اور فضل نے ان کو سیر کر دیا تھا اور وہ ایک ایسے والی کے ساتھ ہیں جو ان سے فیر کی طرح لڑتا بادشاہوں کی طرح چلاتا اور اولاد کی طرح سلوک کرتا ہے اور وہ اس سے والد کی طرح محبت کرتے ہیں اس نے پوچھا میرے خیال میں تو تیار ہی کر کے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا، ادوی بیان کرتا ہے کہ پھر حجاج نے عنبسہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ طبعی کلام ہے مصنوعی کلام نہیں۔

حجاج اور جریر بن الحنفی | حجاج نے جریر بن الحنفی کو گرفتار کر لیا اور اُسے قتل کر دینا چاہا پس اس کی قوم مضر کے لوگ حجاج کے پاس گئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے یہ شخص مضر کی زبان اور اس کا شاعر ہے اسے ہمیں دے دیجیے تو اس نے جریر کو انہیں دے دیا، حجاج کی بیوی ہند بنت اسماء نے حجاج سے کہا کیا آپ جریر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایک روز میرے پاس آئے اور میں پس پردہ بیٹھ کر اس سے اشعار کی فرمائش کروں اس نے کہا ہاں

اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک نشست گاہ تیار کرنے کا حکم دیا جب وہ جگہ تیار ہو گئی تو وہ اس کے پاس آیا وہ اس کی باتوں کو سن سکتا تھا مگر اسے دیکھ نہ سکتا تھا اس نے کہا ابن الحنفی تم نے جو عورتوں کی تشبیہ کہی ہے وہ مجھے سناؤ اس نے کہا، میں نے کبھی کسی عورت کی تشبیہ نہیں کہی اور میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے عورتوں سے بڑی چیز کوئی نہیں اس نے کہا اے دشمن خدا کیا یہ تیرا قول نہیں ہے

” اور دلوں کو شکار کرنے والی، رات کو تیرے پاس آئی اور وہ ملاقات کا وقت نہ تھا پس سلام کہہ کر چلی جا اور اس کے سفید دانتوں پر مسواک یوں چلتی ہے گویا وہ بادلوں سے گرنے والے ہیں اور اگر تو اس بات کے کہنے میں سچی ہے جو تو نے ہمیں بتائی ہے تو تو وہاں پر پراگندہ بالوں کے بغیر پہنچتی، اور غم جسم میں سرایت کر گئے ہیں اور انہوں نے جل گئے رات بسر کی ہے اور غم خوار ہر ارادہ کرتا رہتا ہے۔“

اس نے کہا میں نے یہ اشعار نہیں کہے بلکہ میں نے یہ شعر کہے ہیں۔

” اور حجاج نے حق کے لیے تلوار کو سونٹ لیا ہے، لوگو سیدھے ہو جاؤ اور کوئی کج روی اختیار نہ کرے اور ہدایت اور گمراہی کے داعی برابر نہیں ہوتے اور نہ ہی دو جھگڑنے والوں کی دلیل حق اور باطل ہوتی ہے۔“

حجاج کی بیوی نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، کیا یہ تیرا قول نہیں ہے۔

” اے میرے دو دوستو! ہند کے بارے میں بکثرت آنسو نہ بہاؤ میں تم دونوں کو اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تمہیں سراغ ملے، میں شراب کے حُسن اور اس کے پینے کا پیاسا ہوں جیسے جھوٹا آدمی، جھوٹی بات کی کامیابی کی امید رکھتا ہے مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔“

اس نے حجاج کی بیوی سے کہا میں نے یہ اشعار نہیں کہے بلکہ میں نے یہ اشعار

کہے ہیں۔

” اے وہ شخص جو حجاج سے بے خوف ہے اس کی سزا بڑی تلخ اور اس کی گرہ بڑی پختہ ہوتی ہے ہر منافق بترے بغض کو چھپائے پھرتا ہے جیسے ہرنیک تجھ پر ہریان ہے۔“

حجاج کی بیوی نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، یہ تیرے اشعار نہیں سے
 اے میرے دو ملامت گرو، ملامت کو چھوڑ دو اور بس کرو، عشق طویل
 ہو گیا ہے اور تم نے بھی ملامت کرنے کو طویل کر دیا ہے اور جو محبت میرے
 پاس ہے اگر میں اس سے مزید محبت کا خواہاں ہوں تو مجھے مزید محبت
 نہیں ملے گی۔“

اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے یہ بات جھوٹ ہے بلکہ میں نے تو یہ اشعار
 کہے ہیں۔

”ان کے بارے میں منافقت کرنے والوں کو کس نے روکا ہے اور کون
 حجاج کا سا حملہ کرتا ہے یا کون حمیت سے عورتوں پر غیرت کھاتا ہے
 جب کہ وہ خاوندوں کی غیرت پر اعتماد نہیں رکھتیں خوب سوچ سمجھ
 لو یہ ابن یوسف ہے جس نے پوشیدگی کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ان کی
 ڈاڑھیوں کا خضاب ان کی گردنوں کا خون تھا۔“

حجاج نے کہا اے دشمن خدا تو عورتوں کو میرے خلاف اُکسارہا ہے اس نے
 جواب دیا اے امیر اس ذات کی قسم جس نے تجھے عزت بخشی ہے ایسا نہیں ہے
 میں نے اس ساعت سے قبل اس شعر کا ادراک نہیں کیا اور نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ
 آپ یہاں تشریف فرما ہیں مجھے معاف فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔
 اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، پس ہند نے اُسے ایک لونڈی اور پوشاک
 دینے کا حکم دیا اور حجاج نے اُسے عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔

حجاج اور اعشیٰ ہمدان

جب دیر الجمجم میں ابن اشعث نے شکست کھائی تو
 حجاج نے قسم کھائی کہ جو قیدی بھی اس کے پاس لایا گیا
 وہ اسے قتل کر دے گا، بہت سے قیدی اس کے پاس لائے گئے جن میں سے سب سے
 پہلے اس کے پاس اعشیٰ ہمدان شاعر کو لایا گیا یہ پہلا شخص تھا جس نے سجستان میں
 ابن اشعث کے سامنے عبد الملک اور حجاج سے علیحدگی اختیار کی تھی، حجاج نے
 اُسے کہا اے تو نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”حجاج کو کون یہ اطلاع دے کہ میں نے اُس پر جنگ کرنے کی زیادتی

کی ہے اور جب حکومت کے متعلق تیاری ہوئی تو میں نے ایک دلیر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تو رئیس ابن رئیس ہے اور تو سب لوگوں سے بلند شان ہے پس تو گھوڑوں کے عطیے کو بھیج کہ وہ اس پر حملہ کریں اور تو اٹھ کھڑا ہو شاید اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے مصیبت کو دور کر دے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ یوسف کا بیٹا پھسلن والی جگہ سے گر کر تباہ ہو گیا ہے۔“

اور یہ اشعار بھی تو نے کہے ہیں

”جس کا گھرا یوان کسریٰ میں ہے — اور جو مہمان نواز اور اسباب معیشت کا حامل ہے اس نے جدائی کو دور کر دیا ہے اس عاشق سے جدائی کو دور کر دیا ہے جو زابلستان میں ہے اور ثقیف میں دو کذاب ہیں ایک تو گزرا ہوا کذاب ہے اور ایک دوسرا کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی دن ہمدان کو ثقیف پر غلبہ دے تو اسے اپنا آپ بھول جائے۔“

نیز تو نے یہ اشعار بھی کہے ہیں

”اور تم دونوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بزرگی کا مقام کس جگہ ہے، محمد اور سعید کے درمیان رہتی ہے اور اشج اور بلند شان قبیس کے درمیان رہتی ہے اس کے والد اور بیٹے کے کیا کہنے؟“

اس نے کہا میں نے یہ اشعار نہیں کہے بلکہ میں نے یہ اشعار کہنے ہیں

”اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے نور کو مکمل کرنے کا اور دونوں شوخ رنگوں کے نور کو بچھا دے گا اور وہ بچھ جائیں گے، وہ عراق اور اہل عراق پر عہد شکنی کی وجہ سے ذلت نازل کرے گا اور انہوں نے جو بدعتیں اختیار کی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر نہیں،“ اس نے کہا ہم اس قول پر تیری تعریف نہیں کرتے، یہ تو تو نے اس افسوس میں کہا ہے کہ عراق کامیاب کیوں نہیں ہوا نیز اپنے اصحاب کو ہمارے خلاف برا بگھنا کرنے کے لیے کہا ہے میں نے تجھ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا، مجھے اپنے اس قول کے متعلق بتا کہ اگر اللہ کسی دن ہمدان کو ثقیف پر غلبہ دے تو اسے اپنا آپ بھول جائے۔“

پس تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ثقیف کو ہمدان پر غلبہ دیا اور اس نے ہمدان کو ثقیف پر غلبہ نہیں دیا اور مجھے اپنے اس قول کے متعلق بھی بتا کہ ”بزرگی اشج اور بلند نشان قیس کے درمیان رہتی ہے اس کے والد اور بیٹے کے کیا کہنے؟ خدا کی قسم تو اس کے بعد کوئی شاباش کا لفظ نہیں کہے گا اور اس کے حکم سے اُسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے پاس باری باری جوان لائے گئے، یہاں تک کہ بنی عامر کا ایک جوان اس کے پاس لایا گیا وہ ابن اشعث کے ساتھی شہسواروں میں سے تھا، حجاج نے اُسے کہا میں تجھے بڑی طرح قتل کروں گا اس نے کہا خدا کی قسم یہ تیرا کام نہیں اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے :-

فاذالقیتم الذین کفروا ف ضرب الرقاب طختا اذا اختلفتموہم فشد و الوثاق فاما منا بعد واما فدا ءحتی ترفع الحرب اوزارہا۔
 ”اور جب تم کافروں سے لڑو تو انہیں قتل کرو اور جب تم خونریزی کر چکو تو بندھن کس دو اور اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے۔“

اور تو نے قتلام بھی کیا ہے اور خونریزی بھی کی ہے اور ایسیر بھی بنایا ہے اور بندھن بھی کئے ہیں اب یا تو ہم پر احسان کر یا ہمارے قبیلے ہمارا فدیہ دیتے ہیں، حجاج نے اُسے کہا، کیا تو نے کفر کیا ہے اس نے کہا ہاں میں نے تبدیلی کی ہے اس نے کہا اسے چھوڑ دو۔

پھر اس کے پاس ثقیف کا ایک آدمی لایا گیا حجاج نے اس سے پوچھا کیا تو نے کفر کیا ہے اس نے جواب دیا ہاں، حجاج نے اُسے کہا لیکن یہ شخص جو تیرے پیچھے ہے اس نے کفر نہیں کیا اور اس کے پیچھے سکون قبیلے کا ایک آدمی تھا، سکونی نے

لہ (ترجمہ) جب ملو تم کافروں سے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کو چور کر دو تو سختی سے انہیں قید کرو، پھر اس کے بعد یا احسان کرو یا بدلہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے (محمد - آیت ۱۲)

کہا کیا تو میرے نفس کے بارے میں مجھے دھوکا دیتا ہے خدا کی قسم اگر کفر سے بھی کوئی شدید چیز ہوتی تو میں اس کی طرف پلٹ جاتا اور اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔
یہ عبد الملک اور حجاج کے مختصر حالات ہیں ہم نے مفصل واقعات کو اس کتاب میں درج نہیں کیا بلکہ انہیں اپنی دو کتابوں اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان کیا ہے۔ ہماری یہ کتاب ان دونوں کے بعد کی ہے اور پہلی کتاب میں بیان کردہ وعدہ کے بموجب ہم اس کتاب میں بھی حجاج کے حالات کی ایک جھلک پیش کریں گے۔ وباللہ العون والقوت۔

ولید بن عبد الملک کے دور حکومت کا بیان

مختصر حالات | جس روز عبد الملک کی وفات ہوئی، اسی روز دمشق میں ولید بن عبد الملک کی بیعت ہوئی، ولید ۵ ارجادی الآخرہ ۹۶ھ کو دمشق میں وفات پا گیا اس کی حکومت نو سال آٹھ ماہ دو راتیں رہی وہ ۴۳۵ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کی کنیت ابو العباس تھی۔

اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

اور اس کے دور حکومت میں حجاج کے کارنامے

ولید بڑا جاہل، سرکش، ظالم اور غاصب تھا اس نے اپنے پیچھے چودہ لڑکے چھوڑے جن میں سے یزید، عمر و، بشر العالم اور عباس بھی تھے، ولید کو اس کی بہادری کی وجہ سے بنی مروان کا شہسوار بھی کہا جاتا ہے۔ عبد الملک کی وصیت کے مطابق ولید نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو حکومت دینے سے اعراض کیا، اس کی انگوٹھی کا نقش یہ

۱۰ ایک نسخے میں چوالیس سال ہے۔

تھا "یا ولید انک میت" پس جب کبھی وہ ارادہ کرتا کہ اپنے بیٹوں کو حکومت دے دے تو نگینے کو پلٹ کر پڑھتا کہ "انک میت" تو کتا خدا نہ کرے میں اپنے باپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا اور میں مرنے والا ہوں۔

۸۷ھ میں ولید نے جامع مسجد دمشق اور

دمشق اور مدینہ کی مسجدوں کی تعمیر | مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا اور ان دونوں پر بہت مال خرچ کیا ان کے اخراجات کے منتظم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔

عثمان بن مرہ خولانی نے بیان کیا ہے کہ جب ولید نے دمشق کی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس نے مسجد کی دیوار میں پتھر کی ایک تختی دیکھی جس میں یونانی زبان میں کچھ لکھا تھا اس نے تختی کو اہل کتاب کی ایک جماعت کے سامنے پیش کیا تو وہ اُسے پڑھ نہ سکے، پھر اس نے اُسے وہب بن منبہ کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ تختی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھی اس نے اُسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا:۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم! اے ابن آدم! اگر تو اپنی اس تھوڑی سی مدت کو دیکھ لے جو باقی رہ گئی ہے تو تو طول عمل سے دست کش ہو جائے اور تدبیر و

رغبت میں کوتاہی کرے اور تجھے ندامت ہو، جب تیرے قدم لڑکھڑائیوں گے، تیرے اہل اور خادم تجھے چھوڑ دیں گے اور تیرا حبیب تجھ سے منہ

پھیر لے گا اور تیرے قریبی تجھے الوداع کہیں گے تو پھر تجھے آوازیں دی جائیں گی اور تو جواب نہیں دے گا، نہ تو اپنے گھر والوں کی پناہ لے گا

اور نہ تیرے عمل میں کچھ اصنافہ ہوگا، قبل اس کے کہ تیری سانس کی تالی کو پکڑا جائے اور تیرے اور تیرے عمل کے درمیان روک ڈال دی جائے

تو موت سے پہلے زندگی کو اور فوت ہونے سے پہلے قوت کو غنیمت جان!

اس پر داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی لکھا تھا، ولید نے حکم دیا کہ مسجد کی دیوار کے لاجورد پر سونے کے ساتھ لکھا جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کی

۸۹ھ میں لکھی گئی۔

عبادت نہیں کرتے اور اس مسجد کی تعمیر اور اس گرجا کے گرنے کا حکم عبداللہ ابولید امیر المومنین نے ذوالحجہ ۸۷ھ میں دیا، یہ تحریر آج یعنی ۳۳۲ھ تک مسجد دمشق میں لکھی ہوئی موجود ہے۔

ولید اور حجاج کے درمیان گفتگو | حجاج بن یوسف، ولید کے پاس گیا تو اس نے اُسے ایک صحت افزا مقام میں پایا۔ یہ اس کی

طرف چل پڑا جب اُسے دیکھا تو اس کے اعزاز میں پیدل چلا اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور زرہ اور ترکش اور عربی کمان سمیت چلنے لگا تو ولید نے اُسے کہا ابو محمد، سوار ہو جاؤ، اس نے کہا امیر المومنین چھوڑیے ہیں نے بہت جہاد کیا ہے ابن زبیر اور ابن اشعث نے مجھے آپ سے غافل کر دیا تھا ولید نے اُسے قسم دی تو وہ سوار ہو گیا، ولید اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے شلو کہ پہن لیا اور پھر اسی حالت میں حجاج کو اندر آنے کی اجازت دی اور اس سے لمبی نشست کی ابھی وہ ناہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک لونڈی آئی اور ولید کے ساتھ آہستگی کے ساتھ بات کر کے چلی گئی پھر دوبارہ آکر اس نے آہستگی سے بات کی اور چلی گئی، ولید نے حجاج سے کہا ابو محمد تجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا بخدا مجھے کچھ پتہ نہیں، ولید نے کہا اس لونڈی کو میرے پاس میرے چچا کی بیٹی ام البنین بنت عبدالعزیز نے بھیجا ہے وہ کہتی ہے کہ اس مہلچ بدو کے ساتھ آپ کی نشست کیسی ہے جب کہ آپ صرف شلو کہ پہنے ہوئے ہیں میں نے اُسے پیغام بھیجا ہے کہ یہ حجاج ہے تو وہ اس پیغام سے خوفزدہ ہو گئی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ اس کی خلوت کو پسند نہیں کرتی اس نے بہت مخلوق کو قتل کیا ہے حجاج نے کہا امیر المومنین عورتوں کے ساتھ دل لگی چھوڑیے، عورت ایک خوشبو ہے یہ آمدنی اور مصارف کی ذمہ دار نہیں ان کو اپنے راز سے اور اپنے دشمن کی چال سے آگاہ نہ کیجیے اور نہ ان کی اطاعت کیجیے اور ان کی زیب و زینت سے زیادہ ان سے مشغول نہ کیجیے، امور سلطنت میں ان کے مشورہ سے بچیں ان کی رائے اور عزم کمزور ہوتا ہے اور اپنے پردوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیجیے اور ان میں سے ایک کے سپرد اتنا ہی کام کیجیے جو اس کی ذات سے ہی تعلق رکھتا ہو اور ان کو یہ طمع نہ دیجیے کہ وہ آپ کے پاس کسی اور کی سفارش کریں ان کے ساتھ لمبی نشست اور خلوت نہ کیجیے یہ باتیں آپ کے کنٹرول کو زیادہ کرنے والی اور آپ کے

فضل کو واضح کرنے والی ہیں پھر حجاج اٹھ کر چلا گیا۔

حجاج کو ام البنین کی ڈانٹ | ولید نے جا کر ام البنین کو حجاج کی باتوں کی اطلاع دے دی تو اس نے کہا امیر المومنین میں چاہتی

ہوں کہ کل آپ اُسے مجھے سلام کرنے کا حکم دیں، ولید نے کہا میں اُسے حکم دے دوں گا جب حجاج ولید کے پاس گیا تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے اس بات سے معاف فرمائیے ولید نے کہا تجھے ضرور جانا پڑے گا، حجاج ام البنین کے پاس گیا تو اس نے دیر تک اسے روکے رکھا پھر اُسے اجازت دی اور اُسے کھڑے رکھا اور بیٹھنے کی اجازت نہ دی پھر کہنے لگی اے حجاج تو امیر المومنین پر ابن زبیر اور ابن اشعث کے

قتل کا احسان جتلاتا ہے خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق سے ذلیل تر نہ بنایا ہوتا تو مجھے کعبہ پر سنگ باری کرنے اور ذات النطاقین کے بیٹے کے قتل

میں مبتلا نہ کرتا وہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا اور خدا کی قسم ابن اشعث نے تم پر شکستوں کو مسلط کر دیا تھا یہاں تک کہ تو نے امیر المومنین عبد الملک کی پناہ لی اور انہوں نے شامیوں سے تیری مدد کی حالانکہ تو سینگ سے بھی زیادہ تنگ تھا، انہوں نے تجھے ان کے نیزوں سے پناہ دی اور ان کے مقابلے سے تمہیں بچایا، کئی دفعہ

امیر المومنین کی بیویوں نے اپنی زلفوں سے کستوری جھاڑی اور اُسے بچ کر تیری فوج کو رسد بھیجی گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو تو بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا اور یہ جو تو نے امیر المومنین کو

مشورہ دیا ہے کہ وہ لذات کو چھوڑ دیں اور اپنی عورتوں سے اپنی حاجات پوری نہ کریں پس اگر وہ اس قسم کی باتوں سے الگ ہو سکتیں جیسے تیری ماں تجھ سے الگ ہو

گئی ہے تو تیری یہ بات قبول کے لائق نہیں اور اگر وہ امیر المومنین جیسے آدمی سے الگ ہو جائیں تو وہ تیری نصیحت سننے کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ اس شاعر کا بڑا کر

اس نے تجھے دیکھا کہ غزالہ حور یہ کا نیزہ تیرے دونوں کندھوں کے درمیان تھا وہ کہتا ہے

”وہ میرے مقابلے میں شیر اور جنگوں میں شتر مرغ ہے جو سیٹی بجانے

والے کی سیٹی سے خوفزدہ ہو جاتا ہے تو غزالہ کے مقابلے میں جنگ

میں کیوں نہ آیا بلکہ اس سے قبل تیرا دل پرندے کے دونوں پروں پر تھا“

پھر اس نے اپنی لونڈیوں سے کہا اسے باہر نکال دو وہ جلدی سے ولید کے پاس گیا تو اس نے کہا۔

اے ابو محمد تو کس خیال میں ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ خاموش نہ ہوئی یہاں تک کہ زمین کا پیٹ مجھے اس کی پیٹھ سے زیادہ محبوب نظر آنے لگا، پس ولید مسکرا پڑا اور اپنے پاؤں سے زمین کھودنے لگا پھر کہنے لگا اے ابو محمد یہ عبد العزیز کی بیٹی ہے۔

ام البنین کی سخاوت وغیرہ کے بہت سے واقعات ہیں ہم نے ان کا ذکر دوسری کتاب میں کیا ہے۔

۹۵ھ میں علی بن حسین بن ابی طالب ولید کی حکومت میں فوت ہو گئے اور مدینہ میں اپنے چچا حسن بن

علی کے ساتھ بقیع الغرقد میں دفن ہوئے ان کی عمر ۵ سال تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ۹۴ھ میں ہوئی، حضرت حسینؑ کی کل اولاد علی بن حسین سجاد سے ہوئی ہے جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ کو ذوالشفات اور زین العابدین بھی کہتے ہیں۔

المدائنی نے بیان کیا ہے کہ ولید اپنے باپ عبد الملک بن مروان کی وفات

جا کر رونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین نے صبح کس حال میں کی ہے عبد الملک نے کہا

”لوگ ہم سے غافل ہیں اور ہماری موت کے خواہاں ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔“

اس نے پہلے مصرع میں ولید کی طرف اشارہ کیا اور پھر منہ پھیر کر دوسرے

مصرع میں اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا وہ آنسو بہا رہی تھیں۔

العتبی اور دیگر مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب ولید نے عبد الملک سے

اس کا حال پوچھا وہ جان کنی کی حالت میں تھا تو کہنے لگا

”اور کتنے ہی آدمی انسان کی عیادت کرنے آتے ہیں حالانکہ وہ اس

کی عیادت نہیں کر رہے ہوتے صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کیا وہ مرد ہے۔“
بعض کہتے ہیں کہ عبد الملک نے ولید کو دیکھا کہ وہ اس کے سر ہانے رو رہا ہے تو اس
نے کہا ارے یہ کیا کبوتری کی طرح رو رہے ہو جب میں مرجاؤں تو آستین چڑھانا اور
تہ بند باندھنا اور چیتے کا لباس پہننا اور اپنے کندھے پر تلوار رکھنا اور جو تیرے سامنے
اپنے آپ کو نمایاں کرے اُسے قتل کر دینا اور جو خاموش ہو جائے وہ آغاذ ہی میں مر
جاتا ہے پھر عبد الملک نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے کہا۔

تیرا لمبا زمانہ چھوٹا ہے اور تیرا بہت سا مال تھوڑا ہے اور تم تیرے متعلق دھوکے
میں پڑ جاتے ہیں پھر اس نے اپنے تمام لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا ، میں تمہیں اللہ کا
تقوے اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں یہ ایک بچانے والی ڈھال اور باقی رہنے والا
گلوبند ہے اور تقویٰ بہترین زاد ، قیامت کے لیے بہترین چیز اور مضبوط پناہ گاہ ہے
اور چاہیے کہ تم میں سے بڑے چھوٹوں پر مہربانی کریں اور چھوٹے بڑوں کے حقوق
کا خیال رکھیں اور اچھے کاموں کے پابند رہیں ، بغاوت اور حسد سے بچو کہ ان دونوں
باتوں کی وجہ سے گذشتہ بادشاہ اور بڑی بڑی عزتوں والے ہلاک ہو چکے ہیں ، اے
میرے بیٹو تمہارا بھائی مسلمہ تمہاری وہ کچلی اور ڈھال ہے جس کے ذریعے تم محفوظ
ہوتے ہو اس کی رائے کے مطابق کام کرو اور حجاج کی عزت کرو اس نے تمہارے
لیے حکومت کو آسان کر دیا ہے ، نیک بچے ہو اور جنگوں میں شریف آدمی بنو۔

اور نیکی کے مینار بنو۔ وعلیکم السلام۔

اس سے بنی امیہ کے ایک شیخ نے بچوں کی وصیت سے فراغت کے بعد پوچھا۔
امیر المؤمنین آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں اس نے جواب دیا جیسے اللہ جل شانہ فرماتا
ہے ولقد جنتمونا فرادئی کما خلقنا کم اول مرّة و ترکتم ما خولنا کم
وراء ظہورکم۔ الی قولہ ما کنتم تزعمون۔

اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا
اور جو ہم نے تمہیں دیا تھا اُسے تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو.....
الایۃ۔

یہ آخری بات تھی جو اس سے سنی گئی۔

جب عبد الملک فوت ہو گیا تو ولید نے اُسے کپڑے میں لپیٹا پھر منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا ہم نے نہ اس جیسی مصیبت دیکھی ہے نہ نعمت، خلیفہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے خلافت مل گئی ہے پس مصیبت پر انا للہ وانا الیہ راجعون اور نعمت پر الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے بیعت کر لی اور کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہ کیا۔

۱۶۷ھ میں ولید کے دور حکومت میں عبید اللہ بن عباس کی وفات

بن عباس وفات پا گئے، آپ بڑے سخی اور کریم تھے، کہتے ہیں کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس سے صدقہ دیجیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ عبید اللہ بن عباس نے ایک سائل کو ایک ہزار درہم دیا ہے اور معذرت بھی کی ہے آپ نے کہا مجھے عبد اللہ بن عباس سے کیا نسبت ہے اس نے کہا تو حسب و نسب اور کثرت مال میں ان سے کیا نسبت رکھتا ہے آپ نے کہا دونوں میں نسبت رکھتا ہوں اس نے کہا آدمی کا حسب تو اس کی مروت اور اچھے افعال ہیں پس جب تو یہ کام کرے گا تو تو صاحب حسب ہو گا تو آپ نے اُسے دو ہزار درہم دیے اور معذرت بھی کی۔ سائل نے آپ سے کہا اگر تو عبید اللہ نہیں ہے تو تو اس سے بہتر ہے اور اگر تو وہی ہے تو تو آج کل سے بہتر ہے آپ نے اس کو مزید ایک ہزار درہم دیا اس نے کہا اگر تو عبید اللہ ہے تو تو اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ سخی ہے اور تیرے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ تو اس قبیلے سے ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں میں آپ سے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہی ہیں آپ نے جواب دیا ہاں، اس نے کہا خدا کی قسم میرے دل میں شک تھا اس لیے میں نے غلطی نہیں کی وگرنہ یہ جمیل صورت اور روشن ہئیت کسی نبی یا عزت نبی کی ہی ہو سکتی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے انہیں پانچ لاکھ درہم بھیجے پھر ایک آدمی بھیجا جو ان کا حال معلوم کرے اس نے واپس جا کر حضرت معاویہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ درہم اپنے بھائیوں اور داستان گوؤں میں برابر تقسیم کر دیے ہیں اور اپنے لیے اتنا ہی حصہ رکھا ہے جتنا ان میں سے ایک کا بنتا ہے حضرت معاویہ نے کہا یہ بات

مجھے خوش بھی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عبد مناف اس کا والد ہے اور تکلیف یہ بات دیتی ہے کہ ابو تراب سے اس کی مجھ سے زیادہ قربت ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ قبل ازیں ہم اس کتاب میں عبید اللہ کے دونوں بیٹوں کے قتل کا واقعہ بیان کر آئے ہیں ان کا نام عبدالرحمن اور قثم تھا اور ان دونوں کی والدہ ام حکیم جو یہ بنت فارط بن خالد کنانیہ نے ان کا جو مرنیہ کہا اُسے بھی بیان کر آئے ہیں۔

عبید اللہ بن عباس اور لسرین ارطاة

ایک روز عبید اللہ بن عباس حضرت معاویہؓ کے ہاں گئے تو ان کے پاس ان کے دونوں بچوں کا قاتل لسرین ارطاة عامری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عبید اللہ نے اُسے کہا تو یہی دو بچوں کو

قتل کرنے والا بوڑھا ہے اس نے کہا ہاں، عبید اللہ نے کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اس روز زمین مجھے تمہارے پاس ظاہر کر دیتی، بسرنے کہا اس نے ابھی تجھے ظاہر کر دیا ہے عبید اللہ نے کہا تلوار لاؤ، بسرنے کہا میری تلوار لاؤ جب عبید اللہ تلوار پکڑنے کے لیے جھکے تو تلوار پکڑنے سے قبل ہی حضرت معاویہؓ اور حاضرین نے عبید اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا پھر حضرت معاویہ نے بسرنے کہا اے بوڑھے خدا تجھے ذلیل کرے تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیری عقل جاتی رہی ہے تو بنی ہاشم کے ایک کینہ سے بھرے ہوئے آدمی کا قصد کرتا ہے اور اس کی طرف اپنی تلوار پھینکتا ہے تو بنی ہاشم کے دلوں سے واقف نہیں خدا کی قسم اگر وہ تلوار کو پکڑ لیتا تو تجھ سے پہلے ہم سے آواز کرتا۔ عبید اللہ نے کہا خدا کی قسم میں نے یہی ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب عبید اللہ کے دونوں بیٹوں قثم اور عبدالرحمن کے متعلق علم ہوا کہ بسرنے انہیں قتل کر دیا ہے تو آپ نے بسرنے کے متعلق بددعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کے دین اور عقل کو سلب کر لے پس بڑھاپے کے باعث اس کی عقل خراب ہو گئی اور وہ دیوانہ ہو گیا، اور تلوار کے ساتھ مشہور ہو گیا، ہر وقت تلوار ساتھ رکھتا تو اس کے لیے لکڑی کی ایک تلوار بنائی گئی۔

وہ اپنے سامنے ایک مشکیزہ رکھ لیتا جس میں ہوا بھری ہوتی، اور وہ اُسے پیٹتا رہتا۔ جب وہ مشکیزہ بھٹ جاتا تو اُسے تبدیل کر دیا جاتا اور وہ مشکیزے کو مسلسل اس تلوار سے پیٹتا رہتا یہاں تک کہ وہ دیوانگی کی حالت میں اپنے پاخانے سے کھیلتا ہوا مر گیا، کبھی کبھی اس پاخانے کو کھا بھی جاتا اور پھر دیکھنے والے کو کتا دیکھو!

عبید اللہ کے دونوں بیٹے مجھے کیسے کھانا کھلاتے ہیں، کئی دفعہ پاخانہ کھانے سے روکنے کے لیے اس کی مشکیں پیچھے کی طرف کس دی جاتیں ایک روتہ اس نے اپنے کمرہ میں پاخانہ کر دیا پھر اس پر منہ کے بل گر کر اس میں سے کچھ کھا گیا، لوگ اس کو روکنے کے لیے دوڑے تو اس نے کہا تم مجھے روکتے ہو اور عبد الرحمن اور قثم مجھے کھلاتے ہیں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بس ۸۶ھ میں فوت ہو گیا۔

تاریخ
عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہذلی کی وفات
اسی سال عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہذلی کی وفات
ہوئی یہ ہاجر تھے اور عبد اللہ بن مسعود

بن غافل بن حبیب بن سحر بن مخزوم بن صرح بن کابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدریکہ بن الیاس بن مضر بن نزار کے بھائی تھے نہ مانہ جاہلیت میں ریاست، صرخ بن کابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل میں تھی۔ عبد اللہ بن عتبہ کا بیٹا عبید اللہ بڑے اہل علم لوگوں میں شامل تھا، ابن ابی خنیسہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اصبہانی کو کہتے سنا کہ سفیان نے بیان کیا کہ نہ ہری کہتا تھا میں خیال کیا کرتا تھا کہ میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے لیکن جب میں عبید اللہ بن عبد اللہ کے پاس بیٹھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک سمندر ہے۔

۹۴ھ میں حجاج نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کر دیا، عون بن ابی راشد العبیدی بیان کرتا ہے کہ جب

حجاج کو حضرت سعید بن جبیر کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہو گئی اور آپ کو اس کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے آپ سے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام سعید بن جبیر ہے، تو وہ کہنے لگا نہیں بلکہ آپ کا نام شقی بن کسیر ہے آپ نے فرمایا میرا باپ میرے نام کے متعلق تجھ سے بہتر جانتا تھا اس نے کہا تو اور تیرا باپ دونوں شقی ہیں آپ نے فرمایا تیرے سوا ایک اور مستی ہے جو غیب جانتی ہے اس نے کہا میں تجھے دنیا کے بدلے میں بھڑکتی آگ دوں گا، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ علم ہو کہ یہ بات تیرے ہاتھ میں ہے تو میں تیرے سوا کسی کو معبود نہ بناؤں حجاج نے کہا خلفاء کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان کا وکیل نہیں اس نے کہا تو جس طرح قتل ہونا چاہتا ہے بتا، تاکہ میں تمہیں قتل کروں، آپ نے فرمایا اے بد بخت تو خود اپنے لیے پسند کر کہ تو مجھے کس طرح قتل کرنا چاہتا ہے

خدا کی قسم تو آج جس طرح مجھے قتل کرے گا میں تجھے آخرت میں اسی طرح قتل کروں گا، حجاج نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا جب آپ قتل ہونے کے لیے چلے تو مسکرا دیے حجاج نے آپ کو واپس لانے کا حکم دیا اور آپ سے مسکرانے کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا میں خدا تعالیٰ کے متعلق تیری جسارت اور تیرے بارے میں اس کے حکم پر متعجب ہوں پھر آپ کو اس کے حکم سے قتل کر دیا گیا جب آپ کو منہ کے بل لٹایا گیا تو آپ نے کہا اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وان محمداً عبده ورسوله اور یہ کہ اور یہ کہ حجاج اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا پھر دعا کی اسے اللہ میرے بعد حجاج کو کسی آدمی کے قتل پر مستط نہ کر، آپ کو قتل کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹا گیا اس کے بعد حجاج صرف پندرہ راتیں زندہ رہا اس کے پیٹ میں خارش پڑ گئی اور اسی بیماری سے فوت ہو گیا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت سعید کے قتل کے بعد کہتا تھا کہ لوگو مجھے سعید بن جبیر سے کون بچائے گا جب کبھی میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں وہ میرے گلے کو پکڑ لیتے ہیں۔

ولید اور اس کے بھائی سلیمان کے درمیان ایک غلط فہمی | ولید بیمار ہو گیا تو اسے پتہ چلا

کہ اس کا بھائی سلیمان اس کی موت کی تمنا کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے بادشاہ بننے کی وصیت تھی ولید کو جو شکایت پہنچی تھی اس پر اس نے اسے غتاب کرتے ہوئے خط لکھا اور اس کے آخر میں یہ اشعار لکھے۔

لوگ میری موت کی تمنا کرتے ہیں اور اگر میں مر جاؤں تو اس راستے پر چلنے والا میں اکیلا آدمی نہیں جو شخص میرے مرنے سے قبل ہی میری موت کا خواہاں اور مدعی ہے شاید وہی ہلاک ہو جائے اور جو لوگ مجھ سے پہلے مر چکے ہیں ان کی موت مجھے ضرر نہیں دے گی اور نہ میرے بعد زندہ رہنے والے ہمیشہ رہیں گے پس اس شخص کو جو گذشتہ کے خلاف بات کرتا ہے کہہ دو کہ تو آخرت کے لیے کوئی اور نداد لے، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی موت کسی روز اسے اچانک ہی آئے گی " سلیمان نے اسے جواب دیا کہ امیر المؤمنین نے جو کچھ فرمایا ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں خدا کی قسم کہ اگر میں نے اس بات کی تمنا کی ہے جو دل میں بھی نہیں گزر سکتی تو

میں سب سے پہلے اسے ملوں اور میری موت کی خبر میرے اہل کو دی جائے پس میں کیوں اس مدت کے زوال کی تمنا کروں جس کی تمنا کرنے والا اتنا ہی قیام کر سکتا ہے جتنا کوئی مسافر کسی منزل پر ٹھہرتا ہے اور پھر اس سے سفر اور امیر المومنین کو وہ اطلاع ملی ہے جو نہ میرے الفاظ سے ظاہر ہے اور نہ میری نگاہ سے دیکھی جاسکتی ہے۔ امیر المومنین نے کب چغل خوروں سے یہ بات سنی جس کا کوئی روایت کنندہ نہیں قریب ہے کہ یہ شخص نیتوں میں فساد پیدا کروادے اور تعلقات رشتہ داری کو منقطع کرادے اور خط کے نیچے لکھا ہے

” اور جو شخص اپنے دوست اور اس کی بعض باتوں سے چشم پوشی نہیں کرتا وہ ناراضگی کی حالت ہی میں فوت ہو جاتا ہے اور جو لغزشوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے وہ لغزشوں کو معلوم کر لیتا ہے اور زمانہ اس کا کوئی دوست نہیں رہنے دیتا۔“

دلید نے اس کی طرف لکھا کہ تو نے نہایت اچھے پیرائے میں معذرت کی ہے اور تو اپنے قول میں صادق اور فعل میں کامل ہے اور جو بات تیرے بارے میں کہی گئی ہے تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ کوئی چیز تیرے عذر کے مقابلہ میں تجھ جیسی ہو سکتی ہے۔ ولید اپنے بھائیوں پر بڑا مہربان اور عبد الملک کی دیگر وصیتوں کا بہت خیال رکھنے والا تھا اور ان اشعار کو بکثرت پڑھنے والا تھا جو عبد الملک نے اُسے وصیت کرتے ہوئے لکھے تھے ان میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

مجموں میں حاضری کے وقت اور ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں بھی کینوں کو دُر کرنا تم پر لازم ہے، رشتہ داروں کی اصلاح کرنا تمہاری طویل بقا کا ضامن ہے خواہ میری عمر لمبی ہو یا چھوٹی اور حوادثِ زمانہ جیسی چیز نے تمہارے اندر الفتِ محبت اور رحم کو پیدا کیا ہے یہاں تک کہ تمہارے دل اور چہرے اس شخص کے لیے خواہ وہ سردار ہو یا نہ ہو، نرم ہو گئے ہیں اور جب تیرا کھٹے ہو جائیں تو غصے والا اور ہاتھ میں پکڑنے والا آدمی انہیں توڑنے کا قصد کرتا ہے مگر وہ اس سے ٹوٹتے نہیں اور

اگر وہ بکھر جائیں تو کمزوری اور ٹوٹنا بکھرنے والے کے لیے ہے۔

عبدالملک کی اپنے بچوں کو وصیت | عبدالملک ہمیشہ اپنے بچوں کو نیکی کرنے کی ترغیب دیتا رہتا تھا اور انہیں مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا رہتا تھا، اس نے اپنے بچوں کو کہا، اے عبدالملک کے بچو اپنے حسب و نسب کا خیال رکھو اور اپنے اموال خرچ کر کے اس کی حفاظت کرو، اعشیٰ کے قول کے بعد کوئی شخص تم میں سے اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس کے متعلق ہجو میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔

”تم موسم سرما میں پیٹ بھر کر رات گزارتے ہو اور تمہارے پرہیزی

بھوکے رات بسر کرتے ہیں۔“

اور زہیر کے اس قول کے بعد لوگ اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ ان کی تعریف میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔

”اور ان کے سرمایہ داروں کے پاس جو آتا ہے ان پر اس کا حق ہے اور

ناداروں کے لیے بخشش اور سخاوت ہے۔“

عبداللہ بن اسحق بن سلام، محمد بن حبیب سے بیان کرتا ہے کہ ولید، منبر پر چڑھا تو اس نے ناقوس کی آواز سنی اس نے پوچھا یہ کیا ہے، بتایا گیا کہ جاہے تو اس نے اس کے گرانے کا حکم دے دیا اور گرانے کا کچھ کام خود اپنے ہاتھ سے کیا پس لوگ اُسے گرانے لگ پڑے۔ شاہ روم احرم نے ولید کو لکھا کہ اس گرجا کو ان لوگوں نے بھی قائم رہنے دیا تھا جو تجھ سے پہلے تھے اگر انہوں نے درست کیا تھا تو تم نے غلطی کی ہے اور اگر تو نے درست کیا ہے تو انہوں نے غلطی کی ہے، ولید نے کہا اسے کون جواب دے گا، فرزدوق نے کہا میں جواب دوں گا تو اُس نے اُسے لکھا:-

وداؤدوسلیمان اذ بیکمان فی الحرث اذ نقت فیہ غنم

القوم وکنا حکمہم شاہدین ہ ففہمنا ہا سلیمان

وکللاً حکماً وعلماً ط

اور داؤد اور سلیمان جب اس کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے جس میں لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں تو ہم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے تھے پس ہم نے

اُسے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے سب کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔

حجاج کی موت ۹۵ھ میں حجاج ۴۵ سال کی عمر میں عراق کے شہر واسط میں مر گیا۔ وہ بیس سال تک لوگوں پر حکومت کرتا رہا اس کی فوجوں اور جنگوں میں جو

لوگ مارے گئے ان کے سوا جن لوگوں کو اس نے باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار شمار کی گئی ہے جب وہ مرا تو پچاس ہزار مرد اور تیس ہزار عورتیں اس کی قید میں تھیں جن میں سے سولہ ہزار عورتیں غیر شادی شدہ تھیں وہ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ قید کر دیا کرتا تھا اور قید خانے میں کوئی چھت نہیں ہوتی کہ لوگ گرمی میں سوج کی نمازت سے اور سردی میں ٹھنڈک اور بارش سے بچ سکیں اس کے علاوہ وہ اور بھی کئی قسم کے عذاب دیا کرتا تھا جنہیں ہم نے کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک روز وہ نماز جمعہ پر پڑھنے کے لیے سوار ہوا تو اس نے ایک شور مٹانا پوچھا یہ شور کیسا ہے اُسے بتایا گیا کہ قیدی تکلیف کی وجہ سے شکایت اور شور کر رہے ہیں تو وہ ان کی طرف جا کر کہنے لگا۔ اخصاً ما فیہا ولا تکلمون۔ اس میں ذلیل ہو کر رہو اور بات نہ کرو، کہا جاتا ہے کہ وہ اسی جمعہ کو مر گیا اور اس سواری کے بعد وہ سوار نہیں ہوا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ میں نے کتاب عیون البلاغات میں جو حجاج کے کلام کا انتخاب ہے، حجاج کا یہ قول دیکھا کہ
 ”نعمت، ناشکری سے سلب کر لی جاتی ہے اور شکر سے پروان چڑھتی ہے۔“

جب عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب مفلس ہو گئے تو حجاج اُن سے ملا، ہم نے اپنی کتاب ”اخبار الزمان“ میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور حجاج کو اس بات کا ابن القریۃ کے مبارک باد دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔

عبداللہ بن جعفر کی وفات حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا سخاوت میں ایک خاص مقام تھا اور جب ان کے مال

میں کمی ہو گئی تو انہیں جمعہ کے روز جامع مسجد میں یہ کہتے سنا گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے ایک عادت ڈال دی ہے اور میں نے تیرے بندوں کو عادت ڈال دی ہے اگر تو نے

مجھ سے اس عادت کو چھڑا دیا ہے تو پھر مجھے زندہ نہ رکھ اسی وجہ کو آپ فوت ہو گئے ، یہ عبد الملک بن مردان کے دور کا واقعہ ہے ، مکہ میں آپ کی نماز جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھائی اور بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں پڑھائی اور اسی سال تباہ کن سیلاب آیا جو مکہ تک پہنچ گیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو بھی بہا کر لے گیا تھا۔ اسی سال میں عراق ، شام ، مصر ، جزیرہ اور حجاز میں عام طاعون پھوٹی تھی ، عبد اللہ بن جعفر سرسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے ، آپ کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی جہاں حضرت جعفر ہجرت کر کے گئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی بعض نے کچھ اور بیان کیا ہے۔

المبرد ، المدائنی اور العقیلی وغیرہ مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ عبد اللہ کو بکثرت سخاوت پر غناب کیا گیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے احسانوں کا عادی بنا دیا ہے اور میں نے اُسے اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ میں اس کے بندوں پر احسان کروں گا پس میں ان سے اپنی عادت چھوڑنا پسند نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے اپنی عادت نہ چھوڑ دے۔ عبد اللہ ، معاویہ کے پاس دمشق گئے تو عمرو بن العاص نے ان کے دمشق پہنچنے سے قبل ہی معاویہ کو اطلاع دے دی اور یہ بات اُسے اس کے غلام نے بتائی جو ابن جعفر کے ساتھ حجاز سے چلا تھا وہ دو دن کا سفر طے کر کے آپ سے پہلے دمشق پہنچ گیا عمرو ، معاویہ کے پاس گیا تو اس کے پاس ہاشمیوں اور دیگر قریش کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ، جن میں عبد اللہ بن حارث بن عبد المطلب بھی تھے ، عمرو نے کہا تمہارے پاس وہ آدمی آیا ہے جو خلو توں میں بڑی تمنائیں کرنے والا اور رشتوں میں بہت غنی بننے والا ، سلف پر گرفت کرنے والا اور اسراف کا مطیع ہے۔ تو عبد اللہ بن حارث نے غضب ناک ہو کر عمرو سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے عبد اللہ اس قسم کا نہیں جیسے تو نے بیان کیا ہے بلکہ ان اوصاف کا حامل تو ہے ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والا اور اس کی مصیبت پر شکر گزاری کرنے والا اور فحش گوئی سے نفور ہے نیز بزرگ ، مہذب ، کریم ، سردار اور حلیم ہے ، اگر بات کا آغاز کرے تو دست کٹتا ہے اگر اس سے سوال کیا جائے تو جواب دیتا ہے وہ کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا اور نہ کسی سے ڈرتا ہے ، نہ ہی وہ فحش گو اور سب و شتم کرنے والا ہے ، وہ طاقت و رشیر کی طرح

ہے ، دلیر ، جرمی ، کاٹنے والی تلوار اور شریف الاصل سردار ہے ، وہ اس شخص کی طرح نہیں جس کے بارے میں قریش کے شہریہ لوگ جھگڑا کریں تو ان کے نقاب اس پر غالب آجائیں تو وہ حسب کے لحاظ سے قریش کا سب سے بڑا اور ذلیل منصب والا آدمی بن جائے۔ اور وہ ان میں سے ذلیل کی پناہ مانگے اور کمنز آدمی کے پاس جائے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کس اولیت سے متعزز ہے؟ ہاں تو اپنے ستونوں کے بغیر بلند ہوتا ہے اور اپنی زبان کے بغیر گفتگو کرتا ہے ، وہ حکم میں بڑا نیک اور فضیلت میں بڑا نمایاں ہے ، اس نے ابی سفیان کو چاہیے کہ وہ تجھے قریش کی عزتوں کے درپے ہونے سے روکے اور جیسے بچوں کا منہ اس کے بھٹ میں بند ہوتا ہے اسی طرح وہ تیرا منہ بند کر دے ، تو قریش کی عزت اور حسب کی برابری نہیں کر سکتا تیرے لیے ایک تندخو شیر مقرر کیا گیا ہے جو دوستوں کو اچک لینے والا اور رُوحوں کو پھاڑنے والا ہے ، عمر و نے بھی بولنے کا ارادہ کیا تو معاویہ نے اُسے بات کرنے سے روک دیا ، عبد اللہ بن حارث نے کہا آدمی اپنے آپ پر ہی رحم کرتا ہے خدا کی قسم میری زبان بڑی تیز ہے اور میرا جواب تیار ہے اور میرا قول سچ ہے اور میرے مددگار حاضر ہیں پس معاویہ کھڑا ہو گیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔

عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب کے جو دو کرم اور دیگر فضائل کے بہت سے واقعات ہیں جنہیں ہم نے مفصل طور پر اپنی دو کتابوں "اخیار الزمان" اور "الاوسط" میں بیان کیا ہے حجاج ان کی طرف آل ابی طالب کو ذلیل کرنے کے لیے گیا تھا۔

حجاج کی طرف عبد الملک کا خط جسے وہ سمجھ نہ سکا | حجاج نے عبد الملک کی طرف خط لکھا جس

میں اُسے بتایا کہ قطری کے ساتھ خوارج کا معاملہ مضبوط ہونا چاہا ہے تو عبد الملک نے اُسے لکھا ابا بعد! میں تمہارے ساتھ مل کر تلوار کی تعریف کرتا ہوں اور تجھے وہ وصیت کرتا ہوں جو بکری (بنو بکر کے ایک آدمی) نے زید کو کی تھی ، حجاج عبد الملک کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا۔ اور اس نے کہا کہ جو شخص اس وصیت کی تفسیر کرے گا جو بکری نے زید کو کی تھی اُسے دس ہزار درہم دیا جائے گا تو حجاج سے ایک آدمی اس کے ایک عامل کے ظلم کی فریاد کرتا ہوا آیا اس سے دریافت کیا گیا ، کیا تجھے علم ہے کہ بکری نے زید کو کیا وصیت کی تھی ، اس نے

کہا ہاں ، لوگوں نے اُسے کہا حجاج کے پاس جاؤ تیرے لیے دس ہزار درہم انعام ہے وہ اس کے پاس آیا تو اُسے اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا اس نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ "میں زید سے کہتا ہوں کہ تو وحشی نہ بن وہ تیرے اور میرے قتل کے درے موتوں کو دیکھتے ہیں پس اگر وہ جنگ چھوڑ دیں تو تو بھی چھوڑ دے اور اگر وہ جنگ کریں تو تو بھی بہت سی لکڑیاں ڈال کر جنگ کے ایندھن کو بھڑکا دے۔ اور اگر سخت جنگ اپنی کچی سے کاٹے تو تلوار کی دھار کا نشانہ تیرے اور میرے جیسا شخص ہوگا۔"

حجاج کہنے لگا امیر المومنین بھی سچ کہتے ہیں اور بکری نے بھی سچ کہا ہے۔

مہلب کی طرف حجاج کا خط | حجاج نے مہلب کی طرف لکھا کہ امیر المومنین نے مجھے وہ وصیت کی ہے جو بکری نے زید کو کی تھی اور میں تجھے

وہ وصیت کرتا ہوں جو حارث بن کعب نے اپنے بیٹوں کو کی تھی ، مہلب نے وہ وصیت منگوائی تو اس میں لکھا تھا : "اے میرے بیٹو! کھٹے ہو جاؤ اور الگ الگ ہو ورنہ بکھر جاؤ گے اور نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرو کیونکہ قوت اور عزت کی موت ، ذلت اور عجز کی زندگی سے بہتر ہے۔" تو مہلب نے کہا بکری اور حارث بن کعب نے سچ کہا ہے۔ عبد الملک نے حجاج کو لکھا :-

"مجھے آل ابی طالب کی خونریزی سے بچانا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آل حرب نے اس کی خونریزی کی تو حکومت ان سے وحشت محسوس کرنے لگی ، حجاج ، اس خوف کے پیش نظر ان کی خونریزی سے بچتا تھا کہ کہیں ان کے ہاتھ سے حکومت ہی نہ جاتی رہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث ان کی خونریزی سے اجتناب نہ کرتا تھا۔"

بیلی اخیلیہ اور حجاج | بیلی اخیلیہ ، حجاج کے پاس آئی تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے ، میں ستاروں کی وعدہ خلائی ،

بارشوں کی کمی اور سردی کے آغاز اور سخت مشقت کی وجہ سے آئی ہوں ، حجاج نے کہا مجھے زمین کے متعلق بتاؤ ، وہ کہنے لگی کہ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ خشک ہو گئی ہے اور راتے غبار آلود ہو گئے ہیں اور تنگی سے گزارہ کرنے والا بہت غریب

ہو گیا ہے ، عیال دار مختل ہو گیا ہے اور تنگ دست بیمار ہو گیا ہے ، لوگ قحط زدہ ہو گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں ، حجاج نے پوچھا تو کونسی عورت کے ہاں اتنا پسند کرتی ہے ، کہنے لگی مجھے ان کے نام بتاؤ اس نے کہا میرے ہاں ہند بنت مہلب اور ہند بنت اسماء بن خارجہ ہے تو اس نے ہند بنت خارجہ کو پسند کیا اور اس کے ہاں چلی گئی تو اس نے اُسے اس قدر یورات دیے کہ اُسے لاد دیا۔ کیوں کہ اس نے دوسری عورتوں کو چھوڑ کر اُسے پسند کیا تھا اور اس کے ہاں آئی تھی۔

حجاج کے عم زاد کا اس سے ولایت طلب کرنا اور اس کا اس کی آزمائش کر کے اُسے حاکم بنانا اور اس کا کامیاب ہونا

المنقری نے بیان کیا کہ ہمیں العتبی نے اپنے باپ سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ حجاج کے پاس اس کا ایک دیہاتی عم زاد آیا اس نے دیکھا کہ حجاج لوگوں کو حاکم بنا رہا ہے تو اس نے اُسے کہا اے امیر تو مجھے کسی شہر کا حاکم کیوں نہیں بنا دیتا حجاج نے کہا یہ لوگ تو حساب کتاب جانتے ہیں اور تم نہ حساب کر سکتے ہو ، نہ لکھ سکتے ہو تو وہ دیہاتی برفروختہ ہو کر کہنے لگا خدا کی قسم میں ان سے بہتر حساب و کتاب جانتا ہوں حجاج نے اُسے کہا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تیرا خیال ہے تو تین درہم کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دے ، پس وہ مسلسل یہ کہتا رہا کہ تین درہم کو چار میں تقسیم کر دے۔ تین درہم کو چار میں تقسیم کر دے۔ اگر تین کو ایک ایک درہم دوں تو جو تھے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اے امیر وہ کتنے آدمی ہیں ، اس نے کہا چار ہیں اس نے کہا ہاں اے امیر مجھے حساب کا پتہ چل گیا ہے ، میں جو تھے آدمی کو اپنے پاس سے درہم دے دوں گا اور اس نے اپنے ازار بند کو ہاتھ مار کر ایک درہم نکالا اور کہا تم میں سے جو تھا آدمی کون ہے اللہ ان کا بڑا کرے میں نے آج ان شہریوں کے حساب کی طرح کوئی چیز جھوٹی نہیں دیکھی تو حجاج اور اس کے ساتھی منس منس کر لوٹ پوٹ ہو گئے پھر حجاج نے کہا اہل صہبان تین سال سے خراج کی مخالفت کر رہے ہیں اور جب کبھی ان کے پاس کوئی والی جاتا ہے تو وہ اُسے عاجز کر دیتے ہیں ، پس میں انہیں اس بدو اور اس کے اکھڑین سے مرواؤں گا ، یہ اس لائق ہے کہ ان سے خراج حاصل کرے لہذا اس نے اُسے اصہبان کی حکمرانی لکھ دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اہل اصہبان نے اس کا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے

اور آکر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اس پر چھا گئے اور کہنے لگے یہ بدو کیا کرے گا جب انہوں نے بہت بوسہ بازی کی تو اس نے کہا، میرے ہاتھ پاؤں کو چومنا چھوڑ دو اور اس طریق کو ذرا خیر باد کہو۔ امیر نے مجھے جس بات کے لیے بھیجا ہے اس سے غافل نہ ہو، جب وہ اصہمان میں اپنے قصر امارت میں مقیم ہو گیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کیا وجہ ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو اور اپنے امیر کو ناراض کرتے ہو اور اپنے خراج کو کم کرتے ہو، ان میں سے ایک نے کہا تجھ سے پہلے جو لوگ آئے وہ ظالم تھے، اس نے کہا تمہاری بہتری کس بات میں ہے انہوں نے کہا ہمیں آٹھ ماہ کی مہلت دے دو ہم تجھے خراج جمع کر دیں گے اس نے جواب دیا تم کو دس ماہ کی مہلت ہے لیکن تم دس صنامن لاؤ، جو تمہاری ضمانت دیں، وہ اس کے پاس صنامن لائے جب اس نے ان سے یقین دہانی حاصل کر لی تو انہیں مہلت دے دی جب ادائیگی کا وقت قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ جوں جوں مقررہ وقت قریب آتا جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس زیادہ آتے جاتے نہیں اس نے انہیں پوچھا مگر انہوں نے اس کی بات سے فائدہ نہ اٹھایا جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو اس نے صنامنوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہا مال دو، انہوں نے کہا ہمیں آفت نے آن لیا ہے جس سے عہد ٹوٹ گیا ہے، جب اس نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ جب تک مال نہ جمع کر لے یا ان کی گردن نہ توڑ دے۔ روزہ افطار نہیں کرے گا یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر اس نے ایک کے پاس آکر اس کی گردن توڑ دی اور اس پر لکھا کہ یہ فلان بن فلاں ہے اس کے ذمہ جو کچھ تھا اس نے ادا کر دیا ہے اور اس کے سر کو تھیلی میں رکھ کر اس پر مہر لگا دی پھر اس نے دوسرے آدمی کے پاس جا کر بھی یہی کیا جب لوگوں نے دیکھا کہ سہراڑا کر تھیلیوں میں رکھے جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اے امیر ذرا توقف کیجیے ہم ابھی آپ کو مال لائے دیتے ہیں اس نے ان کی بات مان لی تو انہوں نے بہت جلد خراج حاضر کر دیا، جب حجاج کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کہا ہم آل محمد کا گروہ ہیں۔ یہ اس کے دادے کا نام ہے۔ ہمارے بچے نجیب ہوتے ہیں تم نے اس بدو کے متعلق میری فرست کو کیسا پایا اور وہ حجاج کے مرنے تک اصہمان کا والی رہا۔

ابراہیم تمیمی حجاج کے جیل خانے میں | حجاج نے ابراہیم تمیمی کو واسط میں قید

کر دیا جب وہ حجاج کے جیل خانے میں داخل ہوا تو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہنے لگا اے مصیبت زدو، اللہ کی عافیت میں رہو اور اسے عافیت کو شوا اللہ کی مصیبت میں پڑو، صبر کرو، سب نے اُسے لبیک لبیک کہا وہ حجاج کی قید ہی میں مر گیا، حجاج نے ابراہیم نخعی کو طلب کیا تھا وہ تو پرج گیا اور ابراہیم تمہی اس کے متھے چڑھ گیا، اعمش کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم نخعی سے کہا جب حجاج نے تجھے طلب کیا تھا تو اس وقت کہاں تھا اس نے کہا وہاں پر تھا جہاں یہ شاعر کہتا ہے کہ

”جب بھیرے نے چیخ ماری تو میں اس سے مانوس ہو گیا اور انسان نے

آواز دی تو میں نے اڑ جانے کی تدبیر کی۔“

حجاج کا ابن القریہ سے عورتوں کے متعلق دریافت کرنا

ہم سے احمد بن سعید دمشقی اموی نے زبیر بن بکار سے اور اس نے محمد بن سلام جمعی سے بیان کیا کہ ہم کو فضل بن حباب جمعی نے محمد بن سلام کے طریق سے بتایا کہ حجاج نے ابن القریہ سے دریافت کیا کونسی عورت اچھی ہے اس نے جواب دیا، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کی گود میں بھی بچہ ہو اور بچوں کے ساتھ بھی اس کا ایک بچہ کھیلتا ہو، اس نے پوچھا بڑی عورت کونسی ہے اس نے جواب دیا بہت اذیت دینے والی اور بہت شکایتیں کرنے والی اور تیری مرضی کی مخالفت کرنے والی، اس نے پوچھا تجھے کونسی عورت پسند ہے اس نے جواب دیا دراز گردن، صحت سفید رنگ ناز پروردہ جس کو قد کی کوتاہی اور لمبائی عیب نہ لگائے اس نے پوچھا کونسی عورت تجھے بڑی لگتی ہے اس نے جواب دیا بے وقوف کوتاہ قد، برص والی مشرہ اس نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ کونسی عورت اندرون اور پہلوؤں کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے اس نے جواب دیا جو نرم کھال والی اور تروتازہ ہو جس کے اوپر کا دھڑ چھڑی کی طرح اور نیچے کا دھڑ ٹیلے کی طرح ہو نیز جو سیاہی مائل سرخ رنگ اور چربی دار ہو جس کا پچلا حصہ لمبا نہ ہو اور زیادہ چھوٹی نہ ہو اس کی زلفیں گھنگھریالی ہوں اور سیدھی بینڈھیوں والی ہو جس کے سر میں موٹے ہوں اور اس کے ہاتھ پاؤں نازک ہوں جب تو اس کی انگلیوں کو دیکھے تو انہیں بھنڈی توری سے مشابہت دے جب وہ کھڑی ہو تو تو اُسے سنوں خیال کرے یہ عورت عاشق کو برا لگینہ کرتی ہے اور عاشق

سے معاف کر کے اُسے زندگی بخشتی ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور کے حادثات اور جنگوں کے واقعات بہت شان دار ہیں، اسی طرح حجاج کے واقعات کا حال ہے ہم ان میں سے بہت سے واقعات کو اپنی دونوں کتابوں اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان کر چکے ہیں اور اس کتاب میں ہم نے وہ واقعات بیان کیے ہیں جو ان دونوں کتابوں میں نہیں کیے نیز الاوسط میں وہ واقعات بیان کیے ہیں جو اخبار الزمان میں درج نہیں کیے۔ واللہ اعلم

سلیمان بن عبد الملک کا دورِ حکومت

مختصر حالات جس روز ولید کی وفات ہوئی، اسی روز دمشق میں سلیمان بن عبد الملک کی بیعت ہوئی یہ ۱۵ ارجمادی الآخرۃ ۹۶ھ ہفتے کے روز کا واقعہ ہے سلیمان کی وفات تفسیرین کے معنانات میں مرج دابق میں ۲۰ صفر ۹۹ھ کو جمعہ کے روز ہوئی۔ اس نے دو سال آٹھ ماہ پانچ راتیں حکومت کی اور ۳۹ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق وصیت کی، بعض کہتے ہیں کہ سلیمان کی وفات ۱۰ صفر ۹۹ھ کو جمعہ کے روز ہوئی اور اس کی حکومت دو سال نو ماہ اٹھارہ دن رہی، یہ دو دنوں مختلف تاریخیں ہم نے کتاب سیر و تواریخ میں پائی ہیں، ہم اس کے دورِ حکومت کا مختصر ذکر اس کتاب کے ایک الگ باب میں کریں گے۔

سلیمان کی عمر کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ۴۵ سال کی عمر میں فوت ہوا اور قبل ان میں ہم یہ قول بیان کر آئے ہیں کہ وہ ۳۹ سال کی عمر میں فوت ہوا تھا، میں نے بنی مروان کے اکثر شیوخ کو جو اس کی اولاد میں سے تھے اور دیگر شیوخ کو جو دمشق میں تھے اسی خیال کا حامل پایا ہے کہ اس کی وفات ۳۹ سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ واللہ اعلم۔

اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

خلافت کا پہلا خطبہ جب سلیمان کو حکومت مل گئی تو اس نے منبر پر چڑھ کر

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر کہنے لگا، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیچے گرا دیتا ہے اے لوگو دنیا باطل، دھوکے اور زینت کا گھر ہے وہ اپنے اہل کو الٹی پلٹی رہتی ہے رونے والے کو ہنساتی اور ہنسنے والے کو رلاتی ہے، پُر امن کو خوف زدہ اور خوف زدہ کو امن بخشتی ہے، فقیر کو مال دار اور مال دار کو فقیر کرتی ہے، اور اہل دنیا کو کجرو بنانے والی ہے اے بندگانِ خدا کتاب اللہ کو اپنا امام بناؤ اور اس کو حکم مانو اور اسے اپنا راہنما بناؤ کیونکہ وہ پہلی کتابوں کی ناسخ ہے اور اس کے بعد آنے والی کوئی کتاب اُسے منسوخ نہ کر سکے گی، اے بندگانِ خدا جان لو کہ وہ کتاب تم سے شیطان کی تدبیروں اور امیدوں کو اس طرح دُور کرتی ہے جیسے سورج کی روشنی صبح کو روشن کر دیتی ہے اور رات چلی جاتی ہے پھر اس نے منبر سے اتر کر لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی پہلے عالموں کو پڑھا رکھا اور خلدین عبد اللہ قسری کو مکہ کی گورنری پر برقرار رکھا۔

خالد نے مکہ میں کئی نئی باتیں پیدا کیں جن میں سے ایک یہ ہے **خالد قسری مکہ میں** کہ اس نے کعبہ کے ارد گرد صفیں بنوائیں اس سے قبل نمازی میں

لوگوں کی صفیں اس سے مختلف ہوتی تھیں اُسے ایک شاعر کا یہ قول ملا۔
 "حج کے موقع پر اجتماع کا کیا کہنا اور کعبے کی مسجد کا کیا کہنا اور ان صفوں کا کیا کہنا جنہوں نے حجرِ اسود کو چومنے کے وقت ہم سے مزاحمت کی۔"
 خالد نے کہا، اس کے بعد صفیں کبھی تجھ سے مزاحمت نہ ہوں گی پھر اس نے مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ طواف کرنے کا حکم دیا۔

سلیمان بڑا بسیار خور تھا | سلیمان بسیار خور تھا اور حد سے بڑھ کر کھانا تھا، باریک اور منقش کپڑے پہنتا تھا، اس کے دور

حکومت میں یمن، کوفہ اور اسکندریہ میں **نقش و نگار کا کام بہت** نشان دار ہوتا تھا۔ لوگوں نے بھی منقش جُبتے، چادریں، شلواریں، پگڑیاں اور ٹوپیاں پہننا شروع کر دیں اور اس کے گھر کا کوئی آدمی بھی منقش لباس پہنے بغیر اس کے پاس نہ آ سکتا تھا اور اسی طرح اس کے عمال و اصحاب اور قصرِ امارت میں رہنے والے لوگ

بھی بغیر منقش لباس پہننا اس سے نہ مل سکتے تھے سواری کرتے اور منبر پر بیٹھتے وقت بھی اس کا یہی لباس ہوتا تھا اس کے خادم بھی منقش لباس پہنے بغیر اس کے پاس نہ آ سکتے تھے یہاں تک کہ باورچی بھی سینے اور سر پر طویل منقش کپڑا رکھے بغیر اس کے پاس نہ آ سکتا تھا، اس نے حکم دیا کہ اُسے گراں بار منقش کپڑے میں کفن دیا جائے وہ ہر روز عراق کے سوہنل کھانے سے سیر ہوتا تھا، یسا اوقات باورچی اس کے پاس ایسی سیخیں لاتے جن میں بھٹے ہوئے مرغ ہوتے اور ان پر بھاری منقش کپڑا ہوتا تو وہ کھانے کی حرص کی وجہ سے اپنی آستین میں ہاتھ داخل کر کے گرم گرم مرغی کو بکڑ لیتا اور پھر گرم ہونے کی وجہ سے اُسے چھوڑ دیتا۔

اصمعی بیان کرتا ہے کہ ہارون الرشید کے سامنے سلیمان کی حرص طعام اور اپنی آستین سے مرغی کے چوزوں کی سیخیں کھانے کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تجھے اس کی باتیں کس نے بتائی ہیں؟ میرے سامنے نبی امیہ کے جیبے پیش کیے گئے ہیں نے سلیمان کے جیبوں کو دیکھا تو اس کے ہر جیبے کی آستین میں چکنائی کا نشان تھا، پس مجھے علم نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہے یہاں تک کہ تو نے مجھے یہ بات بتائی پھر کہنے لگا میرے پاس سلیمان کے جیبے لاؤ، جیبے لائے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں چکنائی کے نشانات بڑے واضح تھے اس نے مجھے بھی ایک جیبہ پہنایا، بعض اوقات اصمعی اس جیبے میں باہر نکلتا تو کہتا یہ سلیمان کا جیبہ ہے جو ہارون الرشید نے مجھے پہنایا ہے کہتے ہیں کہ ایک روز سلیمان حمام سے باہر نکلا تو اُسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا وہ ابھی اس سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اس نے حکم دیا اس کے سامنے اس کے ساتھ بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے تو اس کے سامنے بکری کے بیس بیچے پیش کیے گئے تو وہ ان سب کے اندر کی چیزیں (گرد دل، کلیجی وغیرہ) چپاتیوں کے ساتھ کھا گیا پھر اس کے بعد کھانا چنا گیا تو اس نے اپنے ندیموں کے ساتھ اس طرح کھایا گویا اس نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔

کہتے ہیں کہ وہ حلوسے کی ٹوکریاں بنواتا تھا اور اپنے سونے کی جگہ کے ارد گرد رکھ دیتا تھا، جب وہ بیدار ہوتا اپنا ہاتھ لمبا کرتا تو وہ کسی نہ کسی ٹوکری میں جا پڑتا اور وہ اس سے کھاتا۔

سلیمان کا لباس جس نے اُسے خود پسند بنا دیا | المنقری نے العتبی سے اور اس نے اسحاق بن ابراہیم بن صباح

بن مردان سے بیان کیا۔ یہ نبی امیہ کا غلام تھا اس کا تعلق بقاء کے علاقے سے تھا جو دمشق کے مصنافات میں ہے اور وہ بنی امیہ کے واقعات کا حافظ تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ سلیمان نے اپنی حکومت کے دوران جمعہ کے روز ایک لباس پہنا جسے اس نے بڑا مشہور کیا اور اسے خوشبو لگائی اور ایک جامہ دان منگوایا جس میں عامے تھے اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا وہ یکے بعد دیگرے عامے باندھتا رہا یہاں تک کہ اُسے ایک عامہ پسند آگیا اس نے اس کا شملہ لٹکایا اور ہاتھ میں چھڑی لی اور اپنے کندھوں کو دیکھتا ہوا منبر پر چڑھا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا تو وہ خود پسند بن گیا اور کہنے لگا میں نوجوان بادشاہ اور وہ سردار ہوں جس سے خوف کھایا جاتا ہے اور میں بخشش کرنے والا سخی ہوں تو اس کے سامنے اس کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کی شبیہ ظاہر ہوئی وہ اس سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اس نے اُسے کہا تو امیر المومنین کو کیسا پاتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اُسے دل کی آرزو اور آنکھ کی ٹھنڈک پاتی ہوں اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو شاعر نہ کہتا اس نے کہا شاعر نے کیا کہا ہے اس نے کہا وہ کہتا ہے۔

”تو بہترین متاع ہے کاش تو زندہ رہتا مگر انسان کو بقاء حاصل نہیں، تیرے متعلق ہمیں کوئی چیز قلق میں نہیں ڈالتی مگر اللہ جانتا ہے کہ تو فانی ہے، جس شکل میں تو ہمارے سامنے ظاہر ہوا یہ کوئی عیب کی بات نہیں مگر اے سلیمان تو فانی ہے۔“

یہ شعر سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ روٹنا ہوا چلا گیا جب وہ خطبہ اور نماز سے فارغ ہوا تو اس نے لونڈی کو بلایا اور کہا تو نے جو بات امیر المومنین سے کہی ہے اس پر تجھے کس بات نے آمادہ کیا ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے امیر المومنین کو آج دیکھا ہے اور نہ ان کے پاس گئی ہوں تو اس نے اسے بڑی بات خیال کیا اس نے اپنی لونڈیوں کی نگران کو بلایا تو اس نے بھی لونڈی کی بات کی تصدیق کی تو ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور اس کے تھوڑی مدت بعد مر گیا سلیمان کہا کرتا تھا کہ ہم نے اچھا کھایا، نرم پہنا اور خوب صورت عورت پر سوار ہوئے اب میرے لیے سوائے ایک دوست کے اور کوئی لذت باقی نہیں رہی جس سے مل کر میں زندگی کی تکالیف سے بچوں۔

سلیمان اور حجاج کے کاتب کے درمیان گفتگو اور اس کے سامنے حجاج کے کاتب یزید

بن ابی مسلم کو پابجولاں پیش کیا گیا اس کا حجاج پر بڑا اثر تھا، جب اس نے اُسے دیکھا تو اُسے حقیر خیال کیا اور کہنے لگا میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جس نے تجھے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا اور اپنی حکومت میں تجھے حاکم بنایا، یزید نے اُسے کہا امیر المومنین ایسا نہ کہیے آپ نے مجھے اس وقت دیکھا ہے جب میرے پاس حکومت نہیں ہے اور آپ کے پاس حکومت ہے اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں صاحب حکومت تھا تو آپ نے جس چیز کو چھوٹا خیال کیا ہے اُسے جلیل القدر خیال کرتے، سلیمان نے کہا تو نے سچ کہا ہے تیری ماں نہ رہے بیٹھ جا، جب وہ ٹپک کر بیٹھ گیا تو سلیمان نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے حجاج کے متعلق بتا کہ تیرا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ کیا وہ جہنم میں گر رہا ہے یا اس میں گر چکا ہے؟ اس نے جواب دیا امیر المومنین حجاج کے متعلق یہ بات نہ کہیے اس نے آپ کی خیر خواہی کی ہے تمہارے خون کو گرنے سے بچایا ہے، تمہارے دوست کو امن دیا ہے، اور تمہارے دشمن کو ڈرایا ہے وہ قیامت کے روز تمہارے باپ عبد الملک کے دائیں ہاتھ اور تمہارے بھائی ولید کے بائیں ہاتھ ہوگا، پس آپ اسے جہاں رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں تو سلیمان نے چیخ کر کہا یہ مجھے اللہ کی لعنت کی طرف لے گیا ہے پھر اس نے اپنے ہمنشینوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ اس کا بڑا کرے اس نے اپنی اور اپنے دوست کی کیا شان دار ترتیب رکھی ہے اور اس نے اُسے اچھا بدلہ دیا ہے اسے آزاد کر دو۔

سلیمان کو ابو حازم اعرج کی نصیحت ابو حازم اعرج سلیمان کے پاس گیا تو اس نے کہا اے ابو حازم کیا وجہ ہے

کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے اس نے جواب دیا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہے اس لیے تم آبادی کو چھوڑ کر برباد جگہ کی طرف جانا پسند کرتے ہو، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ خدا تعالیٰ کے ہاں پیشی کیسے ہوگی اس نے جواب دیا، اچھے کام کرنے والا تو اس طرح ہوگا جیسے گھر سے غائب رہنے والا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش آتا ہے اور خطا کار بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہوگا جو اپنے آقا کے پاس غمگین ہو کر آتا ہے اس نے پوچھا کونسا عمل افضل ہے اس نے جواب دیا حرام کاموں سے

بچتے ہوئے فراتھن کی ادائیگی، اس نے پوچھا سب سے عادلانہ بات کونسی ہے اس نے جواب دیا اس آدمی کے پاس حق بات کہنا جس سے تو خائف بھی ہو اور اس سے امید بھی رکھتا ہو اس نے پوچھا کونسا آدمی سب سے عقل مند ہے اس نے جواب دیا جو اللہ کی اطاعت میں کام کرے اس نے پوچھا کونسا آدمی سب سے جاہل ہے اس نے جواب دیا جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ دیا اس نے کہا مجھے مختصر نصیحت کرو، اس نے کہا امیر المومنین اپنے رب کی پاکیزگی اور عظمت اس طرح بیان کر کہ وہ تجھے ان چیزوں سے بچتا دیکھے جن سے اس نے تجھے روکا ہے لیکن جہاں اس نے تجھے حکم دیا ہے وہاں سے گم نہ پائے، سلیمان یہ باتیں سن کر بہت دوپا تو اس کا ایک ہم نشین اُسے کہنے لگا تیرا بڑا ہوتو نے امیر المومنین پر بہت زیادتی کی ہے ابو حازم نے اُسے کہا خاموش رہ، اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں اور اُسے نہ چھپائیں پھر وہ وہاں سے باہر چلا آیا جب اپنے گھر آیا تو سلیمان نے اس کی طرف مال بھیجا جسے اس نے واپس کر دیا اور الحجی سے کہنے لگا امیر المومنین سے کہہ دینا خدا کی قسم ابو حازم تمہارے لیے مال کو پسند نہیں کرتا اپنے لیے مال کو کیسے پسند کر سکتا ہے۔

سلیمان کے دربار میں ایک بدوی کی حق گوئی | اسحاق بن ابراہیم موصلی بیان کرتا ہے کہ مجھے اجمعی نے

مہالہ کے ایک شیخ سے بتایا وہ کہتا تھا کہ ایک بدو سلیمان سے پاس جا کر کہنے لگا یا امیر المومنین میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے سمجھ لیں سلیمان نے اُسے کہا ہم تو اُسے بھی برداشت کرتے ہیں جس کی خیر خواہی کی ہم امید نہیں رکھتے اور نہ اس کے فریب سے امن میں ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ تو صادق امین اور قابل اعتماد آدمی ہوگا، کہو جو کہنا چاہو، اس نے کہا امیر المومنین جب میں آپ کے غضب سے بچ گیا تو میں اس بارے میں اپنی زبان کھولتا ہوں جس کے متعلق زبانیں آپ کو نصیحت کرنے اور اللہ کے حق اور آپ کے حق امانت کو ادا کرنے سے گنگ ہو گئی ہیں۔ امیر المومنین آپ کو ان لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے اپنے لیے بُری باتوں کو پسند کیا ہے اور انہوں نے اپنے دین کے بدلے میں دنیا اور آپ کی رضا مندی کے لیے اپنے باپ کی ناراضگی خرید لی

ہے ، وہ اللہ کے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرے اللہ سے نہیں ڈرتے ، وہ دنیا سے اپنے کو بچاتے اور آخرت سے جنگ کرتے ہیں پس وہ جس بات پر آپ کو اللہ سے بے خوف کرتے ہیں آپ ان سے بے خوف نہ ہوں کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اُمت کا ضیاع اور نقصان ہو اور آپ ان کے جرائم کے بارے میں جواب دہ ہیں اور وہ آپ کے جرائم کے بارے میں جواب دہ نہیں ، لہذا آپ ان کی دنیا کی بہتری کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں ، سب سے زیادہ گھانا پانے والا وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کسی کی دنیا کے لیے فروخت کر دے۔ سلیمان نے اُس سے کہا اے بدو تو نے ہم پر اپنی زبان کھول دی ہے جو تیری تلوار سے بھی زیادہ کاٹ کرنے والی ہے اس نے کہا بے شک امیر المؤمنین ایسی ہی بات ہے لیکن وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے ، سلیمان نے کہا اے بدو تیرے باپ کی قسم ہمیشہ ہی عرب ہماری حکومت میں عزت کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہی ہماری حکومت کا زمانہ ہر بھلائی کا لانے والا رہا ہے ، اور اگر ہمارے سوا تمہارے کوئی اور حکمران ہوں تو جن باتوں کی تم مذمت کرتے ہو ان کی تعریف کرو ، بدو نے کہا جب حکومت عباسی علم رسول اور ان کے باپ کے بیٹے کے بیٹوں کے ہاتھ آئی تو خدا تعالیٰ نے انہیں اسی وقت حکومت دی جب وہ اس کے اہل ثابت ہوئے تو سلیمان نے تغافل سے کام لیا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں پھر بدو باہر چلا گیا اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا ، یہ واقعہ مجھے بغداد میں عباسی کی اولاد کے ایک شیخ نے بتایا جس کا نام ابن وہبہ منصور ہی تھا اس نے یہ بات اپنے باپ سے اور اس نے علی بن جعفر نوفلی سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کی یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔

سلیمان کی مجلس میں حضرت معاویہ کا ذکر ہوا تو
سلیمان کا معاویہ کی تعریف کرنا

اس نے اس کی روح اور اس کے گزشتہ آباء کی ارواح کے لیے دعا کی اور کہا خدا کی قسم اس کا مذاق ، سنجیدگی اور سنجیدگی علم تھا خدا کی قسم معاویہ جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا گیا ، خدا کی قسم اس کا غضب حلم ، اور اس کا حلم حکم تھا بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ عبد الملک کا کلام ہے۔

خالد قسری سے عراق سے میرے | سلیمان نے خالد بن عبد اللہ قسری کو جب کہ

وہ عراق کا حاکم تھا، قریش کے ایک آدمی کے متعلق لکھا جس نے اس سے پناہ طلب کی تھی اور وہ خالد سے بھاگ گیا تھا کہ وہ اُسے تعریفیں نہ کرے وہ اس کے پاس خط لایا تو اس نے اس کی مُرتوڑنے سے قبل اُسے سو کوڑے مارے پھر اُسے پڑھا اور کہنے لگا کہ یہ خدا تعالیٰ کا انتقام ہے جو وہ تجھ سے میرے خط نہ پڑھنے کی وجہ سے لینا چاہتا ہے اگر میں اُسے پڑھتا تو اس پر عمل کرتا، پس وہ قریشی سلیمان کی طرف واپس جانے کے لیے نکلا تو فرزدق اور دروازے پر موجود لوگوں نے اس سے پوچھا کہ خالد نے کیا کیا ہے تو اس نے انہیں بتایا تب فرزدق نے یہ شعر کہے

”خالد سے پوچھو خدا تعالیٰ اُسے برکت نہ دے قس قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد کب قریش کا حاکم رہا ہے جو تو اُن سے بدلے لے رہا ہے اور قریش کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کا فریب آدمی بھی لاغرا درگزر ہو گیا ہے ہم نے اس شخص کی ہدایت کی امید کی جس کی کوششوں کو اللہ کامیاب نہ کرے اور نہ ہی اس کی ماں کو اس کا بچہ ملے۔“

جب سفیان کو اس امر کی اطلاع ملی تو اس نے اُسے سو کوڑے مارنے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو فرزدق نے اس بارے میں یہ اشعار کہے

”میری زندگی کی قسم خالد کی پشت پر کوڑوں کی اتنی بوچھاڑ ہوئی ہے کہ اتنی بوچھاڑ بادشہس کی بھی نہیں ہوتی، کیا تو اس کو نافرمانی کی سزا دیتا ہے جو نافرمان نہیں اور اُسے قسری تو امیر المؤمنین کی نافرمانی کرتا ہے اگر یزید بن مہلب نے میری نرم ستھیلی کو اس طرح چھلانہ چڑھایا ہوتا جیسے گھونسے میں جانور کے بچے کو چڑھایا جاتا ہے، تو میری زندگی کی قسم تو ابن شیبہ ایسی روش اختیار کرتا کہ وہ تجھے ستارگان شب کو چلتے ہوئے دکھا دیتا، پس ذلت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ، تجھے صرف متحرک نیزوں سے جزا دی گئی ہے۔“

ایک دن سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا
سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز

جب کہ وہ بادشاہی کے نشے میں تھا آپ ہمیں

کیسا پاتے ہیں؟

عمر بن عبد العزیز بولے دھوکے کی مسرت۔ موت سے منتصف زندگی، ہلاکت کے منڈا شنی ملک، مٹ جانے والے حسن اور عذاب الیم کی خوشخبری دینے والی نعمتوں میں، تو سلیمان رونے لگا۔

سلیمان، ولید کی ضد تھا | سلیمان، ولید کے برعکس تھا اور فصاحت و بلاغت میں اس کی ضد تھا، ولید نے عبد اللہ بن یزید بن معاویہ

کی زمین میں فساد کیا تو اس کے بھائی خالد بن یزید نے عبد الملک کے پاس شکایت کی تو عبد الملک نے اُسے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسد دھا۔ الایہ کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُسے برباد کر دیتے ہیں، خالد نے اُسے جواب دیا و اذا اروننا ان نرھلک قریۃ امرنا متر فیہا ففسعوا فیہا۔ الایہ کہ جب ہم کسی بستی کی تباہی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ کیا تم عبد اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ کل میرے پاس آیا تو اس کی زبان میں لغزش اور اس کے کلام میں اعراب کی غلطیاں تھیں اس نے کہا کیا تو ولید کے متعلق بات کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر ولید اعراب کی غلطیاں کرتا تھا تو سلیمان اس کا بھائی ہے، خالد نے کہا اگر عبد اللہ اعراب کی غلطیاں کرتا تھا تو خالد اس کا بھائی ہے۔ ولید نے کہا کیا تو بھی باتیں کرتا ہے جو کسی چھوٹی بڑی مہم میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا خالد نے کہا کیا تو نے امیر المؤمنین کی بات نہیں سنی کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں چھوٹی بڑی مہمات کی اہلیت رکھتا ہوں اور اگر تو حاملہ اور چھوٹی بکریاں اور طائف کہتا تو بات بھی تھی، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے ہم نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا اور وہ چہرہ والا بن گیا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان نے اُسے واپس بلا لیا۔

خالد قسری پر سلیمان کی ناراضگی | سلیمان، خالد قسری پر ناراض ہو گیا تو اس نے

اسے کہا امیر المؤمنین طاقت، غصے کو دور کر دیتی ہے اور آپ کی ذات سزا سے بہت بالا ہے اگر آپ معاف کر دیں تو آپ اس کے اہل ہیں اور اگر سزا دیں تو میں اس کا مستحق ہوں تو اس نے اُسے معاف کر دیا۔

سلیمان کی مجلس میں ایک آدمی نے کلام کی مذمت کی تو سلیمان نے کہا جو شخص بات کرے اور خاموشی کی تحسین کرے وہ اچھا کرتا ہے اور جو خاموش رہے اور بولنے کی تحسین کرے وہ بھی اچھا کرتا ہے سلیمان اپنے بیٹے ایوب کی قبر پر کھڑا ہوا وہ اسی سے وہ کنیت لیتا تھا اور کہنے لگا اے اللہ میں اس کے متعلق تجھ سے اُمید رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں پس میری اُمید کو پورا کر اور میرے خوف سے مجھے امن دے۔

ایک کاتب کا سلیمان کے متعلق خبر دینا | مسعودی بیان کرتا ہے کہ جب سلیمان کو دفن کر چکے تو اس کے ایک کاتب کو

یہ شعر کہتے سنا گیا

”خواہ آدمی کے پاس کس قدر پرے دار اور شکر ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، خواہ کوئی کس قدر جگمگا اور بہادر ہو تھوڑے عرصے میں دربان اس کے دروازے کو چھوڑ دے گا اور وہ لوگوں سے پردہ کے بعد دور جا کر ایک گھر کا قیدی بن جائے گا جس کے اطراف بھی محفوظ نہیں جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے دفن ہونے تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے پرے دار اور فوجی دستے دوثروں کے پاس چلے جاتے ہیں ہر عداوت رکھنے والا اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اس کے عزیزوں اقارب اُسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پس تو کوشش کر کے نیکی کر اور ہر آدمی سے اس کے کاموں کا مواخذہ ہوگا۔“

مسعودی بیان کرتا ہے کہ سلیمان کے دور حکومت کے واقعات بہت شان دار ہیں جنہیں ہم نے مفصل طور پر اخبار الزماں اور الاوسط میں بیان کیا ہے اور اس کتاب میں ہم نے اختصار کی خاطر صرف ان کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ وباللہ التوفیق۔

عمر بن عبد العزیز اور مروان بن الحکم کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | حضرت عمر بن عبد العزیز ۲۰ صفر ۹۹ھ کو جمعہ کے روز خلیفہ بنے اسی دن سلیمان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی وفات دیر سماع میں

جمعہ کے روز ۲۵ رجب ۱۱۰ھ کو ہوئی یہ جگہ حمص کے مصنافات میں ہے جو بلا دنسین کے ساتھ ہے، آپ دو سال پانچ ماہ پانچ دن خلیفہ رہے اور ۲۹ سال کی عمر میں فوت ہو گئے اس وقت تک ان کی قبر کی بڑی عظمت اور شہرت ہے اور شہر و دیہات سے بہت سے لوگ ان کی قبر پر آتے جاتے ہیں اور بنو امیہ کی دیگر قبور کی طرح کوئی آدمی ان کی قبر کو اکھیڑنے کے درپے نہیں ہوا ان کی والدہ حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے عاصم کی دختر تھیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۴۰ سال کی عمر میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ۴۱ سال کی عمر میں ہوئی اسی طرح ان کی مدتِ خلافت میں بھی اختلاف کیا گیا ہے ہم نے اس کا خلاصہ بنو امیہ کی مدتِ حکومت میں بیان کیا ہے جو آئندہ اس کتاب میں بیان ہوگا۔

آپ کے حالات و واقعات اور زہد کی

ایک جھک

عمرؓ کو خلافت کیسے ملی؟ | حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کو پہلے سے خلافت حاصل نہ تھی ان کا خلیفہ بننے کا سبب یہ بنا

کہ جب مرج دابق میں سلیمان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے رجاء بن حیوہ محمد بن شہاب زہری اور مکحول وغیرہ دیگر علماء کو جو اس کی فوج میں غازی اور غالب تھے بلایا اور اپنی وصیت لکھی اور ان کو اس پر گواہ بنایا اور کہا جب میں مرجاؤں تو لوگوں کو جمع کرنا اور پھر یہ وصیت انہیں پڑھ کر سنانا، اس کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اطلاع دی گئی، تو لوگ جمع ہو گئے، بنو مروان بھی آگئے اور خلافت کی ہوس کرنے لگے، زہری نے کھڑے ہو کر کہا کیا تم اس شخص کی خلافت سے راضی ہو جس کا نام امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، لوگوں نے جواب دیا ہاں، اس نے وصیت پڑھی تو اس میں عمر بن عبدالعزیز اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک کا نام تھا، مکحول نے کھڑے ہو کر کہا عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں

آپ اس وقت لوگوں کے آخر میں تھے جب آپ کا نام پکارا گیا تو آپ نے دو یا تین بار انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، پھر کچھ لوگوں نے آکر آپ کو ہاتھوں اور کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور منبر کے پاس لے گئے آپ منبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھ کر بیٹھ گئے منبر کی پانچ سیڑھیاں تھیں، سب سے پہلے یزید بن عبد الملک نے آپ کی بیعت کی پھر دو دن کے بعد سعید اور ہشام نے بھی بیعت کر لی۔

عمرؓ کے اخلاق اور دین | حضرت عمر بن عبد العزیز حد درجہ زاہد اور منکسر المزاج آدمی تھے آپ نے بنی امیہ کے پہلے عمال کو برطرف

کر دیا اور ان سے اچھے عمال کو مقرر کیا وہ بھی آپ کے طریق کے مطابق چلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر برسر منبر لعنت کرنا ترک کر دیا اور لعنت کی جگہ یہ آیت پڑھنے کے لیے مقرر کی رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَعُوا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت مقرر کی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰى۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دونوں آیتیں مقرر کیں آج تک لوگ ان آیات کو خطبہ میں پڑھتے ہیں۔

السدی اور عمرؓ کے درمیان گفتگو | جب عمرؓ خلیفہ بنے تو السدی رجو آپ کے خاص دوستوں میں سے تھا، آپ کے پاس آیا۔ عمرؓ نے اسے کہا میرے خلیفہ بننے سے تجھے خوشی ہوئی ہے یا تجھے یہ بات بُری لگی ہے اس نے جواب دیا لوگوں کے لیے مجھے خوشی ہوئی ہے اور آپ کے لیے بُری لگی ہے آپ نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ ڈرتے

(ترجمہ) لے اے ہمارے رب ہمیں بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں کجی نہ کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے (حشر آیت ۱۰)

(ترجمہ) بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا اور بے حیائی نامعقول باتوں اور سرکشی سے منع کرتا ہے (نحل آیت ۹۰)

ہیں تو اپنی حالت کو ٹھیک کر لیجیے مجھے آپ کے متعلق یہ خوف ہے کہ آپ نہیں ڈریں گے آپ نے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو اس نے کہا ہمارے باپ آدم کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔

طاؤس کی عمر کو نصیحت | طاؤس نے عمرؓ کی طرف لکھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے سب کام ہی اچھے ہوں۔ بس اچھے لوگوں کو عامل مقرر کیجیے، آپ نے فرمایا یہی نصیحت کافی ہے۔

عمرؓ کا پہلا خطبہ | آپ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں سے یہ خطاب کیا کہ :-

”اے لوگو! ہمارے کچھ اصل ہیں جو گذر چکے ہیں اور ان کی فروعات باقی ہیں اصل کے بعد فرع کی بقا کچھ نہیں ہوتی اس دنیا میں لوگ موتوں کے نشانے اور مصائب کے ہدف ہیں ہر گھونٹ کے ساتھ چھو اور ہر نوالے کے ساتھ پھندا ہے، وہ ایک نعمت کے زوال کے بعد دوسری نعمت کو حاصل کرتے ہیں اور تم میں سے ہر آدمی اپنی عمر کا ایک دن، دوسرے کی اجل کے انہدام سے حاصل کرتا ہے۔“

عمرؓ کا عامل مدینہ کو اولاد علیؓ سے حسن سلوک کرنے کا حکم | آپ نے اپنے عامل مدینہ کو لکھا کہ حضرت علیؓ کی

اولاد میں دس ہزار دینار تقسیم کرو اس نے آپ کو لکھا کہ حضرت علیؓ کی اولاد قریش کے کئی قبائل سے ہوئی ہے آپ کی کونسی اولاد میں دینار تقسیم کروں آپ نے اُسے لکھا، اگر میں تمہیں ایک بکری کے ذبح کرنے کے متعلق لکھتا تو تو مجھے لکھتا کہ سیاہ بکری ذبح کروں یا سفید، جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تو حضرت علیؓ کی فاطمی اولاد میں دس ہزار دینار تقسیم کرو دینا کیونکہ بہت دفعہ ان کے حقوق پامال ہوئے ہیں۔

دوسرا خطبہ | آپ نے ایک مقام پر حمد و ثنائے الہی کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا :-

”اے لوگو! قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے اور آگاہ رہو میں کوئی قاضی نہیں بلکہ نفاذ کرنے والا ہوں

اور میں مبتدع نہیں بلکہ متبع ہوں اور ظالم امام سے بھاگنے والا نافرمان نہیں بلکہ ظالم امام نافرمان ہے، اچھی طرح سن لو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔“

عمر کے متعلق شاہ روم کا اندازہ | حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسلمانوں کے مفاد کے ایک معاملہ میں شاہ روم کی طرف

ایک وفد بھیجا اور اسے مسلمانوں کے ایک حق کی طرف دعوت دی، جب وہ وفد اس کے پاس پہنچا تو ایک مترجم اسے بات کی حقیقت سے آگاہ کرتا جاتا تھا وہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا، تاج اس کے سر پر تھا فوجی سالار اس کے دائیں بائیں اور لوگ حسب مراتب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس نے مسلمانوں کی غرض کو پورا کر دیا اور انہیں اچھی طرح ملا اور جواب دیا یہ اس روز واپس آگئے جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اس کا ایچی آیا یہ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھا ہے اور سر سے تاج بھی اتارا ہوا ہے اور اس کی وہ صفات بھی بدلی ہوئی ہیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا گویا وہ کسی مصیبت میں ہے اس نے کہا کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا:-

مجھے میرے میگزین کے انچارج کا جو عرب علاقے کے پاس رہنا ہے، ابھی خط ملا ہے کہ عرب کا بادشاہ جو بڑا صالح آدمی تھا فوت ہو گیا ہے وہ یہ خبر سن کر بے اختیار رو پڑے اس نے کہا تم اپنے لیے روتے ہو، اپنے دین کے لیے روتے ہو یا بادشاہ کو روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اپنے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے بادشاہ کے لیے روتے ہیں، اس نے کہا بادشاہ کے لیے نہ روؤ بلکہ اپنے لیے روؤ کیونکہ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس سے بہتر جگہ پر چلا گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے چھوڑنے سے ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کا خوف اکٹھا نہیں کرے گا۔ مجھے اس کے فضل و صدق اور نیکی کے متعلق اطلاع ملی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہ شخص مردوں کو زندہ کر دیتا، مجھے اس کے ظاہر و باطن کی خبریں ملتی

رہی ہیں اس کا صرف خدا کے ساتھ ہی واسطہ تھا اس کا باطن خلوت کے وقت اطاعت الہی میں بہت بڑھا ہوا تھا اور میں اس راہب پر متعجب نہیں ہوا جس نے دنیا کو چھوڑا اور اپنے گرجے کی چوٹی پر اپنے رب کی عبادت کی بلکہ میں اس بادشاہ پر حیران ہوں جس کے قدموں تلے دنیا تھی مگر اس نے اس سے بے رغبتی اختیار کی یہاں تک کہ وہ اس راہب کی مانند ہو گیا۔ اچھے لوگ، بڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑا عرصہ ہی قیام کرتے ہیں۔

اعرج کی وصیت | حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو حازم اعرج کی طرف لکھا کہ مجھے مختصر سی نصیحت کرو تو اس نے آپ کو لکھا امیر المؤمنین آپ دنیا میں

باقی نہیں رہیں گے اور آخرت سے کہیں نہیں جائیں گے۔ والسلام

اپنے عامل کی طرف عمر کا شاہی فرمان | آپ نے اپنے ایک عامل کو شاہی فرمان بھیجا، تیرے شکایتی بہت ہو گئے ہیں

اور شکر گزار کم، عدل کر یا معزول ہو جا۔ والسلام

خلافت کے بعد آپ کا نہ ہد | المدائنی کا بیان ہے کہ وہ خلافت سے قبل عمر بن عبدالعزیز کے لیے ایک ہزار دینار کا حلقہ خریدا

کرتا تھا جب آپ اُسے پہنتے تو اُسے کھردرا خیال کرتے اور اچھا نہ کہتے جب خلیفہ بن گئے تو ان کے لیے دس درہم کی قمیص خریدی جاتی تھی۔

آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے تو انہیں کہا ذرا ٹھہر جاؤ میں اپنے پیاروں کی قبور پر جا کر انہیں سلام کر آؤں جب آپ قبرستان کے وسط میں گئے تو کھڑے ہو کر سلام و قیام کیا اور اپنے اصحاب کے پاس واپس آ گئے۔ پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے انہیں کیا کہا اور انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے دریافت کیا امیر المؤمنین آپ نے کیا کہا اور انہوں نے آپ کو کیا کہا آپ نے جواب دیا میں نے اپنے پیاروں کی قبور پر جا کر انہیں سلام کہا اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا ابھی میں اسی حالت میں تھا کہ آواز آئی اے عمر! کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے ان کے چہروں کے محاسن کو بگاڑا اور ان کے چمڑوں سے کفنوں کو بھاڑا اور میں نے ان کے ہاتھوں کو قطع کیا اور ان کی ہتھیلیوں کو ان کی کلاہوں سے انگ کیا پھر آپ

روپڑے قریب تھا کہ آپ کی جان جاتی رہے خدا کی قسم پھر چند یوم ہی گزرے کہ آپ ان کے ساتھ جا ملے۔

مطرف کی عمر کو نصیحت | المدائنی بیان کرتا ہے کہ مطرف نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف لکھا:-

اما بعد! دنیا ایک عقوبت خانہ ہے اسے وہ شخص اکٹھا کرتا ہے جسے عقل نہیں ہوتی اور اس سے وہ شخص دھوکہ کھاتا ہے جسے علم نہیں ہوتا۔ اس میں زخم کے علاج کرنے والے کی طرح رہ اور دعا کی تلخی پر صبر کر، اس لیے کہ تو بیماری کے انجام سے ڈرتا ہے۔

عمر اور ان کا ایک غلام | بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے

عنفوان شباب میں آپ کے ایک سیاہ قام غلام نے آپ سے زیادتی کی آپ نے اُسے منہ کے بل گرا کر اُسے مارنا چاہا تو غلام نے آپ سے کہا اے میرے آقا مجھے کیوں مارتے ہو آپ نے فرمایا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے اس نے کہا کیا آپ نے کبھی بوٹی گناہ کیا ہے کہ آپ کا آقا آپ پر ناراض ہوا ہو آپ نے کہا ہاں، اس نے کہا کیا اس نے آپ کو جلد جلد مترادی، آپ نے کہا نہیں، غلام نے کہا جب اس نے آپ کو مترادینے میں جلدی نہیں کی تو آپ مجھے کیوں جلد مترادیتے ہیں آپ نے اُسے کہا کھڑا ہو جا، تو خدا کے لیے آزاد ہے۔ اور یہی اس کی توبہ کا سبب بنا۔

حجازی وفد کے غلام اور عمر کے درمیان گفتگو | حضرت عمر بن عبد العزیز اکثر اپنی دعائیں یہ کہا کرتے تھے کہ اے حلیم خدا جو

نافرمانی کرے اس کو جلد متراد دے۔

مؤرخین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو آپ کے پاس عربوں کے وفد آنے لگے حجاز کا ایک وفد بھی آپ کے پاس آیا اس وفد نے گفتگو کے لیے اپنے میں سے ایک غلام کو منتخب کیا وہ سب سے چھوٹی عمر کا تھا آپ نے فرمایا اے غلام کھڑ جا۔ اپنے سے بڑوں کو بات کرنے دے وہ بات کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ غلام نے جواب دیا امیر المؤمنین کھڑیے آدمی

اپنی دو جھوٹی جھوٹی چیزوں یعنی دل اور زبان کی وجہ سے ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو بولنے والی زبان اور دل بیدار عطا کیا ہے تو اس نے اُسے بہت اچھا نہ یور دیا ہے امیر المومنین اگر عمر رسیدگی سے ہی تقدم حاصل ہوتا تو اس اُمت میں آپ سے بھی عمر سیدہ لوگ موجود ہیں، آپ نے فرمایا اے غلام بات کرتے جاؤ، اس نے جواب دیا امیر المومنین بہت اچھا، ہم مبارکباد دینے والے وفد ہیں، مصیبت میں ڈالنے والے وفد نہیں ہم اپنے ملک سے آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ نے آپ کے ذریعہ ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر یہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کے پاس خوف اور رغبت کی وجہ سے نہیں آئے رغبت تو آپ کی طرف سے ہمارے ملک میں آئی ہے اور خوف سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے عدل کی وجہ سے محفوظ کر دیا ہے، آپ نے فرمایا اے غلام ہمیں مختصری نصیحت کرو اس نے کہا امیر المومنین بہت اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کے حکم طویل اُمیدوں اور لوگوں کی تعریف نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے پس خدا کا حکم طویل اُمیدیں اور لوگوں کی تعریف آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے کہ آپ کے قدم پھسل جائیں۔ آپ نے غلام کی عمر میں غور کیا تو وہ بارہ چودہ سال کا تھا۔ آپ فرمانے لگے۔

”علم سیکھو، انسان عالم پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی عالم جاہل کی طرح ہوتا ہے اور قوم کے جس بڑے آدمی کے پاس علم نہ ہو وہ مخلوق کے اجتماع میں چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔“

قاضی مدینہ کے ساتھ ایک لونڈی کا قصہ | ایک عراقی آدمی لونڈی کی تلاش میں مدینہ آیا جس کے متعلق اُسے بتایا گیا تھا کہ وہ قاریہ اور بڑی شیریں گفتار ہے اُس نے اس کے متعلق دریافت کیا تو اُسے معلوم ہوا کہ وہ قاضی مدینہ کے پاس ہے، اس نے قاضی کے پاس جا کر کہا کہ اُسے میرے سامنے پیش کرو۔ قاضی نے کہا اے بندہ خدا تو نے اس لونڈی کی تلاش میں بڑی خشقت اٹھائی ہے تجھے اس میں کیا دلچسپی ہے جب اس نے اس کی سخت حیرانگی کو دیکھا تو کہنے لگا وہ بہت اچھا گاتی ہے۔ قاضی نے کہا مجھے تو اس بات کا علم نہیں اس نے اس کے پیش کرنے پر اصرار کیا تو وہ اپنے آقا قاضی کی موجودگی میں آئی نوجوان نے اُسے کہا ناگاؤ تو اس نے گایا۔

”ہم خالد کے پاس آئے یہاں تک کہ خالد کے پاس اقامت اختیار کر لی
پس امید کرنے والا نوجوان بھی کیا اچھا ہے اور امید گاہ بھی کیا اچھی ہے۔“
قاضی لونڈی سے اور اس کے گانے سے خوش ہو گیا اور اُسے اتنی خوشی ہوئی
کہ اس نے اُسے اپنی ران پر بٹھالیا اور کہنے لگا میرا باپ تجھ پر قربان ہو کچھ اور گاؤ تو اس
نے گایا۔

”میں ہر شب داستان گو کی طرف جاتی ہوں اور پاؤں اٹھانے کی تعداد کے
مطابق خدا سے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔“

قاضی پر خوشی کا غلبہ ہو گیا اور اسے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے اپنا جوتا
لے کر اپنے کان میں لٹکالیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے کان کو جس میں جوتا لٹکایا
ہوا تھا پکڑ کر کہنے لگا مجھے بیت الحرام کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں قربانی کا اونٹ ہوں
جو تے نے اس کا کان زخمی کر دیا تھا جب اس نے گانا ختم کیا تو قاضی نے نوجوان سے
آکر کہا دوست! واپس چلے جاؤ ہم تو اس کے گانے کے علم سے پہلے ہی اس میں دلچسپی
لیتے تھے اور اب ہم اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں تو وہ نوجوان واپس چلا گیا، حضرت
عمر بن عبدالعزیز کو اس امر کی اطلاع ملی تو فرمایا اللہ اس کا ستیاناس کرے خوشی نے اُسے
غلام بنا لیا ہے اور اُسے محکمہ قضا سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا جب وہ برطرف
ہو گیا تو کہنے لگا اگر اس لونڈی کو سننے کے بعد عمر یہ نہ کہے کہ مجھ پر سوار ہو جاؤ میں ایک
سواری ہوں تو اس کی بیویوں کو طلاق ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر پہنچی تو
آپ نے اُسے اور لونڈی کو بلا بھیجا جب وہ دونوں آپ کے پاس آئے تو آپ نے
قاضی سے کہا جو بات تو نے کہی ہے اُسے دہراؤ اس نے کہا بہت اچھا اس نے
اپنی بات دہرائی، آپ نے لونڈی سے کہا گاؤ تو اس نے گایا۔

”گویا جحون اور صفا کے درمیان بہار اکوئی انیس ہی نہ تھا اور نہ ہی کہیں
کسی داستان گو نے داستان سنائی ہے، بلاشبہ ہم وہاں کے رہنے
والے تھے لیکن ہمیں گردشِ روزگار اور فنا ہو جانے والے نصیب نے
تباہ کر دیا ہے۔“

جب وہ اس شعر سے فارغ ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر خوشی کے آثار

نمایاں تھے اور آپ نے اُسے کہا کہ ان اشعار کو تین بار پڑھو اور آنسوؤں نے آپ کی ریش کو تر کر دیا پھر آپ نے قاضی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تو اپنی قسم کے قریب قریب پہنچ گیا ہے، واپس جا کر اچھی طرح اپنا کام کرو یعنی قضا پر اسی طرح کام کرتے رہو

ایک قریشی کی لونڈی اور ایک اموی نوجوان درمیان محبت

ہمیں طوسی اور اموی دمشق وغیرہ نے زیر

بن بکار سے اور اس نے عبداللہ بن احمد المدائنی سے بتایا وہ کہتا ہے کہ مدینہ میں حضرت عثمان کی اولاد میں سے ایک نوجوان تھا جو بڑا دانا اور خوب رو تھا وہ ایک قریشی کی لونڈی کے پاس آیا جایا کرتا تھا وہ لونڈی بھی اس سے محبت کرتی تھی مگر اُسے اس بات کا علم نہ تھا وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا جس کے متعلق لونڈی کو کچھ پتہ نہ تھا اور ان دونوں لوگوں کا آپس میں محبت کرنا کسی شک یا بُرائی کے لیے نہیں ہوتا تھا اس نے ایک روز اُسے آزمانا چاہا تو اس نے ایک آدمی سے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، وہ دونوں چل پڑے تو انہیں انصار اور قریش مدینہ کے سردار ملے اور ان میں کوئی ایسا نوجوان نہ تھا جو اس سے محبت کرتا ہو اور نہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی جب لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں تو نوجوان نے لونڈی سے کہا کیا تو ہمیں یہ شعر سنانا پسند کرے گی کہ

”میں تم سے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ محبت کرتی ہوں کیا تمہیں اس بات کا کچھ علم ہے جو مجھ پر بیت رہی ہے کیا تم اس جیسی دگنی محبت کی جزا دو گے کیونکہ شریف آدمی، محبت کے بدلے میں محبت دیا کرتا ہے۔“

اس نے کہا ہاں، اور اس سے بہتر اشعار سناؤں گی اور کہنے لگی ہے
 ”اور جس نے ہم سے دگنی محبت کی ہے اُسے یاد رہے کہ محبت کی ابتدا کرنیوالے کی فضیلت کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور جو محبت ہمیں تمہارے ساتھ ہے اگر وہ نمایاں ہو جائے تو دُورے زمین اور شام و حجاز کے علاقوں کو بھروسے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ نوجوان اس کے حُسنِ جواب کے ساتھ ساتھ اس کی لیاقت

اور جو دت حفظ سے حیران رہ گیا تو اس نے اُسے مزید زحمت دی اور کہا :-
 ”جب پر وہ ہٹ جائے تو نوجوان کی معذوری ہے خواہ وہ یوسف معصوم
 ہی ہو۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اس لوندی کو دس باغات
 کے عوض خرید کر اُس کے مناسب حال نوجوان کو بخش دیا وہ اس کے پاس ایک سال
 تک رہی پھر فوت ہو گئی تو اس نے اس کے مرثیہ میں یہ اشعار بھی کہے :-
 ”میں نے غلہ کے لیے جنت الخلد کی تمنا کی اور مجھے اس میں بے خوف داخل
 کر دیا گیا اور جب میں نے نعمت کی اُمید کی تو مجھے وہاں سے نکال دیا
 گیا اور موت ایک بہت قابل تعریف حالت کا نام ہے۔“
 اشعب طامع مدنی نے کہا یہ عاشقوں کا سردار ہے اس کی قبر پر ستر اُونٹ قربانی

کرو۔

ابوحازم اعرج مدنی نے کہا کیا اللہ کا محب اس مقام کو نہیں پہنچتا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شوب خارجی ظاہر ہوا
 عمر اور خوارج اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیعہ وغیرہ کی کچری
 سے نکلے تھے بہت قوت پکڑ لی، عباد بن عباد مہلبی، محمد بن زبیر خنظلی سے بیان کرتا ہے
 کہ آپ نے میرے ساتھ عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو بھیجا انہوں نے جزیرہ میں
 خروج کیا تھا اور عمر نے ہمیں ان کی طرف ایک خط بھی دیا تھا جو ہم نے انہیں پہنچا
 دیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے دو آدمی بھیجے جن میں سے ایک بنو شیبان سے
 تھا اور دوسرے میں حبشیت پائی جاتی تھی وہ بڑا تیز زبان اور معاصرہ کرنے والا تھا
 ہم انہیں خناصرہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس لائے اور ان کے کمرے میں
 چلے گئے جس میں آپ اپنے بیٹے عبدالملک اور اپنے کاتب مزاحم کے ساتھ
 موجود تھے ہم نے ان دونوں کی پوزیشن کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان کی تلاشی لو کہیں
 ان کے پاس تلوار نہ ہو ہم نے ان کی تلاشی لی جب وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں نے
 السلام علیک کہا اور بیٹھ گئے حضرت عمر نے انہیں کہا مجھے بتاؤ تمہیں کس امر نے
 اس بات پر آمادہ کیا ہے اور تم ہم پر کیوں ناراض ہو تو اس شخص نے گفتگو شروع

کی جس میں حبشیت پائی جاتی تھی اس نے کہا خدا کی قسم ہم آپ کی سیرت پر نارا اٹھ نہیں
 آپ عدل و احسان کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک
 بات ہے اگر تو نے ہماری وہ بات مان لی تو ہم تمہارے اور تم ہمارے، اور اگر تو نے
 ہماری وہ بات نہ مانی تو نہ ہم تمہارے اور نہ تم ہمارے، عمرؓ نے کہا وہ کیا ہے؟
 اس نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے اہلبیت کے اعمال کی مخالفت کرتے
 ہیں اور ان کا نام مظالم رکھتے ہیں اور ان کے مخالف رستے پر چلتے ہیں اگر آپ کا یہ
 خیال ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر ہیں تو ان پر لعنت کیجیے اور ان سے
 اظہار بیزاری کیجیے، یہ بات ہمارے درمیان اتفاق و افتراق پیدا کرے گی، حضرت
 عمرؓ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یہ رویہ دنیا کے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ
 آخرت کے لیے کیا ہے لیکن تم غلط پٹری پر لگ گئے ہو میں تم سے کچھ باتیں پوچھنے
 والا ہوں۔ سچا تمہیں ان کے متعلق مجھے سچ بیچ بتانا ہوگا، کیا تم ابو بکرؓ اور عمرؓ کو
 جانتے ہو کیا وہ تمہارے اسلاف میں سے اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جن سے
 تم محبت رکھتے ہو اور ان کی نجات کی گواہی دیتے ہو ان دونوں نے کہا بیشک
 ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 وفات پا گئے اور عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے ان سے جنگ کی اور خونریزی
 کی اور اموال حاصل کیے اور بچوں کو قیدی بنایا ان دونوں نے جواب دیا، ہاں
 آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ جب ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ بنے
 تو آپ نے ان قیدیوں کو ان کے اصحاب کی طرف ٹوٹا دیا ان دونوں نے جواب دیا، ہاں
 آپ نے فرمایا کیا حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے بیزاری کا اظہار کیا؟ ان دونوں
 نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تم اہل نہروان کو جانتے ہو؟ کیا وہ تمہارے اسلاف
 میں سے اور ان لوگوں میں سے نہیں جن سے تم محبت رکھتے ہو اور ان کی نجات کی گواہی
 دیتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا بے شک ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کیا تمہیں
 علم ہے کہ جب اہل کوفہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے نہ خونریزی
 کی اور نہ امان والے کو خوف زدہ کیا اور نہ مال لیا ان دونوں نے جواب دیا ہاں،
 آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ جب اہل بصرہ، شیبانی اور عبد اللہ بن وہب راہی

اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف گئے تو انہوں نے لوگوں کو بغیر وجہ دریافت کیے قتل کیا ان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد اللہ بن خیاب بن اللات سے ہوئی تو انہوں نے آپ کو اور آپ کی لونڈی کو قتل کر دیا پھر انہوں نے عرب کے ایک قبیلہ کو لوٹا اور ان کو کھڑا کر کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے پیٹری کی کھولتی ہوئی دیگوں میں بچوں کو ڈال دیا۔ ان دونوں نے کہا ایسا ہوا تھا آپ نے فرمایا کیا بصریوں نے کوفیوں سے اور کوفیوں نے بصریوں سے بیزاری کا اظہار کیا؟ ان دونوں نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تم ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے اظہار بیزاری کرتے ہو؟ دونوں کہنے لگے نہیں آپ نے فرمایا کیا تم دین کو ایک کہتے ہو یا دو، دونوں کہنے لگے ایک سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو مجھ سے رہ گئی ہو، ان دونوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر تم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کیسے محبت رکھتے ہو اور وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور تم اہل کوفہ اور اہل بصرہ سے محبت رکھتے ہو اور وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور تم اہل کوفہ اور اہل بصرہ سے محبت رکھتے ہو اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں حالانکہ وہ بڑی بڑی باتوں یعنی فروج، اموال اور خون میں اختلاف رکھتے ہیں اور مجھے تمہارے خیال کے مطابق اپنے اہلبیت پر لعنت اور ان سے اظہار بیزاری کے بغیر کوئی چارہ ہی نظر نہیں آتا، کیا تمہارے خیال میں گنہگاروں پر لعنت کرنا مفروض و فرض ہے جس کے بغیر چارہ نہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو اسے بات کرنے والے مجھے بتا کہ تو کب سے فرعون پر لعنت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اس پر کبھی لعنت کی ہو، آپ نے فرمایا تیرا بڑا ہوتو فرعون پر کیوں لعنت نہیں کرتا وہ تو ساری مخلوق سے خلیفہ آدمی ہے اور تیرے خیال میں مجھے اپنے اہلبیت پر لعنت کرنے اور ان سے اظہار بیزاری کیے بغیر چارہ ہی نہیں، تمہارا بڑا ہوتو تم جاہل لوگ ہو تم نے ایک بات کا ارادہ کیا اور اس میں ٹھوکر کھا گئے تم لوگوں کو وہ بات کہتے ہو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول نہیں کیا تمہارے ہاں اسے امان حاصل ہوتی ہے جو آپ سے خائف ہوتا تھا اور تمہارے ہاں وہ

شخص خوف زدہ ہوتا ہے جسے آپ کے ہاں امان حاصل ہوتی تھی ، دونوں کہنے لگے ہم تو ایسے نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم عنقریب اس کا اقرار کرو گے کیا تمہیں علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور وہ بت پرست تھے آپ نے انہیں بتوں سے علیحدگی اختیار کرنے اور خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت دینے کی دعوت دی اور جس نے یہ شہادت دے دی اس نے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا اور اس کی حرمت واجب ہو گئی اور آپ مسلمانوں کے لیے نمونہ تھے دونوں کہنے لگے ہاں ، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی تلقین نہیں کرتے کہ جو شخص بتوں کو چھوڑ دے اور توحید و رسالت کی گواہی دے اس کے خون اور مال کو حلال سمجھو اور تم یہ تلقین بھی کرتے ہو کہ یہود و نصاریٰ اور دیگر ادیان کے آدمیوں میں سے جو توحید و رسالت کا اقرار نہ کرے گا اُسے تمہارے ہاں امن حاصل ہوگا اور تم اس کے خون کو بھی حرام قرار دیتے ہو ، حبشی کہنے لگا میں نے آج تک آپ کی دلیل سے واضح دلیل نہیں سنی ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں اور جو آپ سے بیزار ہی کا اظہار کرتے ہیں میں ان سے برأت کا اعلان کرتا ہوں ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شبیبانی سے کہا تیری کیا رائے ہے ؟ اس نے کہا آپ نے نہایت اچھی اور واضح بات کی ہے لیکن جب تک میں آپ کی بات کو مسلمانوں پر پیش کر کے ان کی حجت کا جائزہ نہ لے لوں ، مسلمانوں کے متعلق کوئی فتوے نہیں دیتا آپ نے فرمایا تو بہتر جانتا ہے اس کے بعد آپ واپس چلے گئے اور حبشی کو مٹھرا لیا اور اُسے عطیہ دینے کا حکم دیا وہ پندرہ دن تک مٹھرا رہا پھر مر گیا۔ شبیبانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا اور حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہی قتل ہو گیا۔

جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ بھی حضرت عمرؓ نے ان کے ساتھ خط و کتابت اور مناظرے کیے ہیں۔ اسی طرح بنی امیہ میں سے آپ کے اسلاف وغیرہ نے بھی جو شہروں کے والی تھے ان سے مناظرے کیے ہیں ، ہم نے ان کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر جن کا نام خوارج نے امیر المومنین لکھا اور ازادہ ، ابانہ ، حمیرہ ، شجرات اور خلیبہ اور صفیریہ اور دیگر انواع حروریہ نے جنہیں امامت سے خطاب کیا ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے اور ان میں سے جو اس وقت تک جن جن علاقوں مثلاً بلاد شہرزور

سجستان اصطر، بلاد فارس، بلاد کرمان، آذربائیجان، بلاد مکران، جبال، عمان، ہرات، بلاد خراسان، جزیرہ اور نشیبی تاہرت وغیرہ میں سکونت پذیر ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی اخبار الزمان اور الارسط میں کیا ہے اور حکیم کی تردید بھی کی ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنی کتاب "الانتصار" میں بھی ان کا ذکر کیا ہے جو صرف خوارج کے فرقوں کے حالات پر مشتمل ہے اور "الاستبصار" میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

خوارج کے بعض شعراء ہم نے خوارج کے گزشتہ ائمہ کی ایک ایسی جماعت کا بھی ذکر کیا ہے جو شعراء تھے ان میں سے معتقل بن عتبان

ثیبانی جو بڑے خادجیوں میں سے تھا کہتا ہے

امیر المؤمنین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ خیر خواہ کو اگر آپ سے خوف زدہ نہ کیا جائے تو وہ قریب ہی ہے اگر تو بکر بن وائل سے راضی نہ ہو تو عراق میں تجھے ایک مشکل دن کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر کوئی تم میں سے کچھ تھا تو وہ مروان اور اس کا بیٹا اور عمرو اور ہاشم اور حبیب تھے، اور ہم میں سے سوید، بطین، تعنب اور امیر المؤمنین ثیب تھے، اور منت والی غزالہ ہم میں سے قابل تعریف تھی اس کا مسلمانوں کے تیروں میں حصہ تھا، اور جب تک ہماری سرزمین کے منبروں پر ثقیف کا خطیب کھڑا ہوتا ہے اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح ہم نے ثیب کی ماں کے واقعات اور عدالت کے متعلق اس کے اجتہاد کا ذکر کیا ہے اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے

"ثیب کی ماں نے ثیب کو جنا ہے، بھیڑیے کی مادہ، بھیڑیا ہی جنتی ہے۔"

خوارج کے بعض علماء ان کے علماء جیسے بیان وغیرہ کے واقعات جس نے خوارج کے مذہب کے متعلق کتب تصنیف کی تھیں، عبداللہ بن

یزید اباضی ابولک حصرمی اور تعنب وغیرہ ان کے علماء میں سے تھے، بیان بن رباب خوارج کے چوٹی کے علماء میں سے تھا اس کا بھائی علی بن رباب رافضہ کے چوٹی کے علماء میں سے تھا یہ اپنے اصحاب کا سردار تھا اور وہ اپنے اصحاب کا سردار تھا یہ

دونوں ہر سال تین دن کے لیے اکٹھے ہوتے اور مناظرہ کرتے اور الگ ہو جاتے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ سلام کرتا نہ مخاطب کرتا، اسی طرح جعفر بن المبشر، معتز بن عبد اللہ، دانشوروں اور زاہدوں میں سے تھا اور اس کا بھائی حنش بن المبشر محدثین علماء میں سے تھا، حشوہ کے رُسا اس کے بھائی جعفر کے مخالف تھے اور ان دونوں کے درمیان بڑے لمبے مناظرے اور بغض و افتراق کی باتیں ہوئیں اور دونوں میں سے ہر ایک نے قسم کھائی کہ وہ مرتے دم تک دُسرے سے کلام نہیں کرے گا، جعفر بن مبشر اور جعفر بن حرب، بغدادی معتزلہ کے علماء میں سے تھے، عبد اللہ بن یزید اباضی کو فہم میں تھا اس کے اصحاب اس کے پاس آ کر اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ خزاز، ہشام بن الحكم کا شریک تھا اور ہشام تجسیم اور امامت کے قول میں قطعیت کے مذہب پر تھا اس کے پاس اس کے رافضی اصحاب آتے تھے اور اس سے باتیں سیکھتے تھے، یہ دونوں ایک ہی دوکان میں رہتے تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ تشریح اور رافضی میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر ان دونوں کے درمیان نہ سب و شتم ہوتا تھا اور نہ ہی علم، عقل، شرع اور احکام نظر و سیر سے خروج ہوتا تھا۔

کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن یزید اباضی نے ایک روز ہشام بن الحكم سے کہا کہ تجھے اس موت اور دائمی شرکت کا تو علم ہی ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے میں چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کا مجھ سے نکاح کر دے ہشام نے کہا وہ مومنہ ہے تو عبد اللہ خاموش ہو گیا اور موت تک اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہشام کے ہارون الرشید اور ابن برمک کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں ان کا ذکر ہم نے اپنی پہلی کتابوں میں کیا ہے۔

اس کے متعلق عمرو بن عبید کی رائے | عمرو بن عبید سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا عمرو بن عبد العزیز نے ناحق خلافت حاصل کی ہے وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا پھر جب اس نے خلافت حاصل کر لی تو عدل کر کے اس کا مستحق ہو گیا۔

فرزدوق، عمر کا مرثیہ کہتا ہے | حضرت عمرو بن عبد العزیز کی وفات پر فرزدوق نے ان اشعار میں مرثیہ کہا ہے

جب موت کی خبر دینے والوں نے مجھے عمر کی موت کی خبر دی تو میں نے
 کہا تم نے حق اور دین کے ذمہ دار کی وفات کی خبر دی ہے، دیر سمعان
 میں قبر میں ڈالنے والوں نے سیدھے ترازو کو دفن کر دیا ہے، اور
 عمر کو بچھوٹے والے چٹھے کھجوروں اور گھوڑے کے دوڑانے نے غافل
 نہیں کیا۔"

اس کتاب میں بیان کیے گئے واقعات، خطبات اور زہد کے علاوہ اور بھی
 بہت سے شان دار واقعات ہیں۔ جنہیں ہم نے گزشتہ کتب میں بیان کیا ہے۔

یزید بن عبد الملک بن مروان کے دور حکومت کا بیان

مختصر حالات | جس روز حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی وفات ہوئی اسی روز یزید بن عبد الملک بادشاہ بنا۔ یہ واقعہ ۲۵ رجب ۷۲۰ھ جمعہ کے روز کا ہے اس کی کنیت ابو خالد تھی اس کی ماں عائکہ بنت یزید بن معاویہ بن ابوسفیان تھی، یزید بن عبد الملک کی وفات جمعہ ۲۵ شعبان ۷۲۰ھ کو ارض بلقاء میں اربد مقام پر ہوئی جو مضافاً دمشق میں ہے اس کی عمر ۳۷ سال تھی اس کی حکومت چار سال ایک ماہ دو دن رہی۔

اس کے حالات و واقعات اور دور حکومت کی ایک جھلک

سلامۃ القس سے اس کی محبت | یزید بن عبد الملک کو سہیل بن عبد الرحمن بن عوف زہری کی لونڈی سلامۃ القس سے شدید محبت تھی، اس نے اس کو یزید سے تین ہزار دینار میں خرید لیا اور اس سے بہت خوش ہوا وہ اس کی حکومت پر چھا گئی اس کے بارے میں عبد اللہ بن قیس الرقیات کہتا ہے "اس نے دنیا اور سلامۃ القس کو فتنہ میں ڈال دیا ہے اور اس نے قس کے لیے عقل اور رائے باقی نہیں چھوڑی۔"

اس کی دادی بشراء ام سعید عثمانیہ نے حبابہ نامی ایک لونڈی سے جیلہ کیا یزید

بن عبد الملک قدیم سے اُسے چاہتا تھا پس وہ اس پر غالب آگئی اور اس نے سلامہ، ام سعید کو بخش دی، جب لوگوں پر ظلم و جور عام ہو گیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے اُسے حجاب میں رہنے لہو و لعب اور شراب نوشی میں مشغول رہنے پر ملامت کی اور اُسے کہا، عمر کل مرا ہے اور اس کے عدل و انصاف سے تو واقف ہے، تجھے بھی لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا اظہار کرنا چاہیے اور اس لہو و لعب کو ترک کر دینا چاہیے تیرے عمال بھی تیری سیرت اور افعال کی اقتداء کرنے لگے ہیں تو وہ اپنی روش سے باز آ گیا، اور ندامت ظاہر کی اور مدت مدید تک اسی روش پر قائم رہا۔ حبابہ کو یہ صورت حال گراں گزری تو اس نے احوص شاعر اور معبد گلوکار کی طرف پیغام بھیجا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس پر غور کرو تو احوص نے اپنے اشعار میں کہا ہے

اے حبابہ آج اُسے کند ذہن ہونے پر ملامت نہ کر اُس نے غمگین آدمی کو غالب کر کے کہا ہے کہ وہ دلیری اختیار کرے، اور جب تو عاشق نہیں ہوئی اور نہ تجھے عشق کا کچھ پتہ ہے تو تو ایک ٹھوس خشک چٹان کا پتھر بن جا اور عیش وہی ہے جس سے تولذت یاب ہے خواہ اس کے بارے میں عداوت رکھنے والا شخص ملامت کرے اور بے وقوف قرار دے۔

ان اشعار کو معبد نے گایا اور حبابہ کو بے خود کر دیا جب بیزید اس کے پاس آیا تو اس نے کہا امیر المومنین مجھ سے ایک گیت سن لیجیے پھر جو چاہے کیجیے اور اس نے بیزید کو گیت سنایا جب وہ گیت سنانے سے فارغ ہوئی تو وہ اس کے شعر کو دہرانے لگا ہے

کہ عیش وہی ہے جس سے تولذت یاب ہے خواہ اس کے بارے میں

عداوت رکھنے والا شخص ملامت کرے اور بے وقوف قرار دے۔

اس کے بعد وہ پھر عیش و عشرت اور لہو و لعب میں مشغول ہو گیا اور پہلی روش کو چھوڑ دیا۔

بیزید، حبابہ اور قند الزمانی کے اشعار | اسحاق بن ابراہیم موصلی نے بیان کیا کہ مجھے ابن سلام نے بتایا کہ بیزید نے

ایک شاعر کے اشعار کا ذکر کیا کہ

”ہم نے بنی ذھل سے درگزر کیا اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں شاید
زمانہ انہیں اسی روش پر واپس لے آئے جس پر یہ پہلے قائم تھے، پس جب
جنگ کھل کر سامنے آگئی تو ہم شیر کی چال چلے جب وہ صبح کے وقت
غضب ناک ہوتا ہے، اور ایسی شمشیر زنی کی جس سے مخالف کی توہین
اور ذلت ہوئی اور وہ قیدی بنا اور ایسی نیزہ زنی کی جیسے بھرے ہوئے
کمرہ مشکیزے کے منہ پر کی جاتی ہے، اور جب تجھے حسن سلوک فائدہ
دے تو جنگ کرنے میں ہی نجات ہوتی ہے۔“

یہ بہت قدیم اشعار ہیں کہتے ہیں کہ فند الزمانی جنگ لبوس میں شامل تھا یزید
نے حبابہ سے کہا میری زندگی کی قسم مجھے یہ گاکر سناؤ، اس نے کہا امیر المؤمنین ان
اشعار کو صرف احوال کی ہی گاتا ہے اس نے کہا بہت اچھا، تو نے ابن عائشہ کو سنا ہے
کہ وہ ان اشعار میں ایک واحد فائدہ کرتا تھا اس نے جواب دیا اس نے ان اشعار کو فلاں
بن ابی لہب سے حاصل کیا ہے اور وہ خوب ادائیگی کرتا تھا پس یزید نے والی مکہ کو
پیغام بھیجا کہ جب تجھے میرا یہ خط پہنچے تو فلاں بن ابی لہب کو راستہ کے اخراجات
کے لیے ایک ہزار دے دینا اور اُسے ڈاک کے جس گھوڑے کو وہ پسند کرے سوار
کرا دینا تو اس نے ایسے ہی کیا جب وہ یزید کے پاس آیا تو یزید نے کہا فند الزمانی
کے اشعار سناؤ تو اس نے نہایت اچھے رنگ میں وہ شعر سنائے یزید نے کہا
دوبارہ سناؤ تو اس نے دوبارہ بھی بہت اچھے انداز میں اشعار سنائے اور یزید کو
خوش کر دیا، اس نے اُسے کہا تو نے گانا کس سے سیکھا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین
میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے سیکھا ہے
تو یزید نے کہا اگر تو صرف اسی آواز کا وارث ہوتا تو پھر بھی ابولہب نے تمہیں بہت
سامان (اچھی آواز) دیا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین ابولہب تو حالت کفر میں مرا
تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا اس نے کہا جو کچھ تو کہنے
رہا ہے میں اُسے جانتا ہوں لیکن جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت اچھا گانا تھا
تو میرے دل میں اس کے متعلق نرمی پیدا ہو گئی، یزید نے اس کے ساتھ صلہ رحمی

کی اور لباس دیا اور عزت کے ساتھ اُسے اس کے شہر واپس کر دیا۔

اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے میں یزید کی طرف لکھا کہ جب قدرت تجھے عزت دے تو تو اپنے پر خدا کی قدرت کو یاد رکھنا بعض کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے بعض عمال کو لکھی تھی اور زبیر بن بکار کے مطابق اس میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ جو یہ ہے کہ جب تجھے لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت حاصل ہو تو تو جو کچھ ان سے کر رہا ہے اس کے متعلق اپنے آپ پر خدا کی قدرت کو بھی یاد رکھنا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ جو کچھ تو ان سے کر رہا ہے وہ ان سے ختم ہو جانے والا ہے اور تجھ پر باقی رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیتا ہے اور جب تو کسی پر ظلم کرے تو اس پر ظلم نہ کر جس کا بدلہ تجھ سے خدا کے سوا کوئی نہ لے سکے۔

حبابہ کی موت پر یزید کا جزع فزع کرنا | حبابہ بیمار ہو گئی تو یزید کئی دن تک باہر نہ آیا پھر وہ مر گئی تو کئی دن تک

اس کی جزع فزع کے باعث اُسے دفن نہ کیا گیا یہاں تک کہ گل مٹ گئی اُسے بتایا گیا کہ لوگ تیری جزع فزع کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور خلافت کا مقام اس سے بہت بلند ہے تو اس نے اُسے دفن کر دیا پھر اس کی قبر پر پٹھرا لہا اور کہنے لگا کہ ”اگر میرا دل تجھے بھول جائے یا عشق کو چھوڑ دے تو مایوسی سے دل بھول جاتا ہے نہ کہ صبر سے۔“

وہ اس کے بعد تھوڑے دن بعد زندہ رہا پھر مر گیا۔

ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اس نے اسحاق موصی سے اور اس نے ابو الحویرث ثقفی سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ جب حبابہ مر گئی تو یزید بن عبد الملک کو اس کا شدید غم ہوا، اس نے اپنے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی لونڈی کو رکھ لیا جو اس کو باتیں سناتی اور اس کی خدمت کرتی تھی ایک دن لونڈی نے یہ شعر پڑھا کہ

”عاشق کے لیے یہی غم کافی ہے کہ وہ محبوبہ کے گھروں کو خالی اور بے آبا و پائے۔“

یہ شعر سن کر یزید رو پڑا اور قریب تھا کہ مرجائے ، یہ لونڈی ہمیشہ اس کے پاس
حبابہ کا تذکرہ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

ایک روز یزید اپنی مجلس میں بیٹھا تھا کہ حبابہ اور سلامہ نے اُسے گانا سنایا ، وہ
بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اُڑ جاؤں حبابہ نے اُسے کہا اے میرے
آقا آپ قوم اور ہم لونڈیوں کو کس کے پاس چھوڑ جائیں گے۔

ابو حمزہ خارجی جب بنو مروان کا ذکر کرتا تو ان کی بڑائیاں بیان کرتا تھا ، یزید بن
عبد الملک کا ذکر ہوا تو کہنے لگا اس نے حبابہ کو اپنے دائیں اور سلامہ کو اپنے بائیں پہلو
میں بٹھایا پھر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اُڑ جاؤں پس وہ خدا کی لعنت اور اس کے درذناک
عذاب کی طرف اُڑ گیا۔

یزید بن مہلب کی یزید بن عبد الملک کے خلاف بغاوت

مہلب بن ابی صفرہ سلمہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قید خانے سے بھاگ کر بصرہ
چلا گیا اس وقت عدی بن ارطاة بصرہ کا والی تھا یزید بن مہلب نے اُسے پکڑ کر قید کر دیا
پھر یزید بن عبد الملک کی مخالفت کرتا ہوا کوفہ چلا گیا اور اس نے ازداور اس کے حلیفوں
کو اکٹھا کیا اور اپنے اہل اور خواص کی طرف چلا گیا۔

اس کی قوت و شوکت بڑھ گئی ، یزید نے اپنے بھائی مسلم بن عبد الملک اور
اپنے بھتیجے عباس بن عبد الملک کو ایک عظیم فوج کے ساتھ اس کی طرف بھیجا جب وہ دونوں
اس کے قریب ہوئے تو یزید بن مہلب نے اپنی فوج میں بڑا اضطراب دیکھا اس نے
پوچھا یہ اضطراب کیا ہے ؟ اُسے بتایا گیا کہ مسلمہ اور عباس آئے ہیں اس نے کہا خدا
کی قسم مسلمہ تو ایک زرد ڈنڈی ہے اور عباس ، نسلوس بن نسطوس ہے اور شامی ، کینے لوگ
ہیں ، انہوں نے کسان ، کاشت کار ، زرگریز اور کینے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں تم مجھے ایک
ساعت کے لیے اپنے ہاتھ عاریتہ دو تم ان کی ناکوں پر تھپڑ مارو گے اور یہ صرف ایک
صبح یا شام کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ظالموں کی قوم کے درمیان فیصلہ کرنے
گا ، میرا گھوڑا لاؤ ، اس کا ابلق رسیاہ و سفید ، گھوڑا لایا گیا تو وہ بغیر ہتھیار لیے
اس پر سوار ہو گیا ، دونوں فوجوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی تو یزید کے ساتھ اُسے

چھوڑ بھاگے اور یزید اس معرکہ میں مارا گیا اس کے بھائیوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ بھی سب کے سب مارے گئے اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے

”تمام قبائل نے تیری بیعت کی و عورت کو قبول کیا ہے اور انہوں نے خوشی خوشی تیری بیعت کی ہے، جب وہ میدان کارزار میں آئے اور تو نے انہیں نیزوں کا نشانہ بنا دیا تو وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ گئے اگر وہ تجھے قتل کریں تو تیرا قتل ہونا تجھ پر عار کی بات نہیں اور بعض قتل عار ہوتے ہیں۔“

جب یزید بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو وہ خوش ہوا اور کثیر کے سوا سب شعراء آل مہلب کی ہجو کرنے لگے، یزید نے اُسے کہا اے ابو صخر تجھے رشتہ داری کا خیال آیا ہے کیونکہ وہ یمانی ہیں، اس واقعہ کے متعلق جریر یزید کی مدح کرتے ہوئے اور آل مہلب کی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے

”کتنے ہی لوگ تمہارے حاسد ہیں حالانکہ ان میں نہ کوئی تمہارا بدل ہے

اور نہ جانشین، اللہ تعالیٰ آل مہلب کی جرط کو کاٹ دے وہ اکھڑ ہو

گئے ہیں نہ ان کی دوستی رہی ہے اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار اور ازد

کو ان کے گمراہ کنندہ کے دعوئے سے سوائے کلائیوں اور کٹی ہوئی گردنوں

کے اور کیا ملا ہے، اور ازد نے ایک کھودے کو اپنا لیدر بنایا تو انہیں

الہی فوجوں نے قتل کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔“

یہ ایک طویل قصیدہ ہے نیز جریر یزید کے متعلق مزید کہتا ہے

”ہم تجھے صنایع نہ کریں جب آل مہلب نے ناشکری کی تو تو نے ان کو

اٹوٹ ہڈی کی طرح کر چھوڑا اے ابن مہلب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے

کہ خلافت بلند بینی غارت گروں کے لیے ہے۔“

یزید نے اوزما زنی کو آل مہلب کی تلاش میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ان

میں سے جو بالغ آدمی ملے اُسے قتل کر دیا جائے وہ ان کا تعاقب کرتا ہوا قند اہل

تک آیا جو سرزمین سندھ میں ہے اور ہلال، آل مہلب کے دو لڑکوں کو لایا اس نے

ان میں سے ایک کو کہا تو بالغ ہے اس نے جواب دیا ہاں اور اپنی گردن بڑھا دی ، دوسرا اس سے خوفزدہ ہو گیا تو اس نے اپنا ہونٹ کاٹا تا کہ گھبراہٹ ظاہر نہ ہو اس نے اُسے بھی قتل کر دیا ، اس نے آلِ مہلب میں اس قدر خونریزی کی کہ ان کی نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ، کہتے ہیں کہ ہلال کے حملے کے بعد آلِ مہلب کے لوگ بیس سال تک اس حالت میں رہے کہ ان میں لڑکے پیدا ہوتے اور کوئی مرد نہ مرا ہلال بن احوز کی مدح اور اس کے کارناموں کے متعلق جریر کہتا ہے ۔

” میں محبوبہ سے کہتا ہوں کہ اس رات کی طوالت دیگر راتوں کی طرح نہیں کاش تیری صبح روشن ہو میرا دل ابن احوز کے متعلق خوف محسوس کرتا ہے اس نے دلوں کے تمام غموں کو دور کر دیا ہے اور تو نے قبرستان میں حسان ، مالک اور عدی کی قبر بنا دی ہے پس نہ آلِ مہلب کی فوج باقی رہی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی جھنڈا باقی رہا ہے ۔“

ابن ہبیرہ ، شعبی ، ابن سیرین اور حسن بصری | جب یزید بن عبد الملک نے

عمر بن ہبیرہ فزاری کو عراق کا

والی بنایا تو خراسان کی ولایت بھی اُسے دے دی وہاں اس کی حکومت ختم ہو گئی تو اس نے ابن ہبیرہ کو ۳۰ ہجری میں حسن بن ابوالحسن ، عامر بن شرجیل شعبی اور محمد بن سیرین کی طرف بھیجا اس نے انہیں کہا کہ یزید بن عبد الملک اللہ کا نائب ہے جسے اس نے اپنے بندوں پر خلیفہ بنایا ہے اور ان سے اپنی اطاعت کا بیٹاق لیا ہے ، اس نے ہم سے سماع و اطاعت کا عہد لیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس نے مجھے والی بنایا ہے وہ مجھے اپنا حکم لکھ بھیجتا ہے اور میں اس کا نفاذ کرتا ہوں اور جو وہ کہتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں پس آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ؟ ابن سیرین اور شعبی نے تو ایسی بات کہی جس میں تقیہ پایا جاتا تھا ، عمر نے کہا اے حسن تم کیا کہتے ہو ، حسن نے کہا اے ابن ہبیرہ یزید کے بارے میں اللہ سے ڈر ، اور اللہ کے بارے میں یزید سے نہ ڈر ، اللہ تعالیٰ تجھے یزید سے بچائے گا اور یزید تجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکے گا وہ تیری طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو تجھے بے تخت کر دے گا اور تجھے محل کی وسعت سے نکال کر قبر کی

تنگی میں ڈال دے گا پھر تیرا عمل ہی تجھے بچائے گا، اے ابن ہبیرہ میں تجھے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے انتباہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اپنے دین اور بندوں کی نصرت کے لیے بادشاہ بنایا ہے پس تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ کے دین اور اس کے بندوں کو نہ چھوڑ کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔

اس واقعہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ابن ہبیرہ نے ان کو انعامات دیے اور حسن کو دگنا انعام دیا۔ شعبی نے کہا ہم نے حقیقت کی اس لیے اس نے ہم سے حقیر سلوک کیا۔

یہ زید اور اس کے بھائی ہشام کے درمیان غلط فہمی

کھینچتے ہیں کہ یزید بن عبد الملک کو اطلاع ملی کہ اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک اس کی تنقیص کرتا ہے اور اس کی موت کا متمنی ہے اور لونڈیوں کے ساتھ لہو و لعب کرنے کی وجہ سے اس کی عیب گیری کرتا ہے تو یزید نے اُسے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میری زندگی اور میری موت کی تاخیر تجھ پر گرا ہے اور میری زندگی کی قسم تو میرے بعد کمزور بازوؤں اور کٹے ہوئے ہاتھوں والا ہوگا، جو بات مجھے تیری جانب سے پہنچتی ہے میں تجھے اس کا حقدار نہیں سمجھتا، تو ہشام نے اُسے جواب دیا جب امیر المؤمنین اپنے کانوں کو دشمنوں کی باتوں کے سننے کے لیے فارغ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپس میں فساد ہو جائے اور رشتہ داری ختم ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو اپنے فضل سے جس چیز کا اہل بنا یا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہیں کہ گنہ گاروں کے گناہوں سے پردہ پوٹی کریں، اسی میری بات تو میں اس بات سے خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی اور موت کی تاخیر کو گراں سمجھوں، تو یزید نے اُسے لکھا جو کچھ تجھ سے ہوا ہم اُسے بخشتے ہیں اور تیرے متعلق جو بات ہمیں پہنچی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں پس عبد الملک نے ہمیں جو وصیت کی تھی اُسے یاد رکھیے اس نے کہا تھا کہ ہمیں آپس میں بغاوت اور علیحدگی اختیار کرنے کے خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے یہ حکم اس نے رشتہ داری کے تعلقات کی بہتری اور خواہشات کے اتفاق کے لیے دیا تھا یہ بات تیرے لیے بہتر ہے اور میں تجھ سے یہی امید رکھتا ہوں اور میں تیری طرف

لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تو اوّل کے ان اشعار کا مصداق ہے ۛ

” تیری طرف سے مجھے پریشان کن باتیں پہنچتی رہی ہیں اور میں قدیم سے

ہی درگزر کرنے والا اور نیک سلوک کرنے والا ہوں، جب تو نے مجھ سے

قطع تعلق کیا تو تو دنیا میں اپنا دیاں ہاتھ کاٹ لے گا پھر دیکھ تو اس

کے بدلے کو نسا ہاتھ لے گا، اگر تو نے اپنے بھائی سے انصاف نہ

کیا اور وہ عقل مند ہے تو تو اُسے اپنے سے انتہائی دُور پائے گا۔“

جب ہشام کو یہ خط ملا تو وہ اس کے پاس گیا اور چنچل خوروں اور باغیوں کے

خوف سے ہمیشہ اس کی پناہ میں رہا۔ یہاں تک کہ بیزید فوت ہو گیا۔

عطاء بن یسار کی وفات | بیزید بن عبد الملک کے دور حکومت میں جو لوگ

فوت ہوئے ان میں عطاء بن یسار بھی تھے آپ

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ کے غلام تھے اور ابو محمد کنیت

کرتے تھے ان کی عمر ۸۴ سال تھی، یہ واقعہ ۳۳ھ کا ہے۔

علماء کی ایک جماعت کی وفات | ۳۳ھ ہی میں قیس بن السائب کے غلام

مجاہد بن جبیر کی وفات ہوئی اس کی کنیت ابو الجراح

تھی اور عمر ۸۴ سال تھی، ازد کا غلام جابر بن زبید بھی فوت ہوا یہ بصرہ کا رہنے والا تھا اور

ابو الشعثاء کنیت کرتا تھا بیزید بن اسم اہل رقبہ میں سے تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی بیوی حضرت میمونہ کا بھانجا تھا اور یحییٰ بن وثاب اسدی، بنی کنانہ کا غلام تھا اور ابو

برودہ بن ابی موسیٰ اشعری بھی فوت ہو گئے، ان کا نام عامر تھا اور کوفہ کے رہنے والے

تھے، ۳۴ھ میں وہب بن منبہ کی وفات ہوئی۔

ایک روایت میں ہے آپ کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی۔ اور طاؤس کی وفات بھی اسی سال

میں ہوئی، ۳۵ھ میں عباس بن عبد المطلب کے غلام عبد اللہ بن جبیر کی وفات ہوئی

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عباس کے غلام کے غلام تھے۔

کہتے ہیں کہ طاؤس بن کیسان۔ ابو عبد الرحمن کنیت کرتا تھا۔ بجیر حمیری کا

غلام تھا۔ ۱۶ھ میں مکہ میں فوت ہوا اس کی نماز جنازہ شہام بن عبد الملک نے پڑھائی
 ۱۷ھ میں مدینہ طیبہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام سلیمان بن یسار فوت ہوئے
 یہ عطا بن یسار کے بھائی تھے ابو ایوب کنیت کرتے تھے وفات کے وقت ان کی عمر ۳۷
 سال تھی بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ھ میں فوت ہوئے، ۱۸ھ میں قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق
 کی وفات ہوئی۔

محمد بن سیرین اور ان کے بھائی | حسن بن ابوالحسن بصری نے ۱۸ھ میں وفات پائی
 ان کی کنیت ابو سعید تھی ان کے باپ کا نام یسار

تھا جو ایک انصاری عورت کا غلام تھا ان کی وفات ۸۹ سال کی عمر میں ہوئی۔ بعض
 کہتے ہیں کہ ۹۰ سال کی عمر میں ہوئی، آپ محمد بن سیرین سے بڑے تھے، محمد بن سیرین کی
 وفات اسی سال ۸۱ سال کی عمر میں ان سے سوراہیں بعد میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ
 ان کی عمر ۸۰ سال تھی، سیرین کے پانچ لڑکے تھے محمد، سعید، یحییٰ، خالد اور انس،
 سیرین حضرت انس بن مالک کا غلام تھا اس کے پانچوں بیٹوں نے سنن روایت کی ہیں
 اور ان سے سنن نقل کی گئی ہیں۔

میں نے اصحاب تواریخ کو وہب بن منبہ کی وفات کے بارے میں متفق نہیں پایا۔
 ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، ان میں سے بعض نے آپ کی وفات کو اس طرح بیان کیا ہے
 جسے ہم اس باب میں بیان کر چکے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ آپ نے ۱۸ھ میں
 صنعاء میں وفات پائی آپ کی عمر ۹۰ سال تھی، ۱۵ھ میں حکم بن عتبہ کنسی کی وفات
 ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس سال عطاء بن ابی رباح کی وفات ہوئی تھی، ۲۳ھ میں
 ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب زہری کی وفات ہوئی، ادا قدی کا
 بیان ہے کہ ان کی وفات ۲۴ھ میں ہوئی۔ یزید بن عبد الملک کے دور میں ہونے والے
 واقعات کی رو سے اس کے حالات بہت اچھے ہیں ہم نے انہیں مبسوط طور پر اخبار
 الزمان اور الاوسط میں بیان کیا ہے، ہم نے اہل علم اور ناقلین آثار اور راویان اخبار
 کی وفات کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ کتاب کی افادہ جہت میں اضافہ ہو اور اس کے
 فوائد کا دائرہ وسیع ہو کیونکہ لوگ اپنے اغراض و مقاصد میں ایک دوسرے سے
 مختلف ہوتے ہیں اور مختلف علوم کے ماخذوں کے جوہر ہوتے ہیں ان میں سے

بعض واقعہ کے متلاشی ہوتے ہیں اور بعض روایت کے مقلد ہوتے ہیں اور بعض بحث و
 نظر والے ہوتے ہیں اور بعض اصحاب الحدیث ہوتے ہیں جو غلطی کی چھان بین کرنے
 والے ہوتے ہیں اور جس قسم کے لوگوں کی وفات کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی وفات کی
 تاریخوں کو معلوم کیا جاتا ہے پس ہم نے ہر ایک کے لیے اس کتاب میں حصہ رکھ دیا ہے
 وبالله التوفیق۔

ہشام بن عبد الملک بن مروان کے دور حکومت کا بیان

مختصر حالات جس روز ہشام بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک کی وفات ہوئی اسی روز ہشام کی بیعت ہوئی یہ ۲۵ شوال ۱۵۰ھ جمعہ کے روز کا واقعہ ہے ، یزید کی وفات ۳۸ سال کی عمر میں ہوئی بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں ہوئی ، ہشام بن عبد الملک کی وفات ۱۱ ربیع الاول ۱۵۰ھ کو بدھ کے روز صافہ میں ہوئی جو ارض قنسرین میں ہے اور اس کی عمر ۵۳ سال تھی ، اس کی حکومت ۱۹ سال ، ۷ ماہ ۱۱ دن تھی۔

اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

اس کے اوصاف و اخلاق ہشام بھینگا ڈرشت اور سخت بدخو تھا ، اموال جمع کرتا زمین آباد کرتا عمدہ گھوڑے تیار کرتا تھا اور گھوڑ دوڑ کرتا تھا اس نے اپنے اور دوسرے لوگوں کے چار ہزار گھوڑے جمع کیے ہوئے تھے ، اور جاہلیت اور اسلام میں کسی کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے پاس اتنے گھوڑے ہوں ، شعراء نے اس کے جمع شدہ گھوڑوں ، اچھے پہناؤوں ، قابلیوں اور جنگی سامان اور زرہوں کا ذکر کیا ہے ، اس نے لوگوں سے حسن سلوک کیا اور سرحدوں کو مضبوط کیا ، مکہ کے راستے میں مسافر خانے اور سرائیں بنوائیں ، اس کے علاوہ اور بھی یادگاریں قائم کیں جنہیں عباسی حکومت کے آغا نے داؤد بن علی نے تباہ کروا دیا۔

اس کے دور حکومت میں ریشم اور لہنمی چادریں بنائی گئیں۔ لوگوں نے بھی اسی کے

طریق کو اختیار کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اُسے روک لیا پس عطا و بخشش کم ہو گئی۔ اور اس کے زمانے سے زیادہ تنگی کا زمانہ نہیں دیکھا گیا۔

حضرت زید بن علی کی شہادت | اس کے زمانے میں زید بن علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجہہ ^{۱۲۱}ہ میں شہید ہو گئے، بعض

کہتے ہیں کہ ^{۱۲۲}ہ میں شہید ہوئے، زید بن علی نے اپنے بھائی ابو جعفر بن علی بن حسین بن علی سے مشورہ کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ کوفیوں کی طرف مائل نہ ہونا کیونکہ وہ خائن اور مکابر ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں تمہارے دادا علی رضی اللہ عنہ قتل ہوئے اور وہیں تیرے چچا حسن کو نیزہ مارا گیا اور وہیں تمہارا باپ حسین قتل ہوا اور اسی کے مصنفات میں ہم اہل بیت کو سب و شتم کیا گیا۔ ابن مردان کی حکومت کے متعلق انہیں جو علم حاصل تھا اس کے متعلق بھی انہیں بتایا جو انہیں دولت عباسیہ سے شرمندگی ہوئی اس کا بھی ذکر کیا، مگر انہوں نے جس حق کے مطالبہ کا عزم کیا تھا اس سے باز نہ آئے تو ان کے بھائی نے انہیں کہا اے بھائی مجھے تیرے متعلق خدشہ ہے کہ تو کل کوفہ کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر مصلوب ہوگا، ابو جعفر نے اُسے الوداع کہا اور اُسے بتایا کہ اب ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔

زید، ہشام کے پاس رصافہ میں گئے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ پائی تو مجلس کے آخر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین نہ کوئی اللہ کے تقوے کے بغیر بڑھ سکتا ہے اور نہ تقوے اللہ کے بغیر چھوٹا ہو سکتا ہے، ہشام نے کہا تیری ماں نہ رہے خاموش ہو جا، تو ہی اپنے بارے میں خلافت کے متعلق جھگڑا کرتا ہے حالانکہ تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا امیر المؤمنین اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو جواب دوں اور اگر آپ پسند کریں تو خاموش رہوں اس نے کہا جواب دو، آپ نے فرمایا، مائیں مقاصد کے لحاظ سے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ بھی، حضرت اسحق کی ماں کی لونڈی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی اور انہیں نبی بنا کر بھیجا، انہیں عربوں کا باپ بنایا اور ان کی صلب سے خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پس اس بارے میں مجھ سے بات کیجیے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔

”اُسے خوف نے بھگا دیا ہے اور عیب داد کر دیا ہے اور جو شخص صبر

کو ناپسند کرتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے ، اور اس کے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں اور وہ سوزش کی شکایت کرتا ہے اور اُسے تیز پتھر کے کونے توڑتے ہیں ، موت میں اُسے راحت ملتی تھی اور موت لوگوں کے لیے یقینی ہے اگر اللہ تعالیٰ اُسے حکومت دیتا ہے تو وہ دشمنوں کے نشانہ کو راکھ کی طرح چھوڑ دیتا ہے ۔“

وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے کوفہ کی طرف گئے آپ کے ساتھ قراء اور اشراف بھی تھے ۔ آپ کے ساتھ یوسف بن عمر ثقفی نے جنگ کی ، جب جنگ ٹھن گئی تو زید کے ساتھی شکست کھا گئے آپ نے ایک معمولی سی جماعت کے ساتھ ان سے سخت جنگ کی اور آپ بطور مثال یہ شعر بڑھ رہے تھے ۔

”زندگی کی ذلت اور موت کی سختی ان دونوں کو میں نے مضر کھانا پایا ہے اگرچہ ان میں سے ایک کے سوا چارہ نہیں پس تو موت کی طرف اچھی طرح چل کر جا ۔“

فریقین کے درمیان شام کا وقت حائل ہو گیا ۔ حضرت زید کے زخم سے خون ٹپک رہا تھا کیونکہ آپ کی پیشانی میں تیر لگا تھا آپ نے فرمایا اس تیر کو کون نکالے گا تو ایک بستی سے بچنے لگانے والے کو لایا گیا لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس حجام سے آپ کی حالت کو پوشیدہ رکھا اس نے تیر نکالا تو آپ اسی وقت فوت ہو گئے انہوں نے آپ کو ایک ندی میں دفن کر دیا اور آپ کی قبر پر مٹی اور گھاس پھونس ڈال دیا اور اس پر پانی بہا دیا پچھنے لگانے والا آپ کے چھپانے کی جگہ پر آیا تو اس نے جگہ کو پہچان لیا اور صبح کے وقت یوسف کے پاس اس کا خیر خواہ بن کر گیا اور اُسے آپ کی قبر کے متعلق بتایا تو یوسف نے آپ کو قبر سے نکال لیا اور آپ کے سر کو ہشام کے پاس بھیج دیا ہشام نے اُسے لکھا کہ اُسے ننگا کر کے صلیب دے دو تو یوسف نے آپ کو اسی طرح صلیب دے دیا اس بارے میں بنی امیہ کا ایک شاعر آل ابی طالب اور ان کے پیروکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے ۔

”ہم نے تمہارے لیے زید کو کھجور کے تنے پر صلیب دیا اور میں نے کسی ہمدی کو تنے پر صلیب پاتے نہیں دیکھا ۔“

اور اس نے آپ کی لکڑی کے نیچے ایک ستون بنا دیا پھر ہشام نے یوسف کو حکم بھیجا کہ انہیں جلا کر ہوا میں اڑا دو۔

امویوں کی قبروں کے ساتھ عباسیوں کا سلوک

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ابیہثم بن عدی طائی نے عمرو بن ہانی سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ابوالعباس سفاح کے زمانے میں، میں عبید اللہ بن علی کے ساتھ بنی امیہ کی قبریں اکھاڑنے کے لیے نکلا، ہم ہشام کی قبر پر پہنچے تو ہم نے اُسے قبر سے صحیح سالم باہر نکالا صرف اس کی ناک کی درمیانی ہڈی موجود نہ تھی، عبداللہ بن علی نے اُسے سو کوڑے مارے پھر اُسے جلا دیا۔ ہم نے سلیمان کو ارض دابق سے نکالا مگر ہمیں اس کی پشت پسیلوں اور سر کے سوا کچھ نہ ملا، جنہیں ہم نے جلا دیا اور یہی کچھ ہم نے بنی امیہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ان کی قبریں تفسرین میں تھیں پھر ہم دمشق میں آئے اور ہم نے ولید بن عبدالملک کو نکالا مگر ہم کو اس کی قبر سے کچھ نہ ملا، ہم نے عبدالملک کی قبر کھودی تو ہمیں صرف اس کے سر کا ایک جوڑ ملا پھر ہم نے یزید بن معاویہ کی قبر کھودی تو اس میں سے صرف ایک ہڈی ملی اور ہم نے اس کی لحد کے ساتھ ایک سیاہ لکیر دیکھی گویا راکھ کے ساتھ لحد کے طول میں وہ لکیر کھینچی گئی ہے پھر ہم نے تمام شہروں میں ان کی قبروں کو کھودا اور جو کچھ ہمیں ملا ہم نے اُسے جلا دیا۔

ہم نے اس جگہ ہشام کے حضرت زید بن علی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ واقعات بیان کیے ہیں ہشام کو بھی اسی طرح مثلہ کیا گیا جیسا کہ اس نے حضرت زید بن علی کے ساتھ اپنے سلف کی طرح سلوک کیا تھا۔

ابو بکر بن عیاش اور مؤرخین کی ایک جماعت سے بیان کیا ہے کہ حضرت زید چاس ماہ تک برہنہ مصلوب رہے مگر کسی آدمی نے ان کے پوشیدہ مقامات کو نہ دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا پردہ تھا آپ کو کوفہ کے کوڑا کرکٹ کے مقام پر صلیب دیا گیا جب ولید بن یزید بن عبدالملک کا زمانہ آیا اور خراسان میں آپ کے بیٹے یحییٰ بن زید کا ظہور ہوا تو یزید نے اپنے کوفہ کے عامل کو لکھا کہ زید کو لکڑی پر ہی جلا دو تو اس نے ایسا ہی کیا اور ان کی راکھ کو فرات کے کنارے ہوا میں بکھیر دیا۔

زید سے شیعوں کے فرقے | ہم نے اپنی کتاب "المقالات فی اصول الدیانات"

میں زید یہ کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ خروج کیا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے جسے ہم نے اپنی پہلی کتب میں بیان کیا ہے، زید یہ اور امامیہ کے اختلافات، ان دونوں مذہبوں کے درمیان فرق اور دیگر شیعہ فرقوں وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مقالات و آراء اور دیانات کے متعلق کتب لکھنے والے مصنفین کی ایک جماعت نے جیسے ابو عیسیٰ محمد بن ہارون وراق وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ زید یہ اپنے زمانے میں آٹھ فرقے تھے ان کا پہلا فرقہ جارود یہ تھا جو ابو الجارود زید بن منذر العبیدی کے اصحاب تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ امامت صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں منحصر ہے، دوسرا فرقہ المرثیہ ہے تیسرا الابرقیہ جو تھا یعقوبیہ یہ لوگ یعقوب بن علی کوفی کے اصحاب ہیں پانچواں العقیبیہ، چھٹا الابتریہ ہے یہ لوگ کثیر الابتر اور حسن بن صالح بن یحییٰ کے اصحاب ہیں، ساتواں فرقہ الجریہ ہے یہ لوگ سلیمان بن جریر کے اصحاب ہیں، آٹھواں فرقہ الیمانیہ ہے یہ لوگ محمد بن الیمان کوفی کے اصحاب ہیں۔ دوسروں کی نسبت اس مسلک کے لوگ زیادہ ہیں انہوں نے اپنے اسلاف کے اصولوں سے کئی شاخیں نکالی ہیں اور یہی امامیہ فرقوں کا حال ہے جیسا کہ گزشتہ مصنفین نے بیان کیا ہے یہ ۳۳ فرقے ہیں، ہم نے حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے چلے جانے کے بعد قطعیہ کے اختلاف کا ذکر کیا ہے جو کچھ کیسانیہ فرقہ کہتا ہے اور جو اس کے دیگر شیعہ فرقوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فروع اور تاویل میں جو اختلاف کیا ہے اس کو چھوڑ کر یہ ۳۷ فرقے ہیں اور غلاة کے آٹھ فرقے ہیں، ان میں سے محمدیہ کے چار فرقے ہیں معتزلہ بھی چار ہیں وہ علویہ کہلاتے ہیں، اگر ہماری یہ تاریخ کی کتاب نہ ہوتی تو ہم ان کے مذاہب و آراء کو آغاز سے لے کر اس وقت تک تفصیل سے بیان کرتے اور مہدی منتظر کے ظہور کے متعلق جو دلائل انہوں نے دیے ہیں اور ان میں سے اصحاب الدور اور السرد اور التشریق نے جو کچھ بیان کیا ہے اُسے بھی ذکر کرتے۔

ہشام اور حمص کا ایک آدمی | ایک روز ہشام نے حمص میں فوج کا

جائزہ لیا تو اس کے پاس سے حمص کا ایک آدمی ایک بدکنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر گذرا، ہشام نے اُسے کہا تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تو بدکنے والے گھوڑے کو باندھے، حمص نے کہا امیر المومنین! بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ گھوڑا بدکنے والا نہیں بلکہ اس نے آپ کے بھینگے پن کو دیکھ کر خیال کیا ہے کہ یہ غزو ان سالوتری کی آنکھ ہے، ہشام نے اُسے کہا پڑے ہو جا تجھ پر اور تیرے گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو غزو ان سالوتری بلا دحمص کا ایک نصرانی تھا گویا وہ اپنے بھینگے پن اور سر کے اگلے حصے سے بال گرنے کی وجہ سے ہشام تھا۔

ہشام، ابرش کلبی اور ہشام کی ایک لونڈی | ایک روز ہشام اکیلا بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس ابرش کلبی موجود تھا

کہ اتنے میں ہشام کی ایک خدمت گار لونڈی حملہ پہنے نمودار ہوئی، ہشام نے ابرش سے کہا اس سے مذاق کرو، ابرش نے اُسے کہا مجھے اپنا حملہ دے دو، اس نے کہا تو تو اشعب سے بھی زیادہ حر ہیں ہے، ہشام نے لونڈی سے کہا اشعب کون تھا اس نے جواب دیا وہ مدینہ کا ایک مذاقبہ تھا اور اس نے ہشام کو اس کی بعض باتیں سنائیں تو ہشام ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ابراہیم بن ہشام عامل مدینہ کو لکھو کہ اُسے ہمارے پاس بھیجے پس جب ہشام نے خط پر ہر لگائی تو دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا پھر کہنے لگا اے ابرش ہشام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف یہ خط لکھتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک مذاقبہ کو بھیجے خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا پھر اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا

”جب تو خواہش کے مطابق چلے گا تو خواہش تجھے بعض ایسی باتوں کی

طرف لے جائے گی جن کے متعلق لوگ تجھ پر پھبتی اڑائیں گے۔“

اور خط بچھا دیا۔

ہشام کے سخیل کی مثالیں | کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہشام کو دو پرندے تیرے

طور پر دیے جو اُسے بہت پسند آئے۔ اس آدمی نے

کہا امیر المومنین میرا انعام، ہشام کہنے لگا تو ہلاک ہو دو پرندوں کا کیا انعام ہوتا ہے؟ اس آدمی نے کہا آپ جو چاہتے ہیں دے دیں۔ ہشام نے کہا ان میں سے ایک پرندہ

لے جاؤ تو اس آدمی نے ان دونوں میں سے خوب صورت پرندے کو پکڑ لیا تو ہشام نے اُسے کہا تو اسی طرح پسند کرتا ہے اس نے جواب دیا ہاں خدا کی قسم میں اسی طرح پسند کرتا ہوں اس نے کہا اُسے چھوڑ دے اور اُسے چند درہم دینے کا حکم دیا۔

ہشام اپنے ایک باغ میں اپنے ندیموں کے ساتھ داخل ہوا اس باغ کا چکر لگایا تو اس میں ہر قسم کے پھل تھے وہ پھل کھانے لگے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو برکت دے تو ہشام کہنے لگا وہ اس میں مجھے کیسے برکت دے گا جب کہ تم اس کے پھل کھا رہے ہو پھر کہتے لگا اس کے منتظم کو بلاؤ اُسے بلایا گیا تو اُسے کہنے لگا اس کے درخت اکھاڑ کر اس میں زیتون کاشت کر دو تا کہ کوئی شخص اس میں سے کچھ نہ کھا سکے۔ اس کے بیٹے سلیمان نے اُسے لکھا کہ میرا نچرنا کا رہ ہو گیا ہے اگر امیر المؤمنین پسند کریں تو میرے لیے ایک جانور کا حکم دے دیں، ہشام نے اُسے لکھا، امیر المؤمنین نے تمہارے خط کا مفہوم اور اس میں جو تم نے اپنے جانور کی کمزوری کا ذکر کیا ہے اُسے سمجھ لیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ کمزوری اس وجہ سے ہے کہ تم اس کے چارے کا خیال نہیں رکھتے اور دوسرے یہ کہ چارہ صنایع ہو جاتا ہے پس تم خود اس کی نگرانی کرو شاید امیر المؤمنین اُسے تجھے بارہ داری کے لیے دے دیں۔

ہشام نے ایک آدمی کو طخاری گھوڑے پر سوار دیکھا تو اس سے پوچھا تو نے اسے کہاں سے حاصل کیا ہے اس نے جواب دیا مجھے اس پر جنید بن عبدالرحمن نے سوار کرایا ہے، اس نے کہا کہ طخاری گھوڑے بہت ہو گئے ہیں یہاں تک کہ عوام بھی ان پر سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت عبدالملک کی وفات ہوئی اس کے اصطلیل میں ایک طخاری گھوڑا تھا اس کے بیٹوں نے اس میں دلچسپی لی یہاں تک کہ اسے خیال ہوا کہ جس سے گھوڑا اجاتا رہا اس سے خلافت جاتی رہے گی، وہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے اسی وجہ سے حسد کرنا شروع کر دیا تھا۔

اس کے بھائی مسلمہ نے حکومت سنبھالنے سے قبل اس سے مذاق کرتے ہوئے کہا اے ہشام کیا تو خلافت کا امیدوار ہے حالانکہ تو بزدل اور بخیل ہے تو اس نے جواب دیا خدا کی قسم میں علیم اور حلیم ہوں۔

بنی امیہ کے سیاست دان | ابیثم بن عدی اور المدائنی وغیرہ نے بیان کیا ہے

کہ بنی امیہ میں تین سیاستدان ہوئے ہیں، معاویہ، عبد الملک اور ہشام، ان پر سیاست اور حسن سیرت کا خاتمہ ہو گیا، منصور اپنے اکثر امور، تدابیر اور سیاست میں ہشام بن عبد الملک کے افعال کا پیروکار تھا وہ ہشام کے واقعات اور سیرت کے بارے میں خاص معلومات رکھتا تھا۔

ہم نے اخبار الزمان اور الاوسط میں اس کی سیرت و سیاست کے شاندار واقعات اور اس کے حفظ کردہ اشعار اور خطبات کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح ہم نے اس گفتگو کے آغاز کا بھی ذکر کیا ہے جس نے ہمیں اس کتاب کی تصنیف پر آمادہ کیا جو کتاب الواحدة فی مناقب العرب و مثالبها، کے نام سے معروف ہے اس کتاب میں صرف عربوں کے ان مناقب و مثالب پر گفتگو کی گئی ہے جن میں کوئی دوسرا ان سے شراکت نہیں رکھتا، قحطان کے ہر قبیلے اور نزار وغیرہ کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں اور جو کچھ مختلف اوقات میں ہشام کی مجالس میں ابرش کلبی، عباس بن ولید بن عبد الملک، خالد بن مسلمہ مخزومی اور نصر بن مریم حمیری کے درمیان گفتگو ہوتی تھی اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ الحمیری نے اپنے قوم حمیر اور کہلان کے جو مناقب لکھے ہیں اور المخزومی نے اپنی قوم جو نزار بن معد بن عدنان کے ہے، کے جو مناقب بیان کیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کے سوا، دوسروں کے جو مناقب بیان کیے ہیں اور اپنے خاندان اور قبیلے کو ممتاز کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کتاب کو ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ نے اس آدمی کی زبان سے تالیف کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اسے اس آدمی کی طرف جس کا ہم نے نام لیا ہے یا شعوبیہ کے کسی اور آدمی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان کے

دور حکومت کا بیان

مختصر حالات | ۱۶ ربیع الآخر ۱۲۵ھ کو بدھ کے روز ہشام کی وفات ہوئی اور اسی روز ولید بن یزید کی بیعت ہوئی پھر اسے ۲۸ جمادی الآخر ۱۲۶ھ کو جمعرات کے روز نجر اعریس قتل کر دیا گیا اس نے ایک سال دو ماہ بائیس دن حکومت کی اور ۴۴ سال کی عمر میں قتل ہو گیا وہ جس جگہ قتل ہوا اسی جگہ دفن ہوا، یہ دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے جو نجر اعریس کے نام سے مشہور ہے ہم اس کے قتل کے واقعہ کو اپنی کتاب الادسط میں بیان کر چکے ہیں۔

اس کے حالات و واقعات کی ایک جھلک

یحییٰ بن زید کا ظہور اور قتل | ولید کے دور حکومت میں خراسان کے شہر جوزجان میں یحییٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے لوگوں پر ردا رکھے جانے والے ظلم و جور کے خلاف ظہور کیا تو ولید نے اس کے مقابلہ میں نصر بن سیدار سلم بن احوذ مازنی کو بھیجا، یحییٰ اور عونہ بستی کے معرکہ میں قتل ہو گیا اور وہیں دفن کیا گیا اس کی قبر بہت مشہور ہے آج تک لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں یحییٰ نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور ایک معرکہ میں کنپٹی میں تیر لگنے سے اس کی موت ہو گئی اور اس کے اصحاب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اس کا سر کاٹ کر ولید کو بھجوا یا گیا اور جوزجان میں اس کے جسم کو صلیب دیا گیا وہ ابو مسلم خراسانی کے خروج تک جو عباسی حکومت کا حامی تھا، صلیب پر لٹکا رہا پس ابو مسلم نے سلم بن احوذ کو قتل کر دیا اور یحییٰ کے جثے کو اتار کر اپنے اصحاب

کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور وہیں دفن کر دیا، اہل خراسان نے اپنے دیگر مصنفانہ میں بنی امیہ کے اقتدار سے محفوظ ہو جانے کی وجہ سے یحییٰ بن زید پر سات روز تک نوحہ و تازی کی اور اس سال خراسان میں جو بچہ بھی پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ اور زید رکھا گیا کیونکہ اہل خراسان کو اس کا بہت صدمہ اور غم ہوا تھا۔

یحییٰ کا ظہور ۱۲۵ھ کے آخر میں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ۱۲۶ھ کے آغاز میں ہوا اور ہم نے یحییٰ کے حالات اور جنگوں کا ذکر کتاب الاوسط اور اپنی دیگر پہلی کتابوں میں کیا ہے جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں، جس روز یحییٰ قتل ہوئے بطور تمثیل بار بار حضرت خنساء کے یہ شعر پڑھتے تھے۔

”ہم اپنی جانوں کو بیچ سمجھتے ہیں اور جنگ کے روز جانوں کو بیچ سمجھنا ہی ان کے حق کو پورا کرنا ہے۔“

ولید کے اشغال اور بے حیائی | ولید، شرابی، کھلنڈرا اور گانے بجانے کا ایسا تھا وہ پہلا شخص تھا جو گلوکاروں کو ان کے

شہروں سے اپنے پاس لایا، کھلنڈروں سے ہم نشینی کی، بڑا شراب نوشی کی اور آلات لمو لعب سے کھیلا اس کے زمانے میں ابن سریج، معبد، غریض، ابن عائشہ، ابن محرز طویس اور دحمان گویے تھے اس کے زمانے میں اس پر اور عوام و خواص پر گانے کا بھوت سوار ہو گیا اس نے گانے والی لونڈیاں تیار کیں وہ بڑا بے حیا اور بد معاش تھا، ولید اپنی حکومت میں کئی راتیں عیش و نشاط میں جاگتے گزارتا تھا، وہ کہتا ہے۔

”میری رات بلی ہو گئی ہے اور میں شراب پی کر رات گزار رہا ہوں میرے پاس اس کی موت کی خبر آئی ہے جو رصافہ میں مقیم ہے اور اس نے مجھے چادر، چھتری اور خلافت کے لیے انگوٹھی دی ہے۔“

ہشام کی وفات کے وقت اس نے یہ مزاحیہ بات کہی تھی جب اس کے پاس موت کی خبر دینے والا آیا اور اس نے اُسے سلام خلافت کہا تو اس نے کہا۔

”میں نے اپنے دوست سے سنا ہے کہ رصافہ کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور میں اپنا دامن گھسیٹتا ہوا یہ کہتا ہوا آیا کہ ان عورتوں کا

کیا حال ہوگا، جب ہشام کی لڑکیاں اور تیل لگانے والیاں ندبہ کرتی ہوئی شور و غل مچاتی اور ہائے ہلاک ہو گئے پکارتی ہوں گی اور ہلاکت تو انہی پر آتری ہے اگر میں ان سے بڑا فعل نہ کروں تو فی الواقعہ میں محنت ہوں۔“

ولید سے کہا گیا کہ تیری لذت میں سے کوئی باقی بھی رہ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا چاندنی راتوں میں مٹی کے ٹیلوں پر بیٹھ کر دوستوں سے گفتگو کرنا باقی رہ گیا ہے۔

ولید اور شراعمہ بن زید | ولید کو شراعمہ بن زید کے حسن صحبت اور عداوت مجالست کے متعلق اطلاع ملی تو اس نے اُسے حاضر کرنے کا حکم دیا

جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا میں نے تیری طرف اس لیے آدمی بھیجا تھا تا کہ تجھ سے کتاب و سنت کے متعلق دریافت کروں اس نے جواب دیا میں اس بارے میں گفتگو کرنے کا اہل نہیں اس نے کہا میں تم سے شراب کے متعلق پوچھتا ہوں اس نے جواب دیا امیر المؤمنین اس بارے میں جو چاہے پوچھے اس نے کہا تو شراب کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کس شراب کے متعلق پوچھتے ہیں اس نے کہا تو پانی کے متعلق کیا کہتا ہے اس نے کہا اس میں تو مجھ سے خچر اور گدھے بھی مشارکت رکھتے ہیں اس نے کہا کشمش کی نبیذ کے متعلق کیا خیال ہے اس نے جواب دیا دردمر اور تکلیف کا باعث ہے اس نے کہا کھجور کی نبیذ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا سب گوز ہے، اس نے پوچھا شراب کے متعلق کیا خیال ہے کہا یہ میری روح کی سگی بہن ہے اور میری جان کی محبوبہ ہے اس نے کہا سماع کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا آہستہ آہستہ غم کے ذکر پر ابھارتا ہے اور غم کے موقعوں پر لہو و لعب کو تازہ کرتا ہے اکیلے دوست کا مولس ہے اور اکیلے عاشق کو خوش کرتا ہے، دلوں کی پیاس بجھاتا ہے جذبات کو ایسے بھڑکاتا ہے کہ دوسرے لہو و لعب کے سامان سے ایسا نہیں ہو سکتا اور جسم کے اجزاء میں سرایت کہ کے نفس کو بھڑکا دیتا ہے اور حس کو قوی کرتا ہے، اس نے پوچھا کونسی مجالس تجھے زیادہ محبوب ہیں اس نے جواب دیا کہ میں نے مجلس میں تکلیف اٹھانے بغیر کبھی آسمان کو نہیں دیکھا اس نے پوچھا کھانے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا اس کھانے والے کو انتخاب کا کوئی حق نہیں جس کا ہم و غم ہی کھانا ہے

تو ولید نے اُسے اپنا ندیم بنا لیا۔

شراب کے متعلق اس کا قول | وہ شراب کے متعلق کس شان دار طریق سے کہتا ہے :-

”پیالے میں زعفران کی طرح زرد سی چیز ہے جسے عسقلان کے ایک تاجر نے ہمارے لیے قیدی بنایا ہے وہ تجھے تنکا اور برتن کی چوڑائی دکھاتا اور انگلیوں کے چھونے کے ورے اس کا پردہ ہے جب اُسے نتھارا جاتا ہے تو تو اس پر برق یمانی کی طرح حُباب دیکھے گا۔“

اس نے شراب نوشی کے وقت اپنے ساتھی سے مذاق کرتے ہوئے کہا ہے ”اے یزید خوش نواحدی خوان کے ساتھ مجھے شراب پلا، ہم بالنسری کی آواز سے خوش ہو چکے ہیں۔ مجھے شراب پلا کہ میرے گناہوں نے میرا گھیراؤ کر لیا ہے اور ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔“

ولید کے داستان گو کا بیان | قاضی ابو خلیفہ فضل بن حباب جمعی نے ہمیں محمد بن سلام جمعی سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے

ایک شامی شیخ نے اپنے باپ سے بتایا وہ کہتا ہے کہ میں ولید بن یزید کا داستان گو تھا، میں نے اس کے ہاں ابن عائشہ قرشی کو دیکھا ولید نے اُسے گانا سنانے کو کہا تو اس نے گایا کہ

”میں نے قربانی کے دن کی صبح کو حوریں دیکھیں جو آدمی کے عزم صبر کو شکستہ کر دیتی ہیں، وہ ستاروں کی طرح روشن تھیں اور عشاء کے وقت وہ چاند کا طواف کرتی تھیں، میں ثواب کے حصول کی خاطر باہر نکلا تو میں گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا واپس آیا۔“

ولید نے اُسے کہا اے میرے امیر بخدا تو نے بہت اچھا گایا ہے، بعد شمس کی خاطر اسے دوبارہ گاؤ اس نے دوبارہ گایا تو اس نے کہا، اُمیہ کی خاطر اسے پھر گہو اس نے پھر گایا تو وہ باری باری اپنے آبا کا نام لیتا ہوا اور اُسے دوبارہ گانے کا حکم دیتا ہوا اپنے آپ تک پہنچا اور اُسے کہنے لگا میری زندگی کی خاطر اسے پھر گاؤ اس نے گایا تو اس نے اُٹھ کر ابن عائشہ پر جھک کر اس کے تمام اعضاء کو بوسہ دیا

وہ اس کے غضب و تناسل کو بوسہ دینے کے لیے جھکا تو ابن عائشہ اپنے آلہ تناسل کو اپنی دونوں رانوں میں چھپانے لگا، ولید نے اُسے کہا خدا کی قسم میں اسے بوسہ دے بغیر نہیں ٹلوں گا، تو اس نے اُسے ننگا کیا تو اس نے اس کے سرے کو بوسہ دیا اور کہنے لگا واہ رے خوشی واہ رے خوشی، اور اپنے کپڑے اتار کر ابن عائشہ پر پھینک دیے اور ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ اُسے دوسرے کپڑے لاکر دیے گئے اس نے ابن عائشہ کو ایک ہزار دینار دیے اور اُسے اپنے حجر پر سوا کر آیا اور کہا کہ میری زمین پر بیٹھ کر اس پر سوا ہو کر واپس چلا جا تو نے مجھے جنت کے انگاروں سے بھی زیادہ گرم چیز پر بیٹھا چھوڑا ہے۔

ولید کو اپنے باپ بیزید سے بے حیائی و رشتہ میں ملی تھی | مسعودی بیان کرتا ہے کہ ابن عائشہ نے یہ

اشعار بیزید بن عبد الملک کو سنا کر اُسے خوش کر دیا تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ طرب و انبساط میں کافر و ملحد ہو گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں جو تھے آسمان پر پلاؤ، ولید بن بیزید نے اس شعر پر خوشی کرنے کو اپنے باپ سے رشتہ میں لیا تھا یہ شعر ایک قریشی کے ہیں اور دھن ابن سرج کی ہے بعض کہتے ہیں کہ مالک کی ہے جیسا کہ گیتوں کی کتابوں میں اس اختلاف کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جسے اسحاق بن ابراہیم موصلی نے اور ابراہیم بن مہدی المعروف بہ ابن نسلہ نے اپنی اپنی گیتوں کی کتابوں میں اور دیگر مصنفین نے بھی بیان کیا ہے ولید کو بنی مروان کا بے حیا آدمی کہا جاتا ہے۔

قرآن پاک کے ساتھ اس کا سلوک | ایک روز اس نے یہ آیت پڑھی "واستفتحوا

وخاب کل جبار غیڈ من وراثہ جہنم

ولیسقی من ماء صدید" تو اس نے قرآن پاک منگوا کر اُسے تیروں کے لیے بطور

ہدف نصب کر دیا اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اُسے تیرا نے لگا

"کیا تو ہر جاہل اور حق کے مخالف کو ڈراتا ہے تو دیکھ لے میں جاہل اور

حق کا مخالف یہاں کھڑا ہوں اور جب تو حشر کے روز اپنے رب کے

پاس جائے تو کہہ دینا اے میرے رب مجھے ولید نے پھاڑا ہے۔"

لے (ترجمہ) اور فتح مانگی انہوں نے اور نامراد ہوا ہر سرکش عناد کرنے والا۔ (ابراہیم آیت)

اس کے طحڑانہ اشعار | محمد بن یزید المبرد نحوی نے بیان کیا ہے کہ ولید نے اپنے اشعار میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے

طحڑانہ باتیں کہی ہیں وہ کہتا ہے کہ

”ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، انہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے۔“

ان اشعار میں یہ شعر بھی ہیں

”ایک ہاشمی نے بغیر وحی و کتاب کے خلافت سے کھیلا ہے اُسے خدا کے لیے کہہ دے کہ وہ میرے کھانے پینے کو روک دے۔“

اس قول کے بعد اُسے چند روز مہلت ملی اور وہ قتل ہو گیا۔

اس کی ماں کا نسب | ولید بن یزید کی ماں ام الحجاج بنت محمد بن یوسف ثقفی تھی جس کی کنیت ابو العباس تھی۔

یشب کے خواص | اس کے پاس بلور کا ایک پیالہ لایا گیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ سنگ یشب کا پیالہ لایا گیا۔ بعض فلاسفہ کا خیال ہے

کہ جو شخص سنگ یشب کے پیالے میں شراب پئے اُسے نشہ نہیں ہوتا ہم نے اس خاصیت کا ذکر ”القضایا و التجارب“ میں کیا ہے اور جو شخص اس کے ٹکڑے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے یا اس کی انگوٹھی کا نگینہ اس پتھر کا ہو وہ ہمیشہ اچھا خواب ہی دیکھتا ہے، ولید کے حکم سے اس پیالے کو شراب سے بھر لیا گیا وہ اپنے ندیموں کے ساتھ چاند کی چاندنی میں شغل سے نوشی کر رہا تھا، کہنے لگا آج کی شب کا چاند کہاں ہے ایک آدمی نے کہا فلاں بروج میں ہے اور ایک دوسرے آدمی نے کہا بلکہ وہ تو جام شراب میں ہے چاند کی شعاعیں اور اس کا عکس اس شراب میں نظر آ رہا تھا، تو ولید نے اُسے کہا خدا کی قسم جو کچھ میرے دل میں تھا تو نے وہی بات کہی ہے اور بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں سات ہفتے تک ضرور شراب پیوں گا، اس کے ایک دربان نے آکر کہا امیر المؤمنین دروازے پر عربوں اور قریش کے دفود کا ایک جگھٹا ہے اور خلافت کی شان اس مقام اور حال سے بہت بالا ہے۔ ولید نے کہا اسے شراب پلاؤ اس نے پینے سے انکار کیا تو اس کے منہ میں قیف رکھ دی اور اُسے شراب پلانے

لگے یہاں تک کہ وہ نشہ سے دُھنت ہو کر گر پڑا۔

اس کے باپ نے اس کے متعلق وصیت کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس کی صغیر سنی کی وجہ سے اس نے اس کے بھائی ہشام کے متعلق اور پھر اس کے بعد ولید کے متعلق وصیت کی۔

گھوڑوں کا شوق | ولید گھوڑوں کا بہت شوقین تھا ان سے محبت کرنے انہیں جمع کرنے اور گھوڑ دوڑ کرنے کا بھی بہت دلدادہ تھا اس کا سندھی گھوڑا اپنے زمانے کا بہترین گھوڑا تھا اور وہ اُسے ہشام کے زمانے میں دوڑایا کرتا تھا وہ ہشام کے گھوڑے سے جو زائد کے نام سے مشہور تھا کم دیجے کا تھا، کبھی یہ اُس کے ساتھ جا ملتا تھا اور کبھی دوسرے نمبر پر آتا تھا۔

ریس کے گھوڑوں کے مراتب | یہاں دوڑنے والے گھوڑوں کے مراتب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے کو سابق، دوسرے کو مصٹی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا سر، پہلے نمبر پر آنے والے کی پیٹھ کے درمیان ہوتا ہے پھر اسی طرح تین سے نو تک ان کے مختلف نام ہیں، دسویں کو سبکت کہتے ہیں، جو گھوڑا دسویں کے بعد آئے وہ اس کو کسی شمار و قطار میں نہیں سمجھتے اور جو گھوڑا دوڑ میں سب سے آخر میں آئے اُسے فسکل کہتے ہیں۔

ولید نے رصافہ میں گھوڑا دوڑا دیا اور گھوڑ دوڑ کر اٹی اس روز ایک ہزار گھوڑوں نے گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا وہ وہاں پر کھڑا ہو کر زائد کا انتظار کرتا رہا اس کے ساتھ عمرو بن سعید بن العاص بھی تھا اس گھوڑ دوڑ میں اس کا بھی ایک گھوڑا تھا جس کا نام مصباح تھا، جب گھوڑے نمودار ہوئے تو ولید نے کہا۔

”اب کعبہ کی قسم میرے گھوڑے کمینوں کے گھوڑوں سے اسی طرح سبقت

لے گئے ہیں جیسے ہم ان سے سبقت لے گئے ہیں، اور قدیم زمانوں میں

بھی ہماری یہی کیفیت تھی کہ ہم عالی مرتبہ اور صاحب عظمت لوگ تھے۔“

ابن ولید کا گھوڑا — جسے وصال کہا جاتا تھا — سب گھوڑوں سے آگے آیا

جب وہ قریب آیا تو اس کا سوا گر پڑا اور اس کے پیچھے سعید کا مصباح نامی گھوڑا آیا

اس لحاظ سے سعید سابق قرار پایا تو سعید نے کہا اور ولید سن رہا تھا کہ

”ہم آج کمینوں کے گھوڑوں سے سبقت لے گئے ہیں اور اللہ نے عزت کو ہماری طرف لوٹا دیا ہے اور قدیم زمانوں میں بھی ہم عالی مرتبہ اور صاحب عظمت تھے۔“

ولید یہ بات سن کر سنس پڑا اور سعید کے گھوڑے کے آگے بڑھ جانے کے خدشہ سے اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ وصناح کے برابر ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو اس پر دے مارا اور اول آ گیا، ولید پہلا شخص تھا جس نے یہ حرکت کی اور گھوڑ دوڑ میں یہ طریقہ جاری کیا پھر وہی اس کے بعد یہ طریقہ مہدی نے منصور کے زمانے میں اور ہادی نے مہدی کے زمانے میں اختیار کیا پھر ولید کے سامنے دوسری ریس کے گھوڑے پیش کیے گئے، سعید کا گھوڑا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا اے ابو عبسہ ہم تمہارے ساتھ گھوڑا نہیں دوڑائیں گے کیونکہ تو نے کہا ہے کہ وہ ”ہم آج کمینوں کے گھوڑوں سے سبقت لے گئے ہیں۔“

سعید نے کہا امیر المؤمنین! میں نے اس طرح نہیں کہا تھا میں نے تو صرف یہ

کہا تھا کہ

”ہم آج کمینے گھوڑوں کے ساتھ سبقت لے گئے ہیں۔“

ولید سنس پڑا اور اسے گلے سے لگا لیا اور کہا قریش تیرے جیسے آدمی کو صنایع نہ کریں۔ گھوڑ دوڑ کے لیے گھوڑوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں ولید بن یزید کے واقعات بہت شان دار ہیں گھوڑ دوڑ میں اس کے لیے ایک ہزار گھوڑے جمع کیے گئے، ان میں زائد اور سندھی دو گھوڑوں کے نام ہیں، تھے، وہ اپنے زمانے میں سب گھوڑوں سے آگے نکل گئے تھے اس بات کا تذکرہ مورخین کی ایک جماعت جیسے ابن عقیل، اصمعی، ابو عبیدہ اور جعفر بن سلیمان نے کیا ہے ہم نے اپنی کتاب الاسط میں اس کے گھوڑوں کے اور گھوڑ دوڑ کے شان دار واقعات کو اور زائد، سندھی اور مروان کے سرنج رنگ کے گھوڑے کے واقعات اور سلف و خلف امویوں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں ان کی جامع تاریخ اور ان کے حالات و واقعات کی جھلک کو بیان کرنا مقصود ہے اسی طرح ہم نے گھوڑوں کے اخلاق و صفات ان کے اعضاء، عیوب، بناوٹ، بوڑھے اور جوان گھوڑوں اور ان کے رنگوں اور بالوں کی

بجنوری اور ان کی اچھی باتوں اور عمر کی مقدار و انتہا، بجنوریوں کے بارے میں لوگوں کے اختلافات اور اچھے اور بُرے گھوڑوں کے متعلق ذکر کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عادات نجر بات اور تیز رفتاری جیسے اوصاف وغیرہ کے لحاظ سے کم و بیش ان کی اٹھارہ قسمیں ہیں اس کے علاوہ بھی لوگوں نے گھوڑوں کے بارے میں گفتگو کی ہے جسے ہم نے اپنی پہلی کتابوں میں بیان کیا ہے۔

ابو جعفر محمد بن علی بن حسین کی وفات | ولید کے زمانے میں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب کی وفات ہوئی

اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہشام کے زمانے میں ۷۰ھ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ وہ یزید بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ میں ۷۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بقیع میں اپنے والد علی بن حسین اور دیگر اسلاف کے ساتھ مدفون ہوئے، ان کا تذکرہ ہم انشاء اللہ اس کتاب میں کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔

ولید کے بیٹوں یزید اور ابراہیم کے دورِ حکومت کا

بیان

مختصر حالات | ولید بن یزید کے قتل کے بعد ۲۳ جمادی الآخرہ کو یزید بن ولید دمشق میں حکمران بنا اور اس کی بیعت ہوئی، یزید بن ولید یکم ذوالحجہ ۱۲۶ھ کو اتوار کے روز فوت ہوا ولید بن یزید کے قتل کے بعد وہ پانچ ماہ دور اتیس حکمران رہا اس کے بعد اس کے بھائی ابراہیم بن ولید نے حکومت سنبھال لی اور دمشق میں چار ماہ تک اور بعض کہتے ہیں کہ دو ماہ تک اس کی بیعت ہوتی رہی پھر اُسے تخت سے دست بردار کر دیا گیا، فتنہ و فساد، اختلافات اور رعب و داب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا زمانہ عجیب فتنم کا تھا اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے

”ہم ہر جمعہ کو ابراہیم کی بیعت کرتے ہیں اور جس چیز کا تو والی ہے وہ ضائع ہونے والی ہے۔“

یزید بن ولید کو دمشق میں باب جابہ اور باب صغیر کے درمیان دفن کیا گیا، اس کی عمر ۳۷ سال تھی بعض کہتے ہیں کہ ۴۶ سال تھی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

ان دونوں کے دور کے حالات و اوقات کی جھلک

یزید ناقص کی تعریف | یزید بن ولید بھینکا تھا اسے یزید ناقص کہتے تھے لیکن وہ جسم و عقل کے لحاظ سے ناقص نہ تھا اس نے

اپنے بعض ازرقی فوجیوں کے نقائص بیان کیے تو انہوں نے اسے پرزید ناقص کہنا شروع کر دیا یہ اصول خمسہ توحید، عدل، وعید، اسماء اور احکام میں معتزلہ کی رائے رکھتا تھا اور ان کے قول "منزلة بين المنزلتين" اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی قائل تھا۔

توحید کے متعلق معتزلہ کا قول | باب اول — یعنی توحید — کے بارے میں بصری اور بغدادی وغیرہ معتزلہ کی رائے یہ ہے —

اگرچہ ان کی دوسری فروع آپس میں اختلاف رکھتی ہیں — کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کی طرح نہیں وہ نہ جسم ہے، نہ عرض ہے نہ عنصر ہے، نہ جزد ہے اور نہ جوہر ہے بلکہ وہ جسم، عرض، عنصر، جزو اور جوہر کا خالق ہے، دنیا اور آخرت میں جو اس اس کا اور اک نہیں کر سکتے، نہ ہی مکان و اطراف اس کا احاطہ کر سکتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا کوئی زمان و مکان اور حد و نہایت نہیں اور وہ اشیاء کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنے والا ہے وہ قدیم ہے اور اس کے سوا ہر چیز محدث نہی بنی ہوئی، فانی ہے۔

عدل کے متعلق ان کا قول | قول عدل، معتزلہ کا اصل ثانی ہے — وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ فساد کو پسند کرتا ہے اور نہ بندوں

کے افعال کا خالق ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کی وجہ سے امر و نہی پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے ارادہ کے مطابق حکم دیتا ہے اور ناپسندیدہ بات سے روکتا ہے، اس نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ اس کا ولی ہے اور جس بُرائی سے روکا ہے وہ اس سے بُری ہے اس نے انسانوں کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا نہ ہی ان سے ایسی بات کا تقاضا کیا ہے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے، کوئی شخص قبض و لبط کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کی وجہ سے ہی رکھتا ہے وہ اکیلا ہی اس قدرت کا مالک ہے وہ جب چاہے اُسے فنا کر دے اور جب چاہے اُسے باقی رکھے۔

اور اگر چاہے تو اپنی اطاعت کے لیے مخلوق پر جبر کرے وہ اپنی معصیت کے وقت اضطرابی طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس بات (بالجبر اطاعت کرانے) پر قادر ہے مگر وہ ایسا کرتا نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آذنائش ختم ہو جائے گی۔

وعید کے متعلق ان کا قول | قول وعید — معتزلہ کا اصل ثالث ہے — وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبائر کے مرتکب کو توبہ کرنے سے

ہی بخشا ہے وہ اپنے وعدہ و وعید میں سچا ہے اور وہ اپنی بات کو نہیں بدلتا۔

منزلة بين المنزلتين کے متعلق ان کا قول | قول منزلة بين المنزلتين — معتزله کا اصل رابع ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا

مترکب نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ وہ فاسق ہے اس کا ہی نام سماعت میں آیا ہے اور نمازیوں نے اس کے فسق پر اتفاق کیا ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کا نام معتزله یعنی الگ ہونے والے رکھا گیا ہے اور یہ باب اسماء و احکام سے موصوف ہے ان کا کہنا ہے کہ فاسق کے لیے ہمیشہ آگ میں رہنے کی وعید بیان ہوئی ہے۔

امر بالمعروف کے متعلق ان کا قول | امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کا قول معتزله کا اصل خامس ہے — وہ یہ ہے

کہ تمام مومنین پر حسب استطاعت تلوار اور اس سے کمتر چیز کو استعمال کرنا واجب ہے خواہ وہ جہاد کی طرح ہو، نیز کافر اور فاسق کے ساتھ جہاد کرنے میں کوئی فرق نہیں۔

ان باتوں پر معتزله کا اتفاق ہے، جو ان اصولِ خمسہ کا معتقد ہو وہ معتزلی ہے اور اگر ان میں سے زیادہ یا کم کا معتقد ہو تو وہ معتزلی کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے ان کے علاوہ دیگر فروع میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

امامت کے متعلق اختلاف | ہم نے اپنی کتاب "المقالات فی اصول الدیانات" میں ان کے اصول و فروع کے بارے میں ان کے دیگر

اقوال اور امت کے دیگر فرقوں جیسے خوارج، مرجئہ، انفسہ، زیدیہ، حشویہ وغیرہ کے اقوال کو بھی بیان کیا ہے نیز ہم نے "الابانۃ" کے نام سے ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے جس میں معتزله اور امامیہ کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے اور ہر فریق کے امتیازات کا بھی ذکر کیا ہے، معتزله اور دیگر فرقوں کا یہ خیال ہے کہ امامت، امت کا اختیار ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معین آدمی کے متعلق نص بیان کی ہے نہ ہی مسلمانوں نے کسی معین آدمی پر اتفاق کیا ہے اس کا اختیار امت کو تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی آدمی کو چن لے جو امت میں اپنے احکام کا نفاذ کرے خواہ وہ شخص قرشی ہو یا کوئی دوسرا، عادل و مومن

مسلمان ہو، وہ اس بارے میں نسب وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے کہ ہر دور کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ امت میں سے کسی آدمی کا انتخاب کر لیا کریں۔
تمام معتزلہ اور زیدیہ کی ایک جماعت جیسے حسن بن صالح بن یحییٰ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ قریش اور دیگر لوگوں کو امام بنانا جائز ہے جیسا کہ ہم قبل انہیں اس کتاب میں مشام کے واقعات میں بیان کر آئے ہیں۔

سوائے چند چھوٹے چھوٹے گروہوں کے تمام خوارج بھی اسی کے قائل ہیں جیسے اباضیہ وغیرہ۔ ان گروہوں کا خیال ہے امام کا تقرر واجب نہیں پہلے اور پچھلے معتزلہ میں سے کچھ لوگوں نے اس قول میں ان سے موافقت کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امت عادل ہو اور اس میں کوئی فاسق نہ ہو تو اسے امام کی ضرورت نہیں، اور اس قول کے قائلین نے دلائل بھی دیے ہیں جن میں ایک دلیل حضرت عمر بن الخطاب کا یہ قول ہے کہ اگر سالم (ابو حذیفہ کا غلام) زندہ ہوتا تو مجھے کچھ اندیشہ نہ ہوتا آپ نے یہ بات اہل شوریٰ کو امر امامت سپرد کرتے وقت کہی، مورخین بیان کرتے ہیں کہ سالم، ایک انصاری عورت کا غلام تھا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دوسرے مومنین میں جائز نہ سمجھتے تو یہ بات نہ کہتے اور ابو حذیفہ کے غلام سالم کی وفات پر اظہار افسوس نہ کرتے نیز وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح احادیث مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ

”نکٹے غلام کی بھی سمع و اطاعت کرو۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے بڑا معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے حضرت امام ابو حذیفہؓ اکثر مرجئہ اور جارودیہ میں اکثر زیدیہ اور شیعہ کے دیگر فرقے، رافضیہ اور زیدیہ کا خیال ہے کہ امامت فقط قریش میں جائز ہے کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”امامت قریش میں ہے۔“ نیز آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ

”قریش کو مقدم کرو اور ان سے آگے نہ بڑھو۔“

مہاجرین نے سقیفہ کے دن انصاریہ کے سامنے یہی دلیل دی کہ امامت قریش میں ہے کیونکہ وہ جب والی بنتے ہیں تو انصاف کرتے ہیں اور بہت سے انصاریہ نے اس طرف

رجوع کر لیا تھا۔

امامیہ اس لحاظ سے منقر وہیں کہ امامت خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی نص سے معین امام، اس کے نام اور مشہوری سے ہو سکتی ہے دیگر امداد میں بھی لوگ ظاہری یا باطنی طور پر حجت الہی (امام) سے خالی نہیں ہوئے اگرچہ وہ اپنی جان کے خوف سے تقیہ کرتا ہو۔

انہوں نے بہت سے عقلی دلائل اور نصوص سے امامت کے وجوب اور ائمہ کی عصمت پر استدلال کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے "انی جاعلک للناس اماماً" (میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں) اور حضرت ابراہیم کا یہ سوال بھی کہ "ومن ذریعتی" (اور میری اولاد کو بھی؟) اور خدا تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دینا بھی کہ لا ینال عہدی الظالمین (میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں) وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دلائل دیے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ امامت اللہ تعالیٰ کی نص سے ہوتی ہے اگر اس کی نص لوگوں کے بارے میں ہوتی تو حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ امام کو وہی چننا ہے اور "لا ینال عہدی الظالمین" کی دلالت اس بات پر ہے کہ اس کا عہد اس کے ساتھ ہے جو ظالم نہیں۔

ان لوگوں نے امام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امام نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور اس پر حد کا قیام اسی طرح ضروری ہو جاتا ہے جس طرح وہ دوسروں پر حد قائم کرتا ہے پس امام کو ایک اور امام کی ضرورت پڑے گی اور یہ سلسلہ لا متناہی طور پر چلتا جائے گا اور اس کے متعلق یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باطن میں فاسق و فاجر اور کافر ہو۔

اس کا تمام مخلوق سے زیادہ عالم ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ عالم نہ ہو تو خدشہ ہے کہ احکام الہیہ کو بدل دے اور جس پر حد واجب ہے اس کا قطع کر دے اور جس پر قطع واجب ہے اسے حد لگا دے اور احکام الہیہ کو بے موقع استعمال کرے۔ اس کا تمام مخلوق سے شجاع ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خازن اور ان

ہے اور اگر وہ سخی نہ ہوتا اس کا دل اموال کی طرف مائل ہو جائے گا اور جو لوگوں کے پاس اموال موجود ہیں ان کا حریص ہو جائے گا اور اس بارے میں آگ کی سخت وعید آئی ہے، انہوں نے بہت سی صفات کا ذکر کیا ہے جس سے امام فضیلت کے ایسے درجات پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کا سہم و شریک نہیں ہو سکتا، ان کے بقول یہ سب باتیں حضرت علی اور ان کی اولاد میں پائی جاتی ہیں کہ وہ ایمان ہجرت، قرابت، انصاف، جہاد فی سبیل اللہ، تقویٰ اور زہد میں سب سے آگے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں ان کے ظاہر و باطن کی موافقت کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے یتیم، مسکین اور اسیب کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور یہ محض رمضان کے لیے تھا سورہ دہر اور انہوں نے یہ بات صرف زبان سے نہیں کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن انجام کے متعلق بھی اطلاع دی ہے اور پھر اس نے ان سے رحمت کو دہرا دیا ہے اور ان کی تطہیر کی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسنؑ پھر حسینؑ کے لیے نص بیان کی ہے، اور حضرت حسینؑ نے علی بن حسینؑ کے متعلق نص بیان کی، اسی طرح وہ بارہویں امام تک بیان کرتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں کسی دوسری جگہ ان باتوں کو بیان کیا ہے۔

اس وقت یعنی ۳۳۲ھ تک، امامیہ فرقے نے غیبت اور لقیہ کے استعمال کے متعلق ائمہ اور وصیوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اُسے اس کتاب میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب ہے اور ہم صرف ان مذاہب و آراء کی ایک جھلک ہی پیش کر سکتے ہیں۔

امامیہ کے سوا، اصحاب الدور اور سیرورہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اور ظہور کے متعلق ان کے جو خیالات ہیں ظاہر و باطن، سائبر و دائر اور دافر اور دیگر امور و اسرار کے متعلق جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اُسے ہم اپنی گزشتہ کتب میں بیان کر چکے ہیں۔ مسعودی بیان کرتا ہے کہ غوطہ و مشق کے مزہ، معتزلہ اور اہل داریا کی افشا کردہ باتوں کی وجہ سے ولید بن یزید کو دمشق سے نکالا گیا کیونکہ اس کا فسق واضح ہو چکا تھا اور سب لوگ اس کے ظلم کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے، ہم ولید کے قتل کا واقعہ مفصل طور پر اپنی پہلی کتب میں اور مجمل طور پر اس کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔

یزید پہلا حکمران تھا جس کی ماں اُم ولد تھی اس کی ماں کا نام
سادیہ بنت فیروز بن کسری تھا وہ اس بارے میں کہا کرتا

تھا کہ

”میں کسری کا بیٹا ہوں اور میرا باپ مروان ہے اور قیصر و خاقان میرے
نانے ہیں۔“

اس کی کنیت ابو خالد تھی اور اس کے بھائی ابراہیم کی ماں اُم ولد تھی جسے دبرہ
کہا جاتا تھا، معتزلہ دین کے باریے میں یزید بن ولید کو، حضرت عمر بن عبد العزیز پر
فضیلت دیتے ہیں۔

۱۲۷ھ میں مروان بن محمد (الجمار) کا ظہور

آکر دمشق میں داخل ہو گیا اور ابراہیم بن ولید
دمشق سے بھاگ گیا پھر مروان نے اس پر قابو پا کر اس کو قتل کر کے صلیب دے دیا، اس
کے مددگاروں اور دوستوں کو بھی قتل کر دیا، عبد العزیز بن حجاج اور یزید بن خالد قسری
کو بھی قتل کر دیا اور بنی امیہ کی حکومت میں کمزوری کا آغاز ہو گیا۔

یحییٰ نے خلیل بن ابراہیم سبعی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ابن
الجمعی کو کہتے سنا کہ مجھے العلاء بن بنت ذمی الکلاخ نے بتایا وہ سلیمان بن عبد الملک کا
بہت محب تھا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اس وقت خراسان اور مشرق میں
مسودہ کی حکومت بن گئی تھی جو جبل اور عراق کے قریب تک آگئی تھی اور بنی امیہ اور
ان کے حامیوں میں لوگ غلط افواہیں اور دشمن کی باتیں اڑا رہے تھے، العلاء
بیان کرتا ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ تھا وہ اپنے باپ کے سبزہ زادہ کے بالمقابل
بیٹھ کر شراب پی رہا تھا یہ یزید ناقص کے دور کے آخری دنوں کی بات ہے وہ اس
وقت دادی کا حاکم تھا اور عرجی کا یہ شعر گاہا تھا کہ

”محبوب کا سامان شام کو چلا گیا ہے اور تیرے آنسو ہمیشہ بہتے رہیں
گے۔ جیسا کہ لازم پکڑ تو چینیں مار مار کر رو یا ہے کاش رونے والے کو
اس کا چیخنا کچھ فائدہ مند ہو ان بار برداری کے جانوروں کا کیا کہنا اور
اس شخص کا بھی کیا کہنا جو وہاں پر موجود ہے اور اس کے ہم مرتبہ لوگوں کا

بھی کیا کہنا۔

اس نے جو چاہا اچھی طرح پڑھا اور سلیمان ایک رطل شراب پی گیا ہم نے بھی اس کے ساتھ شراب پی یہاں تک ہم نے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنالیا اور میں سلیمان کے ہلانے سے بیدار ہوا اور اٹھ کر جلدی سے اس کے پاس گیا اور اُسے کہا۔
امیر کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھے کہا ذرا کھڑ جاؤ، میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں دمشق کی مسجد میں ہوں اور ایک آدمی ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہے اس کے سر پر تاج ہے جس کے جواہرات کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے ان اشعار کو پڑھ رہا ہے۔

”اے بنو امیہ تمہاری پراگندگی اور تمہاری حکومت کے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ حکومت تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی اور ظالم دشمن اس حکومت کے محسنوں اور اچھے آدمیوں کو پکڑ لے گا اور پھر انہیں تکلیف دے گا۔ ہر اچھے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بڑے کاموں پر جو اس نے کیے ہیں یا کرے گا ہلاکت ہو۔“

میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، میں اس کی یادداشت سے حیران رہ گیا کیونکہ وہ حافظہ والا آدمی نہ تھا اس نے تھوڑی دیر میں جھکانے کے بعد کہا اے حمیری جو بات دور تھی زمانہ اُسے قریب لارہا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم کبھی شراب کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔

اور ۱۳۲ھ آ گیا اور مسودہ اور مروان بن محمد جعدی کی حکومت کا جو کچھ ہونا تھا

وہ ہوا۔

امویوں کی حکومت کے زوال کا سبب المنقری بیان کرتا ہے کہ بنو عباس کے پاس حکومت منتقل ہو جانے کے بعد

بنی امیہ کے کسی شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جن باتوں کی جستجو کرنا ہمیں لازم تھا ہم ان کو چھوڑ کر اپنی لذات میں منہمک ہو گئے اور اپنی رعیت پر ظلم کیا، وہ ہمارے انصاف سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا اور ہم نے خراج ادا کرنے والوں پر

یوجہ ڈال دیا تو وہ ہم سے الگ ہو گئے اور ہماری جاگیریں برباد ہو گئیں اور بیت المال خالی ہو گئے، ہم نے اپنے وزراء پر اعتماد کیا تو انہوں نے اپنے فائدے کو ہمارے فائدے پر ترجیح دی اور انہوں نے ہم سے پوشیدہ طور پر کچھ کام کیے جن کا علم انہوں نے ہمیں نہ دیا، ہماری فوجوں کو بروقت تنخواہ نہ ملی تو وہ ہماری اطاعت سے دست کش ہو گئیں اور انہوں نے ہمارے دشمنوں کو بلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ میں ان کی مدد کی اور ہمارے دشمنوں نے ہمیں مقابلہ کے لیے بلایا تو مددگاروں کی قلت کی وجہ سے ہم ان کے مقابلہ سے عاجز آ گئے اور ہماری حکومت کے زوال کا سب سے زبردست سبب ہم سے ہمارے حالات کی پوشیدگی تھی۔

نزاریہ اور یمانیہ کے درمیان دھڑے بندی کے سبب کا بیان

کمیت، اپنے اشعار فرزدق کو دکھاتا تھا | ابو الحسن علی بن محمد بن سلیمان نوفلی بیان کرتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے بتایا کہ جب کمیت بن زید اسدی نے — جو اسد بن نزار سے تھا — العاشمیات کہے تو وہ بصرہ آیا اور فرزدق کو کہنے لگا اے ابو فراس میں تیرا بھتیجا ہوں، اس نے کہا تو کس قبیلے سے ہے تو اس نے اُسے اپنا حسب نسب بتایا، فرزدق نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے تجھے کیا کام ہے اس نے جواب دیا میری زبان میں جادو ہے اور تو مفسر کا شیخ اور شاعر ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنا کلام تجھے دکھاؤں اگر وہ اچھا ہو تو مجھے اس کی اشاعت کا حکم دے دینا اور اگر اچھا نہ ہو تو مجھے اس کے شائع نہ کرنے کا حکم دے دینا میں اُسے چھپا کر دکھ لوں گا اس نے کہا میرے بھتیجے میرا خیال ہے کہ تیرے اشعار تیری عقل کے مطابق ہوں گے، اچھا جو کلام تو نے کہا ذرا لاؤ تو سہی تو اس نے شعر پڑھا

”اور میں تلواروں کا شوق رکھنے کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا اور نہ مجھے کھیل کا شوق ہے اور بوڑھا آدمی کھیلنا بھی ہے۔“

فرزدق نے کہا کھیلو! تو اس نے کہا

” اور نہ مجھے کسی گھر نے اور نہ کسی گھر کے نشانات نے شوق دلایا ہے
اور نہ مجھے زنگ دار انگلی نے خوش کیا ہے۔“

فرزوق نے کہا پھر تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا

” اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا مقصد پرندوں سے فال لینا ہوتا
ہے کہ کیا کوآ بولا ہے یا لومڑی سلنے آئی ہے۔“

فرزوق نے کہا تیرا بڑا ہو پھر تو کیا ہے اور کس کی طرف چڑھائی کرتا ہے اس نے کہا

” اور میں اچھے بڑے تنگن سے صحیح و سلامت گزر جاتا ہوں۔“

فرزوق نے کہا یہ تو تو نے بہت اچھا کہا ہے، تو اس نے کہا

” بلکہ میں صاحب فضل و عقل اور حوا کے بہترین بیٹوں کی طرف جانا ہوں اور
بھلائی ہی مطلوب ہوتی ہے۔“

فرزوق نے پوچھا تیرا بڑا ہو وہ کون ہیں، اس نے کہا

” ان سفید رو لوگوں کی طرف جن کی محبت میں تکلیف اٹھا کر قرب الہی
حاصل کرتا ہوں۔“

فرزوق نے کہا تیرا بڑا ہو مجھے راحت پہنچا وہ کون لوگ ہیں، اس نے کہا

” وہ لوگ بنو ہاشم ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے
میں ان کے لیے کسی بار نارض اور راضی ہوتا ہوں۔“

فرزوق نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا کہا ہے جب تو مصائب اور اوباش

لوگوں سے بچ کر رہا تو تیرا تیرا خطا نہیں جائے گا اور نہ تیری بات کو جھٹلایا جائے
گا پھر وہ بصرہ سے گزرا تو اس نے اسے کہا سواد ہو پھر سواد ہو اور دشمنوں کے
متعلق تدبیر کر، خدا کی قسم تو گزشتہ اور آئندہ آنے والوں سے بڑا شاعر ہے۔

کمیت کا اپنے اشعار علی ابی جعفر محمد بن علی کو دکھانا | تب وہ مدینہ آیا اور ابو جعفر
محمد بن علی بن حسین بن علی کو

ملا۔ انہوں نے رات کو اسے ملاقات کی اجازت دی جب وہ قصیدہ میمیکے اس شعر پر پہنچا

” اور طف کے مقتول کو ذیل اور کینے لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا۔“

تو ابو جعفر روپڑے پھر کہنے لگے اے کمیت اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم تجھے

عطا کرتے لیکن تیرے لیے وہی بات کافی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حسان بن ثابت سے کہی تھی جب تک تو ہم اہل بیت کا دفاع کرتا رہے گا تو ہمیشہ رُوح القدس سے مؤید رہے گا پھر وہ آپ کے ہاں سے چلا گیا۔

اس کا علی عبد اللہ بن حسن کو اشعار دکھلانا | پھر وہ عبد اللہ بن حسن بن علی کے پاس آیا اور آپ کو اشعار سنائے آپ نے

فرمایا اے ابوالمستعمل! میری ایک جاگیر ہے میں نے اس میں سے تجھے چار ہزار دینار عطا کیے، یہ اس کی تحریر ہے اور میں نے تیرے لیے اس پر گواہوں کی گواہی ڈال دی ہے اور اُسے یہ تحریر پکڑا دی، اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں دوسرے لوگوں کے متعلق شعر کہہ کر دنیا اور مال کماتا ہوں مگر نجد آپ کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صرف رضائے الہی کے لیے ہے اور جو بات میں نے اللہ تعالیٰ کی رضائے اللہ کے لیے کہی ہے اس پر میں مال اور قیمت نہیں لوں گا، حضرت عبد اللہ نے اصرار کیا اور اس کے مال چھوڑنے کو قبول نہ کیا۔ تو کمیت تحریر لے کر چلا گیا پھر کئی دن کے بعد عبد اللہ کے پاس آکر کہنے لگا اے پسر رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے ایک کام ہے آپ نے دریافت فرمایا کیا کام ہے تیری تمام ضروریات پوری ہو چکی ہیں اس نے کہا ایک بات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا اچھا، وہ کہنے لگا اس تحریر کو قبول فرمائیے اور جاگیر واپس لے لیجیے اور تحریر آپ کے سامنے رکھ دی تو عبد اللہ نے اُسے بوسہ دیا۔

عبد اللہ بن جعفر کا کمیت کو بدلہ دینا | عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب اٹھے تو آپ نے ایک سخت

قسم کے کپڑے کو پکڑا اور اُسے اپنے چار غلاموں کی طرف پھینک دیا پھر آپ بنی ہاشم کے گھروں میں جا کر کہنے لگے اے بنو ہاشم یہ کمیت ہے جس نے اس وقت تمہارے بارے میں اشعار کہے جب لوگ تمہارے فضل کے اظہار سے خاموش تھے اور اس نے اپنے خون کو بنی اُمیہ کے سامنے پیش کیا، پس اسے مقدود بھر بدلہ دو پس جو کسی آدمی کے پاس درہم دو دینار ہوتے وہ انہیں اس کپڑے میں پھینک دیتا اور آپ نے عورتوں کو بھی اس بات کی اطلاع کروائی تو عورتوں نے بھی مقدود بھر چیزیں بھجوا دیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جسم سے زیورات اتار کر دے دیے تو ایک لاکھ درہم کی قیمت کے درہم دو دینار جمع ہو گئے آپ نے انہیں کمیت کے

پاس لاکر کہا اے ابوالمستحل، یہ ہماری غریبانہ کوشش ہے اور ہم اپنے دشمن کی حکومت میں رہتے ہیں، ہم نے تیرے لیے یہ مال جمع کیا ہے اس میں عورتوں کے زیورات بھی ہیں۔ جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے، ادا کرنے کی مصیبتوں کے مقابل اس مال سے مدد لے، اس نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے میں نے تو آپ کی مدد صرف خدا اور رسول کی رضا مندی کے لیے کی ہے۔ میں اس کے بدلہ میں دنیا کی قیمت نہیں لوں گا، اس مال کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیجیے، بعد اللہ نے بہت جتن کیے کہ وہ اس مال کو قبول کرے مگر اس نے انکار کر دیا تو آپ نے کہا اگر تو نے قبول کرنے سے انکار کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایسی بات کہے گا جس سے تو لوگوں کے درمیان غصہ پیدا کر دے گا اور شاید کوئی فتنہ پیدا ہو جائے اور تیرے ہاتھ سے بعض پسندیدہ چیزیں بھی جاتی رہیں تو کمیت نے اس قصیدہ کا آغاز کیا جس میں اس نے اپنی قوم جو مضر بن نزار بن معد اور ربیعہ بن نزار اور نزار کے دو بیٹوں ایاد اور انمار سے ہے کے مناقب بیان کیے اس میں وہ ان کے فضائل اور اوصاف کو بڑی تفصیل اور طوالت سے بیان کرتا ہے کہ وہ قحطان میں سب سے افضل ہیں پس اس نے اس قصیدہ کے ذریعہ بمانیہ اور نزار یہ کے درمیان غصہ پیدا کر دیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس قصیدہ کا پہلا شعر یہ ہے

”اے مدینہ تجھے ہماری طرف سے سلام ہو کیا لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔“
 یہاں تک کہ اس نے تصریح کے ساتھ مین پر تعریف کی کیونکہ وہاں حبشیوں اور دیگر لوگوں میں کچھ گڑبڑ تھی، وہ کہتا ہے

”فلک کے تمام ستارے اور چاند ہمارے لیے ہیں، راہ چلتے والوں کے ہاتھ اسی کی طرف اشارے کرتے ہیں جب اللہ نے نزار نام رکھا اور انہیں مکہ میں بسایا تو اس نے ہمارے لیے خالص خوبیاں بنائیں، اور لوگوں کے لیے گدیاں اور ہمارے لیے پیشانیوں بنائیں اور نزار کی اونٹنیاں، عجم کے دو کوبانوں والے اونٹوں سے جفتی نہیں ہوئیں اور نہ انہوں نے گدھوں کو اسیل اور پاکیزہ گھوڑیوں پر ڈالا ہے کہ وہ پیسے حاصل کر لیں نہ ہی نزار کی عورتیں سیاہ اور سرخ فام لوگوں کی بیویاں بنی ہیں۔“

و عیال خزاہی نے کیفیت کے اس قصیدے اور
دیگر قصائد کا جواب لکھا اور یمن اور اس کے

بادشاہوں کے فضائل کا ذکر کیا اور کمیت کی طرح صراحت کے ساتھ دوسرے لوگوں پر
تعریف کی اس قصیدے کا آغاز یوں ہوتا ہے۔

”اے پاکلی میں بیٹھی ہوئی عورت ذرا ہوش میں آ، چالیس سال کا گزر جانا
ہی تیرے لیے کافی ملامت کی بات ہے کیا تجھے زمانے کی نئی باتوں نے
آزدہ نہیں کیا جو زلفوں اور مینڈھیلوں کو سفید کر دیتی ہیں کیا میری قوم
کے روشن سرداروں کی جانب سے اسے مدینہ تجھے سلام کہا گیا ہے
اگر آل اسرائیل تم میں سے ہے تو تم عجمیوں پر فخر کرتے ہو پس تو ان خنزیروں
کو نہ بھول جنہیں ذلیل بندروں کے ساتھ مسخ کر دیا گیا تھا کے کھنڈرات
و نشانات ابلہ اور خلیج کے علاقے میں موجود ہیں اور ابھی وہ مٹے نہیں
ہیں اور کمیت کینہ توڑ شخص کی طرح مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ہماری ہجو ہماری
نصرت کے لیے کی گئی ہے اور نزار کو پتہ لگ چکا ہے کہ میری قوم نبوت
کی مدد کرنے پر فخر کا اظہار کرتی ہے۔“

یہ ایک طویل قصیدہ ہے، کمیت
کے اشعار نزار یہ اور میانہ میں
پھیل گئے، نزار نے یمن پر اور
دھڑے بندی بھی ایک سبب تھا

یمن نے نزار پر فخر کا اظہار کیا، ہر فرقہ نے اپنے اپنے مناقب بیان کیے اور لوگ
پارٹیوں میں بٹ گئے اور شہر و دیہات میں دھڑے بندی نے جوش مارا اور اس سے
مردان بن محمد جدی کی حکومت اور یمن کے متعلق نزار کے قومی تعصب نے جنم لیا اور یمن
نے بنی امیہ سے انحراف کر کے دعوت عباسی کی طرف توجہ کر لی اور حکومت بنی امیہ سے
بنی عباس کی طرف منتقل ہو گئی پھر اس کے بعد یمن میں معن بن زائدہ کا واقعہ ہوا اس
نے اپنی قوم جو ربیعہ قبیلے سے تھی کے تعصب کی وجہ سے میانوں اور نزار لوگوں کو
قتل کیا۔ زمانہ قدیم سے ربیعہ اور یمن کے درمیان جو معاہدہ تھا اسے توڑ دیا، عقبہ
بن سالم نے عمان اور بحرین میں یہی کچھ کیا اور اس نے معن کے لیے تدبیر کرتے ہوئے

اور اپنی قوم کے لیے جو قحطان سے تھی عقبہ بن سالم سے تعصب کرتے ہوئے ربیعہ کے دیگر قبائل اور دوسرے نزاریوں کو جو عمان اور بحرین میں رہتے تھے قتل کر دیا اور نزار اور قحطان کے درمیان جو تعصب پایا جاتا تھا اس سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔

مروان بن محمد بن مروان بن حکم الجعفی اور حکومت کا بیان

مختصر حالات | ۱۴ صفر ۱۲۴ھ کو اتوار کے روز دمشق میں مروان بن محمد بن مروان کی بیعت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس نے دیار مصر میں واقع حران شہر میں اپنی طرف لوگوں کو دعوت دی اور وہیں اس کی بیعت ہوئی اس کی ماں ام ولد تھی جسے ریا کہتے تھے بعض کے بقول طرونہ کہتے تھے، وہ مصعب بن زبیر کی لونڈی تھی اور اس کے قتل کے بعد اس کے باپ محمد بن مروان کی لونڈی بن گئی، مروان کی کنیت عبد الملک تھی، سلیمان بن ہشام بن عبد الملک اور دیگر بنی امیہ کے سوا سب اہل شام نے اس کی بیعت کر لی۔ دمشق میں بیعت کے روز سے لے کر ارض شام میں اس کے قتل ہونے تک اس کی حکومت پانچ سال دس دن بنتی ہے بعض کے بقول پانچ سال تین ماہ بنتی ہے، اس کا قتل ۱۳۲ھ کے آغا ز میں ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ محرم میں قتل ہوا، بعض کا خیال ہے کہ صفر میں ہوا، اس کے علاوہ بھی باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں مؤرخین اور اصحاب سیر نے اس کی مدت حکومت میں اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی مدت حکومت پانچ سال تین ماہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ پانچ سال دو ماہ دس دن تھی اور بعض کہتے ہیں پانچ سال دس دن تھی، اس کا قتل الفیوم کی بستی بوسیر میں ہوا جو سرزمین مصر میں ہے جس طرح اس کی حکومت کی مقدار میں اختلاف کیا گیا ہے اسی طرح اس کی عمر مقدار کے متعلق بھی اختلاف کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ستر سال کی عمر میں قتل ہوا بعض کہتے ہیں اہتر سال کی عمر میں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ۶۲ سال کی عمر میں قتل ہوا، جب کہ بعض کہتے ہیں کہ

وہ ۵۸ سال کی عمر میں قتل ہوا۔ ہم نے اس اختلاف کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے مورخین کی ذکر کردہ باتوں سے غفلت کی ہے یا ان کی کسی بیان کردہ بات کو ترک کر دیا ہے، اس باسے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہم نے اُسے مبسوط طور پر اپنی دو کتابوں اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان کیا ہے۔

ہم عنقریب مختصر طور پر اس کے قتل کی کیفیت، واقعات اور اس کی سیرت کے جامع واقعات اور جنگوں کو بیان کریں گے اور اموی اور عباسی حکومت کا بھی ذکر کریں گے ہم نے اموی حکومت کی جامع تاریخ کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ باب بھی قائم کیا ہے جس باب کا نام بنی امیہ کی مدت حکومت ہے اس کے بعد ہم عباسی حکومت اور ابو مسلم کے حالات و واقعات اور ابو العباس سفاح کی خلافت اور اس کے بعد آنے والے خلفائے بنی عباس کے حالات ابو اسحاق متقی باللہ ابراہیم بن المتقذر باللہ کے زمانے سے لے کر ۳۳۲ھ تک بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بنو امیہ کے دورِ حکومت کی مدت

ابو العباس سفاح کی بیعت تک بنو امیہ کے دورِ حکومت کی مدت پورے اجمالی مدت ایک ہزار ماہ بنتی ہے انہوں نے ۹۰ سال ۱۱ ماہ اور ۱۳ دن حکومت کی ہے۔

تفصیلی مدت مسعودی بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے ان کے دورِ حکومت کی تواریخ میں اختلاف کیا ہے ہم جس بات پر اعتماد کر کے بیان کر رہے ہیں

وہ اہل تحقیق اور اس عالم کے واقعات سے دلچسپی رکھنے والوں کے نزدیک صحیح ہے۔

تفصیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ۲۰ سال، یزید بن معاویہ نے ۳ سال

۸ ماہ ۴ دن، معاویہ بن یزید نے ایک ماہ ۱۱ دن، مروان بن الحکم نے ۸ ماہ ۵ دن، عبدالملک

بن مروان نے ۲۱ سال ۱ ماہ ۲۰ دن ولید بن عبدالملک نے ۹ سال ۸ ماہ ۲ دن، سلیمان بن

عبدالملک نے ۲ سال ۶ ماہ ۱۵ دن، عمر بن عبدالعزیز نے ۲ سال ۵ ماہ ۵ دن یزید بن

عبدالملک نے ۴ سال ۱۳ دن، ہشام بن عبدالملک نے ۹ سال ۹ ماہ ۹ دن، ولید

بن یزید بن عبدالملک نے ۱ سال ۳ ماہ، یزید بن ولید بن عبدالملک نے ۲ ماہ ۱۰ دن

حکومت کی ہم نے ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کے دورِ حکومت کو ایسے ہی ساقط کر دیا ہے جیسے ہم نے ابراہیم بن مہدی کے دورِ حکومت کو عباسی دورِ حکومت سے ساقط کر دیا ہے۔ مروان بن محمد بن مروان نے سفاح کی بیعت ہونے تک ۵ سال ۲ ماہ ۱۰ دن حکومت کی۔ ان سب کا میزان ۹۰ سال ۱۱ ماہ اور ۱۳ دن بنتا ہے، اس کے ساتھ ان ۸ ماہ کا بھی اضافہ کر لیا جائے جن میں مروان اپنے قتل ہونے تک بنی عباس سے برسرِ پیکار رہا تو ان کی مدتِ حکومت ۹۱ سال ۷ ماہ ۱۳ دن بنتی ہے۔

اس مدت سے حسن بن علی کا زمانہِ خلافت جو ۵ ماہ ۱۰ دن بنتا ہے اور عبداللہ بن زبیر کے قتل ہونے تک کا زمانہ جو ۷ سال ۱۰ ماہ اور تین دن بنتا ہے وضع کر دیا جائے تو باقی ۸۳ سال ۴ ماہ بچتے ہیں اور یہ پورا ایک ہزار ماہ بنتا ہے۔

بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تاویل بنو امیہ کے دورِ حکومت سے کی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنو عباس، بنی امیہ سے دگنی حکومت کریں گے ایک دن کے بدلے دو دن، ایک ماہ کے بدلے دو ماہ اور ایک سال کے بدلے دو سال اور ایک خلیفہ کے بدلے دو خلیفے حکومت کریں گے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ بنو عباس ۱۳۲ھ میں بادشاہ بنے اور بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس کے بادشاہ بننے سے لے کر اس وقت یعنی ۳۳۲ھ تک ان کی حکومت کے دو سو سال بنتے ہیں ابو العباس سفاح کی بیعتِ خلافت ربیع الآخر ۱۳۲ھ میں ہوئی اور ہم اس کتاب کی تصنیف کے وقت ربیع الاول ۳۳۲ھ کو ابو اسحاق متقی لہ کی خلافت کے زمانے تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کے بعد آئندہ کب تک ان کی حکومت قائم ہے گی، ہم اپنی گذشتہ کتب "اخبار الزمان" اور "اللاوسط" میں ان کے شان دار واقعات ان کے اسماء کے فواد اور ان کے عہد و پیمان، وصایا، مراسلات جنگوں اور انہ ارقہ اور اباضیہ وغیرہ خوارج کے حالات اور طالبیوں میں سے حق کا مطالبہ کرنے والوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں اور ان کے زمانے میں قتل ہونے والوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد بنی عباس کے خلفاء کا متقی لہ کی خلافت تک یعنی

۳۳۲ھ تک ذکر کیا ہے اس کتاب میں ہم نے جو مکمل تاریخ بیان کی ہے وہ تفصیلی تاریخ سے جس کی تفصیل ہر خلیفہ کے دور حکومت میں بیان ہو چکی ہے، ایک دن یا دس دن یا ایک ماہ کا اختلاف رکھتی ہے یہ بات ان کی تاریخ اور سالوں اور مفصل مدت پر اعتماد کر کے بیان کی گئی ہے۔ واللہ اعلم

دولتِ عباسیہ کا بیان

اول

مروان کے حالات و واقعات اور قتل و محرکہ آرائیوں کا ذکر

خلافت کے متعلق راوندیہ کا قول | قبل ازیں ہم کتاب الاوسط میں راوندیہ کے اقوال کا ذکر کر چکے ہیں یہ عباس بن عبدالمطلب کی اولاد کے شیعہ ہیں جو خراسان وغیرہ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بعد امامت کے سب سے زیادہ حق دار عباس بن عبدالمطلب تھے کیونکہ یہ آپ کے چچا، وارث اور عصبہ تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وادوا الارحام بعضہما ولی بعض فی کتاب اللہ" اور یہ کہ لوگوں نے آپ کے حق کو چھین لیا آپ کی حق تلفی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو انہیں واپس کیا اور یہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے اظہار بیزاری کرتے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالبؓ کی بیعت کو آپ کی اجازت سے جائز قرار دیتے ہیں اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا اے میرے بھتیجے، میری طرف آ کہ میں تیرے لیے بیعت لوں، پھر تیرے بارے میں دو آدمی بھی اختلاف نہیں کریں گے، اور یہ کہ داؤد بن علی نے ابوالعباس کی بیعت کے روز کوفہ کے منبر پر کہا تھا اے اہل کوفہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم میں علی بن ابی طالب کے سوا کوئی امام کھڑا نہیں ہوا پھر یہ ابوالعباس تم میں کھڑا ہونے والا امام ہے۔

۱۔ ترجمہ - اور قرابت دار اللہ کی کتاب میں بعض بعض سے نزدیک تم میں راہزاد آیت ۲۱

حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو | ان لوگوں نے جس مفہوم کا ادعاء کیا ہے اس کے

متعلق کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جو اس فرقہ کے لوگوں کے ہاں متداول ہیں جن میں سے ایک کتاب عمرو بن بحر الجاحظ نے لکھی ہے جو "امامہ ولد العباس" کا ترجمہ ہے جس میں اس مذاہب کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور فدک وغیرہ کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عمل اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس قصہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے باپ کا وراثہ طلب کیا اور اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں اور ام ایمن کو گواہ بنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور جو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور جو کچھ انہیں ان کے باپ کے حوالہ سے کہا گیا سب کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "نحن معاشر الانبياء لا نراث ولا نورث" کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ورث سليمان داود" کہ سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے حالانکہ نبوت تو وراثہ میں نہیں ملتی لہذا تو وارث ہی باقی رہ گیا اور اس قسم کی اور باتیں بھی ہوئیں جا حفظ نے یہ کتاب تصنیف نہیں کی اور نہ ہی اس میں راوندیہ کے دلائل کا استفادہ کیا ہے۔ راوندیہ حضرت عباس کی اولاد کے شیعہ ہیں مگر جا حفظ کا نہ یہ مذہب تھا اور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا تھا۔ اس نے یہ کام بطور ظرافت طبع کیا ہے۔

جا حفظ کی تصنیف، العثمانیہ | جا حفظ نے ایک اور کتاب تصنیف کی ہے جس میں اپنے پاس سے بہت دلائل دیے ہیں اور اُسے

عقلی دلائل سے مؤید کیا ہے اس کتاب کا نام "العثمانیہ" ہے جس میں وہ اپنے دلائل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے اور حق کو ختم کرنے اور اہل حق کی مخالفت کے لیے دوسروں کے لیے اس سے استدلال کرتا ہے مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ خواہ کافر ناپسند ہی کریں۔

اس نے "العثمانیہ" کی تصنیف پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک اور کتاب مرادانیہ کی امامت اور ان کے شیعہوں کے اقوال کے متعلق

لکھی ہیں نے اس کتاب کو دیکھا ہے اس کا نام ہے "امامہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان" یہ کتاب اس نے حضرت علیؑ اور ان کے رافضی شیعوں سے انتقام لینے کے لیے لکھی ہے وہ اس میں مروانیہ کے آدمیوں کا ذکر کرتا ہے اور بنی امیہ وغیرہ کی امامت کی تائید کرتا ہے، پھر اس نے "مسائل العثمانيہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان باتوں کا ذکر کرتا ہے جو اس سے رہ گئی تھیں اور خود ہی امیر المومنین حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کا نطق کرتا ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

شیعہ کا جاہظ کی کتب کا رد کرنا | جاہظ کی کتب جیسے "العثمانیہ" وغیرہ کا شیعہ متکلمین کی ایک جماعت جیسے ابو عیسا وداق

اور حسن بن موسیٰ نخعی وغیرہ نے رد لکھا ہے اور جو کچھ اس نے مجتمع اور متفرق طور پر امامت کے متعلق ذکر کیا ہے اس کی تردید کی ہے۔

معتزلہ کا العثمانيہ کی تردید کرنا | معتزلہ کے بغدادی شیوخ، اوسا، زہاد اور دیندار لوگوں میں سے ایک آدمی نے جاہظ کی کتاب العثمانيہ

کا رد لکھا ہے جو حضرت علیؑ کی تفصیل اور مقتول کی امامت کا قائل ہے۔ اس کا نام ابو جعفر محمد بن عبد اللہ اسکافی ہے، جس کی وفات ۲۴۰ھ میں ہوئی اسی سال حضرت امام احمد بن حنبلؑ فوت ہوئے، ہم اس کتاب میں جاہظ اور دیگر معتزلہ کی وفات کا بھی ذکر کریں گے اگرچہ ہم اپنی پہلی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں۔

امامت کے متعلق جریانیہ کی رائے | کیسانہ، جو محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں میں سے جو لوگ متاخرین راندیہ میں

ممتاز ہوئے وہ جریانیہ ہیں یہ ابو مسلم عبد الرحمن بن محمد کے اصحاب ہیں جو عباسی حکومت کا سا نھی تھا، اس کا لقب جریان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کے بعد محمد بن حنفیہ امام ہیں اور محمد نے اپنے بیٹے ابو ہاشم کو وصیت کی تھی اور ابو ہاشم نے علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب کو وصیت کی تھی اور علی بن عبد اللہ نے اپنے بیٹے محمد بن علی کو وصیت کی تھی اور محمد نے اپنے بیٹے ابراہیم کو وصیت کی تھی جو حران میں قتل ہوئے اور ابراہیم نے اپنے بھائی ابو العباس بن عبد اللہ بن حارثیہ مقتول کو وصیت کی تھی۔

ابو مسلم خراسانی کا اصل | ابو مسلم کے متعلق بہت اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ عرب تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ غلام تھا جو

آزاد ہو گیا اور وہ اہل برس اور جامعین کی لستی خرطینیہ کا رہنے والا تھا، برسی کپڑے جو خرطینیہ کے نام سے مشہور ہیں اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہ کوفہ کے مصنفات میں ہے، یہ ادیس بن ابراہیم عجمی کی آمد اور مصارف کا وکیل تھا پھر اس کے دن پھرے اور تقدیر نے اُسے محمد بن علی اور پھر امام ابراہیم بن محمد سے ملا دیا، ابراہیم نے اُسے خراسان بھیج دیا اور داعیوں کو اس کی اطاعت کرنے اور اس کے احکام ماننے کا حکم دیا جس سے اس کی پوزیشن اور اقتدار مضبوط ہو گیا تو اس نے سیاہ لباس کو رواج دیا اور یہی رنگ لباس اور جھنڈوں کی زینت بنا، سب سے پہلے خراسانیوں میں سے نیشاپور والوں نے سیاہ لباس پہنا ان میں سے اسید بن عبداللہ نے رواج دیا پھر یہ خراسان کے اکثر شہروں اور اضلاع میں پھیل گیا۔ بلاؤ خراسان میں ابو مسلم کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور مروان بن محمد جعدی کے ساتھی نصر بن سیار کی پوزیشن کمزور ہو گئی، اس کی ابو مسلم کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں جن میں ابو مسلم نے مکر و تدبیر سے کام لے کر بیانیوں اور نژاد یوں میں پھوٹے ڈلوادی نیز اس کے علاوہ بھی اس نے اپنے دشمن کے متعلق کئی جیسے استعمال کیے اور نصر بن سیار نے قتل ہونے تک کرمانی کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑیں جن کا ذکر ہم نے اخبار الزمان اور الاوسط میں جدیع بن علی کرمانی کے واقعات میں کیا ہے اس کے اور نصر بن سیار کے ساتھی سلم بن احوز کے درمیان جو کچھ ہوا نیز خالد بن برمک قحطیہ بن شیب اور ان کے علاوہ دعوت عباسی کے لیے خراسان میں مقیم لوگوں اور دیگر داعیوں جیسے سلیمان بن کثیر، ابو داؤد و خالد بن ابراہیم اور ان کے ہمسروں نے جو کچھ کیا اور اظہار دعوت کے وقت ان کا جو شعار تھا اور جنگوں کے وقت ان کی ندا "محمد یا منصور" کا بھی ذکر کیا ہے اور دیگر رنگوں کو چھوڑ کر سیاہ رنگ کے اظہار استعمال کا سبب بھی بیان کیا ہے۔

نصر بن سیار اور مروان بن محمد جعدی درمیان مراسلت کے

طویل مراسلت کی، اسے اس کی پوزیشن اور عباسی حکومت کے غلبہ اور ہرآن اس کی ترقی

کے متعلق بھی بتایا نیز اُسے ابو مسلم اور اس کے ساتھیوں کا حال بھی لکھا اور بتایا کہ تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اپنے خط میں یہ اشعار بھی لکھے۔

”میں خاکستر میں چنگاریاں دیکھ رہا ہوں قریب ہے کہ وہ بھڑک اٹھیں اور آگ دو لکڑیوں سے بھی بھڑکائی جاتی ہے اور جنگ کا آغاز باتوں سے ہی ہوتا ہے، اگر تم نے جنگ کی آگ کو سرد نہ کیا تو وہ ہم پر یوں مسلط ہو جائے گی کہ نوجوان بوڑھتا ہو جائے گا، میں یہ بات اندازہ تعجب کہہ رہا ہوں کاش مجھے معلوم ہوتا کہ بنی امیہ بیدار ہیں یا سو گئے ہیں اور اگر ہماری قوم سو گئی ہے تو انہیں کہہ دو کہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، پس اے مجاہد تو اپنی قیام گاہ سے بھاگ جا پھر کہہ کہ اسلام اور عرب پر سلامتی ہو۔“

جب مردان کو یہ خط ملا تو اس وقت وہ جزیرہ میں خوارج کے ساتھ مصروف پیکار تھا اور ضحاک بن قیس حروری کے ساتھ اس کی جنگیں ہو رہی تھیں یہاں تک کہ مردان نے اُسے بہت سی جنگوں کے بعد کفر توٹی اور اُس العین کے درمیان قتل کر دیا ضحاک بلاد شہرزور سے آیا تھا، ضحاک کے قتل کے بعد خوارج نے الحری الثیبانی کو سالار مقرر کر لیا اور جب الحری بھی قتل ہو گیا تو خوارج نے ابوالذلفاء ثیبان الثیبانی کو سالار مقرر کر دیا مردان کی نعیم بن ثابت جذامی سے بھی جنگیں ہوئیں اس نے مردان کے خلاف بلاد طبریہ اور اردن سے جو بلاد دشام ہیں، بغاوت کر دی یہاں تک کہ مردان نے اُسے قتل کر دیا یہ ۱۲۸ھ کا واقعہ ہے۔ مردان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ نصر بن سہب اور خراسان کے بارے میں کیا تدبیر کرے اور اُسے فتنوں اور جنگوں سے کیسے بچائے؟ مردان نے اُسے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ جو کچھ حاضر دیکھتا ہے اُسے غائب نہیں دیکھ سکتا اپنے سامنے کے مسے کو کاٹ دو، جب یہ خط نصر بن سہب کو ملا تو اس نے اپنے خاص اصحاب سے کہا تمہارے ساتھی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی مدد نہیں۔

مردان بن محمد جعدی کے بعض عادات اور اعمال | مردان اکثر جنگ کے دنوں میں عورتوں کے

قرب بھی نہیں جاتا تھا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا، ایک لونڈی اس کے سامنے آئی تو اس نے اُسے کہا :- خدا کی قسم میں تیرے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور نہ تیرے بندھن کو کھولوں گا، خراسان ابن سبیر کی مدد کے لیے لرزہ بر اندام اور شعلہ زن ہے اور ابو جرم نے اس کی گردن کو قابو کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ایرانی اور دیگر اقوام کے بادشاہوں کی سیرتوں اور ان کی جنگوں کے واقعات کا بھی مطالعہ کرتا رہتا تھا۔

اس کے ایک پیارے دوست نے اُسے عورتوں، خوشبو اور دیگر لذات کے ترک کرنے پر ملامت کی تو مروان نے اُسے کہا مجھے عورتوں سے وہ بات مانع ہے جو امیر المومنین عبد الملک کو مانع تھی اس آدمی نے پوچھا امیر المومنین وہ کیا بات تھی اس نے جواب دیا کہ افریقیہ کے والی نے عبد الملک کی طرف ایک بہت خوب صورت لونڈی بھیجی جو حسن کے تمام کمالات سے آراستہ تھی جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے اس کے حسن کو عورت سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں حجاج کا ایک خط تھا جو اس وقت دیرالجمجم میں ابن اشعث سے نبرد آزما تھا تو اس نے خط کو ہاتھ سے پھینک کر اس لونڈی سے کہا قسم بخدا تو میرے دل کی آرزو ہے، لونڈی نے کہا امیر المومنین اگر میں ایسی ہی ہوں تو آپ کو کونسی چیز مانع ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے تجھ سے اخطل کا یہ شعر روک رہا ہے :-
 ”وہ ایسے لوگ ہیں جب جنگ کرتے ہیں تو اپنے تہہ بند کس لیتے ہیں اور عورتوں کے قریب نہیں جاتے خواہ وہ طہر کی حالت میں رات گزار رہی ہوں۔“

کیا میں عیش کروں اور ابن اشعث، ابو محمد سے برسہ پیکار ہو اور اس جنگ میں عرب کے لیڈر ہلاک ہو چکے ہوں خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا پھر اس نے لونڈی کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا اور جب ابن اشعث قتل ہو گیا تو وہ پہلی لونڈی تھی جس سے اس نے خلوت کی۔

نصر کا ابن ہبیرہ کو مدد کے لیے خط لکھنا | جب نصر بن سبار، مروان کی مدد سے مالوس بن عمر بن ہبیرہ فزاری کو مدد کے لیے لکھا اور اپنے دشمن کے خلاف اس سے مدد مانگی اور اپنے خط میں یہ اشعار بھی لکھے :-

”یزید کو یہ پیغام پہنچا دے کہ بہترین قول وہ ہے جو سچا ہو اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں، میں نے ارضِ خراسان میں اندھے دیکھے ہیں اگر ان سے بچہ نکلے تو تجھے عجیب طرح بات سنائی جائے دو سال کے بچے اگر چہ بڑے ہو گئے ہیں مگر وہ دُور سے نہیں آسکتے انہیں بھٹ تیترا کا لباس پہنایا گیا ہے، اگر وہ آجائیں اور ان کے لیے وہاں کوئی تدبیر نہ ہو تو وہ جنگ کی آگ کو بھڑکا دیں گے۔“

مگر یزید بن عمر نے اُسے خط لکھا کہ کوئی جواب نہ دیا اور عراق کے فتنوں کو دُور کرنے

میں مصروف رہا۔

حجازی طالبِ حق کے داعی | خوارجِ یمن، مکہ اور مدینہ میں داخل ہو گئے اور ان کے لیڈر ابو حمزہ مختار بن عوف ازدی اور بلخ بن عقبہ ازدی تھے یہ دونوں عبداللہ بن یحییٰ الکندی کے داعی تھے جس نے اپنا نام طالبِ حق رکھا ہوا تھا اور اُسے امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا وہ رُوسائے خوارج میں سے تھا اور اباضی مذہب کا پیروکار تھا۔ یہ واقعہ ۱۲۹ھ کا ہے۔

مروان کا، خوارج سے جنگ کی تیاری کرنا | ۱۳۰ھ میں مروان بن محمد نے عبدالملک بن محمد بن عطیہ سوری کے ساتھ ایک فوج تیار کی اور اس نے دادی القریٰ میں خوارج کے ساتھ جنگ کی اور بلخ کو قتل کر دیا، ابو حمزہ بقیہ فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بھاگ گیا تو عبدالملک نے اُسے آلیا اور ان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ابو حمزہ اور اس کے اکثر خارجی ساتھی قتل ہو گئے، عبدالملک مروان کی فوج کے ساتھ جو شامیوں پر مشتمل تھی، یمن کی طرف چل پڑا، صنعاء سے عبداللہ بن یحییٰ الکندی مقابلہ کے لیے نکلا، طائف کی ایک جانب ارضِ جریش میں دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جس میں عبداللہ بن یحییٰ اور اس کے اکثر اباضی ساتھی مارے گئے باقی ماندہ خارجی حضرموت چلے گئے، وہاں کی اکثریت اس وقت یعنی ۱۳۲ھ تک اباضیہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے، ان کے اور عمان میں رہنے والے خوارج کے درمیان کوئی مذہبی فرق نہیں پایا جاتا۔ عبدالملک مروان کی فوج کے ساتھ ۱۳۰ھ میں صنعاء آیا اور سلیمان بن عبدالملک نے مروان کے خوف کی وجہ سے

جزیرہ کے خوارج کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیا تھا، عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بلاد اصفہر اور ایران وغیرہ پر چھا گیا یہاں تک کہ وہ وہاں سے خراسان کی طرف چلا گیا اور ابو مسلم نے اُسے گرفتار کر لیا، ہم اپنی کتاب "المقالات فی اصول الدیانات" میں شیعہ فرقے اور ان کے مذاہب کے عنوان کے ذیل میں ان لوگوں کا ذکر کر چکے ہیں جو اس کی امامت کے قائل اور اس کی دعوت کے مطیع ہیں۔

نصر بن سیار کی وفات | ابو مسلم کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور وہ خراسان کے اکثر حصے پر غالب آ گیا اور مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے نصر بن سیار کی پوزیشن کمزور ہو گئی تو وہ خراسان سے نکل کر اُسے میں آ گیا پھر وہاں سے ساوہ چلا گیا جو ہمدان اور اُسے کے درمیان واقع ہے اور وہیں غم کے باعث مر گیا۔

نصر بن سیار نے۔ جب وہ اُسے اور خراسان کے درمیان چلا گیا تھا۔ مردان کو ایک خط لکھا جس میں خراسان سے اپنے خروج کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ جس بات نے اُسے بے قرار کیا ہے وہ عنقریب بڑھ کر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس میں یہ اشعار بھی لکھے۔

"ہم اپنی جس بات کو چھپاتے ہیں اس کی مثال اُس بیل کی سی ہے جو ذبح کرنے والے کے قریب ہو یا اس عورت کی طرح ہے جس کے اہل اُسے دوشیزہ اور کنواری خیال کرتے ہوں اور وہ نویں مہینے میں ہو، ہم اُسے رفو کرتے ہیں حالانکہ اس کا شگاف، پیوند لگانے والے سے بڑھ گیا ہے، اور اس کی حالت اس کپڑے کی طرح ہو گئی ہے کہ جب اس میں بوسیدگی دہرائے تو وہ بڑے صاحب تدبیر کا بیگہ کو بھی دماندہ کر دیتی ہے۔"

امام ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے مروان کی چال | ابھی مروان نے یہ خط پورا نہیں پڑھا تھا کہ اس کے

ساتھیوں نے اس کے سامنے ایک ایچی کو پیش کیا جو خراسان سے ابو مسلم کی طرف سے امام ابراہیم کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اُسے اُس کے حالات اور حکومت کے متعلق آگاہ کرے۔ جب مروان نے ابو مسلم کے خط کو دیکھا تو ایچی سے کہا خوف نہ کر، تمہارے آقا نے تمہیں کتنا مال دیا ہے اس نے بتایا کہ اتنا مال دیا ہے، اس نے کہا یہ دس ہزار درہم

تمہارے لیے ہیں اور یہ معمولی ادائیگی ہے اس خط کو ابراہیم کے پاس لے جا اور جو بات ہوئی ہے اُس کے متعلق اُسے کچھ نہ بتانا اور اس کا جواب لا کر مجھے دے دینا، ایچی نے ایسے ہی کیا پس مروان نے ابراہیم کے اس خط کو جو اس نے ابو مسلم کو لکھا تھا غور سے دیکھا جس میں وہ اُسے جدوجہد اور دشمن کے خلاف تدبیر کرنے اور دیگر احکامات دیتا ہے مروان نے ایچی کو قید کر لیا اور ولید بن معاویہ بن عبد الملک کو جو دمشق کا حکمران تھا لکھا کہ وہ بقاء کے عامل کو حکم دے کہ وہ کرار اور الحمیہ نامی بستی میں جا کر ابراہیم بن محمد کو گرفتار کرے اور اُسے بہت سے سواروں کے ساتھ اس کی طرف بھجوا دے ولید نے بقاء کے عامل کو خط لکھا اور اس نے ابراہیم کو بستی کی مسجد میں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ چادر پیٹ کر لیٹے ہوئے تھے اور ولید کی طرف بھجوا دیا، ولید نے اُسے مروان کی طرف بھجوا دیا اس نے اُسے دو ماہ کے لیے قید خانے میں بند کر دیا، جب ابراہیم مروان کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کے درمیان طویل گفتگو ہوئی ابراہیم نے اُسے ڈانٹا اور مروان نے ابو مسلم کے معاملے میں جو کچھ کہا اس کا انکار کیا تو مروان نے اُسے کہا اے منافق کیا تم نے ابو مسلم کے خط کے جواب میں یہ خط نہیں لکھا اور اس نے ایچی کو بھی سامنے کیا اور کہا کیا تو اُسے جانتا ہے جب ابراہیم نے یہ کیفیت دیکھی تو خاموش ہو گئے اور سمجھ لیا کہ یہ اس کی امن گاہ سے آیا ہے۔

ابراہیم اور اس کے ساتھ ایک جماعت کا قتل | ابو مسلم کی طاقت بڑھ گئی
قید خانے میں ابراہیم کے

ساتھ بنی ہاشم اور بنو امیہ کی ایک جماعت بھی تھی، بنی امیہ میں سے عبد اللہ بن عمرو بن عبد العزیز بن مروان اور عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان تھے، مروان کو اپنے متعلق ان دنوں سے خدشہ تھا اور ان کے خروج کا بھی خوف تھا، بنی ہاشم میں سے عیسیٰ بن علی، عبد اللہ بن علی اور عیسیٰ بن موسیٰ تھے۔ ابو عبیدہ ثعلبی کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ وہ قید خانے میں ان کے ساتھ تھا۔ اس نے قید خانے میں ان پر حملہ کر دیا اور حران کی ایک جماعت جو مروان کے محبی غلاموں وغیرہ پر مشتمل تھی اس کو ٹھہری میں داخل ہو گئی جس میں ابراہیم، عباس اور عبد اللہ موجود تھے تھوڑی دیر اندر رہنے کے بعد انہوں نے باہر نکل کر کوٹھڑی کا دروازہ بند کر دیا جب ہم صبح کو وہاں گئے تو

ہم نے انہیں مردہ پایا ان کے ساتھ ان کے خادموں میں سے دو چھوٹے بچے بھی تھے جو نیم مردہ ہو چکے تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ ہم سے مانوس ہو گئے ہم نے ان سے واقعہ کے متعلق پوچھا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ عباس اور عبداللہ کے مونہوں پر تکیے رکھ کر وہ اوپر بیٹھ گئے تھے۔ یہ کچھ دیر تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے اور ابراہیم کے سر کو انہوں نے ایک چمڑے کے برتن میں ڈال دیا جس میں پسا ہوا چونا تھا وہ بھی ایک ساعت تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔

ابراہیم کے اس خط کو انہوں نے ابو مسلم کی طرف لکھا تھا، مروان نے پڑھا اس میں طویل خطاب کے بعد یہ رجزیہ اشعار بھی تھے۔

”اس بات سے بچ جس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، راستہ بڑا واضح ہے صرف تلوار کا سونٹنا باقی رہ گیا ہے۔“

ابراہیم کے قتل کی وجہ ہمارے بیان کے علاوہ اور بھی بیان کی گئی ہیں ہم نے ان سب کو الاوسط میں بیان کیا ہے اور اسی طرح قحطیہ اور ابن ہبیرہ سے جو کچھ فرات پر ہوا اس کا بھی ذکر کیا ہے قحطیہ، فرات میں غرق ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا حسن بن قحطیہ کوفہ میں داخل ہو گیا تھا۔

عبداللہ بن علی اور مروان کے درمیان الزاب کی جنگ

پہنچا اور وہاں پر پل تیار کیا، عبداللہ بن علی بھی خراسانیوں کی فوج اور ان کے سالاروں کے ساتھ مروان کے پاس آیا یہ ۲ جمادی الآخرہ ۳۳ھ کا واقعہ ہے پس مروان اور علی بن عبداللہ کی مڈ بھیر ہوئی، مروان نے اپنے سواروں کے ایک ایک ہزار اور دو ہزار کے دستے بنائے لیکن مروان اس معرکہ میں شکست کھا گیا اور اس کے بہت سے ساتھی قتل اور غرق ہو گئے، اس روز دوسرے لوگوں کے علاوہ بنی امیہ کے تین سو آدمی غرق ہو گئے، الزاب میں اس روز بنی امیہ کے جو آدمی غرق ہوئے ان میں ابراہیم بن ولید بن عبدالملک المملوع بھی تھا جو بیزید الناقص کا بھائی تھا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ مروان نے اس سے قبل ابراہیم بن ولید کو قتل اور صلیب دیا تھا الزاب میں مروان کو اور

جمادی الآخرة ۱۳۲ھ ہفتہ کے روز شکست ہوئی۔

مروان شکست کھانے کے بعد موصل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اہل حران اور مروان | اُسے داخل ہونے سے روک دیا جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت

اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے تو انہوں نے سیاہ رنگ کو اپنا لیا، وہ اپنے گھر حران میں آ گیا وہیں اس کا قیام تھا۔ اہل حران کا خدا ستیا ناس کرے جب ان کو جمعہ کے روز حضرت علی پر لعنت کرنے سے روکا گیا تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابو تراب پر لعنت کیے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وہ ایک سال تک لعنت کرتے رہے یہاں تک کہ مشرق کا معاملہ پیش آیا مسودہ کا ظہور ہوا اور مروان لوگوں کے انحراف کی وجہ سے اپنے اہل اور دیگر بنی امیہ کے ساتھ حران سے نکلا اور فرات کو عبور کر گیا، عبد اللہ بن علی نے حران کے دروازے پر اتر کر مروان کا محل گرا دیا اس نے اس پر دس کروڑ درہم خرچ کیے تھے اور مروان کے خزانوں اور اموال کو سمیٹ لیا۔

مروان اپنے خواص اور عیال کے ساتھ چلتا چلتا بلاد فلسطین و اردن میں نہراہی فطرس پر اتر آ اور عبد اللہ بن علی وہاں سے روانہ ہو کر دمشق میں آ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، اس وقت ولید بن معاویہ بن عبد الملک پچاس جانبازوں کے ساتھ وہاں موجود تھا ان کے درمیان یمن کی نزار اور نزار کی یمن پر فضیلت کے بارے میں دھڑے بندی چل رہی تھی جس کے نتیجے میں ولید بن معاویہ قتل ہو گیا، کہتے ہیں کہ اُسے عبد اللہ بن علی کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا، عبد اللہ بن علی، یزید بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان اور عبد الجبار بن یزید بن عبد الملک کے پاس آئے اور انہیں ابو العباس سفاح کے پاس پہنچا دیا اس نے دونوں کو قتل کر کے جیرہ میں صلیب دے دیا، عبد اللہ بن علی نے دمشق میں

بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور مصر میں مروان کو جا لیا، عبد اللہ بن علی نے نہراہی فطرس پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر ۸۰ سے زائد بنی امیہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا یہ ۱۵ ذوالقعدہ ۱۳۲ھ بدھ کے روز کا واقعہ ہے بلقاء میں سلیمان بن یزید بن عبد الملک قتل ہو گیا اور اس کا سر عبد اللہ بن علی کو پہنچا یا گیا، صالح بن علی، ابو عون عبد الملک بن یزید اور عامر بن اسماعیل مذحجی کے ساتھ مروان کی تلاش میں نکلا اور انہوں نے اُسے مصر میں جا لیا اور وہ وہاں پر بوسیر میں فروکش تھا، انہوں نے اس پر شب خون مارا اس کی

فوج پر حملہ کر دیا، ڈھول بجائے اور نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور آواز دی کہ ابراہیم کے بدلہ کے لیے تیار ہو جاؤ، مروان کی فوج کے آدمیوں نے خیال کیا کہ دیگر مسودہ نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے پس مروان قتل ہو گیا لیکن اس معرکہ میں اس کے قتل کی کیفیت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، اس کا قتل ۲ ذوالحجہ ۳۳ھ کو انوار کی شب کو ہوا۔

جب عامر بن اسماعیل نے مروان کو قتل کیا تو اس نے اس گرجا میں جانے کا ارادہ کیا جہاں اس کی بیویاں اور بیٹیاں موجود تھیں کیا دیکھتا ہے کہ مروان کا ایک خادم تلوار سونتے ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے خادم کو پکڑ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے مروان نے حکم دیا ہے کہ جب وہ قتل ہو جائے تو میں اس کی بیویوں اور بیٹیوں کی گردنیں اڑا دوں پس تم مجھے قتل نہ کرو خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جاتی رہے گی، انہوں نے اُسے کہا جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس پر غور کر، اس نے جواب دیا اگر میں جھوٹ بولوں تو تم مجھے قتل کر دینا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہ انہیں بستی سے نکال کر ایک ریتلی جگہ پر لے گیا اور کہنے لگا یہاں سے ریت ہٹاؤ۔ انہوں نے ریت ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں مروان نے (خلافت کا شعار) وہاں پر چادر، چھتری اور ٹیک لگانے والی سوٹی دفن کی ہوئی ہے تاکہ وہ بنی ہاشم کے پاس نہ چلی جائیں عامر بن اسماعیل نے انہیں عبد اللہ بن علی کے پاس بھجوا دیا، عبد اللہ نے انہیں ابو العباس سفاح کے پاس بھجوا دیا اور یہ چیزیں یکے بعد دیگرے خلفائے بنی عباس مقتدر کے زمانے تک حاصل کرتے رہے، کہتے ہیں کہ قتل کے روز اس پر یہ چادر موجود تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیا یہ سب چیزیں منتقلی اللہ کے پاس اس وقت (یعنی ۳۳ھ) میں رقبہ میں فروکش ہونے تک موجود ہیں یا ضائع ہو چکی ہیں۔

دختران مروان، صالح بن علی کے حصن اور قیدیوں کو صالح بن علی کے پاس بھجوا

دیا جب وہ اس کے پاس پہنچیں تو مروان کی بڑی بیٹی نے گفتگو کی اور کہا، امیر المؤمنین چچا اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت کی حفاظت فرمائے جس کی حفاظت آپ کو بھی محبوب ہے اور تمام امور میں آپ کو اپنی خاص نعمتوں سے بہرہ ور کرے اور دنیا اور آخرت میں

آپ کو عافیت بخشے ، ہم آپ کی اور آپ کے بھائی اور عم زاد کی بیٹیاں ہیں ، آپ سے ہم نے جو ظلم و زیادتی کی ہے آپ ہمیں معاف فرمادیں ، اس نے جواب دیا ہم تم میں سے کسی مرد اور عورت کو باقی نہیں چھوڑیں گے ، کیا تیرے باپ نے میرے بھتیجے امام ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو کل حران میں اپنے قید خانے میں قتل نہیں کیا ؟ کیا ہشام بن عبدالملک نے زید بن علی بن حسین بن علی کو قتل نہیں کیا اور اُسے کوفہ کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر صلیب نہیں دیا اور اس نے زید کی بیوی کو حیرہ میں یوسف بن عمر ثقفی کے سامنے قتل نہیں کیا ؟ کیا ولید بن یزید نے یحییٰ بن زید کو قتل نہیں کیا اور اُسے خراسان میں صلیب نہیں دیا ؟ کیا یزید بن معاویہ نے حسین بن علی کو ، عمرو بن سعد کے ہاتھوں اس کے اہلبیت کے سامنے قتل نہیں کیا ؟ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی مستورات کو قیدی بنا کر نہیں نکالا یہاں تک کہ وہ انہیں یزید بن معاویہ کے پاس لے گیا اور ان کے پہننے سے قبل اس نے حضرت حسینؑ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر شام کے اضلاع اور شہروں میں گھماتے ہوئے یزید کے پاس بھیجا یہاں تک کہ وہ اسے دمشق میں اس کے پاس لے گئے گویا اس کے پاس کسی مشرک کا سر بھیجا گیا ہے ۔ پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی مستورات کو قیدیوں کی طرح کھڑا کیا جنہیں شام کی جفا کا اور کینی فوج نے طمانچے مارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا استخفاف کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر جرات کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے یزید سے مطالبہ کیا کہ وہ خاندان نبوت کی مستورات کو ہمیں بخش دے پس تم نے ہم اہلبیت میں سے کس کو چھوڑا ہے ؟ کاش تم ہم سے انصاف کرتے ، مروان کی لڑکی نے کہا امیر المومنین چچا پھر بھی آپ کا عفو ہم پر حاوی ہوگا ، اس نے کہا اچھا تمہیں معاف کیا ، پھر کہنے لگا اگر تو پسند کرے تو میں تمہاری شادی فضل بن صالح بن علی سے اور تیری بہن کی شادی عبداللہ بن صالح سے کر دوں ، اس نے کہا امیر المومنین چچا کیا یہ شادی کا وقت ہے ؟ بلکہ آپ ہمیں حران پہنچادیں ، اس نے کہا انشاء اللہ میں یہ کام کر دوں گا اور اس نے انہیں حران پہنچا دیا ، جب وہ حران میں داخل ہوئیں تو انہوں نے مروان پر گریہ زاری کرتے ہوئے آوازیں بلند کیں اور اپنے گریبان چاک کر دیے اور چیخ و پکار کی ، یہاں تک کہ مروان پر ان کے رونے سے فوج

کانپ گئی۔

ابوالعباس سفاح کی بیعت تک مروان کی حکومت ۵ سال ۲ ماہ ۱۰ دن رہی، جیسا کہ ہم قبل ازیں اس کتاب میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی مدت حکومت میں اختلاف پایا جاتا ہے، ابوالعباس سفاح کی بیعت سے بوصیر میں اس کے قتل ہونے تک آٹھ ماہ بنتے ہیں اور قتل ہونے تک اس کی مدت حکومت ۵ سال ۱۰ ماہ بنتی ہے اور اس سے قبل ہم اس کی عمر کے اختلاف اور دیگر واقعات کو بیان کر چکے ہیں اس کے مفصل واقعات کو ہم نے اپنی پہلی کتب میں بیان کیا ہے۔

اس کا کاتب عبد الحمید بن یحییٰ بن سعد کئی رسائل و کتب کا مصنف تھا وہ پہلا شخص ہے جس نے رسائل کو طول دیا اور کتابوں کی فصلوں میں تمجیدات استعمال کیں اور لوگوں نے انہیں بعد میں استعمال کرنا شروع کیا۔

عبد الحمید بن یحییٰ کاتب | کتاہ وہ پہلا شخص ہے جس نے رسائل کو طول دیا اور کتابوں کی فصلوں میں تمجیدات استعمال کیں اور لوگوں نے انہیں بعد میں استعمال کرنا شروع کیا۔

کہتے ہیں کہ جب مروان کو اپنی حکومت کے زوال کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے کاتب عبد الحمید سے کہا مجھے بتہ چل گیا ہے کہ تو میرے دشمن کے ساتھ مل جائے گا اور مجھ سے خیانت کرے گا کیونکہ تیرے ادب و کتابت کی پسندیدگی اور اس کی ضرورت انہیں تیرے بارے میں حسن ظن کی دعوت دی گئی اگر تجھ سے ہو سکے تو میری زندگی میں مجھے فائدہ دینا در نہ میری وفات کے بعد تو میری بیویوں کی حتی المقدور حفاظت کرنا عبد الحمید نے اسے جواب دیا کہ آپ نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ آپ کے لیے دونوں باتوں سے زیادہ سود مند ہے اور میرے لیے دونوں باتوں سے بڑی ہے، میرے پاس صبر کے سوا کچھ نہیں بیان تک کہ اللہ تعالیٰ فتح دے یا میں آپ کے ساتھ قتل ہو جاؤں اور کہنے لگا ہ

میں وفا کو چھپاتا ہوں پھر خیانت کو ظاہر کرتا ہوں پس میرے لیے کیا عذر

ہو سکتا ہے جس کے ظاہر کا سب لوگوں کو پتہ ہے۔

ہم ابوالورد کے حالات، اس کے قتل اور بشر بن عبد اللہ واحدی کے حالات اور قتل کو اپنی کتاب الاوسط میں بیان کر چکے ہیں اس لیے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

مروان کا رومی علاقے کی طرف فرار اور اسماعیل قشیری کا اس کو وکنا

اسماعیل بن عبد اللہ
قشیری بیان

کہتا ہے کہ مروان نے مجھے بلایا جب کہ وہ شکست کھا کر حران میں آگیا کہنے لگا اے ابو ہاشم
 اس سے قبل وہ مجھے کینت سے نہیں بلایا کرتا تھا، جو صورت حال درپیش ہے اس کے
 متعلق تجھے یقین ہو چکا ہے دو لہا بننے کے بعد عطر کو چھپانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں
 ہوتی تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین آپ نے کیا ارادہ کیا ہے اس نے
 کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے غلاموں اور پیروکاروں کے ساتھ کوچ کر جاؤں اور
 درہ پار کر کے روم کے کسی شہر میں فروکش ہو کر وہاں کے حکمران سے خط و کتابت
 کروں اور اس سے یقین دہانی حاصل کر لوں، عجمی بادشاہوں کی ایک جماعت نے بھی
 ایسا ہی کیا ہے اور بادشاہوں کے لیے یہ کوئی عار کی بات نہیں نیز میرے پاس ہمیشہ
 خوف زدہ، بھگڑے اور لالچی اصحاب آتے رہیں گے اور میرے ساتھیوں کی تعداد
 بڑھ جائے گی میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے حالات کو بدل
 دے گا اور مجھے میرے دشمن پر فتح دے گا، جب میں نے اس کے ارادے اور نیت
 اور اپنی قحطانی قوم میں اس کے کارناموں اور آرزو مالش کو دیکھا تو میں نے کہا امیر المؤمنین
 میں آپ کو اس رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں آپ مشرک رومیوں
 کو اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے بارے میں حاکم بناتے ہیں حالانکہ ان کی وفا کا کوئی اعتبار
 نہیں اور نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ زمانہ کیا کیا مصائب لائے گا اور اگر نصرانیوں کے علاقے
 میں آپ سے کوئی حادثہ ہو گیا — اور آپ سے اچھا حادثہ ہی ہو گا — تو
 آپ کے بعد باقی رہنے والے لوگ ضائع ہو جائیں گے لیکن آپ فرات کو پار کر جائیں
 پھر شامیوں سے ایک ایک دستہ کر کے فوج جمع کریں آپ حفاظت میں رہیں گے ہر
 فوج پر آپ کے احسانات ہیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے یہاں تک کہ آپ مصر
 پہنچ جائیں کیونکہ اس زمین میں مال، افراد اور سوار بکثرت پائے جاتے ہیں پھر شام
 آپ کے سامنے اور افریقہ آپ کے پیچھے ہو گا، اگر آپ کو فتح ملے تو واپس شام چلے
 جانا، بصورت دیگر افریقہ چلے جانا، اس نے کہا تو نے درست کہا ہے میں اللہ تعالیٰ
 سے استخارہ کروں گا، پھر وہ فرات پار کر گیا اور سجد اس کے ساتھ صرف تیس کے

دو آدمیوں ابن حمزہ اسلمی نے جو اس کا رضاعی بھائی تھا اور کوثر بن اسود الغنوی نے فرات کو پار کیا مروان کو نزار لوگوں کی حمایت نے کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ انہوں نے اس سے خیانت کی اور اُسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جب وہ بلاد قنسرين اور خناصرہ سے گذرا تو قنسرين میں مقیم تنوخیوں نے اس کی فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا اہل حمص بھی اس پر ٹوٹ پڑے تو وہ دمشق کی طرف چلا گیا وہاں حارث بن عبدالرحمان حرشی نے اس پر حملہ کر دیا پھر وہ اردن آیا تو ہاشم بن عمرو القیسی اور مذحجیوں نے اس پر اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا پھر وہ فلسطین سے گذرا تو یہ دیکھ کر حکومت اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے حکم بن صنعان بن روح بن زنباع نے اس پر حملہ کر دیا، تب مروان کو پتہ چل گیا کہ اسماعیل بن عبداللہ قیسری نے اُسے مشورہ دینے میں فریب کیا ہے اور اس کی خیر خواہی نہیں کی نیز اس نے بھی اس سے مشورہ لینے میں کوتاہی کی ہے کیونکہ اس نے قحطان کے ایک کینہ توڑ اور نزار کے متعصب مخالف سے مشورہ کیا ہے اور صحیح رائے وہی تھی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا کہ درے کو عبور کر کے اور روم کے کسی قلعے میں فروکش ہو کر وہاں کے بادشاہ سے خط و کتابت کرے یہاں تک کہ وہ حکومت سے شاد کام ہو جائے۔

المدائنی اور العنسی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب مروان الزاب میں فروکش ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں سے اور اپنی فوج میں سے اہل جزیرہ اور اہل شام کے ایک سو چیدہ شہسوار گھوڑوں پر بھجوائے، جب جنگ کے روز عبداللہ بن علی مسودہ کے ساتھ آیا تو ان کے آگے آگے سیاہ جھنڈے تھے جنہیں سختی اونٹوں کے سوار اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے پالان بید اور غرب کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، مروان نے ایک آدمی سے جو اس کے قریب ہی تھا کہا، کیا تم ان کے نیزوں کو نہیں دیکھتے جو موٹائی میں کججور کے درخت کی طرح ہیں؟ اور کیا تم ان کے جھنڈوں کو ان اونٹوں پر نہیں دیکھتے جو سیاہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، دوران گفتگو درمیان میں سے ایک کالا سیاہ ٹکڑا اڑا اور عبداللہ بن علی کے پہلے جھنڈوں پر اکٹھا ہو گیا اور اس کی سیاہی ان سیاہ جھنڈوں کی سیاہی کے ساتھ مل گئی۔ مروان یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے اس سے بدشگونی لے کر کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سیاہی، سیاہی کے ساتھ مل گئی ہے اور سیاہ ٹکڑے سیاہ بادلوں کی طرح ہو گئے ہیں پھر اس نے اپنے جنگجو اصحاب پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ

خوف اور گھبراہٹ اور بڑبڑلی سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ کہنے لگا یہ تیاری ہے
 جب مدت ختم ہو جائے تو تیاری کوئی فائدہ نہیں دیتی۔
 اور ہمارے بیان کردہ واقعات کے علاوہ الزاب میں مروان کے اور واقعات
 بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے احبار الزمان اور الاوسط میں کیا ہے۔ ان کے اعادہ کی ضرورت
 نہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

ابوالعباس عبداللہ بن محمد السفاح کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | ابوالعباس سفاح — عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب — کی بیعت ۳۱۲ھ کو جمعہ کی شب کو ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس کی بیعت ۳۱۲ھ کو بدھ کے روز ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ۵ ارجامادی الآخرہ ۳۱۲ھ کو ہوئی، اس کی ماں ریطہ بنت عبید اللہ بن عبدالممدان حارثیہ تھی، یہ جمعہ کے روز سوار ہو کر جامع مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جب کہ بنو امیہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو لوگوں نے چیخ کر کہا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد تو نے سنت کو زندہ کیا ہے اس کی خلافت ۴ سال ۲۰۵ھ دن رہی اور اپنے تعمیر کردہ شہر انبار میں فوت ہوا یہ ۲ ذوالحجہ ۳۶ھ کا واقعہ ہے اس کی عمر ۳۳ سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ ۲۹ سال کا تھا اس کی ماں عبد الملک بن مروان کی بیوی تھی عبد الملک سے اس کے ہاں ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام حجاج تھا

اس کے حالات و واقعات اور دور کی مختصر جھلک

امام ابراہیم کی اس کے لیے وصیت | جب امام ابراہیم کو حران میں قید کر دیا گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ

اب مروان سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہیں رہی تو اس نے اپنے بھائی ابو العباس
عبداللہ بن محمد کے لیے وصیت لکھوائی اور اُسے حکومت قائم کرنے اور جدوجہد کرنے
کی وصیت کی اور یہ کہ وہ آپ کے بعد حمیمہ میں نہ بٹھے بلکہ کوفہ چلا جائے کیونکہ حکومت اُسے
لا محالہ ملنے والی ہے اور یہ کہ ان کے پاس لوگوں نے اس کے متعلق روایت بیان کی ہے
اور اُسے خراسان میں داعیوں اور نقیبوں کے متعلق بھی بتایا اور اس بارے میں اس کے لیے
ایک دستاویز لکھی جس میں اُسے وصیت کی کہ وہ اس پر عمل کرے اور اس سے نجا ورنہ
کرے، یہ وصیت تمام باتوں سمیت اپنے غلام سابق خوارزمی کو دے دی اور اسے
حکم دیا کہ اگر دن یا رات کو مروان کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے
تو وہ جلدی سے حمیمہ چلا جائے اور ان کی وصیت کو ان کے بھائی ابو العباس کے سپرد
کر دے، جب ابراہیم فوت ہو گئے تو سابق نے جلدی سے حمیمہ جا کر وصیت ابو العباس
کے سپرد کر دی اور اُسے ابراہیم کی موت کی خبر بھی دے دی، ابو العباس نے اُسے
وصیت کو پوشیدہ رکھنے اور موت کی خبر دینے کا حکم دیا۔ پھر ابو العباس نے اپنے
اہلیت کو اپنے متعلق آگاہ کیا اور اپنے بھائی ابو جعفر عبداللہ بن محمد اور اپنے بھتیجے علی
بن موسیٰ بن محمد اور اپنے چچا عبداللہ بن علی کو اپنی مدد کے متعلق کہا اور ابو العباس نہایت
سرعت کے ساتھ کوفہ گیا، یہ لوگ اس کے ان اہلیت کے ساتھ تھے جو چلے گئے تھے
کوفہ کو جاتے ہوئے راستے میں عربوں کے ایک چشمہ پر انہیں ایک بدو عورت ملی۔
ابو العباس اور اس کا بھائی ابو جعفر اور اس کا چچا عبداللہ بن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ
پانی پر پہلے پہنچ گئے تو بدو عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے ان جیسے چہرے کبھی
نہیں دیکھے ان میں سے ایک خلیفہ ہوگا پھر دوسرا خلیفہ ہوگا اور ایک باغی ہوگا۔
ابو جعفر منصور نے اس عورت سے کہا اے خدا کی بندی تو نے یہ بات کیسے کہی ہے؟
تو اس نے سفاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم یہ خلافت کو حاصل کرے
گا اور تو اس کا خلیفہ بنے گا اور عبداللہ بن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تیرے خلاف
بغاوت کرے گا جب یہ لوگ دومۃ الجندل پہنچے تو انہیں داؤد بن علی اور موسیٰ بن
داؤد عراق سے حمیمہ کی طرف رجوع و فرار کا علاقہ ہے، واپس آتے ہوئے
ملے، داؤد نے اس سے اس سفر کے متعلق پوچھا تو اس نے اُسے بتایا کہ یہ سفر کس

وجہ سے کیا جا رہا ہے اور خراسانی ابو مسلم کے ساتھ مل کر جو تحریک چلا رہے تھے اس کے متعلق بھی اُسے بتایا اور یہ کہ وہ کوفہ جانا چاہتا ہے ، داؤد نے اُسے کہا اے ابوالعباس تو کوفہ جا رہا ہے اور مروان جو اہل شام اور اہل جزیرہ میں بنی امیہ کا شیخ اور لیڈر ہے وہ اہل عراق کو دیکھ رہا ہے اور ابن ہبیرہ تمام عراقی عربوں کا شیخ ہے ، ابوالعباس نے کہا اے چچا جو زندگی کا خواہاں ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور اعشیٰ کے شعر کو بطور مثال پڑھا کہ ہے

”جب نفس کو اس کی مصیبتیں ہلاک کر دیں اور میں عاجز و درماندہ ہو کر نہ مروں تو یہ موت عاد کا باعث نہیں۔“

تو داؤد نے اپنے بیٹے موسے کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے بیٹے تیرے عم زاد نے دست بات کہی ہے ہمارے ساتھ ہی اس کے پاس لوٹ آؤ ہم باعزت طور پر زندہ رہیں گے یا باعزت طور پر مرجائیں گے تو ان دونوں نے اپنی سوار لیوں کو اس کے ساتھ موڑ لیا ، ابوالعباس وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ میں داخل ہو گیا۔

ابوسلمہ حفص بن سلیمان کو جب امام ابراہیم کے قتل کی اطلاع ملی — تو اس نے دعوت عباسی سے آلِ ابی طالب کی طرف اپنے رجوع کو پوشیدہ رکھا۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابوالعباس اپنے اہلبیت سے پوشیدہ سفاح کی کوفہ میں آمد | طور پر کوفہ آیا کوفہ میں مسودہ ، ابی سلمہ کے ساتھ تھے پس اس

نے ان سب کو ولید بن سعد کے گھراتا راجومین کے ایک قبیلے بنی اود سے تمنا ، ہم قبل ازیں حجاج کے حالات میں بنی اود کے فضائل و مناقب اور حضرت علی رض اور ان کی ذریت طاہرہ سے ان کے اظہار بیزاری کا ذکر کر چکے ہیں اور میں ۳۳۲ھ تک جن ممالک میں گھوما پھرا ہوں ان میں میں نے اود کے ہر آدمی کو اندرونی طور پر ناصبی اور آل مروان کا دوست پایا ہے۔

ابوسلمہ نے ابوالعباس اور اس کے ساتھیوں کے معاملہ کو پوشیدہ رکھا اور انہیں ایک آدمی کے سپرد کر دیا ، ابوالعباس صفر ۳۲ھ میں کوفہ آیا اور وہاں پر عباس کی اولاد کے لیے خطوط کی ڈاک چل رہی تھی جب امام ابراہیم قتل ہو گئے تو ابوسلمہ حکومت کے ٹوٹ جانے اور بگڑنے سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے محمد بن عبدالرحمن بن اسلم کو

اسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، ایک ہی خط کی دو کاپیاں دے کر ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور ابو محمد عبد اللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف بھیجا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو دعوت دی کہ وہ اس کے پاس آجائیں تاکہ دعوت کا رخ اس کی طرف ہو جائے اور اہل خراسان سے اس کی بیعت لینے کی کوشش کریں اور اس نے ایچی سے کہا کہ جلد جلد جاؤ تاکہ ہم عادی کے آنے والے کی طرح نہ ہو جائیں تو محمد بن عبد الرحمن مدینہ آیا اور رات کو ابو عبد اللہ جعفر بن محمد سے ملا اور انہیں بتایا کہ میں ابو سلمہ کا ایچی ہوں اور اس کا خط انہیں دیا، ابو عبد اللہ نے اسے کہا مجھے ابو سلمہ سے کیا تعلق ہے وہ کسی دوسرے آدمی کا مددگار ہے اس نے کہا میں ایچی ہوں آپ اس کے خط کو پڑھیں آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا، ابو عبد اللہ نے چراغ منگوایا اور خط پکڑ کر چراغ پر رکھا یہاں تک کہ وہ جل گیا پھر ایچی سے کہا جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ اپنے آقا کو بتا دینا پھر مثال کے طور پر کیت بن زید کے شعر کو پڑھنے لگے

”اے وہ شخص جو آگ جلانے والا ہے اس کی روشنی دوسرے آدمی کو پہنچے

گی اور اے وہ شخص جو اپنی مدد نہیں کرتا تجھے بندھن بنا دیا جائے گا“

ایچی آپ کے ہاں سے نکل کر عبد اللہ بن حسن کے پاس آیا اور انہیں خط دیا انہوں نے خط کو بوسہ

دیا اور پڑھا اور خوش ہوئے اور خط پہنچنے کے دوسرے دن، عبد اللہ گدھے پر سوار ہو کر ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق کے گھر آئے، جب ابو عبد اللہ نے انہیں دیکھا تو ان کی آمد کو بڑی بات خیال کیا، ابو عبد اللہ، عبد اللہ سے زیادہ عمر کے تھے انہوں نے آپ سے کہا اے ابو محمد ایک بات ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کہا اچھا وہ بیان کرنے سے بھی بہت بڑی ہے انہوں نے پوچھا ابو محمد وہ بات کیا ہے انہوں نے جواب دیا یہ ابو سلمہ کا خط ہے اس میں وہ مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے میں اسے قبول کروں گا اس کے پاس ہمارے خراسانی شیعہ بھی آئے ہیں ابو عبد اللہ نے انہیں کہا اے ابو محمد، خراسانی، تمہارے شیعہ کب تھے؟ کیا تم نے ابو مسلم کو خراسان بھیجا تھا اور اُسے سیاہ لباس پہننے کا حکم دیا تھا یہ لوگ جو عراق آئے ہیں ان کی آمد کا سبب

تم ہو یا تم نے ان میں کوئی آدمی بھیجا تھا! کیا تم ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ عبداللہ بن حسن نے ان سے اختلاف کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ لوگ میرے بیٹے محمد کو چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس اُمت کا مہدی ہے، ابو عبداللہ نے اُسے کہا خدا کی قسم وہ اس اُمت کا مہدی نہیں اور اگر اُس نے اپنی تلوار سونتی تو قتل ہو جائے گا پس عبداللہ نے ان سے اختلاف کیا اور انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کی قسم تجھے حسد کے سوا اور کوئی بات مانع نہیں تو ابو عبداللہ نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ بات صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے کہی ہے، ابو سلمہ نے مجھے بھی تمہاری طرح کا خط لکھا تھا مگر اس کے ایچی کو میرے پاس وہ چیز نہ ملی جو اُسے آپ کے ہاں سے دستیاب ہو گئی ہے، میں نے اس کے خط کو پڑھنے سے قبل نذیر آتش کر دیا ہے تو عبداللہ جعفر کے پاس سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے اور ابو سلمہ کا ایچی، سفاح کی بیعت تک اس کے پاس سے واپس نہ گیا، یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک روز ابو حمید طوسی کوفہ میں فوج کے پاس گیا اور شوق الکناسہ میں سابق خوارزمی سے ملا اس نے پوچھا سابق ہے اس نے جواب دیا ہاں سابق ہوں، اس نے اُسے امام ابراہیم کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ مروان نے انہیں قید خانے میں قتل کر دیا ہے، ان دونوں مروان، حران میں مقیم تھا، ابو حمید نے کہا انہوں نے کس کے حق میں وصیت کی ہے اس نے جواب دیا اپنے بھائی ابو العباس کے حق میں، اس نے کہا وہ کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ اپنے چچا زادوں کی ایک جماعت اور اپنے اہلبیت کے ساتھ کوفہ میں ہے اس نے کہا کتنے عرصے سے اس نے جواب دیا دو ماہ سے، اس نے کہا پھر ہمیں ان کے پاس لے چلو، اس نے جواب دیا کل اسی جگہ میرے اور تیرے اکٹھے ہونے کا وعدہ رہا، سابق کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس بارے میں ابو العباس سے اجازت لے لے، اس نے واپس جا کر ابو العباس کو خبر دی تو اس نے اُسے ملامت کی کہ تو اُسے اپنے ساتھ میرے پاس کیوں نہیں لایا، ابو حمید نے ابو سلمہ کی فوج کے خراسانی جرنیلوں کو جا کر اس بات کی اطلاع دے دی، ان جرنیلوں میں ابو جہم اور موسیٰ بن کعب بھی تھے کعب ان کا لیڈر تھا، سابق اس مقررہ کہ وہ جگہ پر گیا اور ابو حمید سے ملا، وہ دونوں وہاں سے چل کر ابو العباس اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ گئے اس نے پوچھا تم میں سے امام کون ہے تو داؤد بن علی نے ابو العباس کی طرف اشارہ

کیا اور کہا یہ تمہارا خلیفہ ہے وہ جھک کر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور اُسے سلامِ خلافت
 کہا ابو سلمہ کو اس بات کا پتہ نہ تھا اور بڑے بڑے عسکری سرداروں نے آکر اس کی بیعت
 کر لی، ابو سلمہ کو پتہ چلا تو اس نے بھی اس کی بیعت کر لی اور وہ کوفہ میں بڑے اچھے لباس
 میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کے لیے ایک میدان تیار کیا اور گھوڑے پیش
 کیے پھر ابو العباس اور اس کے ساتھی سوار ہو کر قصرِ امامت میں آگئے۔ یہ ۱۲ ربیع الآخر
 ۱۳۲ھ جمعہ کے روز کا واقعہ ہے اور قبل ازیں ہم اس کتاب میں اس اختلاف کا ذکر
 کر آئے ہیں کہ اس سال کے کون سے مہینے میں اس کی بیعت ہوئی تھی پھر وہ دارالامارۃ سے
 جامع مسجد میں گیا، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس کے احسانات اور عظمت اور حضرت نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ولایت و وراثت
 دی ہے اور لوگوں سے بھلائی کرنے کا وعدہ کیا پھر خاموش ہو گیا پھر اس کے بعد اس
 کے چچا داؤد بن علی نے تقریباً وہ ابو العباس سے نچلے منبر پر تھا اس نے کہا خدا کی
 قسم تمہارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا
 کوئی خلیفہ نہیں اور یہ شخص جو میرے پیچھے ہے یہ امیر المؤمنین ہے اس کے بعد
 دونوں نیچے اتر آئے۔

پھر ابو العباس ابو سلمہ کی فوج کی طرف گیا اور اس کے حجرے میں قیام پذیر ہوا اور
 کوفہ اور اس کے علاقے پر اپنے چچا داؤد بن علی کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے چچا عبد اللہ
 بن علی کو ابو عون عبد الملک بن یزید کی طرف بھیجا وہ دونوں مروان کے مقابلہ میں گئے اور
 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ الزاب میں دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور مروان بن
 محمد کو شکست ہوئی۔

ابو العباس سفاح کو، عامر بن اسماعیل کے

مروان کا قاتل - عامر بن اسماعیل

متعلق اطلاع ملی کہ اس نے بوجبیر میں مروان

کو قتل کر دیا ہے بعض کہتے ہیں کہ عامر کے عم زاد نافع بن عبد الملک نے اُسے اس رات
 کو جنگ میں قتل کر دیا تھا اور اُسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مروان ہے، جب عامر نے
 مروان کے سر کو کاٹا اور اس کی فوج کو جمع کر لیا تو وہ اس گرجا میں داخل ہوا جس میں مروان
 قیام پذیر تھا اس نے اس کے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا، تو مروان کی بڑی بیٹی نے

جو اُم مروان کے نام سے مشہور اور ان سب سے عمر رسیدہ تھی، اس کے پاس آکر کہا۔
اے عامر! زمانے نے مروان کو اس کی بساط سے گرا دیا ہے اور تجھے اس پر بٹھا دیا
ہے تو نے اس کا کھانا کھایا ہے اور اس کی حکومت پر حاوی ہو گیا ہے اور اس کی مملکت
میں حکمرانی کی ہے زمانہ اس بات پر تاد رہے کہ یہ نعمت تجھ سے چھین لے۔

سفاح اور عامر بن اسماعیل | سفاح کو عامر کے فعل اور اس عورت کی گفتگو کی اطلاع
 ملی تو اس نے غضب ناک ہو کر اُسے لکھا تیرا بڑا ہوا،

کیا تجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی ادب نہیں جو تجھے مروان کے کھانے اس کی بساط پر بیٹھنے اور
اس کے تیکے سے ٹیک لگانے سے روک دے؟ خدا کی قسم اگر امیر المومنین نے یہ
تاویل نہ کی ہوتی کہ تو نے بغیر اعتقاد اور خواہش کے ایسا کیا ہے تو تجھے ان کے ایسے
دردناک سلوک اور غضب کا سامنا کرنا پڑتا جو تجھے روکنے والا اور دوسروں کے لیے نصیحت
کا باعث ہوتا جب امیر المومنین کا خط تجھے ملے تو خدا کے حضور صدقہ دے کر اس کے
غضب کو مٹھنڈا کرنا اور دعا میں عاجزی ظاہر کرنا اور تین دن کے روزے رکھنا اور
اپنے نام اصحاب کو بھی اپنی طرح روزے رکھنے کا حکم دینا۔

مروان کا سر، سفاح کے سامنے | جب ابو العباس کے سامنے مروان کا سر لا کر
رکھا گیا تو اس نے ایک طویل سجدہ کیا پھر اپنے

سر کو اٹھا کر کہنے لگا اس خدا کا شکر ہے جس نے تیرے اور تیرے خاندان سے میرا
بدلہ باقی نہیں رہنے دیا اور اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ پر کامیابی دی ہے
اور غالب کیا ہے پھر کہنے لگا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کب موت مجھے آ لیتی ہے
میں نے حسین کے بدلے میں بنی امیہ کے دو سو آدمیوں کو قتل کیا ہے اور میں نے
ہشام کے اعضاء کو اپنے چچا زید بن علی کے بدلے میں جلا دیا ہے مروان کو اپنے
بھائی ابراہیم کے بدلے میں قتل کیا ہے اور بطور مثال یہ شعر پڑھنے لگا ہے
”اگر وہ میرا خون پیتے تو ان کا پینے والا سیر نہ ہوتا اور نہ ہی ان کے خون
میرے غصے کو مٹھنڈا کر سکتے ہیں۔“

پھر اس نے قبلہ کی طرف منہ پھیر کر طویل سجدہ کیا، پھر بیٹھا تو اس کا چہرہ چمک
رہا تھا اور اس نے عباس بن عبدالمطلب کے اشعار کو مثل کے طور پر پڑھا ہے

” ہمارے قوم نے ہمارے ساتھ انصاف کرنے سے انکار کیا تو ان شمشیر ہائے برائی نے جو ہمارے داہنے ہاتھوں میں تھیں انصاف کر دیا اور ان سے خون ٹپک رہا تھا وہ تلواریں ہمیں بزرگوں سے وراثت میں ملی ہیں جن کے ساتھ وہ جنگ میں گئے اور آگے بڑھ گئے اور جب وہ مردوں کی کھوپڑیوں میں لگتی ہیں تو انہیں میدان جنگ میں شتر مرغ کے انڈوں کی طرح توڑ دیتی ہیں۔“

مروان کے متعلق شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے۔

ابو الخطاب، ابی جعدہ بن ہبیرہ مخزومی سے بیان کرتا ہے۔ یہ مروان کا ایک وزیر اور داستان گو تھا کہ جب ابوالعباس کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ حمیمہ میں اپنے چیدہ اصحاب اور خواص کے پاس آیا ابو جعدہ بھی اس روز ابوالعباس کی مجلس میں حاضر تھا مروان کا سر اس کے سامنے پڑا ہوا تھا ابوالعباس نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم میں کون اسے پہچانتا ہے ابو جعدہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں اسے پہچانتا ہوں یہ ابو عبد الملک مروان بن محمد کا سر ہے جو کل ہمارا خلیفہ تھا اللہ اس سے راضی ہو، وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پیروکاروں نے گھوڑے میری طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے گرفت میں لے لیا تو ابوالعباس نے مجھے کہا اس کی پیدائش کس سال میں ہوئی تھی میں نے جواب دیا ۶۷ھ میں۔ تو وہ غصے سے لال پیلا ہو کر چلا گیا لوگ بھی مجلس سے منتشر ہو گئے اور میں بھی اپنے کیے پر نادم ہو کر واپس آ گیا لوگوں نے اس بارے میں باتیں کیں اور اُسے بتایا تو میں نے کہا خدا کی قسم یہ ایک لغزش ہے جسے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اور نہ اسے فراموش کرے گی پھر میں اپنے گھر آ گیا اور باقی دن میں وصیت وغیرہ کرتا رہا جب رات ہوئی تو میں غسل کر کے نماز کے لیے تیار ہو گیا، ابوالعباس جب کسی بات کا ارادہ کرتا تو اس کے متعلق رات کو پیغام بھیجتا میں رات بھر جاگتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح کو میں اپنے خچر پر سوار ہوا اور دل میں سوچا کہ اپنے معاملے کو کس کے پاس جاؤں تو مجھے بنی زہرہ کے غلام سلیمان بن خالد سے کوئی آدمی بہتر نظر نہ آیا ابوالعباس کے ہاں اس کا بڑا مقام تھا اور وہ لوگوں کا مددگار تھا میں نے اس کے پاس جا کر اُسے کہا کیا شام کو امیر المومنین نے میرا ذکر کیا تھا اس نے جواب دیا ہاں تیرا ذکر ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا بھانجا ہے اور اپنے آقا کا وفادار ہے

اور اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ ہمارا بہت شکر گزار ہوگا پس میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جزاک اللہ کہا اور اُسے دُعا دی اور واپس چلا آیا پھر میں مسلسل ابوالعباس کے پاس اپنے اسی خیال کے مطابق جاتا رہا مگر اس نے ہمیشہ ہی مجھ سے اچھا سلوک کیا جب مروان کا سر لایا گیا تو ابوالعباس کی مجلس میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی اطلاع وہ ابو جعفر اور عبداللہ بن علی کو ہوئی تو عبداللہ بن علی نے میری گفتگو کی اطلاع ابوالعباس کو دی اور وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکتا تھا اور ابو جعفر نے بھی اُسے اس بات کی اطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا بھانجا ہے حالانکہ ہم اس کے احسان کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اور مجھے بھی ان دونوں کی باتوں کی اطلاع مل گئی تو میں خاموش ہو رہا ، پھر حوادث زمانہ نے کروٹ لی میں ایک روز ابوالعباس کے ہاں موجود تھا میرا مقام اس کے ہاں بہت بڑھ گیا تھا جب لوگ اُٹھے تو میں بھی اُٹھ کھڑا ہوا۔ تو ابوالعباس نے مجھے کہا ابن ہبیرہ ذرا آرام کرو ، بیٹھو ، میں بیٹھ گیا ، وہ اندر جانے کے لیے اُٹھا تو میں بھی اس کے کھڑا ہونے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ ، اس نے پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا اور میں اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا رہا وہ کچھ دیر اندر کھڑا رہا پھر پردہ اُٹھا تو وہ دو منقش کپڑوں اور چمڑے کی چادر میں باہر آیا ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت آدمی اور اس سے بہتر لباس نہیں دیکھا جب پردہ اُٹھا تو میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا اس نے کہا اے ابن ہبیرہ میں تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں یہ کسی اور آدمی کو پتہ نہ چلے پھر کہنے لگا ، تجھے پتہ ہی ہے کہ ہم نے یہ حکومت اور ولایت عہد اس آدمی کے لیے مقرر کی ہے جس نے مروان کو قتل کیا ہے اور میرے چچا عبداللہ بن علی نے اُسے قتل کیا ہے کیونکہ یہ بات اُسے اور اس کے اصحاب کو جوش و لاتی رہتی تھی اور میرے بھائی ابو جعفر کو باوجود علم و فضل اور عمر اور امر الہی کے لیے ایثار کرنے کے اس حکومت سے باہر نکالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے ابو جعفر کی طویل مدح سرائی کی ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کا بھلا کرے میں آپ کی یہ بات نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو ایک وہ بات بتانا ہوں جس سے آپ عبرت حاصل کریں گے اس نے کہا وہ کیا ہے ؟ میں نے کہا کہ ہم خلیج کے سال قسطنطنیہ میں مسلم بن عبدالملک کے ساتھ تھے کہ اُسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط ملا جس میں

سیلمان کی موت اور اپنی حکومت کے متعلق اطلاع دی گئی تھی، اس نے مجھے پیغام بھیجا، میں اس کے پاس گیا تو اس نے خط میری طرف پھینک دیا میں نے اسے پڑھا پھر وہ رونے لگ گیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے اپنے بھائی پر نہ رو، بلکہ اس بات پر رو کہ خلافت تیرے باپ کے بیٹوں سے نکل کر تیرے چچا کے بیٹوں کے پاس چلی گئی ہے وہ اس قدر رویا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی، راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں اپنی بات سے فارغ ہوا تو ابو العباس نے مجھے کہا اتنی بات ہی کافی ہے میں تیرا مفہوم سمجھ گیا ہوں پھر مجھے کہنے لگا تو جب چاہے جا سکتا ہے میں تھوڑا سا چلا تھا کہ اس نے مجھے کہا اسے ابن ہبیرہ میں واپس لوٹ کر متوجہ ہوا، تو اس نے مجھے کہا، چلے جاؤ، تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے اور اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے راوی بیان کرتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کونسی بات نے اس کو تعجب میں ڈالا اس کی سمجھ نے یاگزشتہ واقعہ کے بیان نے۔

راوی ابو جعدہ بن ہبیرہ، جعدہ بن ہبیرہ مخزومی کی اس اولاد سے ہے جو فاختہ ام بانی بنت ابوطالب سے ہوئی تھی حضرت علی حضرت جعفر اور عقیل اس کے ماموں تھے قبل ازیں اس کتاب میں اس کے حالات بیان ہو چکے ہیں۔

عبداللہ بن علی اور اس کے بھائی داؤد کے ہمیان
سفاح کی ولیعهدی کے بارہ میں گفتگو

محمد بن اسود سے بیان کیے ہیں دیکھا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن علی، اپنے بھائی داؤد بن علی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کے ساتھ عبداللہ بن حسن بن حسن بھی تھے داؤد نے عبداللہ سے کہا آپ اپنے دونوں بیٹوں کو ظہور کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے، عبداللہ نے کہا ابھی یہ بات منہ سے نہ نکالنا تو عبداللہ بن علی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا تیرا خیال ہے کہ تیرے دونوں بیٹے مروان کے قاتل ہیں، اس نے کہا یہ بات ایسے ہی ہے تو عبداللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا ہے

” تجھے حامی کی اولاد کے کم گوشت اور موت کے متمنی آدمی کی یہ بات کافی ہوگی خدا کی قسم میں اس کا قاتل ہوں۔“

عبداللہ بن علی سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بیان کرتا ہے کہ اس نے کسی

کتاب میں پڑھا ہے کہ مروان کو عین بن عین قتل کرے گا اور اس کا خیال ہے کہ وہ خود ہی اس کا قاتل ہوگا، عبد اللہ بن علی نے کہا خدا کی قسم وہ آدمی میں ہوں اور مجھے اس پر نہیں عینوں کی فضیلت حاصل ہے میں عبد اللہ بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں اور وہ صرف عمرو بن عبد مناف ہے۔

جب مروان نے عبد اللہ بن علی سے جنگ کے لیے صف بندی کی تو مروان ایک آدمی کے پاس آکر جو اس کے پہلو میں کھڑا تھا کہنے لگا، تیرے پاس کون شخص بلند بینی تیز نظر اور خوب رو عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر کے متعلق جھگڑا کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قوت بریانیہ عطا کرتا ہے اس نے کہا وہ وہی ہے، میں نے کہا ہاں، اس نے پوچھا وہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے؟ میں نے کہا بے شک، تو مروان نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، تیرا بڑا ہو میں نے یہ خیال کیا کہ جو مجھ سے جنگ کر رہا ہے وہ ابوطالب کی اولاد میں سے ہے اور یہ شخص عباس کی اولاد میں سے ہے جس کا نام عبد اللہ ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ میرے بعد حکومت، عبد اللہ اور محمد کے بعد، عبید اللہ کے دونوں بیٹوں کی طرف کیوں جائے گی حالانکہ محمد عبد اللہ سے بڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ میرے بعد حکومت، عبد اللہ اور عبید اللہ کی طرف چلی جائے گی پس میں نے دیکھا تو عبید اللہ کو، عبد اللہ محمد کی نسبت عبد اللہ کے زیادہ قریب پایا لہذا میں نے اُسے حکومت دے دی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اپنے ساتھی کے پاس بات کرنے کے بعد مروان نے عبد اللہ بن علی کی طرف خفیہ پیغام بھیجا کہ اے عم زاد حکومت آپ کے پاس آنیوالی ہے پس حرم کے متعلق اللہ سے ڈرنا، راوی کہتا ہے کہ عبد اللہ نے اُسے پیغام بھیجا کہ ہمیں تمہارے خون کے بارے میں حق حاصل ہے اور تیرے حرم کے متعلق ہم پر حق واجب ہے۔

مصعب زبیری نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ ام سلمہ بنت یعقوب

بن سلمہ بن عبد اللہ بن ولید بن مغیرہ مخزومی، عبد العزیز بن ولید بن عبد الملک کے پاس تھی وہ فوت ہوا تو وہ ہشام کے پاس آگئی وہ بھی فوت ہو گیا تو وہ ایک روز بیٹھی

ہوئی تھی کہ اس کے پاس سے ابو العباس سفاح کا گذر ہوا، سفاح بڑا حسین و جمیل تھا، ام سلمہ نے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے اس کے سامنے اپنا حسب نسب بیان کیا پھر ام سلمہ نے اس کے پاس اپنی لونڈی بھیجی کہ وہ اُسے شادی کرنے کی پیشکش کرے اور اس نے لونڈی سے یہ بھی کہا کہ اُسے کہنا کہ میں سات سو دینار تمہاری طرف بھیج رہی ہوں، اس کے پاس بہت سا مال، جو اہر اور خادم تھے، لونڈی نے سفاح کے پاس آکر یہ پیشکش کی تو اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں میرے پاس مال نہیں تو اس نے اُسے مال دے دیا تو اس نے ہاں کر لی، اور اس کے بھائی کے پاس آکر شادی کے بارے میں بات کی تو اس نے اُسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اس نے اُسے پانچ سو دینار مہر دیا اور دو سو دینار تحفہ دیے اور اسی شب اس کے پاس گیا کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک چھپر کھٹ پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ہر عضو جو اہرات سے مرصع ہے وہ اس تک رسائی نہ حاصل کر سکا ام سلمہ نے اپنی ایک لونڈی کو بلایا اس نے آکر اس کے لباس کو تبدیل کیا اس نے رنگ داد کپڑے پہنے اور اس نے اس کے لیے ایک اور فرش تیار کیا مگر وہ اس تک رسائی نہ حاصل کر سکا تو اس نے کہا یہ فرش تجھے تکلیف نہیں دے گا اور مردوں کو تیری طرح تکالیف پہنچتی رہی ہیں پس وہ ہمیشہ اس سے یہی کچھ کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے رات کو اس کے پاس رسائی حاصل کر لی اور اس نے اس کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیا اور اس نے حلف اٹھایا کہ وہ اس پر کوئی دوسری شادی نہ کرے گا اور نہ لونڈی بنائے گا پس اس کے ہاں سفاح سے محمد اور بیٹہ پیدا ہوئے وہ اس پر بہت اثر انداز ہو گئی وہ اس کے مشورے کے بغیر کسی امر کا فیصلہ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ اُسے خلافت مل گئی اور وہ اس کے سوا، کسی اور آئاد عورت یا لونڈی کے قریب نہ جاتا تھا اور اس نے اس سے جو عہد کیا تھا اُسے پورا کیا کہ وہ اُسے غیرت نہیں دلائے گا، ایک روز اس کی خلافت کے زمانے میں خالد بن صفوان اُسے خلوت میں مل کر کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے آپ کی حکومت اور سلطنت کی وسعت کے متعلق بہت غور کیا ایک عورت نے آپ کو قابو کر رکھا ہے اور آپ نے بھی اُسی پر اکتفا کر لیا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر وہ غائب ہو جائے تو آپ غائب ہو جاتے

ہیں اور اپنے اپنے نفس پر نفیس اور عمدہ لونڈیوں سے تملذ حاصل کرنا اور ان کے حالات کو جاننا اور ان میں سے پسندیدہ لونڈیوں سے تمتع حاصل کرنا حرام قرار دے لیا ہے۔

امیر المومنین ان میں دراندہ قدماء و نزاکت سے جھک کر چلنے والی بھی ہیں اور فریبہ اندام اور نرم جسم والی بھی ہیں عمدہ بانگی گندم گوں بھی ہیں اور مدینہ کی مولدات سے بڑے سرینوں والی بھی ہیں جو اپنی گفتگو سے فریفتہ کر لیتی ہیں اور خلوت میں مزادیتی ہیں امیر المومنین شرفاء کی بیٹیوں اور ان کے حسن اور ان کی خوش گفتاری کو چھوڑ کر کہاں پھر رہے ہیں اگر آپ دراندہ قد سفید رو، گندم گوں سیاہی مائل سرخ رنگ، اندر رنگ بڑے سرینوں والی اور بصری اور کوفی مولدات جو شیریں زبان، نازک اندام قد والی اور باریک کمر والی، گفتگو کی کئی کئیوں والی، سرگس آنکھوں والی، ابھرے ہوئے پستانوں والی اور اچھے لباس اور ربنت اور شکل صورت والی عورتوں کو دیکھ لیں تو آپ ایک اچھی چیز کو دیکھیں گے خالد بہت تعریف کرنے لگا۔ اور شیریں الفاظ و عمدہ اوصاف کے ساتھ طول بیانی سے کام لینے لگا جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو ابو العباس نے اُسے کہا خالد تیرا بڑا بھو خدا کی قسم میرے کانوں کے ساتھ کبھی ایسا نشان دار کلام نہیں ٹکرایا جس طرح کا کلام میں نے تجھ سے سنا ہے، اپنی بات کو دہراؤ اس کا مجھ پر اثر ہوا ہے تو خالد نے پہلے سے بھی بڑھ کر اُسے بات بتائی پھر واپس چلا گیا اور ابو العباس اس کی باتوں کو سن کر سوچتا رہ گیا کہ اس کی بیوی ام سلمہ اس کے پاس آگئی جب اس نے اُسے مغموم اور سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو پوچھا امیر المومنین میں آج آپ کی عجیب حالت دیکھ رہی ہوں کیا کوئی ناگوار بات ہوئی ہے یا آپ کے پاس کوئی خوف ناک اطلاع آئی ہے؟ اس نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس نے پوچھا پھر تمہارا یہ حال کیوں ہے تو وہ بات بتانے سے گریز کرنے لگا وہ بھی مسلسل اس کے پیچھے لگی رہی یہاں تک کہ اس نے اُسے خالد کی بات بتادی اس نے کہا پھر تو نے بن فاعلہ سے کیا کہا اس نے اُسے کہا سبحان اللہ وہ مجھے مشورہ دیتا ہے اور تو اُسے سب و شتم کرتی۔ تو وہ اس کے پاس سے ناراض ہو کر چلی گئی اور اس نے خالد کی طرف نجا رہی اکی ایک جماعت بھیجی جن کے پاس ہتھوڑے تھے اور اس نے انہیں حکم دیا کہ اس کے کسی عضو کو سلامت نہ رہنے دیں، خالد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا اور

میں امیر المومنین کے سلوک اور میں نے انہیں جو باتیں بتائی تھیں اس کی پسندیدگی کی وجہ سے بڑے سرور میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ ان کا انعام میرے پاس آئے گا، میں اسی حالت میں تھا کہ سجاد یہ میرے پاس آگئے ہیں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا جب میں نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انعام لے کر آئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے میرے پاس کھڑے ہو کر میرے بارے میں پوچھا، میں نے کہا میں خالد آپ کے سامنے موجود ہوں تو ان میں سے ایک آدمی لاکھی لیے دوڑ کر میری طرف آیا جب وہ مجھے لاکھی مارنے لگا تو میں چھلانگ لگا کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور روپوش ہو گیا کسی دن تک ایسے ہی روپوش رہا اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ام سلمہ نے کروایا ہے اور ابو العباس نے مجھے سختی سے بتایا مگر مجھے اسی وقت پتہ چلا جب ایک روز لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور کہنے لگے امیر المومنین کو جواب دو، مجھے موت کا یقین ہو گیا اور میں سوار ہوا مگر نہ میرے جسم پر گوشت تھا اور نہ جسم میں خون تھا ابھی میں قصر امارت تک نہیں پہنچا تھا کہ کئی ایچی مجھے آگے سے ملے میں ابو العباس کے پاس گیا تو وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا مجھے کچھ سکون حاصل ہوا میں نے سلام کیا اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں نے دیکھا تو میری پشت کے پیچھے دروازے پر کئی پردے پڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے میں نے حرکت محسوس کی، ابو العباس نے مجھے کہا اے خالد میں نے تجھے تین دن سے نہیں دیکھا، میں نے کہا امیر المومنین میں بیمار تھا اس نے کہا تیرا بڑا ہوا تو نے مجھے آخری ملاقات میں عورتوں اور لونڈیوں کے متعلق ایسی باتیں بتائی تھیں جن سے بہتر باتیں کبھی میرے کانوں نے سنی ہی نہ تھیں وہ باتیں مجھے دوبارہ سناؤ میں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں نے الفرة (سوت) کا نام الفتر (نقصان) سے مشتق کیا ہے اور ان میں سے جو کوئی ایک سے زیادہ بیویاں کرتا تھا وہ مشقت میں پڑ جاتا تھا، اس نے کہا تیرا بڑا ہو یہ بات نہیں ہوئی تھی میں نے کہا امیر المومنین بے شک یہ بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین عورتیں ہنڈیا کے تین پالیوں کی طرح ہیں جن پر وہ جوش کھاتی رہتی ہے، ابو العباس نے کہا اگر میں نے تجھ سے یہ بات سنی ہو تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے علیحدہ ہو جاؤں اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا

کہ چار عورتیں اپنے مالک کے لیے نثر کا مجموعہ ہیں وہ اُسے بوڑھا اور بیمار کر دیتی ہیں ابو العباس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس سے قبل تجھ سے یہ بات سنی ہے اور نہ کسی اور سے، خالد نے کہا بے شک خدا کی قسم، اس نے کہا تو ہلاک ہو جائے تو مجھ سے چھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اس نے کہا اپنی بات کو دہراؤ، وہ بولا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنواری عورتیں مرد ہوتی ہیں لیکن انہیں خصی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، خالد بیان کرتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے سننے کی آواز سنی، میں نے کہا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بنی مخزوم قریش کی خوشبو ہیں اور آپ کے پاس خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، پھر بھی آپ آزاد عورتوں اور لونڈیوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، خالد کا بیان ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی اے چچا خدا کی قسم تو نے سچ کہا ہے اور تو نے یہ بات امیر المومنین سے بیان کی تھی لیکن انہوں نے بات کو بدل دیا ہے، ابو العباس نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ تیرا ستیا ناس کرے اور تجھے ذلیل کرے، تجھے کیا ہو گیا ہے، خالد کہتا ہے کہ میں ابو العباس کو چھوڑ کر باہر نکل آیا اور مجھے اپنی زندگی سے متعلق یقین حاصل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ام سلمہ کے ایلچی میری طرف آ رہے ہیں ان کے ساتھ دس ہزار درہم ایک تخت ایک ترکہ گھوڑا اور غلام بھی تھا۔

سفاح لوگوں سے رات کو باتیں کرنا پسند کرتا تھا | ابو العباس سفاح کی طرح کوئی خلیفہ رات کو

لوگوں سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو علم میں اضافہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جہالت میں اضافہ کرنا پسند کرتا ہے۔ ابو بکر الہذلی نے اُسے کہا امیر المومنین آپ کی اس بات کا مفہوم کیا ہے اس نے جواب دیا وہ شخص جو نتجھ جیسے اور تیرے اصحاب جیسے آدمیوں کی ہم نشینی چھوڑ دیتا ہے اور کسی عورت یا لونڈی کے پاس جلا جاتا ہے وہ ہمیشہ احمقانہ باتیں سنتا ہے اور ناکمل باتیں بیان کرتا ہے تو الہذلی نے اُسے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیا پر فضیلت دی ہے اور تم میں سے خاتم النبیین کو پیدا کیا ہے۔

سفاح اور ابو نخیلہ | ابو نخیلہ شاعر نے ابو العباس کو آکر سلام کہا اور اپنا نسب بیان کیا اور کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کا غلام اور شاعر

ہوں کیا آپ مجھے اشعار سنانے کی اجازت دیتے ہیں ابو العباس نے اُسے کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت کرے کیا تو وہ نہیں جس نے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے متعلق یہ اشعار کہے ہیں۔

”اے مسلمہ! سب خلفاء کے بیٹے اور جنگ کے شہسوار اور زمین کے پہاڑ میں تیرا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور شکر، تقویٰ کی رسی ہے اور ہر شخص جس پر آپ نے احسان کیا ہے وہ اس کا بدلہ نہیں دیتا اور آپ نے میری شہرت کو پھیلا دیا ہے حالانکہ وہ گننام نہ تھی لیکن بعض دفعہ کی شہرت، دوسری شہرت سے زیادہ چوکس ہوتی ہے۔“

اس نے جواب دیا امیر المومنین میں نے یہ اشعار بھی کہے ہیں۔

”جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ رک گئے ہیں ہم وہ لوگ تھے جو بادشاہوں سے خائف رہتے تھے اور سوائے شرک کے ہر چیز کے سر نیوں اور رانوں پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ کے سوا، میں نے جس کی بھی کبھی مدح کی ہے وہ سب جھوٹ تھا اور اس مدح نے اس کا کفارہ دے دیا ہے اور ہم نے اس سے قبل آپ کے باپ کا انتظار کیا پھر اس کے بعد آپ کے بھائی کا، پھر آپ کا اور آپ ہی اس کی اُمید گاہ تھے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ ابو العباس اُس سے راضی ہو گیا اور اس کو انعام و اکرام دیا۔

کھانے کے وقت وہ بہت خوش ہوتا تھا | کھانے کے وقت ابو العباس بہت خوش ہوتا تھا، ابراہیم

الکندی جب اُس سے کسی ضرورت کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کرتا تو اس ضرورت کو کھانے کے وقت تک مؤخر کر دیتا جب کھانا آ جاتا تو اس سے پوچھتا، ایک روز اس نے کہا ابراہیم کیا وجہ ہے کہ تو اپنی ضروریات کے لیے مجھے اپنے کھانے سے غائل کر دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اس وقت اپنے سوال میں کامیابی کے حصول کا یقین ہوتا ہے۔ ابو العباس نے کہا تو اپنی اس سمجھ بوجھ کی وجہ سے سرداری کا مستحق ہے۔

سفاح کی بعض عادات اور انتظامات | اس کے اصحاب اور دلی دوستوں میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگتے

تو وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے متعلق نہ کوئی بات سنتا اور نہ اسے قبول کرتا خواہ بات کرنے والا اپنی گواہی میں عادل ہی ہو اور جب دو آدمی آپس میں صلح کر لیتے تو وہ ان دونوں میں سے ایک کی شہادت کو دوسرے کے حق میں یا اس کے خلاف قبول نہ کرتا، وہ کہتا تھا کہ قدیم کینہ سوزش والی عداوت کو پیدا کرتا ہے اور صلح کے اظہار پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے نیچے ایک ایسا اثر دیا ہوتا ہے کہ جب اسے قوت مل جائے تو وہ زندہ نہیں چھوڑتا۔

وہ اپنے ابتدائی ایام میں اپنے ندیموں میں آتا تھا پھر ان سے چھپنے لگ گیا اور یہ اس کی حکومت کا ایک پُرانا طریق تھا جو اس بات کی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا جس کا تذکرہ ہم پہلی کتابوں میں کر چکے ہیں اس کا پردے کے پیچھے بیٹھنا بھی اس بات کی وجہ سے تھا جس کا ذکر ہم اس کتاب میں ارد شہید ابن بابک کی سیرت اور حکومت کے بیان میں کر چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ پردے کے پیچھے خوش ہوتا تھا اور اپنے مغنی مطرب کو آواز دے کر کہتا تھا واللہ تو نے بہت اچھا کہا ہے اسے دوبارہ گاؤ اور اس کے ندیموں اور مطربوں میں سے کوئی شخص بھی انعام و اکرام اور پوشاک حاصل کیے بغیر نہ جاتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں جلد سرور نہیں آتا اور جو ہمیں خوش کرے اس کا بدلہ مؤخر نہیں ہوتا، اس بات میں اس سے ایران کا ایک بادشاہ بہرام جو بد سبقت لے گیا تھا۔

ایک روز ابو بکر الہندی اس کے ہاں حاضر ہوا سفاح اس کے ساتھ انوشروان کی ایک جنگ کے متعلق بات کر رہا تھا جو اس نے مشرق میں کسی عجمی بادشاہ سے لڑی تھی، اتنے میں تیز ہوا چلی اور اس نے مٹی اور اینٹوں کے کچھ ٹکڑے اڑا کر اوپر سے مجلس میں پھینک دیے جس سے حاضرین مجلس گھبرا گئے الہندی ابوالعباس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس میں دوسروں کی طرح کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو ابوالعباس نے اسے کہا اے ابو بکر تیرا کیا کہنا، میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کیا جس چیز نے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا اس نے تجھے خوفزدہ نہیں کیا اور نہ ہی تو نے اسے محسوس کیا ہے جو ہم پر گزری ہے، اس نے کہا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے دودل نہیں بنائے ہر آدمی کے لیے ایک

ہی دل بنایا گیا ہے پس جب امیر المومنین کے فائدہ کے لیے اس پر سرور چھا گیا تو اس میں کسی حادثہ کے لیے جگہ ہی نہ تھی اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے اور اس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس عزت کا ذکر کسی نبی یا خلیفہ کی زبان سے کروا دیتا ہے اور جس عزت و کرامت سے میں مخصوص ہوں اس کی طرف میرا ذہن مائل ہو گیا اور میں اس کے متعلق سوچنے لگا پس اگر آسمان، زمین پر ٹوٹ پڑے تب بھی مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا اور نہ میں ترش و ہو کر اس کے لیے سر جھکاؤں گا ہاں امیر المومنین کے لیے مجھے سر جھکانا لازم ہے۔ سفاح نے کہا اگر میں تیرے لیے زندہ رہا تو میں تجھے بلند رتبہ دوں گا کہ نہ درندہ اس کے ارد گرد پھریں گے اور نہ اس پر عقاب گرے گا۔

بادشاہوں سے میل ملاپ کے لیے چند نصائح | قبل انہیں ہم اس کتاب میں عبد الملک کی اس وصیت کا ذکر کر آئے ہیں

جو اس نے شعبی کو بادشاہوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کے بارے میں کی تھی۔
عبد اللہ بن عیاش منتوف سے مروی ہے کہ اس نے کہا اور عوام اطاعت کی، غلام خدمت کی، اور دلی دوست اچھی طرح بات سننے کی مانند، بادشاہوں کے قریب نہیں ہوتے۔
روح بن زباع جذامی سے روایت ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب تجھے بادشاہ کی بات سننے کا موقع ملے تو تو کانوں کو اس کی بات سننے میں لگا دے اور میرے پاس اس آدمی سے ناراض نہ ہو جب وہ اس کی بات پر کان دھرے ہوئے ہو اور جو بات اس کی مدح میں کہی گئی ہے وہ میرے دل پر اثر انداز نہ ہو کیونکہ میں اس کے متعلق اچھی باتیں سن چکا ہوں۔

معاویہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا بادشاہ مغلوب ہو کر دو چیزوں کی سواری بن جاتا ہے جوش کے وقت حلم کی اور بات کے وقت کان لگا کر سننے کی۔

میں نے عجمی بادشاہوں کی سیرت میں دیکھا ہے کہ شیردیز بن پرویز، عراق میں اپنی ایک سیرگاہ میں سیر کر رہا تھا کوئی آدمی پہل کر کے اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا تھا۔ صاحبان مراتب عالیہ، حسب مراتب اس کے پیچھے پیچھے تھے اگر وہ دائیں طرف تلفت ہوتا تو سالار فوج اس کے قریب ہو جاتا اور اگر دائیں طرف متوجہ ہوتا تو مؤبدان اس کے قریب ہو جاتا اور ان دونوں میں جو بھی اس کے قریب ہوتا وہ اسے اس آدمی کو حاضر

کرسنہ کا حکم دیتا جس سے وہ رات کو بات کرنا چاہتا یہ اپنی اس سیر میں دائیں جانب متوجہ ہوا تو سالار فوج اس کے قریب ہو گیا اس نے پوچھا شہداد بن جرمہ کہاں ہے ؟ وہ حاضر ہوا تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگا، شیرویہ نے اُسے کہا میں نے اپنے دادا اردشیر بن بابک کی اس بات کے متعلق سوچا ہے جو اس نے خزر کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے وقت کی تھی، اگر تجھے وہ یاد ہو تو مجھے بتاؤ، شہداد نے یہ بات انوشیردان سے سنی تھی وہ اس چال کو بھی جانتا تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ اردشیر نے شاہ خزر کے ساتھ کیسے جنگ کی تھی، پس شہداد نے خاموشی اختیار کی اور اُسے یہ وہم ڈال دیا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا تو شیرویہ نے اُسے بات سنائی جسے اس نے اُسے ہمہ تن گوش ہو کر سنا وہ نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، اس نے شیرویہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کی سواری کے سٹم کے پڑنے کی جگہ کو دیکھنا شروع کر دیا تو سواری کا ایک پاؤں پھسل گیا تو وہ اُس سمیت دائیں جانب کو الٹ پڑی اور وہ پانی میں گر گیا اور سواری بدگئی تو بادشاہ کے نوکر وں اور غلاموں نے جلدی سے سواری کو، آدمی سے الگ کیا اور اُسے کھینچ کر اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر باہر نکال دیا بادشاہ کو اس کا بہت غم ہوا وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور وہیں بساٹ بچھا کر اس نے شہداد کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا اور اپنے خاص پہناوے میں سے ایک پوشاک منگا کر شہداد پر ڈال دی اور اُسے کہا کہ تو اپنے سواری کے سٹم کے پڑنے کی جگہ کو دیکھتے دیکھتے غافل ہو گیا تھا اس نے جواب دیا اے بادشاہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اُسے مصیبت و ابتلا میں ڈال دیتا ہے اور مصیبت، نعمت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو عظیم الشان نعمتیں دیں اور وہ یہ کہ اس انبوء عظیم میں سے بادشاہ اپنے چہرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا اور یہ ایک فائدے کی بات ہے اور یہی جنگ کی تدبیر ہے یہاں تک کہ اس نے اردشیر کے متعلق بات بیان کی اور کہا کہ اگر میں طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کی جگہ تک چلا جاتا تو بھی میں فائدے میں رہتا پس جب ایک وقت میں دو جلیل الشان نعمتیں اکٹھی ہو جائیں تو انہیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر بادشاہ کے فوجی آفیسر اور اس کی خوش بختی نہ ہوتی تو میں ہلاکت کے نشانے پر تھا اور اگر میں غرق ہو جاتا اور اس نئی سرزمین سے چلا جاتا تو نور و ظلمت اور باد صبا اور باد جنوب کی بقاء تک بادشاہ میرے ذکر کو ہمیشہ قائم رکھتا، بادشاہ اس

بات سے خوش ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تمہاری اس قابلیت کا پتہ نہیں تھا پھر اس نے اس کے منہ کو جواہرات اور قیمتی موتیوں سے بھر دیا اور اسے اپنا ولی دوست بنا لیا یہاں تک کہ وہ اس کے اکثر امور پر اثر انداز ہو گیا، ہم نے ایران کے گذشتہ بادشاہ کا یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ابوبکر الہذلی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی نے اس کے سوا، اس کی طرف سبقت ہی نہ کی ہو۔

بادشاہوں کی باتیں سننے کا بہترین موقع | بادشاہوں کی باتیں سننے کے بہترین مواقع کے متعلق یونانی حکماء کہتے ہیں کہ جب

کسی آدمی کی طرف بادشاہ یا رئیس متوجہ ہو تو وہ پوری دلجمعی کے ساتھ اس کی بات کو سنے اگرچہ وہ اس بات کو پہلے سے جانتا ہو، اور وہ بادشاہ کو یہ یاد رکھائے کہ گویا اس نے یہ بات کبھی سنی ہی نہیں بادشاہ کی بات پر خوشی و مسرت اور فائدے کا اظہار کرے، اس سے دو باتیں ظاہر ہوں گی ایک یہ کہ اس کا حسنِ ادب ظاہر ہوگا کہ وہ بادشاہ کی بات کو اچھی طرح سن کر اس کا حق ادا کر رہا ہے اور یوں حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ گویا اس نے یہ بات سنی ہی نہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہا ہے بازاری قسم کے لوگوں کی باتوں کی بہ نسبت بادشاہوں کی باتوں کے بیان کرنے اور ان سے فوائد حاصل کرنے کا نفس بہت دلدادہ ہوتا ہے۔

معاویہ اور ابن شجرہ الرہادی | ابن دأب وغیرہ مؤرخین کی ایک جماعت نے اس مفہوم کی ایک بات معاویہ بن ابی سفیان اور یزید بن

شجرہ الرہادی سے بھی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز ابن شجرہ، معاویہ کے ساتھ چل رہا تھا آپ سے بہت مانوس تھا اور آپ کی باتوں کا بہت مشتاق تھا معاویہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بنی مخزوم اور دیگر قریش کی جنگِ جران کی بات کر رہے تھے اس عظیم جنگ میں بہت سی مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی یہ اسلام سے پہلے اور بعض کے بقول ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور ابوسفیان کو اس میں بڑی سرداری حاصل تھی۔ بات یوں ہے کہ جب دونوں فریق تباہی کے قریب پہنچ گئے تو معاویہ نے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر فریقین کو آواز دی اور اپنی آئین سے اشارہ کیا تو دونوں فریق آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے واپس آگئے معاویہ اس بات پر بہت خوش تھے جب وہ اسے بات سنا رہے تھے تو

یزید بن شجرہ ان کی طرف متوجہ تھا اور بیان کرنے والے اور سننے والے کو لذت نے سرشار کر رکھا تھا کہ یزید بن شجرہ کی پیشانی پر نامعلوم آدمی کی طرف سے مارا جانے والا ایک پتھر آگیا، اس پتھر نے اس کی پیشانی کو خون آلود کر دیا اور اس کے چہرے، ڈاڑھی اور کپڑوں پر خون بہنے لگا مگر وہ اسی محویت سے بات سنتا رہا، معاویہ نے اُسے کہا اے ابن شجرہ تیرے کیا کہنے، کیا تو نے اس مصیبت کو نہیں دیکھا جو تجھ پر نازل ہوئی ہے اس نے کہا امیر المومنین وہ مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے کپڑوں پر خون بہ رہا ہے اس نے کہا اگر امیر المومنین کی بات نے میرے دل اور میری سوچ کو قبضہ میں کر کے اپنا شیفٹ نہ کر لیا ہوتا تو میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتا، مجھے اس وقت تک کسی حادثے کے متعلق پتہ ہی نہیں چلا جب تک امیر المومنین نے مجھے نہیں بتایا، معاویہ نے کہا، جس نے تیرا ایک ہزار عطیہ مقرر کیا ہے اور تجھے مہاجرین کے بیٹوں اور ہمارے ساتھ صفین میں حاضر ہونے والے جمہور کے عطیے سے نکال دیا ہے اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے پھر اس نے جلتے جلتے اُسے پانچ لاکھ درہم دینے کا حکم دیا اور اس کے عطیے میں ایک ہزار درہم کا اضافہ کر دیا اور فوری ادائیگی کا حکم دیا۔

بعض مصنفین کتب میں سے اصحاب معرفت و ادب نے اس روایت کے متعلق جسے ہم نے معاویہ اور ابن شجرہ سے بیان کیا ہے، کہا ہے کہ اگرچہ ابن شجرہ نے اس معاملہ میں معاویہ کو فریب دیا مگر معاویہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں دھوکا نہیں دیا جاسکتا پس اس کی مثال ادل کے اس قول کی طرح ہے کہ جو گدھے کو بے وقوف خیال کرتا ہے، خود بھی بے وقوف ہوتا ہے۔

اگرچہ ابن شجرہ کی کند ذہنی اور احساس کی کمی اس کے اپنے بیان کے مطابق بہت بڑھی ہوئی تھی، اور وہ کسی طرح بھی پانچ لاکھ درہم انعام اور مزید ایک ہزار عطیے کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، میرا خیال ہے کہ معاویہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ حکماء نے اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے اور حسن سماعت اور خاموشی کے متعلق طویل مشورے دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن فہم کے بغیر گفتگو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ نیز ان کا قول ہے کہ حسن کلام کی طرح حسن سماعت کا فن بھی سیکھو اور حسن سماعت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو نہلت

دوتا کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرے۔

آداب گفتگو

گفتگو کے آداب میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ فی البدیہہ اور اچانک بات نہ کرے، گفتگو کو جاری رکھنے ہوئے اس سے ملتی جلتی باتیں بھی کرتا جائے اچھی باتوں کا منبع بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ گفتگو کا ایک حصہ دوسرے حصے سے متعلق ہو جائے جیسا کہ مثال بیان کرتے ہیں کہ بات کی کئی شاخیں ہوتی ہیں جو ایک ہی اصل سے متفرع ہو کر بہت سے معانی کی طرف چلی جاتی ہیں اور زندگی کا تمام لطف فائدہ رساں ہم نشین ہیں ہے، ایک آدمی نے کہا ہے کہ خدا کی قسم میں بات سے نہیں اکتانا تو سُننے والے نے کہا، کریم آدمی اکتا جاتا ہے بات نہیں اکتاتی۔

شعراء نے اس مفہوم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، علی بن عباس رومی کہتا ہے
 ” اور میں اپنی تمام ضروریات سے اکتا گیا ہوں اور ان میں سب سے اچھی ضرورت
 وہ تھی جو مجھے ناموافق تھی سوائے گفتگو کے کیونکہ وہ اپنے نام (حدیث) کی
 طرح ہمیشہ نئی رہتی ہے۔“

اس بارے میں سب سے بہتر ابراہیم بن عباس کا قول ہے کہ
 ” زمانے نے اور جو کچھ تو میری مانگ میں دیکھ رہا ہے، اس نے گمراہی کو
 دور کر دیا ہے اور میں شریف بن کر واپس آیا ہوں، اور میں ہر چیز سے
 اکتا گیا ہوں مگر اس خوش گفتار آدمی سے نہیں اکتایا جو میری تعلیم میں اضافہ
 کرتا ہے۔“

بعض اہل ادب محدثین نے بیان کیا ہے کہ ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ندیم سے بات کو طول نہ دیا جائے اور سب سے شیریں اور اچھی بات وہ ہے جس میں کئی مفہوم کی ایسی لمبی باتوں اور زائد الفاظ سے اجتناب کیا جائے کہ جن کا بیان کرنے سے مجلس کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے اور دل انہی کے ساتھ اُلجھے رہتے ہیں اور ان کے آخر میں گھونٹ گھونٹ کر کے پیالے پیے جاتے ہیں، یہ باتیں داستان سراؤں کی مجالس میں ہوتی ہیں جو خواص کی مجالس کے مشابہ ہوتی ہیں اور اس مفہوم کو بہت اچھے پیرائے میں المعتز باللہ نے بیان کیا ہے یہ بات شغل سے لوشی کے وقت ایک صاحب نے کہی ہے

”ان کے پیالوں کے درمیان چھوٹی بات کرنا ایک جادو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلام ہے — اور ندیموں کے درمیان ساقی یون ہیں جیسے سطرول کے درمیان الف کھڑے ہوں۔“

اسی طریقہ سے بعض لوگوں نے ظریفانہ باتوں کو سنا ہے۔

عباسی حکومت کا پہلا وزیر | عباسی حکومت میں سب سے پہلے جس شخص کو وزیر کے نام سے موسوم کیا گیا وہ ابو سلمہ حفص بن سلیمان

الخلال الہمدانی تھا جو بیع کا غلام تھا، ابو العباس کے دل میں اس کے متعلق کچھ کدورت تھی کیونکہ اس نے کوشش کی تھی کہ حکومت ان کی بجائے دوسروں کو دے دی جائے ابو مسلم نے سفاح کو اس کے قتل کرنے کے متعلق لکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے خون کو جائز کر دیا ہے کیونکہ اس نے عہد شکنی کی ہے اور بدل گیا ہے، سفاح نے کہا میں اپنی حکومت کا افتتاح اس شخص کے قتل سے نہیں کرنا چاہتا جو میرا پیر و کار ہے خصوصاً ابو سلمہ جیسے آدمی کے قتل سے، وہ اس دعوت کا حامی ہے اس نے اس راہ میں اپنے جان و مال کو خرچ کیا ہے، اس نے اپنے امام کی خیر خواہی کی ہے اور اس کے دشمنوں سے جہاد کیا ہے۔ اس کے بھائی ابو جعفر اور چچا داؤد بن علی نے بھی اس بارے میں گفتگو کی، کیونکہ ابو مسلم نے ان دونوں کو بھی لکھا تھا کہ وہ سفاح کو اس کے قتل کا مشورہ دیں، ابو العباس نے کہا میں اس کے کثیر احسانات عظیم امتحانات اور اچھے ایام کو اس کی ایک لغزش کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا جو ایک شیطانی خیال اور انسانی غفلت ہے ان دونوں نے اُسے کہا، امیر المؤمنین آپ کو اس سے بچ کر رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس سے خدشہ ہے، اس نے کہا ہرگز نہیں، میں اپنے شب و روز میں پوشیدہ اور ظاہر اکیلے اور جماعت میں اس سے محفوظ ہوں، ابو العباس کی طرف سے جب یہ بات ابو مسلم کو پہنچی تو اس نے اُسے بہت بڑی بات خیال کیا اور اسے ابو سلمہ کی طرف سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ وہ اس کے متعلق کوئی بُرا ارادہ کرے گا، لہذا اس نے اپنے قابل اعتماد اصحاب کی ایک جماعت کو بھیجا کہ وہ ابو سلمہ کے قتل کی تدبیر کریں، ابو العباس ابو سلمہ سے بڑا مانوس تھا اور رات کو اس سے باتیں کیا کرتا تھا، ابو سلمہ بڑا ہنس مکھ، ادیب اور سیاست و تدبیر کا ماہر تھا کہتے ہیں کہ ایک شب ابو سلمہ سفاح کے پاس سے اس کے شہر انبار سے

اکیلا واپس آ رہا تھا کہ ابو مسلم کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر کے اُسے قتل کر دیا جب سفاح کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے کہا ہے

”چاہتے کہ وہ (قاتل) آگ کی طرف چلا جائے، اور اس جیسا کون ہے اس کے جانے سے ہم کس کس چیز پر افسوس کریں۔“

ابو مسلم کو امین آل محمد اور ابو سلمہ حفص بن سلیمان کو وزیر آل محمد کہا جاتا تھا، جب اُسے دھوکے سے قتل کر دیا گیا تو ایک شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں

”کبھی بُرائی بھی خوش ہوتی ہے اور کبھی تو جس چیز کو ناپسند کرے اس پر خوشی کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، وزیر آل محمد مر گیا ہے اور جو تجھ سے دشمنی رکھتا تھا وہ وزیر ہو گیا ہے۔“

سفاح کی شبانہ گفتگوئیں | سفاح کو گفتگو اور عربوں میں سے نزار و یمن کے منافخرا اور ان کا تذکرہ بہت پسند تھا ابو العباس سفاح کے

ساتھ خالد بن صفوان اور دوسرے قحطانیوں کے بہت اچھے واقعات، مذاکرات، منافخرات منادات اور مسامرات ہیں جن میں سے شان دار واقعات کو منتخب کر کے ہم نے مفصل طور پر اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان کیا ہے، اس جگہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

بہلول بن عباس نے بیثم بن عدی طائی سے اور اس نے یزید الرقاشی سے جو داستانیں اور واقعات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سفاح کو، مردوں کی باتیں بہت پسند آتی تھیں، ایک شب میں اس کے ہاں باتیں کر رہا تھا کہ اس نے کہا یزید تو نے جو سب سے عمدہ بات سنی ہے وہ مجھے رنناؤ، میں نے کہا امیر المومنین خواہ وہ بنی ہاشم کی ہو، اس نے کہا وہ مجھے بہت پسند ہوگی، میں نے کہا امیر المومنین ایک تنوخی آدمی، بنی عامر بن صعصعہ کے ایک قبیلے میں اُترا، اور اس نے اپنے سامان میں سے کچھ بھی نہ اتارا مگر یہ شعر بطور مثال پڑھا ہے

”بیری زندگی کی قسم، جب تک بنی عامر پر ان کی کھال موجود ہے بخل کی وجہ سے ان کی پونشید، باتیں بوسیدہ نہ ہوں گی۔“

قبیلے کی ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر گفتگو کی اور موافقت کا اظہار کیا اور اس

حال اموال دریافت کیا تو وہ بھی اس سے مانوس ہو گیا پھر وہ کہنے لگی مجھے تجھ سے فائدہ پہنچے تو کس قبیلے کا ہے، اس نے جواب دیا، میں بنی تمیم کا ایک آدمی ہوں، اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”بنو تمیم بخل کے راستوں کی طرف بھٹ تیز سے بھی زیادہ راہ پانے والے ہیں اور اگر وہ نیک کاموں کی طرف چلیں تو راہ ہی بھول جائیں، ایک لپیٹو اگر ایک جوں کی پشت پر بیٹھ کر تمیم کی دو فوجوں پر حملہ کرے تو وہ بھاگ جائیں، ہم نے اونٹوں کو ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور ہمارا ذبیحہ مکمل ہو گیا مگر بنو تمیم نے کبھی جانور ذبح ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ کا نام لیں، میں دیکھتا ہوں کہ رات کو دن، دور کر دیتا ہے لیکن میں بنو تمیم سے ذلت کی ہڈیوں کو زور ہوتے نہیں دیکھا۔“

اس آدمی نے کہا خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے پوچھا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بخل قبیلے کا ایک آدمی ہوں، اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت مال دیتے ہیں اور بنی عجل کی عطاء صرف تین اور چار ہوتی ہے اور جب کوئی عجل کسی علاقے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ہاتھ ایک انگلی زمین کھودی جاتی ہے۔“

اس نے کہا قسم بخدا، میں بخل میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے پوچھا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی شکر کا ایک آدمی ہوں، اس نے کہا کیا تو اس آدمی کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”اور جب کسی شکر کا کپڑا تیرے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو پاک ہونے تک خدا کا ذکر نہ کرنا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں شکر میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں عبد القیس کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اس آدمی کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”جب عبد القیس کو پیاز اور سرکہ اور نمکین کھانا چڑا ہوا مل جائے تو میں نے

انہیں ذلیل حالت میں دیکھا ہے ، وہ عورتوں کے پاس چوری چوری رات گزارتے ہیں جیسے تر آنتوں والا عجیبی رات گزارتا ہے ۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں عبد القیس میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں باہلہ قبیلے کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اُسے جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں ۔

”جب کریم لوگ کارناموں کے لیے ازدحام کرتے ہیں تو باہلی ، بھیر سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر خلیفہ باہلی ہو تو وہ شریف لوگوں سے دشمنی نہیں کرے گا اور اگر باہلی کی عزت بچ جائے تو وہ کھانے کے رومال کی طرح ہوتی ہے ۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں باہلہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن لوگوں میں سے ہے ؟ اس نے کہا میں فزارہ کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا ، کیا تو اس آدمی کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں ۔

”اگر تو کسی فزاری کے پاس جائے تو اپنی اذٹنی کے متعلق بے خوف نہ ہو اور اُسے لٹموں کے ساتھ باندھ لے ، اور اگر گدھے کی دُبر آگ میں داخل ہو جائے تو پھر بھی گدھے کے متعلق فزاری پر اعتبار نہ کر ، وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے صحن میں مہمان آتے ہیں تو وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں آگ پر بول کر دے ۔“

اس نے کہا قسم بخدا ! میں فزارہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن لوگوں میں سے ہے اس نے کہا میں ثقیف میں سے ہوں اس نے کہا ، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں ۔

”نسب بیان کرنے والوں نے ابو ثقیف کو گمراہ کر دیا ہے پس گمراہی کے سوا ان کا کوئی باپ نہیں اگر وہ اپنا نسب بیان کریں یا ثقیف کا نسب کسی کی طرف منسوب ہو تو یہ ایک محال بات ہے ، کھجوروں کے جھنڈوں میں رہنے والے خنزیروں نے انہیں قتل کر دیا ہے پس ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے ۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں ثقیف میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی عبس سے ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں

”جب کسی عبسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اُسے بخل کی خوشخبری دے جو حاصل کیا گیا ہے۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں عبس میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں ثعلبہ قبیلے کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں

”اور ثعلبہ بن قیس بہت بُرے لوگ ہیں، پڑوسی کے ساتھ نہایت خیاث کرنے والے ہیں اور قابل ملامت لوگ ہیں۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں ثعلبہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا — میں غنی قبیلے سے ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں

”جب کوئی غنوی عورت بچہ جنے تو اسے اچھے درزی کی خوشخبری دے۔“

اس نے کہا، واللہ، میں غنی قبیلے میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی مرہ کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے

”جب کوئی مری عورت اپنے ہاتھوں کو رنگ لے تو اس کی شادی کر دے مگر اس کے زنا سے بے خوف نہ ہو۔“

اس نے کہا قسم بخدا، میں بنی مرہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی ضبہ کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے

”اے ابن مکعبہ! تیری آنکھیں نیلی ہو گئی ہیں جس طرح ہر صبی بخل سے نیلا ہو گیا ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں بنی ضبہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے

ہے اس نے کہا میں بچیلہ قبیلے کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”جب بچیلہ قبیلہ اُترا تو ہم نے اس کے متعلق دریافت کیا تا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے کہاں ٹھکانہ بنایا ہے، جب بچیلہ کو پکارا جائے تو تجھے معلوم نہ ہوگا کہ اس کا باپ قحطان ہے یا نزاہ، پس بچیلہ بین بین ہے اور بے لگام جانور کی طرح آزاد ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں بچیلہ میں سے نہیں ہوں لوندی نے کہا تیرا بڑا ہو پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی ازد کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے کہ

”جب کوئی ازدی عورت بچہ جنے تو اُسے اچھا ملاح ہونے کی خوشخبری دے۔“

اس نے کہا واللہ میں بنی ازد میں سے نہیں ہوں لوندی نے کہا تو ہلاک ہو تو کن میں سے ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی سچ بات بتا، اس نے کہا میں خزاعہ قبیلہ کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”جب خزاعہ کے لوگ کسی قدیم بات پر فخر کرتے ہیں تو ہم نے شراب نوشی

کو ان کا فخر پایا ہے۔ انہوں نے کھلم کھلا کعبہ کو ایک شراب کے مشکیزے

کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ یہ فخر کرنے والے کے لیے بہت بڑا فخر ہے۔“

اس نے کہا قسم بخدا، میں خزاعہ میں سے نہیں ہوں، لوندی نے کہا پھر تو کن

میں سے ہے اس نے کہا میں سلیم قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ یہ شعر کس نے کہا ہے۔

”پس سلیم کو کیا ہو گیا ہے اللہ ان کی حکومت کو پر اگندہ کرے ان کے ہاتھ

بڑائی کرتے ہیں اور ان کی ڈبریں تھک جاتی ہیں۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں سلیم میں سے نہیں ہوں لوندی نے کہا پھر تو کن میں سے

ہے اس نے کہا میں لقیط کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”تیری زندگی کی قسم سمندر اور صحرا بنی لقیط کی ڈبر کے حلقے سے زیادہ وسیع

نہیں ہیں بنی لقیط ، سوار یوں پر سوار ہونے والوں اور زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ بڑے ہیں بنی لقیط پر خدا کی لعنت ہو یہ قوم لوط کے باقی ماندہ قیدی ہیں۔“

اس نے کہا واللہ ، میں لقیط قبیلے سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی کندہ میں سے ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

” جب کوئی خوب صورت اور منقش لباس والا کنڈی فخر کرے تو وہ یمن کے بنے ہوئے کپڑے ، موزے ، چادر اور قبر پر فخر کرتا ہے پس کندہ کو یمن کے بنے ہوئے کپڑے پر فخر کرنے کے لیے چھوڑ دے اس کا سب سے بڑا فخر مانگنا ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں کندہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں خثعم کا ایک آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے۔

” اور اگر تو خثعم کو سیسی ماہ کہ بلائے تو وہ ٹڈی کے ساتھ ملکوں میں اڑ جائے۔“
اس نے کہا خدا کی قسم میں خثعم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں طے قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

” اوطے تو صرف عجیبوں کا اکٹھا ہے اس نے گارا بنانے کو کہا تو وہ مسلسل گارا بنانے لگ گیا اور اگر ایک لپسٹو طے کے دونوں پہاڑوں پر اپنے بازو پھیلا دے تو طے قبیلہ اس کے سائے میں اکٹھا ہو جائے۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں طے قبیلے سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں مزنیہ قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے۔

” مزنیہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں سخاوت اور دین کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں مزنیہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے
کہنے لگا میں نخی قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اُسے جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں
”جب کینے نخی صبح کو اکٹھے ہو کر چلیں تو بھیڑ کی زیادتی سے لوگوں کو اذیت

ہوتی ہے اور وہ اچھی بزدگی کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہی خالص کریم لوگ ہیں“
اس نے کہا واللہ میں نخی نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے، کہنے لگا میں
اور قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں
”جب تو دیارِ اود میں جائے تو جان لے کہ تو نے ان میں سے کسی کے ساتھ

بات نہیں کرنی، پس کسی بوڑھے اور جوان کی طرف مائل نہ ہو اس قوم کا ہر آدمی

لاکھی مار ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں اود میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں مخم قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے
یہ شعر کہا ہے

”جب کوئی قوم فخر کے اظہار کے لیے اپنے کسی قدیم آدمی کی طرف منسوب ہوتی
ہے تو پوری مخم قوم سے فخر دور ہو جاتا ہے۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں مخم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے
کہا میں جذام قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا
ہے

”جب کسی روز کسی اچھے کام کے لیے جامِ شراب کو گردش دی جائے تو وہ
جذام سے پرے ہٹ جاتا ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں جذام میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا تو ہلاک ہو پھر
تو کن میں سے ہے؟ کیا تجھے اتنا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس نے کہا میں تنوخ
کا آدمی ہوں اور یہ سچ بات ہے اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار
کہے ہیں

”جب لوٹ مار اور بدلہ لینے کے لیے تنوخی، چشمے کو بند کر دیتے ہیں تو خدا
کی ذلت کے ساتھ اہل اود پڑوسیوں میں رسوا ہو کر لوٹتے ہیں۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں تنوخ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا تیری ماں تجھ کو کھودے پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں حمیر قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں

”مجھے بتایا گیا ہے کہ حمیر کے لوگ میری بچو کرتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو انہیں کچھ نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ پیدا ہوئے ہیں کیونکہ حمیر قوم کا کوئی اصل ہی نہیں ہے وہ چٹیل میدان کی لکڑی کی طرح ہیں جس میں نہ پانی ہوتا ہے نہ پتے ہوتے ہیں اور نہ ان کی زندگی خواہ کس قدر لمبی ہو ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اور اگر لومڑان پر پشیا ب کر دے تو وہ غرق ہو جائیں۔“

اس نے کہا واللہ میں حمیر میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے کہنے لگا میں سجا بر کا آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے

”اگر سجا بر کے علاقے میں کوئی چوں چوں کرنے والا، چوں چوں کرے تو مرکہ مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں سجا بر میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے کہنے لگا میں قشیر میں سے ہوں اس نے کہا کیا تو اسے جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے

”اے بنی قشیر میں نے تمہارے سردار کو قتل کیا ہے آج نہ اس کا فدیہ ہے نہ قصاص۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں قشیر میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی امیہ میں سے ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں

”بنی امیہ کی بنیاد مکہ زور پر پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ پر اس کا تباہ کرنا آسان ہو گیا اور گذشتہ زمانے میں بنی امیہ کی حکومت خدا پر جسارت کرتی تھی پس نہ آل حرب نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور نہ اس کا مروان اللہ سے ڈرا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں بنی امیہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے

ہے اس نے کہا میں بنی ہاشم میں سے ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”اے بنی ہاشم اپنی کھجوروں کی طرف واپس آ جاؤ اب یہ کھجوریں ایک دہم کی ایک صاع ہو گئی ہیں اگر تم کہو کہ تم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہو تو نصار بنی عیسیٰ بن مریم کے قبیلے سے ہیں۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں بنی ہاشم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن سے ہے اس نے کہا میں ہمدان کا آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”جب ہمدان جنگ کے روز اپنی چکی کو، آدمیوں کی کھوپڑیوں کے اوپر گھمائے تو تو انہیں جنگ سے بھاگتے ہوئے سوار یوں کو دوڑاتے دیکھے گا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں ہمدان میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے کہنے لگا میں قضاہ قبیلہ کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”کوئی قضاہ اپنے خاندان پر فخر نہ کرے وہ نہ محض مینی ہے اور نہ مفسری، وہ ان کے درمیان مذذب ہے ان کا والد نہ قحطان ہے نہ نزار، پس انہیں دوزخ میں جانے دو۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں قضاہ میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں شیبان کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

”شیبان قوم کی تعداد بہت ہے اور وہ سب کے سب دوغلے اور کینے

ہیں ان میں کوئی بزرگ، حسب نسب والا، نجیب اور کریم نہیں ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں شیبان میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے اس نے کہا میں بنی نمیر کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

یہ اشعار کہے ہیں

اگر تو بنی نیر سے ہے تو اپنی نگاہ نیچی کر لے تو نہ کعب کو پہنچا ہے اور نہ کلاب کو
اگر بنی نیر کی دبر کے حلقے نہنگ آلود لو ہے پر رکھے جائیں تو وہ گچھل جائیں۔
اس نے کہا قسم بخدا میں بنی نیر سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے ہے
اس نے کہا میں تغلب کا آدمی ہوں، اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے

یہ اشعار کہے ہیں

” بنی تغلب میں ماموں تلاش نہ کر، ماموں ہونے کے لحاظ سے نہنگی ان سے
افضل ہے اور تغلبی جب مہمان نوازی کے لیے کھانتا ہے تو اس کی دبر
دگر کھاتی اور مثالیں بیان کرتی ہے۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں تغلب میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں مجاشع کا آدمی ہوں اس نے کہا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے
یہ شعر کہا ہے

” مجاشع کی بیٹیوں میں سے وہ بیٹی روتی ہے جس کا خاوند غائب ہو گیا
ہے اور اس کی آواز گدھے کے رینگنے کی طرح سنی جاتی ہے۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں مجاشع میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں کلب کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے

یہ شعر کہا ہے

” کلب اور اس کے گھر کے قریب نہ جا جو رات کو چلنے والا اس کی آگ
کی روشنی کو دیکھ لیتا ہے وہ اس سے کوئی امید نہیں رکھتا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں کلب میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں تیمم کا آدمی ہوں اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے

یہ اشعار کہے ہیں

” بنو تیمم کی عورت کا اگلا حصہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہوتا ہے اور وہ بغیر
مخروم کے انگلیوں کے ساتھ چکی بدیتہ دیتے ہیں۔“

اس نے کہا قسم بخدا میں تیمم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے

ہے اس نے کہا میں جرم قبیلے کا آدمی ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے

یہ اشعار کہے ہیں

”جرم مجھے سخاوت کے ستوؤں کی تمنا دلاتا ہے حالانکہ نہ جرم ہے اور نہ اس کے ستوؤں اور نہ

انہوں نے کبھی کسی جگہ فروکش ہو کر ستو پیسے ہیں اور نہ کبھی منڈی میں ان کو
گراں بیچا ہے جب ان کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت سے جرم کا آدمی
ہوش میں نہیں آتا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں جرم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں سلیم کا آدمی ہوں، اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے
یہ اشعار کہے ہیں

”اور جب تو صبح کے کھانے کے لیے سلیم کے پاس جائے تو تو بھوکا واپس
آ جائے گا۔“

اس نے کہا خدا کی قسم میں سلیم میں سے نہیں ہوں لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں موالی میں سے ہوں اس نے کہا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے
یہ شعر کہا ہے

”اور جو شخص فحش اور بے حیائی کرنا چاہے تو وہ الجبید اور طرفان کے غلاموں
کے پاس جائے۔“

اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے نسب کے بارے میں غلطی کھائی ہے اس
خوز قبیلے کا آدمی ہوں، اس نے کہا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے
”اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی برکت نہ دے اے خوز کے گروہ! خوز تو آگ میں داخل ہے“

اس نے کہا خدا کی قسم میں خوز میں سے نہیں ہوں، لونڈی نے کہا پھر تو کن میں سے
ہے اس نے کہا میں حام کی اولاد میں سے ہوں اس نے کہا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے،
جس نے یہ شعر کہا ہے

”حام کے لڑکوں سے نکاح نہ کر وہ خدا کی مخلوق کے منحوس آدمی ہیں اے
ابن اکوع ان سے اجتناب اختیار کر۔“

اس نے کہا نہیں ، خدا کی قسم میں اولادِ حام میں سے نہیں ہوں بلکہ راندہ درگاہِ الہی
 شیطان کی اولاد میں سے ہوں اس نے کہا تجھ پر اور تیرے ساتھ تیرے باپ شیطان
 پر خدا کی لعنت ہو ، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہے
 ”اے بندگانِ خدا یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ خدا کا دشمن ابلیس ہے اے
 قتل کر دو۔“

اس نے لونڈی سے کہا یہ مقام تجھ سے پناہ مانگنے کا ہے ، اس نے کہا ذلیل اور
 رسوا ہو کر چلا جا جب تو کسی قوم کے ہاں اترے تو اس وقت تک ان میں شعر نہ پڑھنا
 جب تک تو انہیں پہچان نہ لے کہ وہ کون ہیں اور لوگوں کی برائیوں کے درپے نہ ہو ،
 کیونکہ رب العالمین کے رسول اس کے برگزیدہ اور معصوم کے سوا ، سب لوگ برائی اور
 بھلائی کرتے ہیں اور تیری مثال ایسی ہے جیسے جریر نے فرزدوق سے کہا تھا
 ”اور جب تو کسی قوم کے ہاں اترے تو تو سوائی کے ساتھ سفر کرے گا اور
 عاد کو چھوڑے گا۔“

اس نے لونڈی سے کہا خدا کی قسم میں کبھی شعر نہیں پڑھوں گا ، پس سفاح نے کہا
 اگر تو نے اس واقعہ کو بنایا ہے اور بیان کردہ اشعار کو نظم کیا ہے تو تو نے بہت خوب
 کیا ہے اور تو جھوٹوں کا سردار ہے اور اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ عامری لونڈی سب
 لوگوں سے زیادہ حاضر جواب اور سب سے زیادہ ان کے عیوب سے آگاہ ہے۔
 مسعودی بیان کرتا ہے کہ اس واقعہ کے علاوہ سفاح کی اور بھی بہت سی اچھی باتیں
 ہیں جنہیں ہم نے مبسوط طور پر اپنی دونوں کتابوں اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان
 کیا ہے۔

ابو جعفر منصور کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی بیعت ۱۲ ذوالحجہ ۱۳۶ھ کو ہوئی یہ ابھی مکہ کے راستہ ہی میں تھا کہ اس کے چچا عیسیٰ بن علی نے اس کی بیعت لے لی اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کے لیے بیعت لی۔ اس وقت منصور ۴ سال کا تھا، اس کی پیدائش ماہ ذوالحجہ ۹۵ھ میں ہوئی، اس کی ماں اُم ولد تھی جسے سلامہ بربریہ کہا جاتا تھا، منصور کی وفات ۶ ذوالحجہ ۱۵۸ھ کو ہفتہ کے روز ہوئی اس نے نو دن کم بائیس سال حکومت کی اور اس نے عراق کے راستے سے بستان بنی عامر سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ کر حج کیا اور ۶۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔ مکہ میں اُسے ننگے منہ دفن کیا گیا کیونکہ وہ محرم تھا بعض کہتے ہیں کہ اس نے بسترِ مہمون کے پاس بطحا میں وفات پائی اور حجوں میں دفن ہوا اور اس کی عمر ۶۵ سال تھی۔ واللہ اعلم۔

اس کے حالات و واقعات کا بیان اور اس کے

دور کے ایک جھلک

منصور کی والدہ کا خواب | منصور کی ماں سلامہ کا بیان ہے کہ جب میں نے ابو جعفر منصور کو حمل میں لیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری قبل سے ایک شیر نکلا ہے جو چوڑوں کے بل بیٹھ گیا ہے وہ دھاڑتا اور اپنی دم کو زمین پر مارتا ہے تو ہر جانب سے اس کے پاس شیر آگے اور جب کوئی شیر اس کے

پاس پہنچتا ہے تو اُسے سجدہ کرتا ہے۔

منصور اور نابینا ہمسفر شاعر | علی بن محمد المدائنی بیان کرتا ہے کہ منصور نے کہا میں نے

شام کے سفر میں ایک نابینا سے رفاقت کی جو مروان بن محمد سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس کے متعلق کچھ اشعار کہے تھے میں نے اُسے کہا مجھے اشعار سناؤ تو اس نے مجھے یہ اشعار سنائے۔

”کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس نے کستوری کی خوشبو کو مہکا پایا ہے اور میرے خیال میں خیف میں میرا کوئی مولس نہیں، جب سے بنو امیہ اور عبد شمس کے جامع الفضائل سرداروں سے چلے گئے ہیں، خطباء منبروں پر سوار ہیں در آنحالیکہ وہ گویاں ہیں گونگے نہیں ہیں، وہ باتیں کرنے والوں پر عیب نہیں لگاتے اور اگر بات کریں تو درست بات کرتے ہیں۔ اور وہ مشتبہ بات نہیں کرتے اور جب عقلیں بیک جاتی ہیں تو وہ عقل سے کام لیتے ہیں اور ان کے چہرے دنیا بیکر کی طرح ملائم ہیں۔“

منصور بیان کرتا ہے خدا کی قسم ابھی وہ اپنے اشعار سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اس اندھے کو میرے متعلق علم ہو گیا ہے، خدا کی قسم وہ بہت مفید گفتگو کرنے والا اور اچھا رفیق تھا۔

منصور کہتا ہے کہ میں نے ۱۴۱ھ میں حج کیا اور میں ایک نذر کی وجہ سے درد کے دو پہاڑوں کے درمیان رہتی جگہ پر گدھی سے اتر پڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک نابینا آدمی کھڑا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو پچھے ہو جانے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے گئے میں نے اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اُسے سلام کہا اس نے کہا میں آپ کے قربان جاؤں آپ کون ہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے جواب دیا جب تو بنی امیہ کے زمانے میں مروان کو ملنے کے لیے شام جا رہا تھا تو میں تیرا رفیق سفر تھا، اس نے مجھے سلام کہہ کر ایک آہ بھری اور کہنے لگا۔

”بنی امیہ کی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی بیٹیاں یتیم ہو کر ضائع ہو گئی ہیں ان کی قسمت سو گئی ہے اور ان کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں اور قسمت سوتی ہی رہتی ہے تخت اور منبر خالی ہو گئے ہیں،

پس ان پر موت تک سلام ہو۔“

میں نے اُسے کہا مردان نے تمہیں کتنا انعام دیا تھا اس نے جواب دیا اس نے مجھے غنی کر دیا تھا اب میں اس کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں نے پوچھا کتنا دیا تھا؟ کہنے لگا چار ہزار دینار اور خلعت اور بار برداری کا جانور، میں نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں اس نے کہا بصرہ میں ہیں، میں نے پوچھا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے کہنے لگا میری زندگی کی قسم معرفت صحبت تو جاتی رہی ہے اور نسب کی معرفت مجھے حاصل نہیں میں نے کہا، میں ابو جعفر منصور امیر المومنین ہوں، تو وہ لرزہ بر اندام ہو کر کہنے لگا امیر المومنین معذرت قبول کیجیے آپ کے عم زاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسن کی محبت اور بڑائی کرنے والے کا بغض، فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، ابو جعفر بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اُسے نقصاً پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا پھر مجھے حرمت اور صحبت یاد آگئی تو میں نے میتب سے کہا اے چھوڑ دو، مجھے اس سے شب کو گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے اس کی تلاش کا حکم دیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ویرانے نے اُسے تباہ کر دیا ہے (وہ کہیں نہ ملا)

منصور اور اس کے اہل کی بنی اُمیہ کی سیر کے متعلق گفتگو | الربیع بیان کرتا ہے کہ منصور

کے پاس عیسیٰ بن علی، عیسیٰ بن موسیٰ، محمد بن علی، صالح بن علی، قثم بن عباس، محمد بن جعفر اور محمد بن ابراہیم اکٹھے ہوئے تو بنی اُمیہ کے خلفاء ان کی سیرت و تدبیر اور اس سبب پر گفتگو کرنے لگے جس کے باعث ان کی عزت جاتی رہی تھی، منصور کہنے لگا عبد الملک ایک جابر آدمی تھا اور بے پروا ہو کر کام کرتا تھا، سلیمان کی ہمت اس کے پیٹ اور شرمگاہ تک ہی محدود تھی، عمر بن عبد العزیز اندھوں میں کاٹا تھا، ہشام ان میں مرد تھا، بنو اُمیہ ہمیشہ ایک کام کر کے اور ادنیٰ کاموں کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عطا کردہ حکومت کی حفاظت و صیانت کرتے، اسے یہاں تک کہ حکومت ان کے عیاش فرزندوں کے پاس آگئی اور وہ صرف لذات و شہوات کے پرستار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت سے جہالت لختیا کر کے اس کی تدبیر سے بے خوف ہو کر گناہ کے مرتکب ہوتے رہے اور انہوں نے خلافت کی حفاظت کو ترک کر دیا اور حقوق اللہ اور حقوق ریاست کے استخفاف اور انتظام کمزوری کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت چھین لی اور انہیں ذلیل کر دیا، ان

سے نعمتوں کو سلب کر لیا صارح بن علی کہنے لگا امیر المومنین جب عبد اللہ بن مردان اپنے
 پیروکاروں کے ساتھ بھاگتا ہوا عرض نوبہ میں گیا تو وہاں کے بادشاہ نے ان سے ان کے
 حالات ان پر نازل ہونے والی مصیبت، اور ان کی سیرت کے متعلق پوچھا، تو اس نے
 اُسے سب باتوں کے متعلق بتایا اور وہ سواہ ہو کر عبد اللہ کے پاس گیا تاکہ وہ اس سے ان
 کے امور اور اس سبب کے متعلق پوچھے جس کی وجہ سے ان سے یہ نعمت چھین گئی ہے
 اور اس نے اس سے باتیں کیں جو مجھے یاد نہیں رہیں پھر اس نے اُسے اپنے شہر سے
 نکال دیا۔ اگر امیر المومنین پسند کریں تو اُسے بلا کر اُس سے بات کر لیں، منصور نے اُسے
 اپنی مجلس میں حاضر کرنے کا حکم دیا جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تو منصور نے اُسے
 کہا عبد اللہ! مجھے اپنا اور شاہ نوبہ کا واقعہ سناؤ، اس نے کہا امیر المومنین میں نوبہ گیا
 وہاں پر تین دن ٹھہرا تو وہاں کا بادشاہ میرے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ گیا حالانکہ میں نے
 اس کے لیے قیمتی قالین بچھایا ہوا تھا میں نے اُسے کہا ہمارے قالین پر بیٹھنے سے
 آپ کو کونسی چیز مانع ہے اس نے جواب دیا میں ایک بادشاہ ہوں اور ہر بادشاہ کا
 یہ حق ہے کہ جب خدا اُسے عزت دے تو وہ اس کے حضور عاجزی اختیار کرے
 پھر کہنے لگا، تمہاری کتاب میں تو شراب حرام ہے پھر تم شراب کیوں پیتے ہو؟
 میں نے جواب دیا ہمارے غلاموں اور پیروکاروں کی جسارت ہے پھر کہنے لگا تمہاری
 کتاب میں فساد کرنا حرام ہے پھر تم کھیتی کو اپنے جانوروں سے کیوں روندتے ہو؟
 میں نے جواب دیا، ہمارے غلاموں اور اتباع نے جہالت سے یہ حرکت کی ہے، وہ
 کہنے لگا، تمہارے دین اور تمہاری کتاب میں سونا اور لیشیم پہننا حرام ہے تم کیوں لیشیم
 اور سونا پہنتے ہو؟ میں نے جواب دیا ہم سے حکومت جاتی رہی ہے ہم ایک عجمی قوم
 پر غالب آئے اس نے ہمارے دین میں داخل ہو کر ہمارے ناپسندیدگی کے باوجود
 اسے پہن لیا، وہ ایک ہاتھ کو اُلٹا پلٹا اور دوسرے سے زمین کہہ دیتا ہوا زمین کی
 طرف جھکا اور کہنے لگا ہمارے غلاموں، پیروکاروں اور عجمیوں نے ہمارے دین میں
 خرابی پیدا کی ہے پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بات یوں نہیں ہے جس طرح تم نے بیان
 کی ہے بلکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، جن کاموں
 سے تم کو روکا گیا تھا ان کا تم نے اتساک کیا اور تم نے اپنی شاہی میں ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ

نے تم سے عزت کو چھین لیا اور تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں ذلیل کیا، خدا کا انتقام ابھی تم میں اپنی انتہا کو نہیں پہنچا اور مجھے خدشہ ہے کہ میرے ملک میں رہتے ہوئے تم پر عذاب نازل ہو اور تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، مہمان نوازی کا حق تین دن ہی ہوتا ہے، تجھے جو ضرورت ہے وہ مجھ سے لے اور میرے علاقے سے چلتا بن۔ تو میں وہاں سے چلا آیا۔ منصور متعجب ہو کر کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اُسے اُس پر رحم آگیا اور اسے آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن عیسیٰ بن علی نے اُسے بتایا کہ اس کی گردن میں بنو امیہ کی بیعت ہے تو اس نے اُسے دوبارہ قید خانے میں بھیج دیا۔

محمد بن جعفر طالبی کی وفات | مسعودی بیان کرتا ہے کہ منصور کی خلافت کے دس سال گزرنے پر ۲۸ھ میں ابو عبد اللہ محمد بن جعفر

بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، فوت ہو گئے اور اپنے باپ اور دادا کے ساتھ بقیع میں دفن ہوئے اُن کی عمر ۶۵ سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ انہیں نہر دیا گیا تھا بقیع میں ان کی قبور پر سنگ مرمر پر یہ لکھا ہوا ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو قوموں کو تباہ کرنے والا اور بوسیدہ بڑیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ سیدۃ نساء العالمین

فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن بن علی بن ابی طالب اور علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور محمد بن علی اور جعفر بن محمد رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں۔

منصور کے وزراء | ابو جعفر منصور نے ابن عطیہ باہلی کو وزیر بنایا، پھر ابو ایوب مورینی خوزمی کو وزیر بنایا، اس کے ابو جعفر کے ساتھ کئی قسم کے تعلقات

تھے ایک یہ کہ وہ سلیمان بن حبیب بن مہلب کا کاتب تھا۔ سلیمان نے امویوں کے زمانے میں منصور کو کوڑے مارے تھے اور اس کی بے عزتی کا ارادہ کیا تھا تو اس کے کاتب

ابو ایوب نے اُسے سلیمان کے ہاتھ سے چھڑایا تھا یہ اس کی خدمت میں پہنچنے کا سبب تھا جب اُس نے اُسے وزیر بنایا تو اس پر کئی چیزوں کا اتہام لگایا گیا ایک یہ کہ وہ مال

جمع کرتا ہے اور بد نیت ہے، وہ اس بات میں دوتہ تک الجھا ہوا تھا اور جب کبھی وہ اس کے پاس جانا وہ یہ خیال کرتا کہ وہ اس پر حملہ کر دے گا پھر وہ صحیح سلامت باہر آ جاتا

کہتے ہیں کہ اس کے پاس چربی تھی جس میں اس نے کوئی ساحرانہ عمل کیا ہوا تھا جب وہ منصور

کے پاس جانے کا ارادہ کرتا تو اسے اپنے دونوں ابروؤں پر نکل لیتا، عام لوگوں میں ابو ایوب کی چربی کی بات چل نکلی پھر منصور نے اس پر حملہ کر دیا اور مرنے تک ابان بن صدقہ کو اپنا کاتب بنائے رکھا۔

منصور کا ہشام بن عبد الملک کی تدبیروں کے متعلق دریافت کرنا | ابو جعفر کے پاس ہشام

کی ایک جنگی تدبیر کا ذکر کیا گیا تو اس نے ایک آدمی کی طرف جو ہشام کے سبزہ زار میں رہتا تھا پیغام بھیجا تاکہ وہ اس سے اس جنگی تدبیر کے متعلق دریافت کرے، جب اس آدمی کو منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اُسے کہا تو ہشام کا ساتھی ہے اس نے جواب دیا ہاں، منصور نے کہا کہ فلاں فلاں سال میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس نے جو جنگی تدبیر کی تھی مجھے اس کے متعلق بتاؤ، اس نے جواب دیا، ہشام رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں یہ کام کیا تھا، اس بات نے منصور کو غصہ دلایا تو اس نے اُسے کہا، تجھ پر خدا کا غضب ہو کھڑا ہو جا، تو میرے قالین پر بیٹھ کر میرے دشمن کے لیے رحم کی دعا مانگتا ہے تو وہ شیخ کھڑا ہو کر کہنے لگا تیرے دشمن کا میری گردن پر احسان ہے اور اس احسان کو میرے غسل دینے والے کے سوا کوئی نہیں آتا، منصور نے اُس کے واپس کرنے کا حکم دے دیا اور کہا تو نے یہ بات کیسے کہی ہے اس نے جواب دیا اس نے مجھے مانگنے سے بے نیاز کر دیا ہے اور میرے چہرے کو سوال سے بچایا ہے اور جب سے میں نے اُسے دیکھا ہے میں کسی عربی اور عجمی کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوا، کیا اس کا ذکر خیر اور ثنا مجھ پر واجب نہیں۔ منصور نے کہا بے شک، اس ماں کا کیا کہنا جس نے تجھے معزز بنایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شریف عورت کی اولاد ہے پھر اس سے بات سنی اور اُسے انعام دینے کا حکم دیا، اس نے کہا امیر المؤمنین، میں اسے کسی ضرورت کے تحت نہیں لے رہا بلکہ صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آپ کے انعام پر فخر کر سکوں اور اس نے انعام لے لیا منصور نے اُسے کہا تو جب چاہے مر جا، تیرے کیا کہنے، اگر تیری قوم میں تیرے سوا کوئی آدمی نہ ہوتا تو تو اکیلا ان کی بزرگی کو باقی رکھتا، اس کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں سے کہا اس قسم کے آدمیوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا اچھا ہوتا ہے، مگر ہماری فوج میں اس قسم کے آدمی کہاں ہیں؟

منصور اور معن بن زائدہ | معن بن زائدہ، منصور کے پاس آیا جب اس نے معن کو دیکھا تو کہا اے معن تو ہی وہ شخص ہے جو مروان بن

ابن حفصہ کو اس کے اس شعر پر ایک لاکھ درہم دیتا ہے۔
 معن بن زائدہ ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے بنو شیبان کے شرف میں ایک اور شرف کا اضافہ ہوا ہے۔“

اس نے جواب دیا امیر المومنین میں نے اسے اس شعر پر ایک لاکھ درہم نہیں دیا بلکہ ان اشعار پر دیا ہے۔

” تو ہمیشہ الهاشمیہ کے دن خلیفہ کے آگے تلوار سونتے کھڑا رہا اور تو نے اس کے حریم کی حفاظت کی اور ہر مندی تلوار اور نیزے کے سامنے تو اس کی ڈھال تھا۔“

منصور نے کہا اے معن تو نے بہت اچھا کیا ہے، معن، یزید بن عمر بن ہبیرہ کے ساتھیوں میں سے تھا اور روپوش ہو گیا تھا یہاں تک کہ الهاشمیہ کی جنگ ہوئی۔ تو اس کے متعلق کئی خراسانیوں نے چغلی کی۔ وہ عمامہ اور ڈاٹھا باندھے وہاں موجود تھا جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے منصور پر حملہ کر دیا ہے تو وہ آگے بڑھ کر منصور کے آگے انہیں تلوار سے مارنے لگا جب وہ لوگ منتشر ہو گئے تو منصور نے کہا تو کون ہے؟ اس نے منہ سے ڈاٹھا اتار کر کہا امیر المومنین میں معن بن زائدہ ہوں میں نے آپ کو بہت تلاش کیا ہے، جب منصور واپس آیا تو اس نے معن کو امان دی اور انعام دیا اور اس کی عزت افزائی کی اور پوشاک دی اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔
 ایک روز معن بن زائدہ منصور کے پاس آیا تو منصور نے اُسے کہا، لوگ تیری قوم

کے ساتھ حسد کرنے میں بہت تیز ہیں تو اس نے جواب دیا امیر المومنین،
 ”جو انوں کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے آپ کہنے لوگوں کا کوئی حاسد نہ پائیں گے۔“

منصور کے سامنے ایک تیر کا گرنا، جس پر ایک شعر اور نا انصافی کا لکھا ہوا ہونا | ابن عباس منتوف کا بیان ہے کہ منصور اپنے شہر مدینۃ المنصور کے باب خراسان کی محراب الی نشست گاہ پر بیٹھا ہوا اجلہ کو دیکھ رہا تھا اس نے شہر کے تمام دروازوں کے اوپر

ملحقہ محرابوں میں اپنی نشست گاہ بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ اس جانب کے نزدیکی شہروں کو دیکھ سکے، اس شہر کے چار دروازے تھے جن کی گلیاں بند تھیں اور ان کے ساتھ محراب بنے ہوئے تھے، وہ آج تک (یعنی ۳۳۲ھ تک) موجود ہیں۔ پہلا دروازہ باب خراسان ہے اس کو باب الدولۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ عباسی حکومت خراسان سے آئی تھی، دوسرا باب الشام ہے وہ شام کی جانب ہے، تیسرا باب الکوفہ ہے وہ کوفہ کی جانب ہے اور چوتھا باب البصرہ ہے جو بصرہ کی جانب ہے اس شہر کے بنانے کا واقعہ اور دجلہ و فرات اور دجل و صرّاء کے درمیان اس قطعہ زمین کو منصور کے انتخاب کرنے سے نہریں فرات سے پانی لیتی ہیں، اور بغداد کے حالات اور بغداد نام رکھنے کی وجہ اور جو کچھ لوگوں نے اس کے متعلق بیان کیا ہے، سب زکیند اور اس زمانے میں اس کے سقوط اور واسط عراق میں حجاج کے تعمیر کردہ سب زکیند اور اس کے اس وقت تک (۳۳۲ھ) موجود ہونے کے واقعات کو ہم اپنی کتاب الادسط میں بیان کر چکے ہیں، اسی دوران میں کہ باب خراسان کے اوپر کے حصے میں منصور اپنی نشست گاہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک تیرا کر منصور کے سامنے گرا جس کے مارنے والے کے متعلق کچھ پتہ نہ تھا۔ منصور بہت خوفزدہ ہو گیا پھر اسے پپر کر اٹھنے پلٹے لگا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دو پیروں کے درمیان یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔

”تو قیامت تک زندہ رہنے کی اُمید لگائے بیٹھا ہے اور تو اپنے مال کو
آخرت سے خیال کرتا ہے، عنقریب تجھ سے تیرے گناہوں اور خطاؤں کے
متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے بعد تجھ سے بندوں کے متعلق پوچھا جائے
گا۔“

پھر اس نے دوسرے پیر کے نزدیک پڑھا۔
”جب سازگار زمانہ آیا تو تو نے زمانے کے متعلق حُسن ظن سے کام لیا اور
اس بُرائی سے نہ ڈرا جو قضا و قدر لا رہی ہے، راتوں نے تجھ سے صلح کی تو
تو ان سے فریب کھا گیا اور راتوں کی صفائی کے وقت ہی گدلا پن پیدا ہوتا ہے۔“
پھر اس نے دوسرے پیر کے پاس پڑھا۔
”یہ تقدیریں ہیں، جو اپنی لگاموں میں چلتی ہیں، پس صبر کر تقدیروں کو ایک حال پر

صبر نہیں ہے ، وہ ایک دن ، کینے آدمی کو آسمان تک بلند کر دیتی ہیں اور ایک روز بڑے عالی ہمت انسان کو جھکا دیتی ہیں ۔

تیر کی ایک جانب لکھا ہوا تھا ، ہمدان کا ایک مظلوم جو تیری قید میں ہے ۔

اس نے فوراً اپنے کئی خواص کو بھیجا جنہوں نے جیلوں اور زمین و درختوں کی چھان بین کی تو انہوں نے قید خانے کی ایک کوٹھڑی میں جس میں چراغ جل رہا تھا اور جس کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے ، ایک بوڑھے کو بیٹریوں میں جکڑا ہوا قبلے کی طرف منہ کر کے اس آیت (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) کو دہراتے دیکھا ، انہوں نے پوچھا تم کس شہر کے ہو اس نے جواب دیا ہمدان کا ، وہ اُسے منصور کے پاس لے آئے ، منصور نے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ہمدان کا رہنے والا ہوں ، وہاں کے آسودہ حال لوگوں میں سے ہوں ، آپ کا والی ہمارے شہر میں آیا میری وہاں پر ایک کروڑ درہم کی جاگیر تھی اس نے اس جاگیر کو مجھ سے لینا چاہا ، میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے بیٹریوں میں جکڑ دیا اور اٹھا کر اس مکان میں پھینک دیا اور آپ کی طرف لکھا کہ میں نافرمان ہوں ، منصور نے کہا تم کب سے قید میں ہو اس نے جواب دیا چار سال سے ، منصور نے اس کی بیٹریاں کھولنے اس سے حسن سلوک کرنے اور اُسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا اسے اچھا مکان دیا اور اس کی جاگیر اُسے واپس کی اور کہا اے شیخ جب تک تو اور ہم زندہ ہیں ہم نے تجھے یہ جاگیر خراج سمیت واپس کی اور تیرے شہر ہمدان پر ہم نے تجھے والی مقرر کیا اور پہلے والی کا ہم نے تجھے حکم بنایا ہے اور اس کا معاملہ تیرے سپرد کیا ہے پس اس نے منصور کو دُعا ئے خیر دی اور کہا امیر المؤمنین ! جاگیر کو میں نے قبول کیا اور والی بننے کی میں اہمیت نہیں رکھتا اور آپ کے والی کو میں نے معاف کیا ، منصور نے اُسے بہت سامان دیا اور اس سے بڑا فیاضانہ سلوک کیا اور والی کو ہٹانے اور اس کی بے انصافی پر سزا دینے کے بعد شیخ کو بڑی عزت کے ساتھ سوار کر دیا اور اس کے شہر بھیج دیا وہ اپنی مہمات اور ملکی واقعات کے متعلق شیخ سے خط و کتابت کر کے اس سے مشورہ لیتا رہا اور جنگ اور خراج میں اپنے والیوں کے حالات اُسے بتاتا

لہ (ترجمہ) اور جلدی جان لیں گے ظالم کہ وہ کونسی جگہ پھریں گے ۔ (شعراء - آیت ۲۲۴)

رہا پھر منصور یہ شعر پڑھنے لگا۔

”جو شخص زمانے سے مصاحبت کرتا ہے وہ ایک دن بھی اس کے
تصرف سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اور زمانہ نرم اور سخت ہوتا رہتا ہے
اور ہر چیز خواہ وہ سلامت ہی رہے جب اپنے اخیر کو پہنچتی ہے تو اس
کا کوتاہ ہو جانا ضروری ہے۔“

منصور کا ابو مسلم کے بارے میں مشورہ طلب کرنا | ایک روز منصور نے

تیرا ابو مسلم کے متعلق کیا خیال ہے، اس نے جواب دیا اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا
اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، منصور نے کہا ابن قتیبہ یہی کافی ہے
تو نے اُسے یاد رکھنے والے کان دیے ہیں، ابن دُأب وغیرہ نے عیسیٰ بن علی سے بیا
کیا ہے وہ کتنا ہے کہ منصور ہمیشہ ہم سے تمام امور میں مشورہ کرتا تھا یہاں تک کہ
ابراہیم بن ہرمتہ نے اس کی مدح کی اور اپنے ایک قصیدہ میں اس کے متعلق کہا کہ
”جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ضمیر سے مشورہ کرتا ہے اور
ضمیر سے مشورہ کرنے والا مختلف العقول نہیں ہوتا، جب رسی کے بل
انگلیوں سے نکل جائیں تو وہ اپنے دونوں کانوں کو بھی اپنے رانہ میں
شریک نہیں کرتا۔“

جب منصور نے ابو مسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو اپنی رائے کے آغاز اور مشورہ کے
درمیان غلطی کر گیا تو اس بات نے اس کی بنیاد اڑا دی تو اس نے کہا
”مجھے دو باتوں نے تقسیم کر لیا جن کا میں نے دانائی سے امتحان نہیں
لیا اور مجھے لوگوں نے تجربہ کار نہیں بنایا، اور دل پر پوشیدہ غم جیسا حملہ
کسی چیز نے نہیں کیا اور عدنانیوں کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس قسم کے
معاملات میں بڑا دلیر اور جرأت مند ہوں۔“

عبداللہ بن علی کی بغاوت | عبداللہ بن علی نے منصور کی مخالفت کی اور اپنے
ساتھیوں اور دیگر لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت
دی، انہوں نے اس کی بیعت کر لی، اور اس نے خیال کیا کہ سفاح نے اپنے

خلافت مروان کے قاتل کو دی ہے، جب منصور کو عبداللہ کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے اُسے لکھا ہے

”میں تیرے مقابلے میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھوں گا جہاں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے اور زمانے کے ایام کے عواقب بھی ہوتے ہیں۔“

پھر اس نے ابو مسلم کو اس کی طرف بھیجا اور بلاد نصیبین میں دیر اہل عور کے مقام پر ان کی بہت جنگیں ہوئیں کئی ماہ تک دونوں فریق ڈٹ کر جنگ کرتے رہے اور انہوں نے خندقیں کھود لیں، پھر عبداللہ بن علی اپنے ساتھیوں سمیت شکست کھا گیا اور اپنے خواص کی ایک جماعت کے ساتھ بصرہ کی طرف چلا گیا، وہاں پر اس کا بھائی سلیمان بن علی، منصور کا چچا حکمران تھا، ابو مسلم عبداللہ کی فوج کے تمام مال کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منصور نے یقطین بن موسیٰ کو خزانہ حاصل کرنے کے لیے ابو مسلم کی طرف بھیجا، جب یقطین، ابو مسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے امیر السلام علیک، اس نے جواب دیا اے گندی عورت کے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے سلامت نہ رکھے، مجھے خون کے متعلق امین خیال کیا جاتا ہے اور اموال کے متعلق امین نہیں سمجھا جاتا، اس نے کہا اے امیر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس نے کہا تجھے تیرے آقا نے ان خزانوں کو قابو کرنے کے لیے بھیجا ہے جو میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے کہا، اگر امیر المؤمنین نے فتح کی مبارکباد کے سوا، کسی اور کام کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہو تو میری بیوی کو تین طلاقیں ہوں تو ابو مسلم نے اُسے گلے لگایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور جب وہ واپس آ گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں لیکن اپنے آقا سے وفاداری کی ہے۔

ابو مسلم کا منصور کی مخالفت کرنا اور قتل ہونا | ابو مسلم، جزیرہ سے چلا اور اس نے منصور کی مخالفت کا پختہ ارادہ

کہ لیا اور خراسان کے راستے پر عراق سے بچتا ہوا خراسان چلا گیا، منصور، انبار سے مدائن کے لیے چلا اور کسریٰ کے تعمیر کردہ شہر دومیتہ المدائن میں آتا قبل انہیں ہم یہ بات بیان کر آئے ہیں کہ اس نے ابو مسلم کو لکھا کہ میں آپ سے کچھ باتوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو تحریر میں نہیں لائی جاسکتیں، تو آ جا کیونکہ تیرا قیام ہمارے

ہاں بہت تھوڑا ہو گا ، اس نے خط کو پڑھا اور اسی طرح آگے پڑھتا گیا ، تو منصور نے اس کی طرف جریر بن یزید بن جریر بن عبد اللہ بجلي کو روانہ کیا وہ اپنے زمانے کا یکتا اور کایاں آدمی تھا اور خراسان میں اس کی اور ابو مسلم کی پڑانی جان پہچان تھی ، اس نے اس کے پاس آکر کہا اے امیر تو نے اس گھرانے کے لوگوں کی خاطر لوگوں کو بے دریغ قتل کیا ہے اور پھر تو اس حالت میں آگیا ہے ؟ مجھے خدشہ ہے کہ یہاں وہاں سے کوئی تجھ پر عیب لگائے اور یہ کہے کہ اس نے ایک قوم کا بدلہ لیا اور پھر ان کی بیعت توڑ دی اور وہ شخص بھی تیرا مخالف ہو جائے جس کی مخالفت سے تو محفوظ ہے اور جس بات کو تو پسند نہیں کرتا ابھی تک وہ تیرے خلیفے کے پاس نہیں پہنچی اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس حالت کو پہنچ جائے گا ، پس اس نے چاہا کہ اُسے اپنے رجوع کے متعلق جواب دے مگر مالک بن نبیثم نے اُسے کہا کہ ایسا نہ کرنا ، اس نے مالک سے کہا تو ہلاک ہو ، مجھے ابلیس سے پالا پڑ گیا ہے اور ایسا پالا مجھے کبھی نہیں پڑا یعنی جریر سے ، وہ مسلسل اُسے کتنا رہا یہاں تک کہ اُسے منصور کے پاس لے آیا ، ابو مسلم گذشتہ کتب میں اپنی تعریف میں یہ پیشگوئی بھی پاتا تھا کہ وہ رومیوں سے لڑے گا اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ جنگوں کی پیشگوئیوں کے مطابق رومیوں سے لڑے گا اور وہ ایک حکومت کو ختم کرے گا اور ایک کو زندہ کرے گا ، جب وہ منصور کے پاس آیا تو لوگوں نے اُسے خوش آمدید کہا اور معاف کیا۔ منصور نے اُسے کہا قبل اس کے کہ میں تیرے متعلق اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروں تو نے چلے جانے کی تدبیر کر لی۔ اس نے جواب دیا امیر المؤمنین میں آگیا ہوں آپ حکم دیجیے اس نے اسے واپس گھر جانے کا حکم دیا اور وہ اس کی ہلاکت کے موقع کا انتظار کرنے لگا ، ابو مسلم کئی بار سوار ہو کر منصور کے پاس گیا مگر اس نے اس پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دی ، پھر وہ سوار ہو کر گیا تو اس نے اُسے متہم کیا ، تو ابو مسلم عیسے بن موسے کے پاس گیا اور وہ اس کے متعلق اچھی رائے رکھتا تھا ، اس نے جا کر اُسے کہا کہ میرے ساتھ منصور کے پاس چلو اور اس کے سامنے اُسے ملامت کرو ، اس نے اُسے حکم دیا کہ تم منصور کے پاس پہلے پہنچو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں ، پس ابو مسلم ، منصور کے خیمے میں پہلے چلا گیا جو رومیہ المدائن میں دجلہ کے کنارے پر تھا ، اور اندر داخل ہو کر پردے کے نیچے بیٹھ گیا ، اُسے بتایا گیا کہ منصور نماز کے لیے وضو کر رہا ہے ، منصور

اپنے باڈی گارڈز کے افسر عثمان بن نہیک کے پاس ایک جماعت کے ساتھ آیا جس میں شبیب بن رواح مروزی اور ابو حنیفہ حرب بن قیس بھی تھے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس تخت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جو ابو مسلم کے پیچھے ہے اور یہ حکم بھی دیا کہ جب وہ اس پر ناراغز ہو اور اس کی آواز بلند ہو جائے تو وہ حملہ نہ کریں لیکن جب وہ تالی بجائے تو حملہ کر کے اُسے قتل کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں منصور اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور ابو مسلم نے اندر جا کر اُسے سلام کہا اس نے سلام کا جواب دیا اور اُسے بیٹھنے کی اجازت دی اور کچھ دیر اس سے باتیں کیں پھر وہ اس سے ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا تو نے یہ کیا اور تو نے وہ کیا، ابو مسلم کہنے لگا یہ باتیں میرے کارناموں اور آندمالشوں کے بعد مجھے نہیں کہنی چاہئیں، منصور نے کہا اوجہیت عورت کے بچے، یہ کام ہماری قسمت کی وجہ سے ہوا ہے اگر تیری جگہ ایک سیاہ لونڈی بھی ہوتی تو یہ کام کر گزرتی۔ کیا تو نے مجھے اپنے نام سے ابتدا کرتے ہوئے خط نہیں لکھا اور کیا تو نے مجھے نہیں لکھا کہ تو آسبہ بنت علی کو پیغام نکاح دے اور تو اپنے آپ کو سلیمان بن عبد اللہ بن عباس کا بیٹا خیال کرتا ہے، تیری ماں مر جائے تو بڑی مشکل چڑھائی پر چڑھ گیا ہے ابو مسلم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چومنے اور معذرت کرنے لگا اور منصور نے اُسے آخری بات یہ کہی کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے اور اس نے اُسے بتایا کہ تو نے سلیمان بن کثیر کو قتل کیا ہے پھر اس نے تالی بجائی تو لوگ جلدی سے اس کے پاس آئے پس عثمان بن نہیک نے جلدی سے تلوار کی ایک ہلکی سی ضرب لگائی جس سے ابو مسلم کی تلوار کا پرتلکٹ گیا اور شبیب بن رواح نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دی پھر اس پر پلے پلے تلواں برسنے لگیں جس سے اس کے اجزا گڈ گڈ ہو گئے اور اس کا کام تمام کر دیا گیا، منصور چلا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو قطع کرے اسے مار دو، ابو مسلم نے پہلی تلوار لگنے پر کہا امیر المؤمنین مجھے اپنے دشمن کے لیے باقی رکھ لو، اس نے کہا اگر میں تجھے زندہ رہنے دوں تو خدا تعالیٰ مجھے نہ زندہ رہنے دے اور تجھ سے بڑھ کر میرا دشمن کون ہے؟

ابو مسلم کا قتل شعبان ۳۶ھ میں ہوا، اسی سال منصور کی بیعت ہوئی اور عبد اللہ بن علی کو شکست ہوئی، ابو مسلم قالین میں لپیٹ دیا گیا۔

عیسیٰ بن موسیٰ نے آکر کہا امیر المومنین! ابو مسلم کہاں ہے، منصور نے کہا وہ ابھی یہیں تھا اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اس کی اطاعت اور خیر خواہی کا پتہ ہی ہے اور امام ابراہیم کی اس کے متعلق جو رائے تھی اُسے بھی آپ جانتے ہیں، منصور نے اُسے کہا، اوسب سے بڑے احمق! میں رُوئے زمین میں تیرا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں پاتا، یہ وہ قالین میں لپٹا پڑا ہے عیسے نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔

جعفر بن حنظلہ اس کے پاس آیا تو منصور نے اُسے کہا، ابو مسلم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا امیر المومنین! اگر میں اس کے سر کا ایک بال بھی پکڑ لوں تو اُسے قتل کر دوں، پھر قتل کر دوں، پھر قتل کر دوں، منصور نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے، یہ وہ قالین میں لپٹا پڑا ہے جب اُس نے اُسے مقتول دیکھا تو کہا امیر المومنین اس دن کو اپنی خلافت کا پہلا دن شمار کیجیے، سفاح نے بھی منصور کے مشورے سے اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا پھر وہ اس کے قتل سے باز رہا، منصور نے جب کہ ابو مسلم اس کے سامنے مرا پڑا تھا، حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
”تو نے خیال کیا کہ قرض ختم نہیں ہوگا پس مجرم کے باپ کو پورا تول دے اور اس پیالے سے جس سے تو شراب پیتا تھا ابلوے سے بھی تلخ چیز اپنے حلق میں اتار۔“

منصور نے نصر بن مالک سے جو ابو مسلم کی پولیس کا افسر تھا کہا کہ ابو مسلم نے تجھ سے میری طرف آنے کے متعلق مشورہ پوچھا تھا تو تو نے اُسے روک دیا تھا اس نے کہا ہاں، منصور نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے آپ کے بھائی امام ابراہیم کو اپنے باپ سے بیان کرتے سنا ہے کہ جب آدمی مشورہ لینے والے کی خالص خیر خواہی کرے تو ہمیشہ اس کی عقل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور میری پوزیشن اس کے لیے یہی تھی اور اب یہی پوزیشن میری آپ کے لیے ہے۔

ابو مسلم کے ساتھیوں نے مضطرب ہو کر اموال کو آپس میں بانٹ لیا انہیں اس کے قتل کا پتہ چل گیا لیکن وہ خوف و رغبت کی وجہ سے خاموش ہو رہے۔

ابو مسلم کے قتل کے بعد منصور کا خطبہ
منصور نے ابو مسلم کے قتل کے بعد لوگوں سے خطاب کیا اور کہا اے لوگو! اطاعت

کے انس سے معصیت کی وحشت کی طرف نہ جاؤ اور ائمہ سے پوشیدہ کینہ نہ رکھو، جو شخص اپنے امام سے پوشیدہ کینہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور اس کے اعمال کی لغزشوں سے اس کی دلی حالت کو نمایاں کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس امام کے سامنے ظاہر کر دے گا جس کو اس نے اپنے دین کے اعزاز اور حق کے غلبہ کے لیے آگے کیا ہے، ہم نے تمہاری حق تلفی نہیں کی اور نہ دین کے اس حق میں کچھ کمی ہے جو تمہارے ذمے ہے جس نے اس فیص کے کاج کے متعلق بھی ہم سے جھگڑا کیا ہم اس کو اس چیز سے جو اس پیام میں ہے رو نہ کر رکھ دیں گے ابو مسلم نے ہماری بیعت کی اور ہمارے لیے بیعت لی اور جو شخص ہماری بیعت توڑ دے وہ اپنے خون کو ہمارے لیے حلال کر دیتا ہے پھر اس نے ہماری بیعت توڑی تو ہم نے اس کے خلاف وہی حکم دیا جو دوسروں کے لیے دیتے ہیں اور حق کی رعایت نے ہمیں اس پر حق کے قائم کرنے سے نہیں روکا۔

الخزیمہ ابو مسلم کا دوست فرقہ خزیمہ

جب ابو مسلم کے قتل کی اطلاع خراسان اور جبال وغیرہ میں پہنچی تو الخزیمہ مضطرب ہو گئے اس فرقہ کو المسلمیہ بھی کہتے ہیں یہ ابو مسلم اور اس کی امامت کے قائل ہیں اس کی وفات کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، ان میں بعض کا خیال ہے کہ ابو مسلم نہ مرا ہے اور نہ مرے گا جب تک وہ ظاہر ہو کہ زمین کو عدل و انصاف سے پڑ نہ کر دے اور ایک فرقہ اس کی موت کا قائل اور اس کی بیٹی فاطمہ کی امامت کا قائل ہے، یہ لوگ فاطمی کہلاتے ہیں اور اس وقت (یعنی ۳۳۲ھ میں) اکثر خزیمہ، کزدکیہ اور لودشاہیہ کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں فرقے خزیمہ میں سب سے بڑے فرقے ہیں، انہی میں سے بابک خزیمی تھا جس نے بدین میں جو آذربائیجان اور الران کے علاقے میں ہے مامون اور معتصم کے خلاف خروج کیا تھا، ہم اس کے حالات اور قتل کے واقعات کو معتصم کے حالات میں بیان کریں گے انشاء اللہ، اکثر خزیمہ، خراسان، دے، اصبہان، آذر بائیجان، کمرج ابودلف، برج اور درسنجان کے علاقوں میں رہتے ہیں، نیز بلاد صیروان، صیمرہ اور ابوحان کے علاقے میں رہتے ہیں جو بلاد اسبذان سے تعلق رکھتا ہے ان لوگوں کی اکثریت بسنیوں اور جاگیروں میں رہتی ہے ان کے دلوں میں یہ بات جاگزیں ہے کہ انہیں مستقبل میں بڑی شان و شوکت حاصل ہوگی، خراسان وغیرہ میں انہیں باطنیہ کہا جاتا ہے، ہم نے ان کے مذاہب اور فرقوں کا حال اپنی کتاب

«المقالات فی اصول الدیانات» میں بیان کیا ہے اگرچہ المقالات میں لکھنے والے مؤلفین کتب اس بارے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔

منصور کی فوج اور الخرمیہ کے درمیان جنگ

الخرمیہ کو جب ابو مسلم کے قتل کا پتہ چلا تو وہ خراسان میں جمع ہوئے اور بسنفاذیشاپوری، ابو مسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک عظیم فوج کے ساتھ خراسان سے رومی میں آیا اس نے رومی، قومس اور اس کے آس پاس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رومی میں ابو مسلم کے خزاہن پر قبضہ کر لیا جبال اور طبرستان کے لوگوں کی شمولیت سے اس کی فوج میں بہت اضافہ ہو گیا، جب ان کے آنے کی خبر منصور کو پہنچی تو اس نے جمہور بن مراد عجلی کو دس ہزار فوج کے ساتھ بھیجا اس کے پیچھے بھی فوج بھیجی، جنگل کے کنارے ہمدان اور رومی کے درمیان دونوں فوجوں کی شدید جنگ ہوئی اور دونوں فریقوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، بسنفاذ قتل ہو گیا اور اس کے ساتھ بھاگ گئے ان میں سے ساٹھ ہزار قتل ہو گئے اور بہت سے لوگ اور بچے قید ہو گئے اس کے خروج اور قتل کے درمیان ستر راتوں کا عرصہ نکھا۔ یہ ابو مسلم کے قتل کے چند ماہ بعد ۱۳۶ھ کا واقعہ ہے۔

محمد بن عبداللہ بن حسن نفس زکیہ کا ظہور

۱۴۵ھ میں محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کا مدینہ میں ظہور ہوا اور بہت سے شہروں میں اس کی بیعت ہوئی اس کے زہد و عبادت کی وجہ سے اُسے نفس زکیہ کہتے تھے، وہ منصور سے روپوش رہا یہاں تک کہ منصور نے اس کے باپ عبداللہ بن حسن اس کے چچاؤں اور بہت سے اہالی و موالی کو پکڑ لیا اس وقت تک وہ ظاہر ہوا، جب محمد بن عبداللہ نے مدینہ میں ظہور کیا تو منصور نے اسحاق بن مسلم عقیلی کو بلا یا جو بڑا نجر بہ کا اور عقل مند تھا منصور نے اُسے کہا، اس باغی کے متعلق مجھے کچھ بتاؤ اس نے کہا مجھے اس کی تعریف بتاؤ اس نے کہا یہ آدمی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے اور صاحب علم، نادر اور متقی ہے اس نے کہا اس کے پیروکار کون ہیں، منصور نے کہا علی، جعفر، عقیلی، عمر بن خطاب، نہ پیر بن عوام اور دیگر قریش اور انصار کی اولاد، اس نے کہا مجھے اس شہر کی تعریف بتاؤ جس میں اس کا ظہور ہوا ہے منصور نے کہا وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں نہ کھیتی ہے نہ دودھ اور نہ ہی وہاں

وسیع تجارت ہے، اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا امیر المؤمنین بصرہ کو آدمیوں سے بھردو منصور نے اپنے دل میں کہا اس آدمی کی عقل باری گئی ہے میں اس سے ایک باغی کے متعلق پوچھ رہا ہوں جس نے مدینہ میں بغاوت کی ہے اور یہ مجھے کہتا ہے کہ بصرہ کو آدمیوں سے بھردو، منصور نے اس شیخ سے کہا واپس چلے جاؤ، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ اطلاع آئی، ابراہیم نے بصرہ میں ظہور کیا ہے، منصور کہنے لگا اس عقیل کو میرے پاس لاؤ، جب وہ آیا تو اس نے اُسے اپنے قریب کیا اور کہا میں نے ایک باغی کے متعلق جس نے مدینہ میں بغاوت کی تھی آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ بصرہ کو آدمیوں سے بھردو، کیا بصرہ کے متعلق آپ کو کچھ علم ہے اس نے جواب دیا نہیں، لیکن تو نے مجھے ایک آدمی کے خروج کے متعلق بتایا ہے، جب اس جیسا آدمی خروج کرتا ہے تو کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا پھر تو نے مجھے اس شہر کے متعلق بتایا ہے جس میں اس نے ظہور کیا ہے وہ ایک تنگ حال شہر ہے جو فوجوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، میں نے دل میں کہا کہ وہ آدمی کسی اور جگہ جائے گا تو میں نے مصر، کوفہ اور شام کے متعلق سوچا تو انہیں مضبوط پایا پھر میں نے بصرہ کے متعلق سوچا تو مجھے اس کے خالی ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہوا، تو میں نے اس کے بھرنے کو کہہ دیا منصور نے اُسے کہا تو نے بہت اچھی بات کی ہے بصرہ سے اس کے بھائی نے خروج کیا ہے مدینہ والے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اس نے کہا جب وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں تو تو بھی اس سے ویسی بات کر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عم زاد ہوں، منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو کہا کہ یا تو تو اس کی طرف جا اور میں یہاں رہ کر فوج سے تجھے مدد دوں اور یا تو میرے پیچھے کے کام سنبھال اور میں اس کی طرف جاتا ہوں، عیسیٰ نے کہا امیر المؤمنین میں اپنی جان دے کر بھی آپ کو بچاؤں گا اور میں ہی اس کی طرف جاؤں گا منصور نے اُسے کوفہ سے چار ہزار سواروں اور دو ہزار پیادوں کے ساتھ اس کی طرف بھیجا اور اس کے پیچھے محمد بن قحطبہ کو بے شمار فوج کے ساتھ بھیجا، وہ محمد کے ساتھ مدینہ میں لڑے یہاں تک کہ وہ ۴۵ سال کی عمر میں قتل ہو گیا جب بصرہ میں ابراہیم کو اپنے بھائی محمد بن عبد اللہ کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے منبر پر چڑھ کر لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی اور بطور

تمثل یہ شعر پڑھے۔

”اے بہترین سوار، جس شخص کو تیرے جیسے آدمی کی تکلیف پہنچے حقیقت میں وہی درد مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میں ان سے ڈرتا اور دل ان کے خوف کو محسوس کرتا تو وہ گھبراہٹ کا اظہار کرتا نہ انہوں نے اُسے قتل کیا ہے اور نہ میں نے اپنے بھائی کو ان کے لیے چھوڑا ہے یہاں تک کہ ہم اکٹھے مریں گے یا اکٹھے جیئیں گے۔“

محمد بن عبد اللہ کے بھائیوں کا شہر وں میں پھیل جانا | محمد کے بھائی اور اس کے بیٹے شہروں میں اس کی

امامت کی دعوت دیتے ہوئے پھیل گئے اس کا بیٹا علی بن محمد مصر گیا اور وہاں پر قتل ہو گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا عبد اللہ خراسان کی طرف گیا جب اس کی تلاش کی گئی تو وہ سندھ کی طرف بھاگ گیا اور وہیں پر قتل ہو گیا اور اس کا تیسرا بیٹا حسن، یمن کی طرف گیا جہاں اُسے قید کر دیا گیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ اس کا بھائی موسیٰ جزیرہ کی طرف بھینی، مدی اور پھر طبرستان کی طرف چلا گیا، اس کے حالات کا تذکرہ ہم اس کتاب میں ہارون الرشید کے حالات میں کریں گے۔ اس کا بھائی ادیس بن عبد اللہ، مغرب کی طرف گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا منصور نے ان شہروں میں جنہیں اس نے اکٹھا کر لیا تھا ایک آدمی کو بھیجا جس نے اُسے دھوکے سے زہر دے کر قتل کر دیا، اس کی جگہ ادیس بن ادیس بن عبد اللہ بن حسن بن حسن اس کا قائم مقام بن کر کھڑا ہوا اور یہ شہر انہی کے نام سے مشہور ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر ادیس بن ادیس کے نام سے مشہور ہوا ان کے حالات، عبید اللہ والی مغرب اور اس کے تعمیر کردہ شہر المہدیہ کے حالات اس کے بعد اس کے بیٹے ابوالقاسم کے حالات اور حمص کے شہر سلیمہ سے ان کے مغرب کی طرف جانے کے واقعات کو اپنی کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے، اس کے بھائی ابراہیم نے بصرہ جا کر ظہور کیا تو اہل فارس و اہواز اور دیگر شہروں نے اُسے قبول کر لیا وہ زیدیر کی بے شمار فوج اور بغدادی معتزلہ کی ایک ہمنوا جماعت کے ساتھ بصرہ سے چلا اس کے ساتھ عیسیٰ بن زید بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بھی تھا، منصور نے اس کے مقابلہ میں عیسیٰ بن موسیٰ اور سعید بن مسلم کو بہت سی فوج

کے ساتھ بھیجا اس نے مقابلہ میں آ کر جنگ کی اور باخمیری مقام پر قتل ہو گیا جو کوفہ کی ارض طف سے سولہ فرسخ کے فاصلہ پر ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر ابراہیم کے مرثیہ نگار شعراء نے کیا ہے دعبل بن علی خزاعی اپنے قصیدہ میں جو اس نے ابراہیم کی مدح میں کہا ہے اور جس کا پہلا شعر یہ ہے کہتا ہے

”آیات کے مدد سے تلاوت سے خالی ہو گئے ہیں اور وحی کے نزول کی جگہ بے آب و گیاہ جنگل بن گئی ہے۔“

پھر کہتا ہے

”کچھ قبریں، کوفان میں ہیں اور کچھ طیبہ اور فح میں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو اور کچھ جوزجان کے علاقے میں ہیں اور ایک قبر باخمیری میں غربات کے پاس ہے۔“

جو زید یہ شیعوں میں سے چار سو آدمی مارے گئے بعض کہتے ہیں کہ پانچ سو مارے گئے ایک مؤرخ نے حماد ترک کی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ منصور، دجلہ کے کنارے ایک خانقاہ میں آترا ہوا تھا اس جگہ کو آج کل خلد اور مدینۃ السلام کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ربیع اس کے پاس آیا منصور اپنے مکرے میں سویا ہوا تھا حماد اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ربیع کے ہاتھ میں محمد بن عبداللہ کے خروج کے متعلق ایک نقشہ تھا ربیع نے کہا حماد! دروازہ کھول دو، میں نے کہا یہ امیر المؤمنین کے سونے کا وقت ہے اس نے کہا تیری ماں تجھے کھو دے، دروازہ کھول دے، وہ بیان کرتا ہے کہ منصور نے اس کی یہ بات سن لی اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور اس سے نقشہ لے لیا اور اس کی تحریر پڑھی اور یہ آیت پڑھی ”وَالْقِيَامَةُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا وَقَفَ وَانَا لِلْحَرْبِ أَطْفَاها اللَّهُ وَلِيَعُونَ فِي الْأَرْضِ فساداً ط وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الْمُنْكَرُ لِلْمُنْكَرِ“ پھر اس نے لوگوں، غلاموں، جرنیلوں اور اپنے اہل بیت و اصحاب

لے (ترجمہ) اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت تک۔ جب وہ لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ سے بچھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(المائدہ - آیت ۶۴)

کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور حماد ترک کی کو اس نے گھوڑوں کے زین کٹنے کا حکم دیا، سلیمان بن مجالد اور مسیب بن زہیر کو پیشقدمی کا حکم دے دیا اس نے فوج کو نکالا پھر باہر آ کر منبر پر چڑھ کر حمد و ثنائے الہی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اس نے کہا: ”مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں سعد کو برا بھلا کہنے سے رکتا ہوں اور وہ مجھے گالیوں دیتا ہے۔ اور اگر میں بنی سعد کو گالیاں دوں تو وہ دُرُک جابئیں وہ جہالت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے دشمن کو بُزدلی دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں اور جہالت اور بُزدلی دونوں بہت بُری خصلتیں ہیں۔“

بخدا ہم جس حکومت کے لیے بھڑے ہوئے ہیں وہ اس سے عاجز آچکے ہیں پس نہ انہوں نے قائم کا شکر یہ ادا کیا ہے اور نہ کفایت کرنے والے کی تعریف کی ہے، انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے مگر اُسے بہت دشوار پایا ہے انہوں نے شک کیا ہے مگر اُسے حقیر جانا ہے پس تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں میلے پانی کے بعد گدلا پانی پیوں ہرگز نہیں خدا کی قسم مجھے ذلیل زندگی کی نسبت عزت کی موت بہت محبوب ہے اور اگر وہ میرے عفو سے راضی نہیں تو وہ مجھ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو میرے پاس موجود نہیں اور سعادت مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرتا ہے پھر وہ منبر سے اُترا اور غلام کو کہنے لگا گھوڑے کو آگے لاؤ اور فوراً سوار ہو کر اپنے پڑاؤ میں چلا گیا اور کہنے لگا اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق کے سپرد کرنا کہ ہم ضائع ہو جائیں اور نہ ہمیں ہمارے سپرد کرنا کہ ہم عاجز آجائیں، ہمیں اپنی سپردگی ہی میں رکھنا۔ کہتے ہیں کہ منصور کے لیے ہڈی کے مغز اور شکر سے ایک کھانا تیار کیا گیا جسے اس نے بہت پسند کیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم مجھے اس کھانے اور اس قسم کے دیگر کھانوں سے محروم کرنا چاہتا ہے۔

روایت ہے کہ ابراہیم اور محمد کے قتل کے بعد ایک روز منصور نے اپنے ہم نشینوں سے کہا خدا کی قسم میں نے بنو مروان کا حجاج سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں دیکھا، تو مسیب بن زہیر الضبی نے کھڑے ہو کر کہا امیر المؤمنین حجاج نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو اور تو نے ہمیں

آپ کی اولاد کے قتل کا حکم دیا ہے اور ہم نے تیری اطاعت کی ہے اور اُسے قتل کیا ہے، کیا ہم نے تیری خیر خواہی کی ہے یا نہیں؟ منصور نے اُسے کہا تو کبھی نہ بیٹھے بیٹھے جا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے ۳۳۲ھ میں حج سے واپسی پر عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی اور عبد اللہ کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم اور اس کے بہت سے اہلیت کو گرفتار کر لیا اور انہیں عراق کے راستے، مدینہ سے ر ہذہ لایا گیا، عبد اللہ بن حسن کے ساتھ جو لوگ لائے گئے ان میں ابراہیم بن حسن بن حسن، ابو بکر بن حسن بن حسن، علی الخیر، اس کا بھائی عباس عبد اللہ بن حسن بن حسن، حسن بن جعفر بن حسن بن حسن، ان کے ساتھ محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان جو عبد اللہ بن حسن بن حسن کے ماں زاد بھائی تھے ان کی ماں فاطمہ بنت حسین بن علی تھیں ان کی نانی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں بھی تھے منصور محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان کے پاس ر ہذہ گیا اور اُسے سو کوڑے مارے اور اس سے اس کے بھتیجوں محمد اور ابراہیم کے متعلق پوچھا، اس نے جواب دیا مجھے ان کی جگہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں، اس کی دادی نے بھی اس وقت سوال و جواب کیے، منصور ر ہذہ سے چلا آیا وہ ایک خیمہ میں تھا اور مشقت نے قیدیوں کو کمزور کر دیا تھا انہیں بے پردہ محلوں پر لایا گیا۔ منصور ان کے پاس سے گزرا تو عبد اللہ بن حسن نے اُسے آواز دے کر کہا اے ابو جعفر ہم نے جنگ بدر کے روز تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا تو اس نے انہیں کوڑ بھجوا دیا اور ایک زیر زمین تہ خانے میں قید کر دیا جہاں وہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں فرق نہ کر سکتے تھے اور اس نے ان میں سے داؤد بن حسن بن حسن کے دو بیٹوں سلیمان اور عبد اللہ اور موسیٰ بن عبد اللہ بن حسن اور حسن بن جعفر کو چھوڑ دیا اور بقیہ لوگوں کو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے قید رکھا اور وہ قید ہی میں مر گئے یہ کوڑہ کے پل کے قریب دریائے فرات کے کنارے قید تھے ان مقامات کی آج تک زیارت کی جاتی ہے (یعنی ۳۳۲ھ تک) منصور نے ان جگہوں کو گرا دیا۔ قیدی جن جگہوں پر وضو کرتے تھے وہاں انہیں سخت بدبو آنے لگی تو ان کے کسی غلام نے کچھ خوشبو رکھ دی جس سے انہوں نے بدبو کو ختم کیا، ان کے پاؤں میں ورم ہو جاتا جو بڑھتے بڑھتے دل تک پہنچ جاتا جس سے آدمی مر جاتا۔

ایک اور طریق سے یہ بیان ہوا ہے کہ جب انہیں اس جگہ قید کیا گیا تو انہیں اذیت

نماز معلوم کرنے میں مشکل پیش آنے لگی تو انہوں نے قرآن پاک کے پانچ حصے کر دیے اور ان میں سے ہر آدمی جب اپنے ایک جزو کے پڑھنے سے فراغت حاصل کر لیتا تو وہ سب نماز پڑھ لیتے اب ان میں پانچ آدمی باقی رہ گئے تھے، اسماعیل بن حسن فوت ہو گیا تو اس کی لاش وہیں رہنے دی گئی یہاں تک کہ اس نے بدبو چھوڑ دی تو داؤد بن حسن بے ہوش ہو کر مر گیا ابراہیم بن عبداللہ کا سر لایا گیا تو منصور نے اُسے ربیع کے ہاتھ ان کی طرف بھجوایا اس نے سر کو ان کے سامنے رکھ دیا عبداللہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بھائی ادیس نے انہیں کہا اے ابو محمد نماز جلدی پڑھیے وہ اس طرف متوجہ ہوئے اور اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اُسے کہنے لگا اے ابوالقاسم خوش آمدید خدا کی قسم جہاں تک میں تجھے سمجھتا ہوں تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق ہ والذین یرسلون ما امر اللہ بہ ان یوصل لہ تو ربیع نے اُسے کہا ابوالقاسم خود کیسا آدمی تھا اس نے جواب دیا شاعر کے اس شعر کا مصداق تھا

« وہ ایسا نوجوان تھا جو اپنی تلوار کو ذلت سے بچاتا تھا اور اس کا بچنا

گناہوں کے ارتکاب کو کافی ہو جاتا تھا۔ »

پھر اس نے ربیع کی طرف متوجہ ہو کر اُسے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا ہماری تنگدستی اور تمہاری آسائش کے دن گذر چکے ہیں اور قیامت کو ہماری ملاقات ہوگی، ربیع کہتا ہے کہ جب اُسے یہ پیغام پہنچا تو اس وقت سے زیادہ میں نے منصور کو کبھی انکسار کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور عباس بن احنف اس مفہوم کو اخذ کر کے کہتا ہے

« اگر تو میرے اور اپنے حال کو ایک دفعہ خواہش نفس سے اوجھل ہو کر دیکھے تو تو دیکھے گی کہ میری زندگی کی تنگ دستی کا ہر دن گزار چکا ہے اور تیری آسائش کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ »

لہ (ترجمہ) وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے عبداللہ بن حسن، اس کے بھائیوں، ان کے اہلیت اور ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تو وہ الہاشمیہ میں منبر پر چڑھ کر حمد و ثنائے الہی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کہنے لگا اے اہل خراسان تم ہمارے انصار، پیروکار اور داعی ہو، اگر تم نے ہمارے سوا کسی اور کی بیعت کی تو ہم سے اچھے آدمی کی بیعت نہ کرو گے ہم نے ابن ابی طالب کی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور خلافت کی، کہ ہم نے ان کے لیے تھوڑی بہت بھی روکا وٹ نہیں کی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے مگر کامیاب نہ ہوئے اور حکمین نے فیصلہ دیا تو امت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اتحاد جاتا رہا پھر ان کے شیعوں مددگاروں اور قابل اعتماد آدمیوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، خدا کی قسم وہ کوئی مرد نہ تھے، انہیں اموال کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اموال کو قبول نہ لیا اور معاویہ نے خفیہ طور پر انہیں پیغام بھیجا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں گا تو انہوں نے خلافت سے دست بردار ہو کر خلافت معاویہ کے سپرد کر دی پھر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے آج ایک سے شادی کرتے تو کل دوسری کو طلاق دے دیتے، وہ مسلسل یہی کام کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے بستر پر مر گئے پھر ان کے بعد حضرت حسین کھڑے ہوئے تو عراق اور کوفہ کے منافقین اور فتنہ پرور لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور کوفہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس علاقے کے بڑے لوگوں نے اور خدا کی قسم وہ میرے لیے جنگ نہ تھی کہ میں جنگ کرتا اور نہ میرے لیے صلح تھی کہ میں صلح کرتا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان فرق کر دیا انہوں نے حضرت حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے۔ پھر ان کے بعد زید بن علی کھڑے ہوئے تو اہل کوفہ نے انہیں بھی دھوکہ دیا جب انہوں نے ان سے خروج کر والیا تو انہیں چھوڑ دیا اور میرے باپ نے انہیں خدا کے نام پر اپیل کی تھی کہ خروج نہ کریں اور انہیں کہا تھا کہ اہل کوفہ کی باتوں کو قبول نہ کرو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اہل بیت ہیں سے ایک آدمی کو، کوفہ کے کوڑے کے کٹ کی جگہ پر صلیب دی جائے گی اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ مصلوب تو ہی ہے، میرے چچا داؤد نے بھی انہیں خدا کا واسطہ دیا تھا اور انہیں کوفیوں کی خیانت سے انتباہ کیا تھا مگر وہ نہ مانے اور خروج

کا پختہ ارادہ کر لیا اور قتل ہو کر کوڑے کرکٹ کی جگہ پر صلیب دیے گئے پھر بنو امیہ ہم پر ٹوٹ پڑے انہوں نے ہمارا شرف چھین لیا اور ہماری عزت کو برباد کیا۔ خدا کی قسم انہیں ہم سے کوئی کینہ نہ تھا کہ جسے وہ طلب کرنا چاہتے تھے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے اور ان کے خروج کے باعث ہوا بس ہمیں واپس نکال دیا گیا، ہم کبھی ظائف کبھی شام اور کبھی السراة چلے جاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیروکار اور مددگار پیدا کیے اور اے خراسانیو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے ہمارے شرف اور عزت کو زندہ کیا اور اہل باطل نے تمہیں تمہارا حق دیا اور ہمیں ہمارا حق دیا، ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ملی، حق اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو نمایاں کیا اور اپنے انصار کی مدد کی اور ظالموں کی جرط کاٹ دی والحمد للہ رب العالمین۔ جب خدا تعالیٰ کے فضل اور عادلانہ فیصلے سے سب معاملات درست ہو گئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فضیلت دی تھی اور میراث نبوی سے ہمیں خلافت ملی تھی۔ بنی امیہ سے ڈرتے ہوئے اور ہم پر جرات کرتے ہوئے ازراہ حسد و بغاوت ہم پر حملہ کر دیا اور اے خراسانیو! خدا کی قسم میں نے یہ بات جہالت اور بدظنی سے نہیں کہی، مجھے ان کی بعض کمزوریوں کے متعلق اطلاعات ملتی رہی ہیں مگر میں نے ان کا نام مردہ کھا اور کہا اے فلاں اٹھ اور اپنے ساتھ فلاں فلاں مال لے جا اور اے فلاں تو بھی اٹھ کر فلاں فلاں مال لے جا اور میں نے انہیں مثال پیش کی جس کے مطابق وہ کام کرتے رہے مگر وہ نکل کر مدینہ آگئے اور لوگوں سے مل گئے اور اس مال کو چھپا دیا اور خدا کی قسم ان میں سے کوئی بوڑھا، جوان چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہ گیا تھا جس نے ان کے ہاتھ پر میری بیعت نہ کی ہو چونکہ انہوں نے میری بیعت کو توڑ دیا ہے اور فتنہ پیدا کیا ہے اور میرے خلاف بغاوت کرنی چاہی ہے اس لیے میں نے ان کے خون کو مباح کر دیا ہے پھر اس نے منبر کی سیڑھی پر یہ آیت پڑھی "وحیل بینہم ما یشتہون کما فعل باشباعہم من قبل انہم کانوا فی شکّ قریب۔"

لہ (ترجمہ) اور پردہ ڈال دیا گیا ان کے اور اس چیز کے درمیان جسے وہ چاہتے تھے جیسے ان سے پہلے ان کے پیشواؤں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ اضطراب میں ڈالنے والے شک میں تھے۔

منصور اور ربیع کے درمیان گفتگو | مسعودی بیان کرتا ہے کہ ایک روز منصور نے

ربیع سے کہا کہ اپنی کوئی ضرورت بتاؤ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے فضل سے محبت کریں، اس نے ربیع سے کہا تیرا بڑا ہو کہ محبت تو کسی سبب سے ہوتی ہے اس نے جواب دیا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب پیدا کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اس پر مہربانی کریں جب آپ اس پر مہربانی کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا اور جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو آپ اس سے محبت کریں گے اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس سبب کے پیدا کرنے سے قبل بھی محبت کی ہے لیکن بغیر کسی چیز کے میں اُسے کیسے محبت کے لیے انتخاب کر لوں؟ اس نے کہا جب آپ اس سے محبت کریں گے تو اس کا چھوٹا سا احسان آپ کے نزدیک بڑا ہو جائے گا اور اس کی بڑی بڑائی آپ کے ہاں چھوٹی منصور ہوگی اور اس کے گناہ بچوں کے گناہوں کی طرح ہوں گے اور اس کا آپ کا حاجت مند ہونا ایسے ہی ہوگا جیسے کھلا سفارشی ہوتا ہے۔ ایک روز منصور نے ربیع سے کہا، ربیع تیرا بڑا ہو اگر موت نہ ہوتی تو دنیا کس قدر اچھی تھی اس نے کہا یہ صرف موت کی وجہ سے اچھی ہے اس نے کہا کس طرح، اس نے کہا اگر موت نہ ہوتی تو تو اس جگہ نہ بیٹھتا، اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے۔

منصور کو عمرو بن عبید کی نصیحت | اسحق بن فضل بیان کرتا ہے کہ میں منصور

کے دروازے پر تھا کہ عمرو بن عبید آ کر اپنے گدھے سے اترا اور بیٹھ گیا، ربیع نے اُسے آ کر کہا ابو عثمان میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اُٹھ کھڑا ہو جب وہ ابو جعفر کے پاس گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے قریب ہی اس کا ٹاٹ بچھایا جائے اور سلام کے بعد اس نے اُسے کچھ نصائح کیں جب اس نے اُٹھنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے تجھے دس ہزار دینے کا حکم دیا ہے اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ابو جعفر نے کہا خدا کی قسم تجھے وہ ضرور لینے ہوں گے اس نے کہا خدا کی قسم میں انہیں نہیں لوں گا اس وقت مہدی وہاں موجود تھا اس نے کہا امیر المؤمنین بھی قسم کھاتے ہیں اور تم بھی قسم کھاتے ہو

تو عمرو نے ابو جعفر کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا محمد ہے جسے مہدی کہتے ہیں اور یہ میرا ولیعہد ہے اس نے کہا خدا کی قسم تو نے اسے وہ لباس پہنایا ہے جو نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے لیکن تو نے اس کا نام وہ رکھا ہے جس کا وہ عملاً استحقاق رکھتا ہے اور تو نے اس کے لیے وہ بات اختیار کی ہے جو اسے بہت فائدہ دے گی مگر جس بات میں وہ لگا ہوا ہے اس سے غافل کر دے گی پھر عمرو نے مہدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے بھتیجے جب تیرا باپ قسم کھائے گا تو تیرا چچا اُسے توڑ دے گا کیونکہ تیرا باپ تیرے چچا سے کفارہ دینے کی زیادہ استطاعت رکھتا ہے منصور نے اُسے کہا اے ابو عثمان تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! اس نے کہا، کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے پاس آنے کا پیغام نہ بھیجنا اس نے کہا پھر تو ہم مل نہیں سکیں گے، اس نے کہا میرا یہی کام ہے پھر وہ چلا گیا اور منصور سمجھے سے اُسے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا

”تم میں سے ہر کوئی آہستہ چلتا ہے اور شکار کا طالب ہے مگر عمرو بن عبید ایسا نہیں ہے۔“

جب منصور نے مہدی کے لیے بیعت لی تو عمرو بن عبید، منصور کے پاس آیا اور اُسے کہا اے ابو عثمان یہ امیر المؤمنین کا بیٹا اور مسلمانوں کا ولی عہد ہے عمرو نے اُسے کہا امیر المؤمنین میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے لیے امور کو دُرست کر دیا ہے۔ اور وہ اس کی طرف چلے آ رہے ہیں مگر تجھ سے اس بارہ میں باز پرس ہوگی تو منصور چشم پریم ہو گیا اور اُسے کہنے لگا اے عمرو مجھے نصیحت کرو اس نے کہا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزوں سمیت دنیا دے دی ہے پس تو اپنے نفس کو اس کی بعض چیزوں کے عوض خریدے اور جو چیز تیرے ہاتھ میں آگئی ہے اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں باقی رہتی تو تجھ تک نہ پہنچتی پس اس شب سے ہشیا رہ جو دن سے نکالی جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی رات نہیں اور یہ اشعار پڑھنے لگا

”اے وہ شخص جسے اُمید نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے اور اُمید کے ورے موت اور ناخوشگواہی ہے اور کیا تو نہیں دیکھتا کہ دنیا اور اس کی زینت قافلے کی منزل کی طرح ہے کہ جہاں وہ اترے اور پھر وہاں سے چل پڑے

اور اس کی موتیں گھات میں ہیں اور اس کی گذران تنگ ہے اور اس کی صفائی
مکدر ہے اور اس کی حکومت چکر لگانے والی ہے اور اس کا رہنے والا ہمیشہ ڈر
سے زخمی رہتا ہے پس اُسے نرمی اور جھگڑا موافق نہیں آتا گو وہ ہلاکت اور
موت کا نشانہ ہے اور اس میں حوادث زمانہ تیرا تے رہتے ہیں نفس بھاگنے
والا ہے اور موت اس کی گھات میں لگی ہوئی ہے اور طمانگ کی ہر لغزش
اس کے نزدیک پھسلنے کی جگہ ہے اور آدمی اپنے وارث کے لیے باقی چھوڑنے
کے لیے کوشش کرتا ہے اور آدمی جو کوشش کرتا ہے اس کی وارث قبر
ہوتی ہے۔“

عمر بن عبید کی موت ۱۲۴ھ میں منصور کے دور حکومت میں عمرو بن عبید نے
وفات پائی۔ بعض کہتے ہیں ۱۲۵ھ میں وفات پائی اس کی
کنیت ابو عثمان اور نام عمرو بن عبید بن باب تھا یہ بنی تمیم کا غلام تھا اس کا دادا ،
کابل کے اسیروں میں سے تھا اور اپنے وقت میں معتزلہ کا شیخ اور مفتی تھا توحید
و عدل وغیرہ کے متعلق اس کے بہت سے رسائل اور خطبات موجود ہیں ہم نے اس کے
حالات اور مناظرات اور چیدہ کلام کو اپنی کتاب المقالات فی اصول الدیانات میں بیان
کیا ہے۔

۱۲۱ھ میں منصور نے ایک نذر کی وجہ سے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھی اور
واپس آگیا۔

ہشام بن عروہ کی وفات ۱۲۶ھ میں ہشام بن عروہ بن زبیر نے ۸۵ سال کی
عمر میں وفات پائی جب کوئی آدمی اُسے بات سُناتا
تو وہ کتابیں تجھ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں جب علی بن حسن نے اختلاف کیا تو
ہشام اس کی طرف جلدی سے گیا تو علی نے اُسے کہا میں تجھے اس بات کی دعوت
دیتا ہوں جس کی تو دعوت دیتا ہے۔

ابو حنیفہ النعمان اور ایک جماعت کی وفات منصور کے دور حکومت میں
بغداد میں ۱۲۵ھ میں ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت مولیٰ تیم اللات نے جو بکر بن وائل سے ہے، وفات پائی، آپ کی وفات

نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں ہوئی آپ کی عمر نوٹے سال تھی، اسی سال میں عبد الملک بن عبد العزیز جریج مکی مولیٰ خالد بن اسید کی وفات ہوئی، اس کی کنیت ابو الولید اور عمر ستر سال تھی محمد بن اسحاق بن یسار مولیٰ قیس بن مخزومہ جو بنی مطلب میں سے تھا کی وفات بھی اسی سال ہوئی، اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی کہتے ہیں کہ اس کی وفات ۱۵۱ھ میں ہوئی اور بعض کے بقول ۱۵۲ھ میں ہوئی، ۱۵۳ھ میں اوزاعی کی وفات ہوئی، ان کی کنیت ابو عمر عبد الرحمن بن عمرو تھی آپ اہل شام میں سے تھے ان کا گھر اوزاع میں تھا مگر آپ ان میں سے نہیں تھے بلکہ دمشق کے تھے لیکن اوزاع کی طرف منسوب ہو گئے، یہ منصور کے آخری دور میں یمن کے قیدیوں میں آئے تھے ان کی عمر نوٹے سال تھی۔

منصور کے زمانے میں لیث بن ابی سلیم کوفی، مولیٰ عنبیسہ بن ابی سفیان نے ۱۵۸ھ میں وفات پائی، ۱۵۶ھ میں سوار بن عبد اللہ قاضی فوت ہوئے، اور ۱۵۴ھ میں ابو عمر بن العلام نے وفات پائی۔

منصور کے حکم سے عبد اللہ بن علی کی قید

منصور کے چچا عبد اللہ بن علی کا قتل

۱۵۸ھ میں ہو گئی وہ نو سال تک اس کے قید خانے

میں رہا اور بعض نے اس کی اور مدت بھی بیان کی ہے۔ جب ۱۶۶ھ میں منصور نے حج کا ارادہ کیا تو اس نے اُسے عیسٰی بن موسیٰ کے پاس بھیج دیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا اور یہ کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، پس عیسٰی بن موسیٰ نے ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس بارے میں ان دونوں سے مشورہ لیا، ابن ابی لیلیٰ نے کہا ابراہیم بنی نے جو حکم دیا ہے اُسے گزریے اور ابن شبرمہ نے کہا کہ ایسا نہ کرنا اور اس نے اس کے قتل کے انکار کر دیا اور ابو جعفر کو یہ اطلاع دے دی کہ اس نے اُسے قتل کر دیا ہے اور یہ بات مشہور ہو گئی، تو علی کے بیٹوں نے منصور سے اپنے بھائی عبد اللہ کے متعلق بات کی تو اس نے انہیں کہا وہ عیسٰی بن موسیٰ کے پاس ہے اور جب وہ مکہ آئے تو انہوں نے عیسٰی بن موسیٰ سے آکر عبد اللہ کے متعلق پوچھا اس نے جواب دیا میں نے اُسے قتل کر دیا ہے تو وہ واپس ابو جعفر کے پاس گئے اور کہنے لگے عیسٰی کا خیال

۱۵۸ھ ایک نسخہ میں ستر سال لکھی ہے۔

ہے کہ اس نے اُسے قتل کر دیا ہے تو ابو جعفر نے عیسیٰ پر اظہارِ ناراضگی کیا اور کہنے لگا وہ میرے چچا کا قاتل ہے بخدا میں اُسے ضرور قتل کروں گا ابو جعفر چاہتا تھا کہ عیسیٰ اُسے قتل کر دے اور دونوں سے راحت حاصل کرے، راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے عیسیٰ کو بلوایا اور کہنے لگا تو نے میرے چچا کو کیوں قتل کیا ہے، اس نے کہا آپ نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا ہے اس نے کہا یہ آپ نے میرے نام خط لکھا تھا اس میں یہ حکم موجود ہے اس نے کہا میں نے یہ خط نہیں لکھا، اس نے جب منصور کی سنجیدگی کو دیکھا اور اپنے متعلق خوف کو محسوس کیا تو کہنے لگا وہ میرے پاس ہے میں نے اُسے قتل نہیں کیا اس نے کہا اُسے ابوالانہر مہلب بن ابو عیسیٰ کی طرف بھیج دو، اس نے اُسے اس کے پاس بھیج دیا اور وہ اس کے پاس ہمیشہ قید رہا پھر اس نے اُسے اس کے قتل کا حکم دیا تو وہ اس کے پاس آیا اس کی ایک لونڈی بھی اس کے ساتھ تھی اس نے پہلے عبداللہ کا گلا گھونٹا اور اسے مادہ فرش پر لٹا دیا پھر اس نے لونڈی کا گلا گھونٹنے کے لیے اُسے بکڑ لیا اس نے کہا اے عبداللہ کسی اور جگہ قتل کر لو۔ ابوالانہر کہا کرتا تھا کہ میں نے اس لونڈی کے سوا کسی کو قتل کرتے ہوئے رحم نہیں کھایا۔ میں نے اس لونڈی سے اپنا منہ پھیر لیا اور میرے حکم سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور میں نے اُسے اُس کے ساتھ فرش پر ڈال دیا اور اس کے ہاتھ کو عبداللہ کے پہلو میں اور عبداللہ کے ہاتھ کو اس کے پہلو میں معانقہ کرنے والوں کی طرح ڈال دیا ہے پھر میرے حکم سے ان دونوں پر مکان کو گرا دیا گیا پھر سہم قاضی ابن علائقہ کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے عبداللہ اور لونڈی کو اس حالت میں مرے ہوئے دیکھا پھر اس کے حکم سے بغداد کی غربی جانب باب شام کے قبرستان ابی سوید میں اُسے دفن کر دیا گیا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن عیاش منتوف بیان کرتا ہے کہ سہم منصور کے پاس موجود تھے کہ اس نے ایک روز کہا کہ کیا تم اس سرکش کو جانتے ہو جس کے نام کا پہلا حرف عین ہے، اس نے ایک دوسرے سرکش کو قتل کیا جس کے نام کا پہلا حرف عین ہے اور دوسرے سرکش کے نام کا بھی پہلا حرف عین ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا ہاں امیر المومنین میں جانتا ہوں، عبدالملک بن مروان نے عمرو بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو قتل کیا تھا، منصور نے کہا کیا تم اس خلیفہ کو جانتے ہو جس کے نام کا پہلا حرف عین ہے اس نے ایک سرکش کو قتل کیا جس کے نام کا پہلا حرف

عین ہے میں نے کہا ہاں امیر المومنین وہ آپ ہیں آپ نے عبد الرحمن بن مسلم، عبد الجبار بن عبد الرحمن اور اپنے چچا عبد اللہ بن علی کو قتل کیا ہے اس پر مکان گر پڑا تھا اس نے کہا اگر اس پر مکان گر پڑا تھا تو اس میں میرا کیا گناہ ہے، میں نے کہا آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ مسکرا دیا پھر کہنے لگا کیا تجھے وہ اشعار یاد ہیں جو ولید بن عبد الملک کی بیوی اور عمرو بن سعید کی بہن نے اس وقت کہے تھے جب عبد الملک نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، میں نے کہا ہاں امیر المومنین جس روز اس کا بھائی قتل ہوا وہ ننگے سر یہ اشعار پڑھتے ہوئے باہر آئے

”اے آنکھ عمر و پر آنسو بہا، جس شب خلافت بالجبر چھینی گئی، اے بنی خیط تم نے عمرو سے خیانت کی اور تم سب گھروں کی بنیاد خیانت پر رکھتے ہو، عمرو عاجز نہیں تھا مگر بات یہ ہے کہ موت اس کے پاس اچانک آگئی اور اُسے اس بات کا پتہ نہ تھا جب بنی مروان نے اُسے قتل کیا تو وہ یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے چھوٹے پرندے باز پر جمع ہو جاتے ہیں اللہ دنیا کو ہلاک کرے کہ آگ اہل دنیا کا پچھا کر رہی ہے اور قرابت کے پردوں کو پھاڑ رہی ہے، کاش میری قوم کو وفاداری اور خیانت کرنے والوں اور عمرو پر بالجبر دروازہ بند کرنے والوں کے متعلق کچھ قوت حاصل ہوتی، پس ہم اور شامت کرنے والے شام کو چلے گئے گویا ان کی گردنوں پر چٹان پڑی ہوئی ہے“

ابن عیاش کہتا ہے منصور کہنے لگا وہ کون سے اشعار ہیں جنہیں عمرو بن سعید نے عبد الملک بن مروان کی طرف بھیجا تھا، میں نے کہا امیر المومنین مجھے وہ اشعار معلوم ہیں اس نے اُسے لکھا تھا

”میرے خیال میں ابن مروان کچھ ایسی باتیں چاہتا ہے جو اُسے مشکل سواری پر سوار کرادیں گی تاکہ وہ اس عہد کو توڑ دے جسے مروان نے پختہ کیا تھا اور میں اس میں قطع تعلقات اور جھوٹ کو محسوس کرتا ہوں پس تو مجھ سے پہلے اس کے پاس آیا حالانکہ میں اس سے پہلے تھا اور اگر میں اطاعت گزار نہ ہوتا تو یہ بھی ایک دکھ کی بات ہوتی اور تو نے مروان کو جو بات کہی ہے وہ بہت ہلکی ہے جس پر مشوروں اور تقریروں کا اثر غالب ہے اگر تم اس امر کو نافذ کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے تو ہم بڑی سہولت کے ساتھ سب کے سب واپس آجائیں گے اور اگر عبد العزیز سے بے انصافی ہوئی

ہے تو ہم سے اور اس سے اس کے زیادہ مستحق بنو حرب ہیں۔“

منصور کی وفات منصور کی پیدائش، حجاج کی وفات کے سال ۹۵ھ میں ہوئی وہ کہا کرتا تھا کہ میں ذوالحجہ میں پیدا ہوا اور ذوالحجہ میں میرا ختنہ ہوا اور ذوالحجہ میں مجھے خلافت ملی اور میرا خیال ہے کہ میری وفات ذوالحجہ میں ہوگی، اور ایسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔

فضل بن ربیع بیان کرتا ہے کہ میں اس سفر میں، جس میں منصور کی وفات ہوئی، اس کے ساتھ تھا وہ ایک منزل پر اترتا تو اس نے مجھے پیغام بھیجا وہ ایک گنبد میں تھا اور اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اس نے مجھے کہا، کیا میں نے تجھے عوام کو بلانے سے منع نہیں کیا تھا، وہ ان گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں بے فائدہ تحریرات لکھ جاتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تو دیوار پر لکھا ہوا نہیں دیکھتا؟

”اے ابو جعفر تیری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور تیری عمر ختم ہو گئی ہے اور امر الہی لانا گانا نازل ہونے والا ہے اے ابو جعفر کیا کوئی کاہن یا منجم قضا الہی کو طال سکتا ہے یا تو جاہل ہے۔“

فضل بن ربیع بیان کرتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم میں تو دیوار پر کوئی چیز نہیں دیکھتا دیوار تو صاف شفاف اور سفید ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو، میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کہنے لگا خدا کی قسم پھر میرا نفس میری موت کی خبر دے رہا ہے، میرے گناہوں اور زیادتیوں سے بھاگتے ہوئے مجھے جلد میرے رب کے حرم اور امن گاہ میں لے چل، پس ہم چلے مگر اس سے چلانا جاتا تھا جب ہم بڑھیموں پر پہنچے تو میں نے اُسے کہا یہ بڑھیموں ہے اور تو حرم میں داخل ہو چکا ہے اس نے کہا الحمد للہ، اور وہیں فوت ہو گیا۔

منصور کی صفات منصور میں سب اوصاف سے بڑھ کر دانشمندی، صحیح رائے اور اعلیٰ انتظامی قابلیت پائی جاتی تھی، وہ بہت بخشش کرتا تھا اور اس کی بخشش دانشمندی سے نہیں ہوتی تھی وہ تھوڑی عطا کو روک لیتا تھا اور اس کی بخشش مال کا ضیاع نہیں ہوتی تھی وہ زیاد کے اس قول کا مصداق تھا کہ اگر میرے

پاس ایک ہزار اُونٹ ہوں اور ایک خارش زدہ اُونٹ ہو تو میں اس کی نگہداشت ایسے شخص کی طرح کروں گا جو اس کے سوا اور کوئی چیز قبضہ میں نہ رکھتا ہو۔ ابو جعفر نے چھ کر و طرہ درہم اور چودہ کر و طرہ دینار اپنے پیچھے چھوڑے، اس کے باوجود وہ مال میں بخل سے کام لیتا تھا اور ایسی باتوں پر نگاہ رکھتا تھا جو عوام کی نظروں میں نہیں ہوتیں اس نے باورچی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس کے لیے سرری پائے اور کھالیں ہوں گی اور اس کے ذمے لکڑیاں اور مصالحے ہوں گے، اس کی سخاوت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے دس چچاؤں سے صلہ رحمی کی، اس نے انہیں ایک دن میں دس ہزار درہم دیے ان کے نام یہ ہیں۔ عبد اللہ بن علی، عبد الصمد بن علی، اسماعیل بن علی، عیسیٰ بن علی، داؤد بن علی، صالح بن علی، سلیمان بن علی، اسحاق بن علی، محمد بن علی اور یحییٰ بن علی اور اس کے تعمیر کردہ شہر بغداد میں ہر روز پچاس ہزار آدمی کام کرتے تھے۔

اس کی اولاد | اس کے دو بیٹے ہمدی اور جعفر تھے جن کی ماں ام موسیٰ حمیرہ تھی جعفر اپنے باپ منصور کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا اور سلیمان، عیسیٰ، یعقوب اور

جعفر اصغر، کردی بیوی سے تھے اور صالح کا لقب مسکین تھا اور لڑکی کا نام عالیہ تھا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ربیع، عبد اللہ بن عیاش، جعفر بن محمد اور عمرو بن عبید وغیرہ کے ساتھ منصور کے بہت اچھے واقعات ہیں اور حکومت کے متعلق اس کے مواعظ اور خطبات اور سیاسیات اور واقعات بھی پائے جاتے ہیں ہم نے ان میں سے اکثر کا ذکر اخبار الزمان اور الادسط میں کیا ہے اور اس کتاب میں ہم صرف ان کی ایک جھلک پیش کریں گے جو ہماری پہلی کتابوں کے مضمون سے آپ کو آگاہ کرے گی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مہدی محمد بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | کنیت ابو عبد اللہ تھی اس کی ماں ام موسیٰ بنت منصور بن عبد اللہ بن ذی سہم بن ابی سرح تھی جو حمیر کے بادشاہ ذی رعیین کی اولاد میں سے تھا۔ اس کے غلام ربیع نے مکہ میں ہجرت کی اور الحجہ ۵۸ھ کو ہفتہ کے روز اس کی بیعت لی اس کے باپ کی موت اور اس کی بیعت کی خبر اس کا غلام منارہ اس کے پاس لایا، اس خبر کے سننے کے بعد اس نے دو دن قیام کیا پھر لوگوں میں خطبہ دیا اور انہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دی اور اپنی بیعت کی دعوت دی اس کی عام بیعت ہوئی، وہ دینور کے علاقے میں قرما سین شہر میں آنے کے لیے بغداد سے ۶۹ھ کو روانہ ہوا۔ اس کے سامنے مابذان کی خوشگوار آب و ہوا کی تعریف کی گئی تھی جو سیروان اور جرجان کے علاقہ میں ہے تو وہ بارزن اور البران مقام پر واپس آیا اور روین نامی بستی میں ۳۳ محرم ۶۹ھ کو جمعرات کی شب کو فوت ہو گیا اس نے دس سال ایک ماہ پندرہ دن حکومت کی، وفات کے وقت اس کی عمر ۴۳ سال تھی اس کی نماز جنازہ ہارون الرشید نے پڑھائی اس وقت موسیٰ ہادی جرجان میں تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کی موت نہریلیے انگور کھانے سے ہوئی تھی، اس کی لونڈی حسنا اور دیگر نوکروں نے اس کے غم میں ٹاٹ اور سیاہ کپڑے پہنے اس بارے میں ابوالعناہیہ کہتا ہے

” وہ شام کو منقش لباس میں گیس اور صبح کو انہوں نے ٹاٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر سینگ مارنے والا خواہ کتنا عرصہ زندہ رہے ایک روز اسے

بھی سینگ مارا جاتا ہے، خواہ تجھے عمر نوح مل جاتی پھر بھی تو زندہ نہ رہتا پس اگر تو نے ضروری نوہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر نوہ کر۔»

اس کے حالات و واقعات کا بیان اور اس کے

دور کی ایک جھلک

ہمدی اور قاضی شریک | فضل بن ربیع بیان کرتا ہے کہ ایک روز قاضی شریک ہمدی سے پاس آیا تو اس نے اُسے کہا تجھے تین باتوں میں سے ایک بات کو لازماً قبول کرنا ہوگا، اس نے پوچھا امیر المومنین وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ہمدی نے کہا یا تو تو قاضی بن یا میرے بیٹے کو حدیث سکھا اور تعلیم دے یا میرے ہاں کھانا کھایا کر، اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، کھانا کھانا میرے لیے سب سے آسان بات ہے اس نے اُسے روک لیا اور بادریچ کی طرف گیا کہ وہ اس کے لیے ہڈیوں کے گودے اور طبرزد و شکر اور شہد کے سالن تیار کرے جب وہ صبح کے ناشتے سے فارغ ہوا تو مطبخ کے انچارج نے اُسے کہا امیر المومنین اس کھانے کے بعد یہ شیخ کبھی کامیاب نہ ہوگا، فضل بن ربیع کہتا ہے خدا کی قسم شریک نے اس کے بعد انہیں حدیث سنائی اور ان کے بچوں کو پڑھایا اور قضا کا محکمہ بھی سنبھالا اور اس نے اپنے اخراجات کے متعلق جہیز کو لکھا تو اس نے انہیں اخراجات کے لیے بہت کم دے کر اُسے تنگ کر دیا۔ جبذ نے اُسے کہا تو نے کبھی کپڑا بھی نہیں بیچا تو شریک نے اُسے کہا خدا کی قسم میں نے کپڑے سے بڑی چیز کو بیچا ہے، میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔

شکار کو جاتے ہوئے ہمدی اور عمرو کا بھوکا رہنا | فضل بن ربیع بیان کرتا ہے کہ ہمدی اپنے شاعر

غلام عمرو بن ربیع کے ساتھ سیر کو نکلا، وہ فوج سے الگ ہو گیا اور لوگ شکار میں مصروف ہو گئے ہمدی کو شدید بھوک لگی، اس نے عمرو سے کہا تیرا بڑا ہوا، میرے پاس کوئی ایسا آدمی لاؤ جس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو، عمرو مسلسل آدمی کی تلاش میں لگا رہا یہاں تک کہ اُس نے ایک سبزہ والی زمین کے مالک کو دیکھا جس کی ایک جانب اس کا

جھوٹیڑا بھی تھا، وہ اس کے پاس گیا اور اُسے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، جو کی چپاتیاں اور دہی ہے اور یہ بسبزی اور گندنا بھی ہے مہدی نے اُسے کہا اگر تیرے پاس گھی ہو تو توٹے اپنی میزبانی مکمل کر لی۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ گھی بھی ہے اور اس نے اسے ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بہت زیادہ کھا گئے مہدی نے بنظر غائر دیکھا تو اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا تھا اس نے عمرو سے کہا ایسا شعر کہو جس میں ہماری حالت کا بیان ہو، عمرو نے کہا

”جو شخص دہی کو نیل کے ساتھ اور جو کی روٹی کو گندنے کے ساتھ کھلاتا

ہے وہ اس بڑے سلوک کی وجہ سے ایک، دو یا تین تھپڑوں کا مستحق ہے“

مہدی نے کہا خدا کی قسم تو نے بہت بڑا کہا ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہے

”کہ وہ اس نیک سلوک کی وجہ سے ایک، دو یا تین توڑوں کا مستحق ہے۔“

پھر وہ فوج کے ساتھ آئے اور خزانے، خازم اور سوار دستے بھی آئے تو اس نے بسبزی والے کو تین توڑے درہم دینے کا حکم دیا۔

راوی بیان کرتا ہے

شکار کو جاتے ہوئے دوسری دفعہ مہدی کا بھوکا رہنا کہ دوسری دفعہ وہ

گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا اور بھوکا ہونے کی حالت میں ایک بدو کے

خیمے کی طرف گیا اور کہنے لگا اے بدو کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے، میں تمہارا مہمان

ہوں، اس نے جواب دیا میں تجھے ایک کامل نوجوان اور موٹا تازہ دیکھتا ہوں اگر تو اس کھانے

کو پسند کرے جو ہمارے پاس موجود ہے تو ہم تمہاری مہمان نوازی کیے دیتے ہیں اس نے

کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ، تو وہ ایک بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی لایا اس نے اُسے کھا

کر کہا کہ بہت اچھی روٹی ہے، پھر کہنے لگا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اُسے لاؤ تو اس

نے ایک اوجھڑی میں دودھ لاکر اُسے پلایا اس نے پی کر کہا بہت اچھا دودھ ہے

پھر کہنے لگا، کچھ اور لاؤ تو وہ ایک چھاگل میں بنیڈ لایا جس میں سے بدو نے ایک پیالہ

پیا اور اُسے بھی پلایا، جب مہدی بنیڈ کا جام پی چکا تو کہنے لگا کیا تجھے پتہ ہے کہ میں

کون ہوں اس نے جواب دیا بخدا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں خاندان

خاص میں سے ہوں اس نے کہا اللہ تیرے مقام اور عطیے میں برکت دے پھر بدو نے

ایک اور جام پیا اور اُسے بھی پلایا جب وہ جام پی چکا تو بدو سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں اس نے کہا ہاں، تو نے بتایا ہے کہ میں خادمانِ خاص میں سے ہوں، اس نے کہا، نہیں میں ایسا نہیں ہوں اس نے پوچھا پھر تو کون ہے اس نے جواب دیا میں مہدی کا ایک جرنیل ہوں اس نے کہا تیرا گھر وسیع ہو اور تیری ملاقات خوشگوار ہو، پھر بدو نے ایک جام نوش کیا اور اُسے بھی پلایا جب وہ تیسرا جام پی چکا تو کہنے لگا اے بدو تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں اس نے جواب دیا ہاں تو مہدی کا ایک جرنیل ہے اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہوں، اس نے پوچھا پھر تو کون ہے اس نے جواب دیا میں خود امیر المؤمنین ہوں پس بدو نے اپنی چھاگل پکڑ لی اور اس کا منہ بند کر دیا، مہدی نے اُسے کہا ہمیں پلاؤ، اس نے کہا خدا کی قسم تو اس سے ایک گھونٹ یا اس سے کم و بیش بھی نہ پی سکے گا اس نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، میں نے تجھے ایک جام پلایا تو تو نے اپنے آپ کو خادمانِ خاص میں سے خیال کیا، ہم نے تمہاری یہ بات برداشت کی پھر ہم نے تجھے دوسرا جام پلایا تو تو نے اپنے آپ کو مہدی کا ایک جرنیل خیال کیا ہم نے تمہاری یہ بات بھی برداشت کی پھر ہم نے تجھے تیسرا جام پلایا تو تو نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین خیال کیا خدا کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں تجھے چوتھا جام پلاؤں تو تو کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مہدی منس پڑا، اور سواروں نے اُسے گھیرے میں لے لیا، شاہزادے اور اشراف اس کے پاس آنے لگے تو بدو پریشان ہو گیا اور اُسے اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی، وہ تیزی سے دوڑنے لگا، مہدی نے اُسے کہا تجھے کچھ خوف نہیں، اور اُسے مال، لباس، کپڑوں وغیرہ کا بہت سا عطیہ دیا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا ہے اگر تو چوتھی یا پانچویں بات کا ادعا کرنا تو اس سے بھی نکل جاتا۔ مہدی اس کی بات پر منس پڑا اور اس کی چوتھی یا پانچویں بات کے ذکر پر قریب تھا کہ وہ گھوڑے سے گر پڑے اور اس نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اُسے اپنے خواص میں شامل کر لیا۔

مہدی کے وزراء | ابو عبید اللہ معاویہ بن عبد اللہ اشعری اس کا وزیر تھا جو

محمد بن عبد الوہاب کا نائب کا دادا تھا وہ خلافت سے قبل

اس کا نائب تھا مہدی نے ابو عبید اللہ کے ایک لڑکے کو زندیق ہونے کی وجہ سے

قتل کر دیا اور دونوں ایک دوسرے سے وحشت محسوس کرنے لگے تو اس نے اُسے

معزول کر دیا ابو عبید اللہ تک زندہ رہا، پھر مہدی نے یعقوب بن داؤد سلمیٰ کو

وزارت کے لیے مختص کر لیا اور کونسل کو خط لکھا کہ امیر المومنین نے اس سے مواخات کر لی ہے، وہ ہر وقت اس تک رسائی حاصل کر سکتا تھا پھر اس نے اس پر طالبی ہونے کا انہام لگایا اور اس کے قتل کرنے کی ٹھان لی اور اُسے قید کر دیا، وہ ہارون الرشید کے زمانے تک قید میں رہا، پھر ہارون الرشید نے اُسے رہا کر دیا۔ اس کے متعلق لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ اولاد عباس میں سے بڑے لڑکے کی امامت کا قائل تھا اور یہ کہ مہدی کے دوسرے چچا زاد اس سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔

مہدی کے خصائل و اعمال | مہدی عوام و خواص کا محبوب تھا کیونکہ اس نے اپنی حکومت کا آغاز مظلوم کے متعلق غور و فکر کرنے،

قتل کو روکنے، خوف زدہ کو امن دینے اور مظلوم کے ساتھ انصاف کرنے سے کیا تھا۔ وہ کھلے ہاتھوں سے عطیات دیتا تھا، منصور نے جو کچھ باقی چھوڑا تھا اُس نے سب کا سب لٹا دیا اس نے جو کچھ اپنے دور میں جمع کیا تھا اس کو چھوڑ کر وہ چھ کر وڑ درہم اور چودہ لاکھ دینار تھے، جب بیت المال خالی ہو گئے تو بیت المال کے خزانچی ابو حارثہ النہری نے اس کے پاس آکر چابیاں پھینک دیں اور کہنے لگا جو گھر خالی ہو چکے ہیں ان کی چابیوں کا کیا مطلب ہے؟ تو مہدی نے بیس خادموں کو اموال کے جمع کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا اور محفوظ سے دنوں میں اموال آنے لگے تو ابو حارثہ اموال کو وصول کرنے اور ان کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں مصروف رہنے کی وجہ سے تین دن تک مہدی کے پاس نہ آسکا جب وہ مہدی کے پاس آیا تو اس نے کہا تجھے کس چیز نے دیر کرا دی ہے؟ اس نے کہا اموال کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی مصروفیت نے، اس نے کہا تو ایک احمق بدو ہے تیرا خیال تھا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی اموال ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ابو حارثہ نے کہا جب کوئی واقعہ رونما ہوگا تو وہ آپ کو مہلت نہیں دے گا کہ آپ اموال کے استخراج اور اٹھانے میں لگ جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دس دنوں میں اپنے پستینی مال سے دس کر وڑ درہم خرچ کر دیے اس وقت شبہ بن عقال نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کے کئی مثیل ہیں جن میں سے روشن چاند آغاز بہار، کچھار میں رہنے والا شیر اور موجزن سمندر بھی ہے، روشن چاند اس کی خوبصورتی سے آغاز بہار اس کی خوشبو سے کچھار کا شیر اس کی جوانی اور ارادے کی پختگی سے اور

موجزن سمندر اس کی جو دو سخا سے مشابہت رکھتا ہے۔

خیزران اور مروان بن محمد کی بیوی | ہادی اور ہارون الرشید کی ماں خیزران اپنے اس گھر میں رہتی تھی جسے آجکل "اشناس" کہتے ہیں

اس کے پاس خلفاء کی اہمات الاولاد اور بنی ہاشم کی دیگر لڑکیاں بھی رہتی تھیں۔ خیزران ایک جرمنی قالین پر اور دیگر خواتین ایک جرمنی گدیے پر بیٹھی تھیں، زینب بنت سلیمان بن علی ان سب سے بلند مرتبہ پر تھی، اسی دوران میں اس کے خادم نے آکر کہا کہ دروازے پر ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت، بوسیدہ چادروں میں کھڑی ہے جو تمہارے سوا اور کسی کو اپنا نام پتہ نہیں بتانا چاہتی وہ تمہارے پاس آنا چاہتی ہے مہدی نے اس سے قبل خیزران کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ زینب بنت سلیمان بن علی کے ساتھ رہے اور اُسے کہا کہ وہ اس کے اخلاق و آداب کو سیکھے کیونکہ یہ ہماری وہ بڑھیا ہے جس نے ہمارے اوائل کو پایا ہے خیزران نے خادم سے کہا اُسے اجازت دے دو، تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت بوسیدہ چادروں میں اندر آئی، اور بڑی وضاحت سے بات کی، انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مزنہ زوجہ مروان بن محمد ہوں، زلمانی نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے جس میں تم مجھے دیکھ رہی ہو خدا کی قسم جو بوسیدہ چادریں میں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہیں وہ کسی سے عاریتہ لی ہوئی ہیں جب سے تم نے ہم پر غالب آکر یہ حکومت حاصل کی ہے اور ہم تمہارے ماتحت ہو گئے ہیں ہم عوام سے مخالفت کی وجہ سے ان کے ہزرے سے محفوظ نہیں وہ کسی بھی اقدام سے ہمارے شرف کو داغدار کر سکتے ہیں پس ہم نے تمہارے پاس آنے کا قصد کیا ہے تاکہ ہم تمہاری پناہ میں ہوں خواہ ہماری کوئی بھی حالت ہو یہاں تک کہ صاحب دعوت آجائے خیزران کی آنکھیں ڈبڈبائی اور زینب بنت سلیمان بن علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے مزنہ اللہ تعالیٰ تیری تکلیف کو کم نہ کرے کیا تجھے یاد ہے کہ میں حران میں تمہارے پاس گئی تھی تو بھی اسی قسم کے قالین پر بیٹھی تھی اور تمہاری قرابت دار عورتیں ان گدیوں پر بیٹھی تھیں میں نے تجھ سے امام ابراہیم کے جتنے کے متعلق بات کی تھی اور تو نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور میرے اخراج کا حکم دیا تھا اور تو نے کہا تھا کہ عورتوں کا کیا کام ہے کہ مردوں کی آراء میں دخل دیں؟ خدا کی قسم مروان تجھ سے زیادہ حق کی رعایت کرنے والا تھا

میں اس کے پاس گئی تو اس نے قسم اٹھائی کہ اس نے ابراہیم کو قتل نہیں کیا حالانکہ وہ جھوٹا تھا اور اس نے مجھے اس کے جثہ کو دفن کرنے یا مجھے دے دینے کا اختیار دے دیا تو میں نے اس کے جثے کو لینا پسند کیا اس نے مجھے مال کی پیشکش کی جسے میں نے ٹھکرا دیا مرنے لے کہا خدا کی قسم مجھے تو جس حالت میں دیکھ رہی ہے اس تک مجھے ان کاموں نے ہی پہنچایا ہے جو میں کرتی رہی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اس حالت کو اچھا سمجھا ہے اسی لیے اس نے تیرا ان کو اس جیسا کام کرنے کی ترغیب دی ہے حالانکہ اس پر واجب تھا کہ وہ اسے اچھے کام کرنے اور شرکاء مقابلہ نہ کرنے کی ترغیب دیتی تاکہ وہ اپنی آسائش اور اپنے دین کو محفوظ کر لیتی پھر اس نے زینب سے کہا اے میری چچا زاد بہن تو نے نافرمانی کے بارے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک کو کیسے پایا ہے کہ تو ہمارے نمونے کو اختیار کرنا چاہتی ہے پھر وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی خیزران نے مرنے کے بارے میں زینب کی مخالفت کرنا پسند نہ کیا پس خیزران نے اپنی ایک لونڈی کو آنکھ سے اشارہ کیا وہ اُسے ایک کمرے میں لے گئی اور اُسے اس کی حالت ٹھیک کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جب مہدی اس کے پاس آیا — اس وقت زینب واپس جا چکی تھی اس کا یہ پروگرام ہوتا تھا کہ وہ ہر شام کو اپنے خواص حرم کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا تھا — خیزران نے اُسے سب واقعہ سنایا اور اس کی حالت کو ٹھیک کرنے کے متعلق لونڈی کو اس نے جو حکم دیا تھا وہ بھی اُسے بتایا تو اس نے اس لونڈی کو بلایا جو اُسے واپس لائی تھی اور اُسے کہا جب تو اُسے کمرے میں واپس لائی تو تو نے اُسے کیا کہتے سنا؟ اس نے جواب دیا میں اُسے فلاں راستے میں ملی وہ باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہی تھی — ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت امنۃ مطمئنة یا تبارکوا رزقہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بالعم اللہ فاذا قرعہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصیفون ۱۱۲

۱۱۲ (ترجمہ) اللہ نے ایسی بستی کی مثال بیان کی جو امن چین والی تھی جسے ہر جگہ سے بافراغت رزق ملتا تھا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا پہناوا چکھا دیا بہ سبب اس کے اعمال کے۔ (نحل آیت ۱۱۲)

پھر اس نے خیزدان سے کہا خدا کی قسم اگر تو اس سے وہ سلوک نہ کرتی جو تو نے کیا ہے تو
 میں کبھی تجھ سے بات نہ کرتا اور بہت رویا پھر کہنے لگا اے اللہ میں زوالِ نعمت سے تیری پناہ
 چاہتا ہوں اور اس نے زینب کے فعل کو اچھا نہ سمجھا اور کہنے لگا اگر وہ ہماری بڑی عورتوں
 میں سے نہ ہوتی تو میں اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھاتا پھر اس نے اپنی ایک لونڈی کو
 اس کے کمرہ میں بھیجا جو اس نے مزہ کے لیے خالی کروایا تھا اور لونڈی سے کہا اے
 میرا سلام کہنا اور یہ پیغام بھی دینا کہ اے چچا زاد بہن تیری بہنیں میرے پاس اکٹھی ہوئی
 ہیں اگر میں نے تجھے غمگین نہ کیا ہوتا تو ہم تجھے یہاں لے آتے ، اس نے پیغام سن کر ہمدی
 کے مفہوم کو سمجھ لیا ، زینب بنت سلیمان بھی آئی ہوئی تھی اور مزہ بھی اپنا دامن گھسیٹے ہوئے
 آئی تو اس نے اُسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اُسے خوش آمدید کہا اسے اپنے قریب کیا اور زینب
 بنت سلیمان بن علی سے بھی اُسے اونچا مقام دیا پھر وہ اپنے اسلاف اور لوگوں کی جنگوں ،
 حکومتوں اور ان کے زوال پر گفتگو کرنے لگے تو اس نے مجلس میں کسی کے لیے کوئی بات نہ
 چھوڑی ، ہمدی نے اُسے کہا اے چچا زاد بہن خدا کی قسم اگر میں اس قوم کو جس سے تو
 تعلق رکھتی ہے اپنی حکومت میں سے کچھ دینا ناپسند نہ کرتا تو میں تجھ سے شادی کر لیتا لیکن
 میں اپنے اندر کی کوئی چیز تجھ سے بچا کر نہ رکھوں گا اور تو میرے محل میں اپنی بہنوں کے
 ساتھ رہے گی جو کچھ انہیں ملے گا وہ تجھے بھی ملے گا اور جو ذمہ داری ان پر ہوگی تجھ
 پر بھی ہوگی یہاں تک کہ تیرے پاس حاکم کا وہ حکم آجائے جو اس نے مخلوق کے بارے
 میں صادر کیا ہے پھر اس نے دیگر عورتوں کی طرح اُسے جاگیزیں ، خادم اور اُسے العائنات
 دیے ، وہ ہمدی کے مرنے تک اور ہادی کے دورِ حکومت اور ہارون الرشید کی حکومت
 کے اوائل زمانے تک اس کے محل میں رہی تا آنکہ ہارون الرشید کی خلافت میں فوت ہو گئی
 وہ اس کے اور بنی ہاشم کی عورتوں اور ان کی خواص آزاد عورتوں اور لونڈیوں کے درمیان
 کوئی فرق نہ کرتا تھا ، جب وہ فوت ہوئی تو ہارون الرشید اور اس کی بیویوں نے
 اس پر بہت غم کا اظہار کیا۔

الریاشی نے ہمیں اجمعی
 کے طریق سے بتایا کہ
 عبداللہ بن عمرو بن عبثہ

عبداللہ بن عمرو بن عبثہ کا ہمدی کے پاس تعزیت
 کرنا اور مبارکباد دینا

مہدی کے پاس منصور کی تعزیت کے لیے آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو پہلے امیر المؤمنین پر اجر دے اور اُسے اپنے جانشین کے متعلق برکت دے اور کوئی مصیبت امام والا کے کھودینے سے بڑی نہیں اور کوئی جانشینی اولیاء اللہ پر خلافت الیہ حاصل کرنے سے بڑی نہیں، اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے افضل عطیہ کو قبول کیجیے اور اللہ کے ہاں سے بڑی مصیبت کے ثواب کی امید رکھیے۔

عتبہ لونڈی اور ابوالعتاہیہ | جب ابوالعتاہیہ خیزران کی لونڈی عتبہ کے متعلق

اپنی بے عزتی کی شکایت کی اتنے میں مہدی آگیا وہ خیزران کے سامنے بلٹھی رو رہی تھی۔ اس نے خیزران سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے اُسے بات بتادی تو اس نے ابوالعتاہیہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اُسے مہدی کے پاس لایا گیا جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا تو نے عتبہ کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔

”میرے اور میری مالک کے درمیان اللہ ہی کافی ہے جو مجھ سے اعراض کرتی ہے اور ملامت بھی کرتی ہے۔“

اس نے کب تجھ سے وصل کیا ہے جو تو اس کے اعراض کی شکایت کرتا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے یہ شعر نہیں کہا بلکہ میں نے تو یہ اشعار کہے ہیں کہ۔

”اے ناقہ ہمیں لیے جا اور تیرا نفس جو راحتیں دیکھ چکا ہے ان کی وجہ سے سُستی نہ کرے، یہاں تک کہ تو ہمیں ایک بادشاہ کے پاس لے جا جس کی اللہ نے توفیق کی ہے اور جب کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اُسے کہتا ہے اے ہو کیا تجھ میں میرے مقابلہ کی طاقت ہے اس مانگ پر دو تاج ہیں ایک خوب صورتی کا تاج اور دوسرا عاجزی کا تاج۔“

رادی بیان کرتا ہے کہ مہدی نے سر جھکا لیا اس کے ہاتھ میں جو چھٹری تھی اس سے نہ میں کریدنے لگا پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، تو نے یہ شعر کہے ہیں۔

”میری مالک جس بات پر ناز کرتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے ورنہ میں اس کے ناز اٹھاتا وہ بادشاہ کی ایک لونڈی ہے جس کے کپڑوں نے اس کے حسن کو مسکین بنا دیا ہے۔“

اس نے کہا جو کچھ اس کے کپڑوں کے اندر ہے تجھے اس کا کیا علم ہے تو اس کے جواب میں اس نے یہ جواب دیا ہے

وخلانت اپنے دامن گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس مطیع ہو کر آئی پس وہ اسی کے شایانِ شان تھی۔

پھر اس نے اس سے کچھ اور باتیں دریافت کیں تو ابو العتاہیہ نے اُسے لاجواب کر دیا مہدی نے اُسے ایک حد کے کوڑے لگانے کا حکم دیا اور اُسے کوڑے لگا کر نکال دیا اسی حالت میں اُسے عتبہ ملی تو اس نے کہا ہے

”اے عتبہ تجھ پر آفرین ہے تیری وجہ سے مہدی نے ایک مقتول کو قتل کر دیا ہے“

تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آنسو رواں ہو گئے اور مہدی نے اُسے خیزران کے پاس دیکھا تو اس نے پوچھا عتبہ کیوں رو رہی ہے؟ اُسے بتایا گیا کہ اس نے ابو العتاہیہ کو کوڑے لگتے دیکھا ہے خیزران نے اُسے کہا لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں تو اس نے ابو العتاہیہ کو پچاس ہزار درہم دینے کا حکم دیا ابو العتاہیہ نے یہ رقم دروازے پر موجود آدمیوں میں تقسیم کر دی، واقعہ نویس نے یہ خبر مہدی کو لکھی تو اس نے اُسے کہلا بھیجا کہ میں نے تیری عزت افزائی کی ہے اور تو نے اس رقم کو تقسیم کر دیا ہے تجھے اس امر پر کس بات نے آمادہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اپنی محبوبہ کی قیمت نہیں کھانا چاہتا تو اس نے اس کی طرف مزید پچاس ہزار درہم بھیجے اور اُسے قسم دی کہ وہ انہیں تقسیم نہ کرے تو وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔

المبرد بیان کرتا ہے کہ نور روز یا مہرجان ابو العتاہیہ کی جانب سے مہدی کو تحفہ کے روز ابو العتاہیہ نے مہدی کو

ایک مٹی کا برتن تحفہ کے طور پر دیا جس میں ایسے کپڑے تھے جنہیں کستوری کی خوشبو لگی ہوئی تھی جس میں دو سطرین مشک، عنبر اور کافور سے بنی ہوئی ایک خوشبو کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں کہ

”میرا دل دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اور قائم مہدی اُسے کافی ہوں گے میں تو اس سے بہت مایوس ہوں پھر بھی وہ مجھے

کھلاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو دنیا اور مافیہا کو حقارت سے دیکھتا ہے۔“

ہدی نے چاہا کہ عتبہ اس کے حوالے کر دے تو عتبہ نے اُسے کہا امیر المؤمنین میری حرمت و خدمت اور حقوق کے باوجود آپ مجھے ایک ٹکے بچنے والے کے سپرد کر رہے ہیں جو شعر کہہ کر روزی کھاتا ہے تو اس نے ابو العتاہیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تو عتبہ کو کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا اور ہم نے حکم دیا ہے کہ تجھے مٹی کا برتن بھر کر انعام دیا جائے عتبہ باہر نکلی تو وہ خط کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے دنیا بیکار حکم دیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ در اہم کا حکم دیا ہے تو عتبہ کہنے لگی اگر تو عتبہ کا عاشق ہوتا تو چاندی اور سونے سے بے پروا ہی کرتا۔“

ابو العتاہیہ | ابو العتاہیہ اسماعیل بن قاسم ٹکے بچا کرتا تھا اور لوگوں کے مقابلہ میں بڑے آسان الفاظ استعمال کرتا اور وزن کلام پر بڑا قادر تھا وہ بڑے واضح الفاظ استعمال کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ہر حالت میں شعر کہہ سکتا تھا اور تمام اقسام کے لوگوں کو مخاطب کر سکتا تھا۔ اسی چیز نے اُسے شاعر و نثر نگار بنا دیا تھا۔

ابو لو اس اور لوگوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی نے پانی منگو کر پیا پھر کہنے لگا :-

”عذب الماء وطابا“ پانی شیریں اور خوش گوار ہو گیا۔

پھر اس نے کہا اس مصرعہ کو لوگوں کے پاس لے جاؤ کہ وہ اس پر طبع آزمائی کریں، مگر کوئی شخص اس سے ملتا جلتا مصرعہ نہ کہہ سکا حتیٰ کہ ابو العتاہیہ آیا اور کہنے لگا تم کس چکر میں پڑے ہو انہوں نے اُسے بات بتائی اور اُسے قسم دی تو اس نے کہا :-

رحبذ الماء شرابا، اس پانی کے کیا کہنے جو شراب بن گیا ہے۔

اور عتبہ کے متعلق اس کے منتخب اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں :-
 ”اے میٹھی آنکھوں والی خدا کے لیے مجھے موت سے پہلے مل جاو رہ
 مجھے ذلیل سمجھ، ان دونوں باتوں میں سے جو بات تجھے پسند ہے اُسے اختیار
 کر لے اگر ایسا نہیں کرے گی تو موت کا داعی مجھے آواز دے رہا ہے

اور اگر تو میری موت کی خواہاں ہے تو میری رُوح کی مالک ہے اور اگر تو میری زندگی کی خواہاں ہے تو مجھے زندہ کر دے، اے عتبہ تو ایک انوکھی مخلوق ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہوئی حالانکہ لوگوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے میں اس محبت سے بہت متعجب ہوں جو مجھے اس شخص کے قریب کرتی ہے جو مجھے اس سے دُور کرتا ہے، اور وہ میری تکلیف میں مجھ سے انصاف کرے تو میں راضی ہو جاؤں اور انصاف مجھے راضی کرتا ہے اے میری محبت والو، میں نے تم سے محبت میں بڑی نرمی برتی ہے لیکن تم میری پرواہ نہیں کرتے، خدا کا شکر ہے کہ ہم تمہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر مساکین پر رحم کرنے والا خیال کرتے ہیں، میں تجھ سے زیادہ محبت کا خواہاں نہیں اگر تو مجھے تھوڑی سی محبت کا مزا بھی چکھا دے تو وہ مجھے کافی ہوگا۔“

اس کے منتخب اشعار میں سے اس کے یہ شعر بھی ہیں :-
 ”اے عتبہ! اے بغداد کے رصافہ محلے کے ماہتاب! اے بیچہ و نظیفہ،
 تجھے میری محبت اور مجھ پر مہربانی کرنا عطا کیا گیا ہے میں تجھ پر قربان جاؤ
 مجھے تجھ سے مہربانی نصیب نہیں ہوئی اور میں محبت کی وجہ سے کمزور اور
 بیمار ہو گیا ہوں اور نچوڑے ہوئے انگور کی طرح پھٹا پڑا ہوں جب میں
 تجھے عاجز دیکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو نے میری طرف کوئی آفت
 بھیج دی ہے۔“

اس کے جن اشعار کو ہم نے پسند کیا ہے اور دانشوروں نے جن کی داد دی ہے

وہ یہ ہیں :-

”کس چیز نے لوگوں کو میری مصیبت، تکلیف اور بدبختی سے غافل کر دیا ہے
 لوگ مجھے میرے محبوب کے متعلق ملامت کرتے ہیں مگر وہ میری بیماری کو
 نہیں سمجھتے، ہائے اس دوست پر افسوس جس کے ہاتھ میں میری شفا ہے
 اس کی محبت نے مجھے زمین و آسمان کے علاوہ، کسی اور چیز کا مسافر بنا دیا
 ہے میرے نصیب نے مجھے اپنی انتہا کو پہنچا دیا ہے میرا صبر و سکون
 کہاں گیا؟ تو ہی میری مصیبت اور بیماری ہے اور تو ہی میری دوا کو جانتی

ہے ، خدا کی قسم جب تیرا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے آنسو میری چادر پر بہہ پڑتے ہیں ، اے میری محبت والو اللہ تعالیٰ برکت دے تمہیں مجھ سے جفاکاری کرنے پر کس نے آمادہ کیا ہے ، تم ہی میری صبح و شام کا غم ہو ، مجھے جو کچھ تم سے ملا ہے میں اس پر حیران ہوں کہ میں تمہاری وجہ سے بیمار ہوں ، میرے اور تمہارے درمیان محبوب کی خیر خواہی اور وفاداری کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بہت مختلف ہیں ، میں نے تمہیں اپنا عشق و محبت دیا ہے اور تم نے مجھے یہ جزا دی ہے ۔“

المبرد و محمد بن یزید بیان کرتا ہے کہ ابو العباس سفاح کی بیٹی ریطہ نے عبد اللہ بن مالک خراعی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک غلام خرید کر آزاد کر دے اور اس نے اپنی لونڈی عتبہ کو حکم دیا — یہ پہلے ریطہ کی لونڈی تھی بعد میں خیزران کے پاس چلی گئی تھی — کہ وہ اس غلام کو حاضر کرے وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ابو العتاہیہ ایک درویش کے لباس میں آکر کمنے لگا ، میں آپ کے قربان جاؤں میں ایک کمزور اور بوڑھا آدمی ہوں جو خدمت کی طاقت نہیں رکھتا ، خدا تعالیٰ تیرا بھلا کرے اگر تو میری خریداری اور آزادی کا حکم دے تو تجھے اجر ملے گا ، اس نے عبد اللہ کو آکر کہا کہ میں ایک خوبصورت کمزور اور فصیح و بلیغ آدمی کو جانتی ہوں اُسے خرید کر آزاد کر دے ، اس نے کہا بہت اچھا ابو العتاہیہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں آپ کے اس احسان کے شکر یہ میں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے لوں تو اس نے اُسے اجازت دے دی اس نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور واپس چلا گیا تو عبد اللہ بن مالک سنس پڑا اور کمنے لگا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے ، اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہ ابو العتاہیہ تھا ، اس نے تجھ سے جیلہ بازی کر کے تیرا ہاتھ چوم لیا ہے تو اس نے شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کمنے لگی اے ابو العباس تیرا بُرا ہو ، کیا تیرے جیسا آدمی بھی لغو کام کرتا ہے ، ہم نے تیری بات کی وجہ سے دھوکا کھایا ہے اس کے بعد وہ اُٹھ کر چلی گئی اور پھر اس کی طرف واپس نہ آئی۔ ابو العتاہیہ کے اشعار بہت شان دار ہیں ہم انہیں خلفاء کے حالات میں بیان کریں گے اور ہم عنقریب اس کے حالات کی ایک جھلک اور اس کے اشعار اور

وفات کا ذکر کریں گے اگر ان اشعار کے علاوہ جن میں ابوالعتاہب نے صدق اخوت اور خالص وفاداری کا ذکر کیا ہے اس کے اور اشعار نہ بھی ہوتے تو بھی وہ اپنے دور کے شعراء میں نمایاں مقام کا حامل ہوتا، وہ کتنا ہے

”تیرا حقیقی دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ ہو اور تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے خود تکلیف اٹھائے اور جب گردش زمانہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو وہ تیری جمعیت قلب کی خاطر اپنے آپ کو پریشان کر دے۔“

یہ صفت ہمارے دور میں معدوم ہو چکی ہے اور اس کا وجود محال ہے اور اس کا دیکھنا مشکل ہے۔

ابن عیاش اور ابن دُاب نے بیان کیا ہے کہ **محمد ہمدی اور ثرتی بن قطامی** منصور نے جب ہمدی کو رومی میں اپنا جانشین بنا یا تو ثرتی بن قطامی کو اس کے ساتھ کر دیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اس سے عربوں کی جنگوں، مکارم اخلاق و واقعات اور اشعار کو پڑھے اور یاد کرے، ایک شب ہمدی نے اُسے کہا ثرتی! میرے دل کو کسی بابت سے ایسا آرام پہنچا کہ وہ بہل جائے اس نے کہا اللہ امیر المؤمنین کا بھلا کرے بہت اچھا، کہتے ہیں کہ چہرہ کے ایک بادشاہ کے دو ندیم تھے جو اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھے وہ اس کے سفر و حضر پبند، بیداری اور کھیل کود میں کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتے تھے اور وہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا تھا اسی طرح ایک لمبا زمانہ گزر گیا ایک رات وہ شراب نوشی اور لہو لعب میں مصروف تھے کہ اس پر شراب کا نشہ غالب آ گیا جس نے اس کی عقل کو زائل کر دیا تو اس نے تلوار منگوا کر سونت لی اور ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا پھر اس پر پبند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گیا۔ پس جب صبح ہوئی تو اس نے ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو اُسے اس کی کاروائی بتائی گئی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرا اور ان کے فراق پر افسوس کی وجہ سے زمین کو دانتوں سے کاٹنے لگا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا پھر اس نے قسم کھائی کہ وہ زندگی بھر اتنی شراب نہیں پیئے گا جو اس کے دل کو ٹھکانے نہ دے اور اس نے انہیں دفن کر دیا اور ان دونوں کی قبروں پر ایک گنبد بنایا اور جس کا نام ”الغریین“ رکھا اور یہ طریق جاری کیا کہ بادشاہ اور جو کوئی آدمی یہاں سے گزرنے

وہ ان دونوں کو سجدہ کرے اور ان میں سے کوئی آدمی جب کوئی سنت جاری کرتا تو وہ اس سنت کو وراثت میں حاصل کرتے اور اس کے ذکر کو زندہ رکھتے اور مرنے نہ دیتے اور اُسے لوگوں کے لیے ایک حکم واجب اور فرض لازم بنا دیتے آباء اپنی اولاد کو اس کی وصیت کرتے چنانچہ لوگ ایک لمبے زمانے تک ایسا ہی کرتے رہے جو کوئی بڑا یا چھوٹا ان کی قبروں کے پاس سے گزرتا انہیں سجدہ کرتا اور یہ ایک لازمی سنت بن گئی اور شریعت اور فرض کے حکم کی طرح یہ بھی ایک حکم قرار پایا اور اس نے یہ حکم بھی دیا کہ جو شخص ان دونوں کو سجدہ کرنے سے انکار کرے گا وہ اس کی کوئی سنی دو باتیں ماننے کے بعد اُسے قتل کر دے گا راوی بیان کرتا ہے کہ ایک روز وہاں سے ایک دھوبی گزرا جس کے پاس کپڑوں کی ایک گھٹری بھی تھی اس میں اس کا ہتھوڑا بھی تھا۔ الغریب کے نگرانوں نے دھوبی سے کہا، سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے اُسے کہا کہ اگر تو نے سجدہ نہ کیا تو تو قتل ہو جائے گا اس نے انکار کیا انہوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچادی، اس واقعہ سے بھی بادشاہ کو آگاہ کیا، بادشاہ نے کہا، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے سجدہ کیا ہے مگر انہوں نے میرے متعلق جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے پس میں تجھے دو باتوں میں ثالث بنانا ہوں جو قبول ہوں گی اور اس کے بعد میں تجھے قتل کروں گا اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے متعلق جو جھوٹ بولا ہے اس کی وجہ سے میرا قتل ضروری ہے؟ اس نے جواب دیا ضروری ہے، اس نے کہا میں اس بات میں ثالث بنتا ہوں کہ میں اپنے اس ہتھوڑے سے بادشاہ کی گردن ماروں گا۔ بادشاہ نے اُسے کہا اے جاہل اگر تو میرے متعلق حکم دیتا کہ میں تیرے پھیلوں کو اتنا کچھ دوں گا کہ وہ غنی ہو جائیں تو یہ اُن کے لیے مناسب ہوتا اس نے کہا میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں بادشاہ کی گردن ماروں گا، بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا اس جاہل نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سنت جاری کی ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سنت کے توڑنے میں کس قدر عار، نارا اور عظیم گناہ ہوتا ہے جب آپ ایک سنت کو توڑیں گے تو دوسری بھی ٹوٹ جائے گی پھر آپ کے بعد والے بھی اسی طرح کریں گے اور سنن باطل ہو جائیں گی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے دھوبی

سے التجا کی کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے مگر اس فیصلہ سے مجھے معافی دیدے میں اس کو نصف حکومت تک دے دوں گا ، لوگوں نے اس سے التجا کی تو اس نے کہا میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں بادشاہ کی گردن توڑوں گا ، راوی بیان کرتا ہے کہ جب بادشاہ نے دھوبی کے عزم کو دیکھا تو اس نے عام جگہ پر بیٹھ کر دھوبی کو بلایا ، اور اس نے اپنا ہتھوڑا نکال کر بادشاہ کی گردن پر مارا جس نے اس کو ادموا کر دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا وہ چھ ماہ تک مہلک بیماری میں مبتلا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو قطرہ قطرہ پانی دیا جاتا تھا جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے باتیں کیں اور کھایا پیا اور با اختیار ہو گیا تو اس نے دھوبی کے متعلق پوچھا اُسے بتایا گیا کہ وہ قید میں ہے اس نے اُسے حاضر کرنے کا حکم دیا وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا تمہاری ایک بات باقی رہ گئی ہے اس کا حکم کر ، کیونکہ میں سنت کے قیام کے لیے تجھے قتل کرنے والا ہوں ، دھوبی نے کہا اگر میرا قتل ضروری ہے تو میں حکم کرتا ہوں کہ میں بادشاہ کی گردن کی دوسری طرف ضرب لگاؤں گا ، جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو گھبراہٹ کے مارے منہ کے بل گر پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم پھر تو میری جان نکل جائے گی ، پھر اس نے دھوبی سے کہا تو ہلاک ہو جائے وہ بات چھوڑ دے جو تجھے فائدہ بخش نہیں کیونکہ گزشتہ بات نے بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا ، کوئی اور حکم کہ خواہ وہ کچھ ہو میں اُسے تیرے لیے نافذ کروں گا اس نے کہا میرا حق صرف دوسری ضرب لگانے سے پورا ہو سکتا ہے ، بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا ، تمہاری کیا رائے ہے ؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تمہارا بھلا کرنے تم سنت پر مرو گے ، اس نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ ، اگر اس نے میری گردن کی دوسری جانب ضرب لگائی تو میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پی سکوں گا کیونکہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کی حقیقت کو میں ہی بہتر سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جیلہ نہیں ۔ جب اس نے اپنی حالت کو دیکھا تو دھوبی سے کہا کیا جس دن الغرین کے نگران تجھے پکڑ کر لائے تھے تو نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سجدہ کیا ہے اور یہ میرے متعلق جھوٹ بولتے ہیں ، اس نے کہا میں نے یہ بات کہی تھی لیکن میں نے سچ نہیں بولا تھا اس نے کہا تو نے سجدہ کیا تھا ؟ اس نے کہا ہاں ، پس بادشاہ نے اپنی جگہ سے اُچھل کر اس کے سر کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا

ہوں اور ان کی تادیب کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں تو مہدی ہنس پڑا یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں سے زمین کریدنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے بہت اچھی بات سنائی ہے اور اُسے انعام دیا۔

مہدی اور مروان بن حفصہ | الہیثم بن عدی بیان کرتا ہے کہ میں مہدی کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ دربان نے آکر کہا کہ ابن ابی حفصہ دروازے

پر کھڑا ہے اس نے کہا اُسے اجازت نہ دو، وہ منافق اور کذاب ہے، پھر حسن بن قحطبہ نے اس کے ... متعلق گفتگو کی تو اُس نے اُسے اندر آنے دیا مہدی نے اُسے کہا اے فاسق کیا تو نے معنی کے متعلق یہ شعر نہیں کہے

”وہ ایک پہاڑ ہے جس کی سب نزار پناہ لیتا ہے جو تیرا دھارا اور محفوظ اطراف والا ہے۔“

اس نے کہا امیر المؤمنین ہیں وہ شخص ہوں جس نے آپ کے بارے میں کہا ہے ”اے وہ شخص جو آقا رب اور رشتے داروں سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوا ہے۔“

پھر اس نے اُسے تمام اشعار سنائے تو وہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے انعام دیا۔

مہدی اور سفیان ثوری | تقاع بن حکیم بیان کرتا ہے میں مہدی کے پاس بیٹھا تھا کہ سفیان ثوری آگے اور آتے ہی انہیں عام سلام کیا

سلام خدمت نہ کیا، بیچ اس کے سر پر کھڑا اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا مہدی نے کشادہ روی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے سفیان تو ہم سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے اور تیرا خیال ہے کہ اگر ہم تیرے ساتھ بڑا سلوک کرنا چاہیں تو تجھے پکڑ نہیں سکیں گے پس اب ہم نے تجھ پر قابو پا لیا ہے کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں کہ ہم تیرے متعلق اپنی خواہش کے مطابق حکم لگائیں گے سفیان نے کہا اگر تو میرے بارے میں حکم لگائے گا تو تیرے بارے میں وہ قادر بادشاہ حکم لگائے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے گا، بیچ نے کہا امیر المؤمنین کیا یہ جاہل آپ کا اس طرح سامنا کرتا ہے مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیجیے مہدی نے اُسے کہا تو ہلاک ہو جائے خاموش ہو جا، یہ اور اس کے امثال صرف

یہ جانتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں اور ان کی سعادت سے ہم بد بخت بن جائیں، اسے اس شرط پر کوفہ کی قضا کا پروانہ لکھ دو کہ وہ کسی حکم پر اعتراض نہ کرے گا اس نے پروانہ لکھ کر سفیان کو دے دیا آپ نے پروانہ لیا اور باہر نکل آئے اور اسے دریائے دجلہ میں پھینک کر بھاگ گئے پھر ہر ملک میں ان کی تلاش کی گئی مگر وہ کہیں نہ ملے۔

علی بن یقین بیان کرتا ہے کہ ہم ماسبذان میں مہدی

وفات سے قبل مہدی کا خواب

کے ساتھ تھے اس نے ایک روز مجھے کہا، میں بھوکا ہوں، میرے پاس روٹیاں اور ٹھنڈا گوشت لاؤ، میں نے یہ چیزیں لادیں وہ کھا کہ ملاقات کے کمرے میں جا کر سو گیا ہم خمیرہ میں تھے کہ ہم اس کے رونے کی آواز کو سن کر بیدار ہو گئے اور اس کی طرف جلدی سے گئے تو اس نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہم نے جواب دیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا اگر وہ ہزار آدمیوں میں بھی ہو تو اس کی آواز اور شکل مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور اس نے کہا

”میں اس محل میں اس طرح ہوں کہ وہاں کے رہنے والے تباہ ہو گئے ہیں ان کی حویلیاں اور فردگاہیں ویران ہو گئی ہیں، قوم کا سردار خوشی اور حکومت کے بعد قبر میں چلا گیا ہے جس پر چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، اب صرف اس کی باتیں اور ذکر ہی باقی رہ گیا ہے اور اس کی بیویاں اس پر چیخ و پکار کرتی ہوئی ایک دوسری کو آواز دیتی ہیں۔“

علی بیان کرتا ہے کہ مہدی اس خواب کے دس دن بعد مر گیا۔

معدوی بیان کرتا ہے

زفر بن ہذیل اور علماء کی ایک جماعت کی وفات

کے ساتھ فقیر زفر بن ہذیل کی وفات ۵۸ھ میں ہوئی اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مہدی کی بیعت اسی سال میں ہوئی تھی سفیان بن سعید بن مسروق نے مہدی کے زمانے میں بصرہ میں وفات پائی یہ بنو تمیم میں سے تھے ان کی عمر ۶۳ سال تھی اور کنیت ابو عبد اللہ، یہ ۵۸ھ کا واقعہ ہے اور ابن ابی ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ کوفہ میں ۵۹ھ میں مہدی کے زمانے میں وفات پائی ان کی کنیت ابو حارث تھی اور

شعبہ بن حجاج نے ۱۶۰ھ میں وفات پائی اس کی کنیت ابو السلام تھی اور یہ بتی شقرہ کے غلام تھے جو اذد میں سے ہیں، اسی سال میں عبدالرحمن بن عبداللہ المسعودی فوت ہوئے، مہدی ہی کے زمانے میں ۱۶۶ھ میں حماد بن سلمہ نے وفات پائی۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ مہدی کے حالات و واقعات، حادثات اور جنگوں کے لحاظ سے بہت شان دار ہیں ہم نے انہیں مفصل طور پر کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے، اسی طرح اس کے دور حکومت میں جن فقہاء اور اصحاب الحدیث نے وفات پائی ان کا بھی مفصل ذکر کیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔

موسیٰ الہادی کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | جس شب کو مدعی کی وفات ہوئی اس کی صبح کو بمطابق ۲۳ محرم ۱۶۹ھ کو جمہورات کے روز موسیٰ بن محمد الہادی کی بیعت ہوئی اس وقت اس کی عمر ۲۳ سال تین ماہ تھی اس کی وفات بغداد کی جانب عیسیٰ آباد ۹ ربیع الاول ۱۶۹ھ کو ہوئی، وہ ایک سال تین ماہ خلیفہ رہا اس کی کنیت ابو جعفر تھی اس کی ماں خیزران بنت عطا تھی۔ جو حشیدہ ام ولد تھی، یہی ہارون الرشید کی ماں تھی، اس کی بیعت اس وقت ہوئی جب وہ بلاد طبرستان اور جرجان میں ایک جنگ میں مصروف تھا پس وہ ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اس کے بھائی ہارون نے اس کے لیے بیعت لی، اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے :-

”جب بنی ہاشم کے بہترین آدمی کے پاس جرجان میں خلافت الہیہ آئی تو اس نے مشورے سے جنگ کے لیے اپنے پٹے کس لیے جس میں نا تجربہ کاری

اور کمزوری نہ تھی۔“

اس کے مختصر حالات و واقعات اور اس کے دور کی

ایک جھلک

الہادی کے اوصاف | موسیٰ بڑا سنگدل، بد اخلاق، خود دار، شائستہ، شائستگی کا دلدادہ، شجاع اور سخی تھا۔

اس کی شجاعت کی ایک مثال | یوسف بن ابراہیم کاتب جو ابراہیم بن حمدی کا ساتھی تھا، ابراہیم سے بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے

کھڑا تھا۔ ہادی اپنے مشہور باغ بغداد میں گدھے پر سوار تھا کہ اُسے کہا گیا وہ ایک خارجی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس نے اُسے لانے کا حکم دیا جب خارجی اس کے قریب ہوا تو اس نے ایک چوکیدار سے تلوار چھین لی اور موسے کو مارنے کے لیے آگے بڑھا پس میں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک طرف ہٹ گئے اور وہ اپنے گدھے پر بغیر حرکت کیے کھڑا رہا جب خارجی اس کے قریب ہوا تو موسے نے آواز دی، تم دونوں اس کی گردن مار دو حالانکہ اس کے پیچھے کوئی آدمی نہ تھا اس بات نے خارجی کو وہم میں ڈال دیا خارجی دیکھنے کے لیے پیچھے کی طرف متوجہ ہوا تو موسیٰ پوری قوت کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا اور اُسے پچھاڑ دیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور وہی بیان کرتا ہے کہ ہمیں خارجی کی بہ نسبت اس سے زیادہ خوف آ رہا تھا، خدا کی قسم اس نے ہمارے ایک طرف ہٹ جانے پر بڑا نہ منایا اور نہ ہمیں ملامت کی، اس کے بعد وہ کبھی گدھے پر سوار نہیں ہوا اور نہ اپنی تلوار سے جدا ہوا۔

الہادی اور عیسیٰ بن داؤد کے درمیان دوستی | عیسیٰ بن داؤد حجازی اس کا ہم نشین تھا جو اپنے ہم عصروں

سے علم و ادب لوگوں کے حالات و واقعات اور معرکہ آرائیوں کے جاننے میں بڑھا ہوا تھا، الہادی اُسے اپنا سہارا بنانا چاہتا تھا اور اس کے سوا کوئی آدمی اس سے اس بارے میں کوئی اُمید نہ رکھتا تھا، وہ اُسے کہا کرتا تھا اے عیسیٰ میں نے کبھی تجھ پر احسان نہیں کیا اور نہ تو مجھ سے غائب ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔

سندھی غلام کا جرم | عیسیٰ بن داؤد بیان کرتا ہے کہ الہادی کے پاس ایک مقدمہ کیا گیا کہ منصورہ — جو بلاد سندھ میں ہے — کے ایک شریف

اور رئیس آدمی نے جو آلِ مہلب بن ابی صفرہ سے تعلق رکھتا تھا، ایک سندھی یا ہندی غلام کی پرورش کی وہ غلام اپنی مالکہ پر عاشق ہو گیا اور اس نے اُسے پھسلانا چاہا تو اس نے اس کی بات مان لی، اس کا مالک اندر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ پایا تو اس نے غلام کے آلہ تناسل کو کاٹ کر اُسے خستی کر دیا پھر اس نے اس کا علاج کروایا تو وہ

تندرست ہو گیا وہ وہاں پر ایک مدت تک مقیم رہا اس کے مالک کے دو بیٹے تھے ایک بچہ اور دوسرا جوان تھا وہ آدمی اپنے گھر سے کہیں باہر چلا گیا تو وہ سندھی دونوں بچوں کو لے کر گھر کی دیوار کی چوٹی پر چڑھ گیا اتنے میں اس کا مالک آگیا اس نے اوپر دیکھا کہ دونوں بچے غلام کے ساتھ دیوار کے اوپر ہیں اس نے کہا ارے تو میرے بچوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس نے کہا اس بات کو چھوڑو ، خدا کی قسم اگر تو نے میرے سامنے اپنے آئینہ تناسل کو نہ کانا تو میں ان دونوں کو نیچے دے ماروں گا اس نے اُسے کہا میرے اور میرے دونوں بیٹوں کے متعلق اللہ سے ڈرو اس نے کہا اس بات کو چھوڑو ، خدا کی قسم یہ تو میری جان کی بات ہے میں اُسے ایک گھونٹ پانی کی اجازت دیتا ہوں ، وہ ان دونوں کو نیچے پھینکنے کے لیے جھکا تو اس نے جلدی سے چھری لے کر اپنا نفس کاٹ دیا جب غلام نے دیکھا کہ اس نے اپنا نفس کاٹ دیا ہے تو اس نے دونوں بچوں کو نیچے پھینک دیا جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کہنے لگا یہ میں نے تجھ سے اس لیے کیا ہے کہ تو نے مجھ سے ایسا کیا تھا اور ان دونوں بچوں کو قتل کرنا اس جرم کی سزا میں اضافہ ہے۔ الہادی نے سندھ کے حکمران کو غلام کے قتل کرنے اور اُسے ممکن حد تک ہولناک سزا دینے کے متعلق لکھا اور اپنی حکومت سے تمام سندھیوں کو نکال دینے کا حکم دے دیا ، اس کے دور میں سندھی غلام بہت سستے ہو گئے حتیٰ کہ معمولی قیمت پر مل جاتے تھے۔

الہادی نے ربیع کو وزیر بنایا اس کے ساتھ عمر بن بزیع کو بھی مرتبہ دے دیا ، پھر اس نے عمر بن بزیع کو وزارت اور دیوان الرسائل کا کام سپرد کر دیا اور اکیلے ربیع کو چودھراہٹ دے دی ربیع اسی سال فوت ہو گیا ، بعض کہتے ہیں کہ الہادی نے اُسے ایک لونڈی کی وجہ سے جو اس نے ہمدی کو دے دی تھی اور اس سے پہلے اس کی ملکیت تھی ، کوئی چیز بلا دی تھی اس کے علاوہ اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔

اس کے دورِ خلافت میں حسین بن علی بن حسن بن حسن

حسین بن علی بن حسن کا ظہور

بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کا ظہور ہوا جو مکہ سے چھ میل کے فاصلے پر فتح مقام میں یوم الترویہ کے روز قتل ہوئے یہ اس فوج کا سالار تھا جس سے بنی ہاشم کی ایک جماعت نے جنگ کی تھی جس میں سلیمان بن ابی جعفر محمد بن علی بن سلیمان ، موسیٰ بن عیسیٰ ، اور عباس بن محمد بن علی چاہنہرا سواروں کے ساتھ

شامل تھے حسین اور اس کے اکثر ساتھی قتل ہو گئے اور تین دن تک بے گور و کفن پڑے رہے یہاں تک کہ انہیں درندے اور پرندے کھا گئے اس کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بھی تھا، اُسے اسی روز گرفتار کر کے مکہ میں باندھ کر قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی کو بھی قید کر کے باندھ کر قتل کر دیا گیا، عبداللہ بن حسن بن علی اور حسین بن علی کے لیے امان حاصل کر لی گئی ان دونوں کو جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک کے پاس قید کر دیا گیا اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا، الہادی موسیٰ بن عیسیٰ پر حسین بن علی بن حسن کے قتل کرنے پر بہت ناراض ہوا اور اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ تاکہ اس کے متعلق وہ جو مناسب سمجھے فیصلہ کرے اور اس نے موسیٰ کے اموال کو قبضہ میں کر لیا اور جو لوگ سر لائے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو الہادی رو پڑا، اس نے انہیں ڈانٹا اور کہنے لگا تم میرے پاس اس طرح خوش خوش آئے ہو گویا تم میرے پاس کسی ترکہ یا دیلمی کا سر لائے ہو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں سے ہے، سنو تمہاری سب سے کم جزا یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔

حسین بن علی صاحب فنج کا مرثیہ | اس دور کے ایک شاعر نے حسین بن علی مقتول فنج کے متعلق یہ اشعار کہے ہیں۔

”میں حسین و حسن پر چیخ و پکار کر کے روؤں گا اور اس ابن عاتکہ پر جس کو انہوں نے بے گور و کفن دفن کیا ہے، انہوں نے فنج میں صبح کے وقت ایک بے وطن کو چھوڑا ہے وہ قتل ہونے والے کریم اور شریف لوگ تھے، جو نہ اوجھے تھے اور نہ بُز دل تھے انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے اس طرح دھویا جیسے کپڑوں کو میل سے دھویا جاتا ہے ان کے نانے سے لوگوں نے ہدایت پائی پس ان کے لوگوں پر احسان ہیں۔“

الہادی کا ام خیزدان کی اطاعت کرنا | الہادی ام خیزدان کا بہت مطیع تھا اور جو کچھ وہ لوگوں کی ضروریات کے لیے

اس سے طلب کرتی اُسے وہ پورا کرتا اور سوار اور پیادہ لوگوں کی جماعتوں سے

اس کا دروازہ خالی نہ ہوتا تھا اس بارے میں ابوالمعانی کہتا ہے۔

”اے خیزدان تجھے مبارک ہو اور پھر مبارک ہو، تیرے بیٹے لوگوں کا

انتظام کرتے ہیں۔“

ایک روز خیزہ ان نے اس سے کسی معاملہ میں گفتگو کی تو وہ اُسے کوئی جواب نہ دے سکا اور اس کے سامنے عذر بیان کیا، اس نے کہا مجھے ضرور جواب دینا ہوگا اس نے کہا، میں جواب نہیں دوں گا، اس نے کہا میں عبد اللہ بن مالک کی اس ضرورت کی ضمانت ہوں پس ہدی نے ناراض ہو کر کہا ابن فاعلہ کے لیے ہلاکت ہو مجھے معلوم ہے کہ اس نے اس کی مصاحبت کی ہے خدا کی قسم میں اس کی ضرورت کو تیرے لیے پورا نہیں کروں گا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو خدا کی قسم میں کبھی تجھ سے کسی ضرورت کے متعلق سوال نہ کروں گی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی پورا نہیں کروں گا، اور ناک چڑھانے لگا، وہ بھی ناراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا اپنی جگہ بیٹھی رہو اور میری مکمل گفتگو سنو، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قربت کا انکار کر دینا اگر مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے جرنیلوں یا خواص یا خدام میں سے کوئی آدمی تیرے دروازے پر کھڑا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا اور اس کے مال کو قبضہ میں کر لوں گا جو چاہے وہ یہ کام کر دیکھے، تیرے دروازے پر سواروں اور پیادوں کی جماعتیں روزانہ کیوں جاتی ہیں؟ کیا تجھے کوئی کام نہیں جو تجھے مصروف رکھے یا تیرے پاس قرآن شریف نہیں جو تجھے نصیحت کرے یا تیرا کوئی گھر نہیں جو تجھے محفوظ رکھے، کسی مسلمان یا ذمی کی حاجت کے لیے اپنا منہ کھولنے سے اجتناب کہ وہ واپس چلی گئی اور اُسے یہ نہ پتہ چلا کہ وہ کس چیز پر پاؤں رکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کوئی بیٹھی پھیلکی گفتگو نہیں کی۔

عباسیوں نے بنی ہاشم کا بدلہ بنی مروان سے لیا | ابن دُأب بیان کرتا ہے

کہ الہادی نے مجھے رات کو کسی وقت بلایا وہ مجھے ایسے وقت میں بلایا نہیں کرتا تھا میں اس کے پاس گیا تو وہ ایک چھوٹے سے سرمائی مکان میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا اس نے میرا نام لیا تو میں نے کہا امیر المؤمنین حاضر ہوں، ہادی نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی اور خیالات و ہجوم کا مجھ پر ہجوم ہے، میرے دل میں اس خیال کا بڑا زور ہے کہ بنو امیہ نے جو بنی حرب میں سے ہیں اور بنی مروان نے ہمارے خون بہانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے میں نے کہا امیر المؤمنین اس عبد اللہ بن علی نے نہراہی فطرس پر ان کے فلاں فلاں آدمی کو قتل کر دیا ہے یہاں تک کہ میں نے ان کے اکثر

مقتولوں کے نام دیے اور عبد الصمد بن علی نے حجاز میں ایک ہی وقت میں ان میں سے عبد اللہ بن علی کے مقتولوں کے برابر آدمی قتل کر دیے ہیں اور اس نے ان کے خون کے بہانے کے بعد کہا ہے ۵

”بنو مروان اور آل حرب سے اپنا بدلہ لے لینے نے میرے دل کو شفا دے دی ہے اور اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا ہے کاش میرا شیخ اس وقت حاضر ہوتا جب میں بنی ابی سفیان کے خون بہا رہا تھا۔“

ابن دأب بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم الہادی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، عیسیٰ ان اشعار کا قائل داؤد بن علی ہے اور جس قائل کا تو نے ذکر کیا ہے وہ حجازی ہے اور تو نے مجھے یہ دونوں شعر یاد دلا دیے ہیں گویا میں نے انہیں سنا ہی نہیں، میں نے کہا امیر المؤمنین بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشعار عبد اللہ بن علی کے ہیں جو اس نے نہراہی فطرس پر کہے تھے اس نے کہا ہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔

مصر کی کچھ خوبیاں، کچھ عیوب اور کچھ واقعات | ابن دأب بیان کرتا ہے کہ پھر ہم باتوں باتوں میں مصر کے

واقعات، اس کے عیوب و فضائل اور دریائے نیل کے واقعات کا ذکر کرنے لگے تو الہادی نے مجھے کہا کہ اس کے فضائل بہت ہیں، میں نے کہا امیر المؤمنین مصریوں کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے حالانکہ دعویٰ پر دلیل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اہل عراق اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مصر کے عیوب اس کی خوبیوں سے زیادہ ہیں اس نے کہا مثلاً وہ کیا ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین اس کا ایک عیب یہ ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوتی اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ فرماتا ہے ”وہو الذی یرسل الریاح لبشراً بین یدی رحمتہ“ یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے ضرور رساں اور ناموافق ہے جس سے نہ ان کی کھیتی بڑھتی ہے اور نہ زمین سرسبز ہوتی

۵ (ترجمہ) اور وہ وہ ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری دینے والی ہو انہیں بھیجتا ہے (اعراف - آیت ۵۷)

ہے اور اس کا دوسرا عیب یہ ہے کہ وہاں باد جنوب چلتی ہے جسے وہ المریئۃ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مصر بالائی علاقے کو بلا و نوبہ تک مرلیس کہتے ہیں اور جب مرلیسی ہوا — باد جنوب — مسلسل تیرہ دن چلتی ہے تو مصری کفن اور حنوط خرید لیتے ہیں اور انہیں قائل و با اور ہمہ گیر مصیبت کا یقین ہو جاتا ہے ، اس کا تیسرا عیب ان کی خواہشات کا اختلاف ہے کیونکہ وہ ایک دن میں کئی دفعہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ ایک دفعہ قمیص پہنتے ہیں اور دوسری دفعہ شلوکہ اور تیسری دفعہ کسی چیز سے بھرے ہوئے کپڑے ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں سال کے دوسرے موسموں میں رات اور دن کو ہواؤں کے چلنے کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں اور موسم کی مزاج میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے نیز وہاں پر خوراک لائی جاتی ہے وہ خود خوراک مہیا نہیں کرتا لہذا جب قحط پڑتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اب رہا دریائے نیل ، تو وہ تمام چھوٹے بڑے دریاؤں سے مختلف ہے ، دجلہ ، فرات ، دریائے بلخ ، جیحون و سمیوں میں وہ مگر مچھ نہیں پائے جاتے جو مصر کے دریائے نیل میں پائے جاتے ہیں اور یہ نقصان رساں چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اس بار میں ایک شاعر کہتا ہے ۔

” جب مجھے بتایا گیا کہ نیل میں مگر مچھ ہوتے ہیں تو میں نے دریائے نیل سے

دور رہنے کا اظہار کیا ، کس نے دریائے نیل کو قریب سے اپنی آنکھوں

سے دیکھا ہے میں نے تو نیل کو مشکیزوں میں دیکھا ہے ۔“

اس نے کہا تیرا بڑا ہوا وہ نواقیل کیا ہیں جن میں تو نے نیل کو دیکھا ہے میں نے کہا کہ مصری مشکیزوں کو نواقیل کہتے ہیں ، اس نے پوچھا شاعر کی اس سے کیا مراد ہے میں نے کہا اس کی مراد یہ ہے کہ مصری لوگ اس خوف سے کہ کہیں پانی میں مگر مچھ نہ آجائے پانی میں داخل نہیں ہوتے بلکہ برتنوں میں بھر کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ مگر مچھ آدمیوں اور دوسرے حیوانات کو اٹھالے جاتا ہے ، اس نے کہا کہ اس قسم کے جانوروں نے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے سے روک دیا ہے میں اس دریا کو دیکھنے کا بہت اشتہار رکھتا تھا مگر تو نے اس کا حال بیان کر کے مجھے اس سے بے رغبت کر دیا ہے ۔

ابن دأب بیان کرتا ہے کہ پھر ہادی نے مجھ سے دقلہ شہر کے شہر دقلہ متعلق پوچھا جو مملکت نوبہ کا دار الخلافہ ہے کہ اس کے اور اسوا

درمیان کتنا فاصلہ ہے میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے چالیس دن تک چلتے جاتے ہیں تو یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔

ابن دُأب بیان کرتا ہے کہ پھر ہادی نے مجھے کہا ، **بصرہ اور کوفہ کے درمیان** اسے ابن دُأب مغرب اور اس کے حالات و واقعات

کو چھوڑو ، آؤ ذرا کوفہ اور بصرہ کے فضائل کا اور جو یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے زائد خوبیاں رکھتے ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ میں نے کہا عبدالملک بن عمیر سے بیان کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ احنف بن قیس ، مصعب بن زبیر کے ساتھ ہمارے پاس کوفہ میں آیا ، تو جو بھی قبیح چیزیں نے دیکھی تھی اس کا پرتو میں نے احنف کے چہرے میں پایا وہ چھوٹے سر ، لمبی گردن ، دھنسی ہوئی آنکھوں کے ٹہنے کانوں والا ، کانا ، ابھرے ہوئے چہرے ، شکنی ہوئی باجھوں ، بے ترتیب دانتوں ، کم گوشت رخساروں اور ٹیڑھے پاؤں والا تھا ، لیکن جب وہ بات کرتا تو اس کی ذات نکھر جاتی ، وہ ایک روز ہمارے مقابلہ میں بصرہ پر فخر کرنے لگا ہم اس کے مقابلہ میں کوفہ پر فخر کرنے لگے ، ہم نے کہا کوفہ بہت غلہ پیدا کرنے والا ، خوش گوار ، کھلا اور اچھی آب و ہوا والا شہر ہے اور ایک آدمی نے اُسے کہا خدا کی قسم کوفہ اس حسین و جمیل نوجوان لڑکی سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے جو اچھے حسب والی ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو وہ جب بات کرتی ہو اپنی ضرورت کا ذکر کرتی ہو اور اس کا طالب اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہو ، اور بصرہ ایک مال دار بڑھیا سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے جس کو کئی قسم کے عوارض ہوں اور وہ جب بات کرتی ہو اپنی مال داری اور عوارض کا تذکرہ کرتی ہو اور اس کا طالب اس کے عوارض کو دور کر دیتا ہو ، احنف نے کہا کہ بصرہ کے نشیب میں سرکنڈہ اور وسط میں لکڑی اور فراز میں کھجوریں ہیں ہم سب سے زیادہ گول چادریں ، ہاتھی دانت ، دیباچ ، کھانڈ اور نقدی رکھنے والے ہیں خدا کی قسم میں بصرہ میں خوش خوش آتا ہوں اور بادل نخواستہ یہاں سے باہر جاتا ہوں راوی بیان کرتا ہے کہ بکر بن وائل کے ایک نوجوان نے اس کے پاس جا کر کہا اے ابو بکر ! تو نے لوگوں سے جو بات کہی ہے کس وجہ سے کہی ہے ؟ خدا کی قسم نہ تو تو تو ان سے زیادہ حسین ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ معزز ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ مسجع کلام کرنے والا ہے اس نے کہا بھتیجے ! مجھے تم سے اختلاف

ہے اس نے کہا کیا اختلاف ہے احنف نے کہا میں نے وہ باتیں چھوڑ دی ہیں جو میرا مقصود نہیں اور تو نے میرے معاملے میں وہ باتیں مراد لی ہیں جو تجھے مراد نہیں لینی چاہئیں۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ الہادی کے ساتھ ابن دُأب کے بہت سے اچھے واقعات ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا اور ہمارے لیے ان کا اس کتاب میں بیان کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم نے حذف الفاظ اور ترک تکرار کے ساتھ ایجاز و اختصار کی شرط بھی لگائی ہوئی ہے۔

اہل بصرہ اور اہل کوفہ اور دجلہ سے پانی پینے والوں کے ان کے پانیوں اور ان کے مضر و منافع کے متعلق بہت سے مناظرات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہل کوفہ نے اہل بصرہ پر عیب لگایا کہ تمہارا پانی گدلا اور بھاری ہے، اہل بصرہ نے انہیں کہا، ہمارے پانی میں گدلا پن کہاں سے آتا ہے سمندر کا پانی صاف ہے اور نشیب کا پانی بھی صاف ہے اور یہ دونوں ہمارے شہر کے وسط میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوفیوں نے کہا شیریں اور صاف پانی کی طبیعت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ سمندر کے پانی سے ملتا ہے تو سب کا سب گدلا ہو جاتا ہے

اہل کوفہ نے اپنے پانی یعنی دریائے فرات کے پانی کو دجلہ کے پانی پر ترجیح دی انہوں نے کہا ہمارا پانی سب پانیوں سے زیادہ شیریں اور غذا والا ہے اور دجلہ کے پانی کے مقابلہ میں اجسام کو زیادہ صحت دینے والا ہے اور فرات نیل سے بہتا ہے، دجلہ کا پانی مردوں کی شہوت اور گھوڑوں کی مہنناہٹ کو ختم کرتا ہے اور مہنناہٹ کے جانے کے ساتھ ان کی نشاط ختم ہو جاتی ہے، ان کے قومی کو نقصان پہنچتا ہے اگر وہاں پر آنے والوں کے جسم میں چربی نہ ہو تو ان کی ہڈیاں خشک ہو جائیں اور ان کے چمڑوں میں بیوست پیدا ہو جائے دیگر عربوں میں سے جو لوگ دجلہ پر اترتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو دجلہ کا پانی نہیں پلاتے بلکہ کنوؤں سے پلاتے ہیں کیونکہ ان کا پانی بلا جلا اور مختلف انواع کا ہوتا ہے اور نہروں کے گرنے کی وجہ سے الزابین وغیرہ کی طرح ان کا پانی ایک نہیں ہوتا اور پینے والی چیز کا طریق، کھانے والی چیز سے مختلف ہے کیونکہ کھانوں کا مختلف ہونا نقصان دہ نہیں اور پینے کی چیزوں کا مختلف ہونا جیسے شراب، نمید وغیرہ کا پینا انسان کے لیے نقصان

ہے جب دجلہ پر ہمارے پانی کی فضیلت ثابت ہے تو بصرہ کے پانی پر جو سمندر کے پانی سے ملا ہوا ہے، اس کی فضیلت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے نیز وہ اس پانی سے بھی افضل ہے جو ہروی سرکنڈوں کی جڑوں میں رنگ بدل لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”هَذَا عَذْبَ فِرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أجاجٍ۔“ اور فرات، شیرینی میں سب پانیوں سے زیادہ شیریں ہے اور فرات کوفہ کے تمام شیریں پانیوں سے نکلا ہے۔

اسی طرح اہل کوفہ نے اہل بصرہ کو طعنہ دیا ہے کہ بصرہ تمام زمین سے جلد بے آباد ہونے والا اور خراب مٹی والا اور آسمان سب سے زیادہ دُور اور جلد غرق ہونے والا ہے اور اہل بصرہ نے اور اسی طرح دجلہ کے پانی پینے والوں نے اہل کوفہ کو ان کے سوالات اور عیوب کا جواب دیا ہے اور انہوں نے اہل کوفہ پر عیب لگائے ہیں اور ان کے عیوب کا ذکر کیا ہے کہ وہاں کے لوگ کھانے پینے کے بڑے حربے اور خائن اور بے وفا ہوتے ہیں ہم نے یہ سب باتیں اپنی کتاب اخبار الزمان میں بیان کی ہیں اسی طرح ہم نے زمین اور پانیوں کے خواص اور سال کے موسموں اور صوبوں کی تقسیم اور ان سے ملتی جلتی باتوں کو اپنی گزشتہ کتب میں مفصل طور پر وضاحت سے بیان کیا ہے اس کتاب میں ہم نے صرف ایک جھلک پیش کی ہے، اب ہم پھر الہادی کے واقعات کی طرف آتے ہیں اور درمیان میں ذکر ہونے والی باتوں سے پہلو تہی کرتے ہیں۔

ہارون الرشید کو ولیعہدی سے الگ کرنے کے متعلق الہادی کی خواہش

الہادی نے ہارون الرشید کو ولیعہدی سے الگ کرنا چاہا اور اپنے بیٹے جعفر بن موسیٰ کو ولی عہد بنا چاہا

اس نے یحییٰ بن خالد برمکی کو قید کر دیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ یحییٰ نے جو ہارون الرشید کے معاملے کا متولی تھا اسے کہا امیر المومنین اگر آپ کے خیال میں وہ بات جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں ایسی ہے کہ اللہ اسے پوری نہ کرے اور امیر المومنین کی عمر کو اللہ تعالیٰ لمبا کرے، کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ لوگ امیر المومنین کے بیٹے جعفر کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے حالانکہ وہ ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچا اور وہ اس کے ساتھ اپنی نماز و حج اور جنگوں کو پسند کریں گے؟ اس نے کہا میں یہ خیال نہیں کرتا اس نے کہا پھر یقین رکھیے کہ آپ کے سب اہل بیت خلافت کی رغبت کریں گے اور وہ آپ کے باپ کے

بیٹوں سے نکل کر دوسروں کی طرف چلی جائے گی اور آپ ہی لوگوں کو عہد شکنی پر آمادہ کرنے والے ہوں گے اور ان کے عہدوں کو پھینچ کر دیں گے اور اگر آپ اپنے بھائی کی بیعت کو اسی حالت پر قائم رہتے ہیں اور جب جعفر بالغ ہو جائے تو اس کے لیے بیعت ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو گا میں نے آپ کے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اسے اپنے سے مقدم رکھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم تو نے اس بات سے آگاہ کیا ہے جس سے میں پہلے آگاہ نہیں تھا پھر اس کے بعد اس نے رشید کو الگ کرنے کا عزم کیا خواہ وہ راضی رہے یا نہ رہے اور اُسے اکثر باتوں میں تنگ کرنے کا حکم دے دیا تو یحییٰ نے اُسے بتایا کہ وہ اس سے شکار کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور اس میں لمبا عرصہ مشغول رہے کیونکہ پیدائش کے لحاظ سے موسیٰ کی مدت تھوڑی رہ گئی تھی، ہارون الرشید نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے اُسے اجازت دے دی پس وہ فرات کے کنارے بلاد انبار اور مہیت کی طرف چلا گیا اور سماوہ کے قریب خشکی کے درمیان ٹھکانہ بنا لیا۔ الہادی نے اُسے خط لکھا جس میں اُسے آنے کا حکم دیا مگر ہارون الرشید طامال مطول کرتا رہا تو الہادی نے اس پر زبان درازی شروع کر دی۔ اور الہادی کو بلاد حدیثہ کی طرف جانے کی ضرورت پیش آگئی وہ وہاں پر بیمار ہو گیا اور واپس آگیا اس کی بیماری بہت بڑھ گئی اور سوائے چھوٹے خادموں کے اور کوئی آدمی اس کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکا پھر اس نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس کی ماں خیزدان کو بلا لائیں وہ آکر اس کے سر ہانے کھڑی ہو گئی تو اس نے اُسے کہا میں اس رات کو مر جانے والا ہوں اور میرا بھائی ہارون خلافت کو سنبھال لے گا، میں نے سیاست ملکی کے بموجب نہ کہ شرع کے بموجب تجھے بعض باتوں کا حکم دیا تھا اور بعض باتوں سے روکا تھا اور میں تیرا نافرمان نہیں بلکہ میں تیرا محافظ اور تجھ سے نیک سلوک کرنے والا ہوں پھر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اور اُسے اپنے سینے پر رکھے ہوئے فوت ہو گیا۔

وہ دے میں پیدا ہوا تھا، ہارون الرشید کی جائے پیدائش بھی یہی ہے، اسی رات الہادی کی وفات، ہارون الرشید کی ولایت اور مامون کی پیدائش ہوئی۔

الہادی اور ایک گنہ گار آدمی | ایک دوست کو کھڑا کیا جس نے بہت سے جرائم

کیے تھے اور اس کے گناہوں کا تذکرہ کرنے لگا تو اس آدمی نے اُسے کہا امیر المؤمنین آپ نے جس بات سے مجھے زخمی کیا ہے میرا اس سے عذر کرنا آپ کی تردید ہوگا اور آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے متعلق میرا اقرار کرنا مجھ پر گناہ کو واجب کر دے گا لیکن میں کہتا ہوں یہ ”اگر آپ کو سزا میں راحت ملتی ہے تو معاف کر دینے کے اجر سے بے رغبتی نہ کرو۔“

تو اس نے اُسے آذ کر دیا اور اس سے حُسن سلوک کیا۔

الحکومت کے حالات سے باخبر
الہادی اور ہارون الرشید کے درمیان گفتگو

کہ موئے نے اپنے بھائی ہارون الرشید سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا نفس تجھے خواب کے پورا ہونے کی باتیں بتا رہا ہے اور تو اس چیز کا خواہاں ہے جس سے تو بہت دُور ہے حالانکہ اس سے ورے بڑی مصیبتیں ہیں تو ہارون الرشید نے اُسے جواب دیا امیر المؤمنین جو تکبر کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ سر بلند ہو جاتا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے اگر حکومت مجھے مل گئی تو میں ان لوگوں سے صلہ رحمی کروں گا جن سے آپ نے قطع تعلق کیا ہے اور جن کو آپ نے محروم کیا ہے ان سے حُسن سلوک کروں گا اور آپ کی اولاد کو اپنی اولاد سے اعلیٰ بناؤں گا اور ان سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروں گا اور اس طرح میں ہدایت یافتہ امام کا حق ادا کروں گا تو موئے کا غصہ دُور ہو گیا۔ اور خوشی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے اور کہنے لگا اے ابو جعفر میرا تیرے متعلق یہی خیال تھا، میرے قریب ہو جا، ہارون کھڑا ہوا تو اس نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا پھر وہ چلا گیا تاکہ اپنی جگہ پر واپس آجائے۔ موئے نے کہا، جلیل القدر شیخ اور صاحب نجابت بادشاہ میرے ساتھ صدر مجلس میں بیٹھے گا پھر اس نے خزاہی سے کہا اسی وقت میرے بھائی کے پاس ایک کر ڈر دینا لے جاؤ اور جب خراج آئے تو اس کا نصف بھی اس کے پاس لے جانا، جب ہارون الرشید نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس کی سواری کو قالین کے پاس لے جایا گیا (اور وہ اپنی نشست گاہ سے سوار ہوا)

اپنے دونوں بیٹوں الہادی اور الرشید کے متعلق مہدی کا خواب
عمر الرومی بیان کرتا ہے کہ میں نے

ہارون الرشید سے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمدی مجھے کہتا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون الرشید کو ایک ایک چھڑی دی ہے موسیٰ کی چھڑی میں اس کے اوپر کے حصے میں تھوڑے پتے ہیں مگر ہارون کی چھڑی میں شروع سے آخر تک پتے لگے ہیں اس نے یہ خواب حکیم بن اسحق صمیری کو سنایا جو خواب کی تعبیر بیان کیا کرتا تھا اس نے اُسے کہا کہ یہ دونوں بادشاہ ہوں گے، موسیٰ کا دور حکومت کم ہوگا، ہارون الرشید زندگی بھر خلیفہ رہے گا اور اس کا زمانہ بہت اچھا ہوگا، عمر الرومی بیان کرتا ہے کہ جب ہارون الرشید کو خلافت ملی تو اس نے اپنی بیٹی حمدونہ کو جعفر بن موسیٰ سے اور فاطمہ کو اسماعیل بن موسیٰ سے بیاہ دیا اور جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔

الہادی کا عمرو بن محمد کرب کی تلوار (صمصامہ) کو حاصل کرنا | عبد اللہ بن ضحاک، الہیثم بن عدی سے

بیان کرتا ہے کہ ہمدی نے موسیٰ الہادی کو عمرو بن معدی کرب کی تلوار صمصامہ دی اور خلافت ملنے کے بعد موسیٰ نے اُسے منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور دنیا نیر کا ایک ٹوکرہ بھر کر بھیج لکھا اور اپنے دربان سے کہا شعراء کو اجازت دو، جب شعراء آئے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ تلوار کے متعلق شعر کہیں، ابن یامین بصری نے آغاز کرتے ہوئے کہا ہے

”تمام لوگوں میں سے زبیدی کی صمصامہ کو موسیٰ ابن نے حاصل کیا ہے،

عمرو کی تلوار کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ جو تلواریں نیام میں کی جاتی ہیں یہ ان

سب سے بہتر ہے بجلیوں نے اس کے اوپر آگ جلا دی ہے پھر موتوں

نے اس میں نہ ہر ملا دیا ہے اور جب اُسے سونتا جاتا ہے تو وہ روشنی میں

سورج پر غالب آجاتی ہے اور سورج ظاہر ہی نہیں ہو سکتا اور تلوار کا جوہر

اس کی دونوں طرفوں میں چشے کے پانی کی طرح چلتا نظر آتا ہے اور جب کسی

مضروب کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ اس بات کی پروا نہیں

کرتی کہ دائیں ہاتھ نے اس کے ساتھ حملہ کیا ہے یا بائیں نے۔“

یہ بہت سے اشعار ہیں، الہادی نے اُسے کہا یہ تلوار اور ٹوکرہ اتیرے لیے ہے

دونوں کو لے لو، پس اس نے ٹوکرہ اتو شعراء میں تقسیم کر دیا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ

آئے ہو اور میری وجہ سے محروم ہوئے ہو اور تلوار کا معاوضہ ملے گا پھر اس نے اسے

المادی کی طرف بھیج دیا تو اس نے اس سے پچاس ہزار میں تلوار خرید لی، مہدی کا زمانہ اگرچہ بہت تھوڑا ہے مگر اس کے واقعات بہت شان دار ہیں اور ہم نے ان کا ذکر اپنی دونوں کتابوں اخبار الزمان اور الاوسط میں کیا ہے، وباللہ التائید۔

ہارون الرشید کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | جس شب کو الہادی کی وفات ہوئی اس کی صبح کو بغداد میں جمعہ کے روز ہارون الرشید کی بیعت ہوئی، یہ ۱۸ ربیع الاول ۱۹۳ھ کا واقعہ ہے اور اس کی وفات طوس کی ایک بستی سنا باد میں ہفتہ کے روز ۲۴ جمادی الآخرہ ۱۹۳ھ کو ہوئی یہ ۲۳ سال ۶ ماہ خلیفہ رہا، بعض کہتے ہیں کہ ۲۳ سال ۲ ماہ ۱۸ دن رہا۔ ہارون ۲۱ سال دو ماہ کی عمر میں خلیفہ بنا اور ۴۴ سال ۲ ماہ کی عمر میں فوت ہوا۔

اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان
اور اس کے دور کی ایک جھلک

ہارون الرشید کا بیٹی بنانا | جب ہارون الرشید کو خلافت
ملی تو اس نے بیٹی بن خالد

برہنہ کو بلا کر کہا اے میرے باپ آپ نے اپنے بھتیجے اور حسن تدبیر سے مجھے اس
جگہ پر بٹھایا ہے اور میں نے حکومت کا کام آپ کے سپرد کیا ہے اور اس نے اپنی انگوٹھی
اُسے دی، اس کے متعلق موصی کہتا ہے کہ

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ سورج کی روشنی ماند پڑ چکی ہے جب ہارون الرشید
والی بنا تو اس کا نور اللہ کے امین ہارون سخی کی برکت سے چمک اٹھا ہارون

اس کا والی اور بچی اس کا وزیر ہے۔“

ہارون الرشید کی حکومت کے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ریطہ بنت ابو العباس سفاح وفات پاگئی بعض کے بقول اس نے الہادی کے آخری ایام میں وفات پائی ہے الہادی اور ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے سیکھہ میں وفات پائی ہارون الرشید اس کے جنازہ کے آگے آگے چلا خیزران کی زمین کی آمد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ درہم تھی، محمد بن سلیمان بھی اسی سال فوت ہوا اور ہارون الرشید نے بصرہ وغیرہ میں اس کے اموال کو قبضہ میں کر لیا جو جاگیروں، مکانوں اور غلے کے علاوہ پچاس لاکھ درہم سے زیادہ تھے محمد بن سلیمان ہر روز ایک لاکھ درہم کی خیرات کرتا تھا۔

محمد بن سلیمان اور قاضی سوار کو ایک دیوانے کا ملنا

کہتے ہیں کہ ایک روز محمد بن سلیمان بصرہ میں سوار ہوا اس

کے ساتھ ساتھ قاضی سوار اپنے چچا کی بیٹی کے جنازہ میں جا رہا تھا کہ اسے ایک دیوانہ مل گیا جو بصرہ میں رأس النعجة کے نام سے مشہور تھا اس نے اُسے کہا اے محمد کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ ہر روز تیرا عطیہ ایک لاکھ درہم ہو اور میں نصف درہم مانگتا ہوں مجھے وہ بھی نہیں ملتا، پھر اس نے سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر یہ عدل ہے تو میں اس کا انکار کرتا ہوں پس محمد کے غلام اس کی طرف دوڑ کر گئے مگر اس نے انہیں روکا اور اُسے سو درہم دینے کا حکم دیا جب محمد اور سوار واپس آئے تو پھر اُسے رأس النعجة ملا اور اُسے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے منصب شرف ابوت چہرے کے حُسن اور بلندی شان کو عزت دے مجھے اُمید ہے کہ یہ بھلائی اللہ تعالیٰ تجھ سے کر دانا چاہتا ہے اور وہ تیرے لیے دونوں گھروں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو سوار نے اس کے قریب ہو کر کہا اے خبیث تم نے شروع میں یہ بات نہیں کہی تھی تو اس نے اُسے کہا میں نے تجھ سے اللہ تعالیٰ اور امیر کے حق کے متعلق پوچھا ہے ہاں ذرا مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ آیت کس سورت میں ہے ”فَانِ اعْلُوا مِنْهَا رَضُوا وَاِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ لِيَنْخُطُوْنَ“ اس نے کہا یہ سورت برأت میں ہے اس نے کہا تو نے

لہ (ترجمہ) پس اگر وہ اس سے دینے جائیں تو خوش ہوں اور اگر اس سے نہ دیے جائیں تو وہ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں (توبہ آیت ۵۸)

درست بتایا ہے پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تجھ سے برأت کی ہے کہ محمد بن سلیمان کو یہ بات سن کر اس قدر منسی آئی کہ وہ اپنے سوا ہی کے جانور سے گرنے لگا تھا۔

جب محمد بن سلیمان نے ایک نہر کے کنارے بصرہ میں اپنا محل بنایا تو عبد الصمد بن شیبہ بن شبہ اس کے پاس گیا، محمد نے اُسے کہا تو میرے محل کو کیسا پاتا ہے اس نے کہا تو نے بڑی عظیم الشان عمارت بنائی ہے جس کا صحن بہت اچھا ہے اور فضا کھلی ہے اور ہوا نرم ہے اور بہت اچھے پانی پر ہے جو ملاحوں، خوبصورتی اور ہرنوں کے درمیان ہے، محمد نے کہا، تیرے کلام کی عمارت ہماری عمارت سے اچھی ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کرنے والا، محل کا پانی جیسے بن جعفر تھا جیسا کہ محمد بن زکریا غلابی نے فضل بن عبد الرحمن بن شیبہ بن شبہ سے بیان کیا ہے اور اس محل کے متعلق ابن ابی عیینہ کہتا ہے

”وادی القصر کی زیارت کر، قصر اور وادی کیا ہی اچھے ہیں، وقت مقرر کیے بغیر اس کی زیارت کرنا ضروری ہے اس کی زیارت کر کہ شہر و دیہات میں کوئی مکان اس کی مانند نہیں ہے اس کی لمبی کشتیاں چلتی ہیں، اونٹ، گاوہ، مچھلی، ملاح اور حدی خوان کھڑے ہیں۔“

۳۵۵ھ میں لیث بن سعد مصری فہمی نے وفات پائی اس کی کنیت ابو حارث اور عمر ۸۲ سال تھی اس نے ۳۱۳ھ میں حج کیا تھا اور نافع سے سماعت کی تھی۔

۳۵۵ھ میں قاضی شریک بن عبد اللہ بن سنان نخعی نے وفات پائی اس کی کنیت ابو عبد اللہ اور عمر ۸۲ سال تھی

اور جائے پیدائش بخارا تھی یہ شریک بن عبد اللہ بن انہر لیشی نہیں ہے، کیونکہ ابن ابی انہر کی وفات ۳۴۵ھ میں ہوئی ہے ہم نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات آباء اور اہمات میں مشابہت رکھتے ہیں ان کے درمیان ۳۹ سال کا فرق ہے اور شریک بن عبد اللہ نخعی، ہمدی کے زمانے میں کوفہ کا قاضی تھا پھر موٹے الہادی نے اُسے معزول کر دیا شریک اپنے علم و فہم کے ساتھ بڑا ذہین و فطین آدمی تھا اور ہمدی کی موجودگی میں اس کے اور مصعب بن عبد اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی تو مصعب نے اُسے کہا تو ابوبکرؓ اور عمرؓ کی تنقیص کرتا ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم میں تو تیرے دادے کی بھی تنقیص نہیں کرتا جو ان دونوں سے کم درجے کا تھا۔

شریک کے پاس معاویہ کے حکم کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا وہ شخص حلیم نہیں ہو سکتا جو حق کو ذیل کرے اور علی بن ابی طالب سے جنگ کرے۔

اور شریک سے نبیذ کی بو آ رہی تھی تو اصحاب حدیث نے اسے کہا اگر یہ بو ہم سے آتی تو ہم شرمندگی محسوس کرتے اس نے کہا اس لیے کہ تم شکی مزاج ہو۔

ہارون الرشید کے زمانے میں ابو عبد اللہ مالک بن انس بن ابی عامر اصبہی نے ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ ربیع الاول کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ ابن ابی ذئب نے پڑھائی اگرچہ ابن ابی ذئب کی وفات کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام مالک بن انس کی وفات

واقعی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام مالک مسجد میں آتے، نمازوں، جمعہ اور جنازوں میں حاضر ہوتے بیماروں کی عیادت کرتے اور حقوق کی ادائیگی کرتے تھے پھر آپ نے یہ سب باتیں ترک کر دی تھیں آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے عذر کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

جعفر بن سلیمان کے پاس آپ کی شکایت کی گئی کہ آپ اس کی بیعت کے عہد کو کچھ نہیں سمجھتے تو اس نے آپ کو کوڑوں سے مارا یہاں تک کہ آپ کے دونوں کندھے اتر گئے۔

جس سال حضرت امام مالک کی وفات ہوئی، حماد بن زید کی وفات بھی اسی سال یعنی ۱۷۹ھ میں ہوئی۔

حماد بن زید

۱۶۱ھ میں حضرت عبد اللہ بن المبارک مروزی فقیہ، طرطوس سے واپسی پر ہیبت مقام میں وفات پا گئے۔

ابن المبارک

۱۸۲ھ میں قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے ۶۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔

قاضی ابو یوسف

آپ انصاری تھے ۱۶۹ھ میں جب الہادی، جرجان کی طرف گیا تو آپ قاضی بنے اور اپنی وفات تک یعنی پندرہ سال تک قضا کے عہدہ پر قائم رہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ام جعفر نے ابو یوسف کی طرف فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ایک مسئلہ لکھا تو آپ نے شریعت کے مطابق اور اپنے اجتہاد کی رو سے اس کی فتاویٰ کے موافق فتوے دے دیا تو اس نے آپ کی طرف چاندی کی ایک ڈبیہ بھیجی جس میں چاندی

کی دو ڈبیاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک ڈبیہ میں ایک قسم کی خوشبو تھی اور سونے کا ایک جام بھیجا جس میں دواہم تھے اور چاندی کا ایک جام بھی بھیجا جس میں دنانیر تھے غلام اور جامہ دان گدھے اور گھوڑے بھی بھیجے، حاضرین مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو ہدیہ ملے تو اس کے ہم نشین بھی اس میں اس کے شریک ہوتے ہیں حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا تو نے اس حدیث کی تاویل ظاہر کے مطابق کی ہے مگر استحسان اس پر عمل کرنے سے مانع ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے ہدیے کھجوریں اور دودھ ہوتا تھا نہ کہ اس وقت جب کہ لوگوں کے ہدیے سونا اور چاندی وغیرہ ہوتے ہیں وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔

ہارون الرشید کے سامنے عبد اللہ بن مصعب نے پیری اور موسیٰ بن عبد اللہ بن حسن طالبی کے درمیان

آکر کہا کہ موسیٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی مجھ سے اپنی بیعت کرانا چاہتا ہے تو ہارون الرشید نے ان دونوں کو بلایا نہ پیری نے موسیٰ سے کہا تم نے ہمارے خلاف کوششیں کیں اور ہمارے حکومت کو توڑنا چاہا تو موسیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم کون ہو؟ ہارون الرشید کو بہت ہنسی آئی یہاں تک کہ اس نے اپنا سر چھپت کی طرف کر لیا تاکہ اس کی ہنسی کا پتہ نہ چلے پھر موسیٰ نے کہا امیر المؤمنین یہ شخص میرے متعلق بڑی خبریں اڑاتا ہے خدا کی قسم اس نے میرے بھائی محمد بن عبد اللہ بن حسن بن علی کے ساتھ آپ کے دادا منصور کے خلاف خروج کیا تھا اور اس نے اپنے طویل اشعار میں یہ شعر بھی کہا تھا

”تم اپنی بیعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ہم اپنی اطاعت کے ساتھ کھڑے

ہو جاتے ہیں، اے بنو حسن خلافت تم میں ہے۔“

امیر المؤمنین یہ آپ کی محبت کی وجہ سے شکایت نہیں کی گئی اور نہ آپ کی حکومت کی حفاظت کے خیال سے یہ بات کہی گئی ہے بلکہ یہ ہم سب اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اگر یہ کوئی ایسا شخص پائے جو ہم پر غالب آنے والا ہو تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے اور اس نے یہ بات جھوٹ کہی ہے اور میں اسے قسم دیتا ہوں اگر وہ قسم کھائے کہ

میں نے یہ شعر کہا ہے تو میرا خون امیر المؤمنین کے لیے حلال ہوگا، ہارون الرشید نے کہا عبد اللہ قسم کھاؤ، تو وہ عذر کرنے اور قسم کھانے سے پہلو تہی کرنے لگا تو فضل نے اُسے کہا، قسم کھانے سے نہ کہو تو نے ابھی خیال کیا ہے کہ اس نے تجھے وہ بات کہی ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے، عبد اللہ نے کہا میں اس کے لیے قسم کھاتا ہوں، موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات جو تو نے میرے متعلق بیان کی ہے، درست نہ ہو تو میں نے قوت و طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی قوت کے سوا اپنی قوت و طاقت کے سپرد کیا تو اس نے قسم کھائی تو موسیٰ نے کہا اللہ اکبر، میرے ماں باپ نے میرے دادا سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا علیؑ سے اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جس کسی نے یہ جھوٹی قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ تین دن سے قبل، جلد اُسے سزا دیتا ہے خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ میں جھٹلایا گیا ہوں اور امیر المؤمنین دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کے قبضہ میں ہوں پس میری وکالت قبول کیجئے اگر تین دن گزر گئے اور عبد اللہ بن مصعب کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو میرا خون امیر المؤمنین کے لیے حلال ہوگا، ہارون الرشید نے فضل سے کہا، موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لو یہ تمہارے پاس رہے گا یہاں تک کہ میں اس کے معاملے میں غور کر لوں، فضل بیان کرتا ہے خدا کی قسم ابھی میں نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ میں نے عبد اللہ بن مصعب کے گھر سے چیخ و پکار کی آواز سنی میں نے اس کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اُسے جذام ہو گیا ہے اور وہ متورم ہو کر سیاہ ہو گیا ہے، میں اس کی طرف گیا تو خدا کی قسم میں اُسے پہچان نہ سکا کیونکہ وہ بڑے مشکیزے کی طرح ہو گیا تھا اور سیاہ ہو کر پتھر کے کوٹے کی طرح ہو گیا تھا میں نے ہارون الرشید کے پاس جا کر اُسے اس کی حالت کے متعلق اطلاع دی، ابھی میں نے بات ختم نہ کی تھی کہ اس کی موت کی اطلاع آگئی میں جلدی سے باہر نکلا اور میں نے حکم دیا کہ اس سے جلد فراغت حاصل کی جائے اور میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جب انہوں نے اُسے قبر میں رکھا اس کے اُٹھنے سے قبل ہی وہ بیٹھ گئی اور اس سے نہایت بدبودار ہوا آئی، میں نے راستے میں کانٹوں کے گٹھے گزرتے دیکھے تو میں نے کہا یہ کانٹے میرے پاس لاؤ، وہ میرے پاس لائے گئے تو انہیں اس گڑھے میں پھینک دیا گیا ابھی وہ کانٹے لگے بھی نہ تھے کہ قبر دوسری بار بیٹھ گئی میں نے کہا میرے پاس ساکھو کے تختے

لاؤ، انہیں قبر کی جگہ پر پھینکا گیا پھر ان پر مٹی ڈال دی گئی، میں نے واپس آ کر ہارون الرشید کو اس کا حال بتایا تو وہ بہت متعجب ہوا اور اس نے مجھے موسیٰ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے خلوت میں ملنے اور ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا ہارون الرشید نے موسیٰ کو بلا کر کہا، تو نے لوگوں کے درمیان متعارف قسم سے کیوں عدول کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے دادا سے اور اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے دادا سے اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص قسم میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو جلد عذاب دینے سے شرم محسوس کرتا ہے اور جو شخص جھوٹی قسم کھائے اور اس میں خدا تعالیٰ کی قوت و طاقت سے کشاکش کرے اُسے اللہ تعالیٰ تین دن سے قبل جلد سزا دیتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی، جو موسیٰ بن عبد اللہ کا بھائی تھا کے ساتھ ہوا تھا۔

یحییٰ پناہ طلب کرتا ہوا وکیل کی طرف گیا تو وکیل کے حکمران نے اسے ہارون الرشید کے عامل سے ایک لاکھ درہم میں خرید لیا اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ کتب الساب اور تواریخ کے نسخوں اور طرق روایت میں اختلاف کی وجہ سے یہ روایت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے کہ یحییٰ کو ایک تالاب میں پھینک دیا گیا جس میں بھوکے درندے رکھے گئے تھے مگر وہ اسے کھانے سے رُکے رہے اور ایک جانب پناہ لے کر بیٹھ گئے اور اس کے قریب ہونے سے ڈر گئے، تو اس پر پتھر اور چوٹوں سے ستون بنا دیا گیا جس کے نیچے دب کر رہ گئے۔

محمد بن جعفر کا ظہور، اور مغرب کی طرف فرار | محمد بن جعفر بن یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن

گئے، ان کی تلاش کی گئی تو یہ مغرب چلے گئے اور تباہرت کے نشیبی علاقے سے رابطہ قائم کر لیا تو بہت سے لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، آپ نے وہاں پر خوب عدل و انصاف سے کام لیا اور وہیں پر زہر خورانی سے ہلاک ہو گئے، ہم نے ان کے حالات اور حکومت کے واقعات کو کتاب حدائق الاذہان فی اخبار اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تفرقہم فی البلاد میں بیان کیا ہے۔

۱۸۸ھ میں ہارون الرشید نے حج کیا۔ یہ اس کا آخری

حج تھا، عظیم عالم ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے کہ

ہارون الرشید نے حج سے واپسی پر کوفہ سے گذرتے ہوئے کہا کہ نہ وہ اور نہ اس کے بعد بنو عباس کا کوئی خلیفہ اس راہ سے واپس آئے گا اس سے پوچھا گیا کیا یہ بھی کوئی غیب کی قسم ہے اس نے جواب دیا ہاں، اس سے پوچھا گیا یہ اطلاع وحی کے ذریعہ ملی ہے اس نے جواب دیا ہاں، اس سے پوچھا گیا یہ وحی تیری طرف آئی ہے کہنے لگا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی تھی، اسی طرح اس کے متعلق حضرت علیؑ نے بھی خبر دی ہے جو اس جگہ پر شہید ہوئے تھے اور اس نے اس جگہ کی طرف اشارہ بھی کیا جہاں پر کوفہ میں حضرت علیؑ شہید ہوئے تھے۔

کسانی اور محمد بن حسن ثیبانی کی وفات | ہارون الرشید کے زمانے میں ۱۸۹ھ میں علی بن حمزہ الکسانی صاحب القراءت نے وفات پائی

اس کی کنیت ابو الحسن تھی یہ ہارون الرشید کے ساتھ رسی کی طرف گیا اور وہیں فوت ہو گیا، اسی طرح قاضی محمد بن حسن ثیبانی بھی جس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی فوت ہو کر رسی میں دفن ہوئے آپ بھی ہارون الرشید کے ساتھ تھے۔ ہارون نے محمد بن حسن ثیبانی کی موت سے ایک خواب سے شگون لیا تھا۔ نیز اسی سال میں یحییٰ بن خالد بن برمک نے وفات پائی۔

عبد الملک بن صالح پر رشید کی ناراضگی | ۱۸۸ھ میں ہارون الرشید عبد الملک بن صالح بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب

پر ناراض ہو گیا، یسوت بن مزرع، الریاشی سے بیان کرتا ہے کہ میں نے اہمعی کو کہتے سنا کہ میں ہارون الرشید کے پاس تھا کہ عبد الملک بن صالح کو بیڑیوں میں لایا گیا جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو کہا ارے عبد الملک خدا کی قسم گویا میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آنسو گر رہے ہیں اور اس کے رخسار چمک رہے ہیں اور گویا میں سزا سے جوڑوں کو بغیر کلائیوں کے اور سروں کو بغیر گردنوں کے اکھاڑ رہا ہوں، اسے بنی ہاشم درم رومی اختیار کر و خدا تعالیٰ نے دشوار کو تمہارے لیے سہل اور گدے کو تمہارے لیے صاف کر دیا ہے اور امور نے اپنی باگیں تمہاری طرف پھینک دی ہیں، ہاتھ اور پاؤں کو دیوانہ کر دینے والی بیماری کے آنے سے قبل اپنا بچاؤ اختیار کر و عبد الملک نے اسے کہا، کیا میں ایک بات کروں یا دو، اس نے کہا دو دو باتیں کرو، اس نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ کو حکمران بنایا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈریے اور جس رعایا کا اس نے تجھے نگران بنایا ہے اس کا خیال رکھیے خدا کی قسم اس نے دشوار کو تمہارے لیے سہل

کر دیا ہے اور سینوں میں تمہاری امید اور خوف کو جمع کر دیا ہے اور تمہاری مثال جعفر بن کلاب کے بھائی کے اس شعر کی طرح ہے

تو نے تنگ مقام کو اپنی زبان ، بیان اور جھگڑے سے کھول دیا ہے اور اگر

ہاتھی یا اس کا مہاوت کھڑا ہو تو وہ میرے مقام سے پھسل جائے یا چلا جائے

راوی بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن خالد برکلی نے ارادہ کیا کہ وہ ہارون الرشید کے ہاں عبد الملک

کا مرتبہ کم کر دے تو اس نے اُسے کہا عبد الملک مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بڑا کینہ پرور ہے

اس نے کہا اللہ تعالیٰ و زہیر کا بھلا کرے اگر کینہ یہ ہے کہ میرے پاس خیر و شہر باقی رہے

تو وہ دونوں میرے دل میں موجود ہیں تو ہارون الرشید نے اصمعی کی طرف متوجہ ہو کر کہا

اے اصمعی اسے لکھ لے خدا کی قسم جس طرح اس نے کینے کے لیے حجت پکڑی ہے کسی

آدمی نے نہیں پکڑی پھر اس کے حکم سے اُسے قید خانے میں واپس کر دیا گیا پھر اس نے اصمعی

کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے اصمعی خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے اس کی گردن میں تلوار پڑنے کی

جگہ کو کئی بار دیکھا لیکن اپنی قوم کے اس قسم کے آدمی پر رحم کرنا مجھے اس بات سے روکتا

رہا۔

یوسف بن ابراہیم بن ہمدی بیان کرتا ہے

کہ مجھے ہارون الرشید کے غلام سلیمان

خادم خراسانی نے بتایا کہ وہ حیرہ میں

ہارون الرشید کو مچھلی کا تحفہ ملنا اور

بختیشوع طیب کا اُسے اس سے روک دینا

ہارون الرشید کے سر کے پاس کھڑا تھا وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ اس کے پاس عون العبادی آیا جو

حیرہ کا حاکم تھا اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں گھی میں تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی ،

اس نے اُسے اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اور کھانا بھی تھا ہارون الرشید

نے اس سے کچھ کھانا چاہا تو جبریل بن بختیشوع نے اُسے روک دیا اور جبریل نے دسترخوان

کے انچارج کو اشارہ کیا کہ وہ اُسے دسترخوان سے اٹھا کر اس کے لیے الگ رکھ دے

ہارون الرشید بھی اس بات کو سمجھ گیا جب دسترخوان اٹھا دیا گیا رشید نے اپنے ہاتھ دھو

لیے اور جبریل باہر چلا گیا تو رشید نے مجھے اس کے پیچھے جانے کا حکم دیا نیز یہ کہ میں

اس کے گھر میں جب کہ وہ کھانا کھا رہا ہو اچانک چلا جاؤں اور اُسے آکر سب حال بتاؤں

میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس کے بچاؤ اختیار کرنے سے میں نے یہ محسوس

کیا کہ جبریل پر میرا معاملہ مخفی نہیں رہا کیونکہ اس نے دارِ عون پر جا کر کھانا منگوایا جب اس کے لیے کھانا لایا گیا تو اس میں مچھلی بھی تھی اس نے تین پیالے منگوائے اور ان میں سے ایک میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھا اور اس پر طیرنا باذکی شراب ڈالی — طیرنا باذکی کو فہ اور قادیسیہ کے درمیان ایک بستی ہے جہاں پر انگور، درخت، کھجوریں اور باغات پائے جاتے ہیں اس کے ہر علاقے میں دریائے فرات سے نہریں نکلتی ہیں اور اس کی شراب، قطربلی شراب کی طرح ہے اس نے شراب کو مچھلی پر ڈال کر کہا یہ جبریل کا کھانا ہے دوسرے پیالے میں مچھلی کا دوسرا ٹکڑا رکھ کر اس پر برف کا سخت ٹھنڈا پانی ڈالا اور کہا اگر اس میں مچھلی نہ ملی ہوئی ہو تو یہ امیر المومنین کا کھانا ہے اور اس نے تیسرے پیالے میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھا اور کسی قسم کے گوشت کے ٹکڑے رکھے جن میں کوئی بھنا ہوا اور کوئی شیریں تھا اور کچھ خوشگوار سبزیاں تھیں اور اس کے سامنے جو دیگر سالن پیش کیے گئے تھے ان میں سے اس نے ایک ایک دو دو لقمے کھائے اور ان پر برف کا پانی ڈالا اور کہنے لگا اگر کسی اور کھانے میں مچھلی ملی ہوئی ہو تو یہ امیر المومنین کے بیدار ہونے تک پیالوں کو سنبھال کر رکھنا، پھر جبریل مچھلی کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں سے اتنا کھایا کہ خوب اس کی کھوکھیں سیر ہو گئیں اُسے جب کبھی پیاس لگا کرتی وہ خالص شراب کا جام منگوا کر پتیا اور پھر سو جاتا جب رشید بیدار ہوا تو اس نے مجھ سے جبریل کا حال پوچھا کہ کیا اس نے مچھلی میں سے کچھ کھایا ہے یا نہیں تو میں نے اُسے سب اتنا سنا دیا، اس نے تینوں پیالوں کو لانے کا حکم دیا اس نے پہلے پیالے کی چیزوں کو دیکھا — یہ وہ پیالہ تھا جس کے متعلق جبریل نے کہا تھا کہ یہ اس کا کھانا ہے اور اس پر خالص شراب ڈالی تھی — کہ وہ پھٹ گئی تھیں اور پگھل کر بہ رہی تھیں اور بل جُل گئی تھیں دوسرے پیالے کی چیزیں — جس کے متعلق جبریل نے کہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا کھانا ہے اور اس پر برف کا پانی ڈالا تھا، وہ بڑھ کر نصف پیالے تک پہنچ گئی تھیں، اس نے تیسرے پیالے کی طرف دیکھا — جس کے بارے میں جبریل نے کہا تھا کہ اگر کسی اور کھانے میں مچھلی ملی ہوئی ہو تو یہ امیر المومنین کا کھانا ہے — تو اس کی بوبدل چکی تھی اور اس میں اتنی شدید بوبو پیدا ہو چکی تھی کہ رشید کو اس کے قریب ہوتے ہی قے آنے لگی تھی اس نے مجھے حکم دیا کہ میں جبریل کے پاس پانچ ہزار دینار لے جاؤں اور کہنے لگا مجھے اس شخص کی محبت پر کون ملامت کرے گا جو ایسی تدبیر کے ذریعہ مجھے سمجھاتا ہے تو میں نے

اُسے مال پہنچا دیا۔

رشید کا خواب جس میں اُسے
موسیٰ بن جعفر کو چھوٹے کا حکم دیا گیا

عبداللہ بن مالک خزاعی جو رشید کے قصبہ امارت اور اس کی
پولیس کا انچارج تھا، بیان کرتا ہے کہ میرے پاس
رشید کا ایچی ایسے وقت آیا جس میں وہ کبھی نہیں آیا

تھا اس نے مجھے میری جگہ سے اٹھایا اور کپڑے بدلنے سے بھی مجھے روک دیا تو مجھے اس سے
خوف محسوس ہوا جب میں اس کے گھر گیا تو آگے سے مجھے خادم ملا اس نے رشید کو میری
اطلاع دی اور اس نے مجھے حاضر ہونے کی اجازت دے دی جب میں اس کے پاس گیا
تو میں نے اُسے اپنے بستر پر بیٹھے دیکھا، میں نے سلام کہا تو وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا جس سے
میرے ہوش جاتے رہے اور میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا پھر اس نے مجھے کہا اے عبداللہ
کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت کیوں بلایا ہے میں نے کہا امیر المؤمنین خدا کی قسم
مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک فوج میرے پاس آئی
ہے جس کے پاس برچھا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے موسیٰ بن جعفر کو ابھی
نہ چھوڑا تو میں تجھے اس برچھے سے ذبح کر دوں گا ابھی جا کر موسیٰ کو چھوڑ دو، میں نے تین بار
کہا امیر المؤمنین میں موسیٰ بن جعفر کو آزاد کر دوں اس نے کہا ہاں، ابھی جا کر موسیٰ بن جعفر کو
آزاد کر دو اور اُسے تیس ہزار درہم بھی دو اور اُسے کہو، اگر آپ ہمارے پاس ٹھہرنا
چاہتے ہوں تو جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا اور اگر آپ مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں
تو یہ آپ کی مرضی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں قید خانے کی طرف انہیں نکالنے کے لیے
گیا، جب موسیٰ نے مجھے دیکھا تو وہ اچھل کر میرے سامنے آکھڑا ہوا اور اس نے خیال
کیا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی ناپسندیدہ حکم دیا گیا ہے میں نے کہا خوف نہ کرو، امیر المؤمنین
نے مجھے آپ کو آزاد کرنے اور تیس ہزار درہم دینے کا حکم دیا ہے اور وہ آپ سے یہ بھی
کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ہاں رہنا پسند کریں تو جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا اور
اگر آپ واپس مدینہ جانا چاہتے ہوں تو یہ آپ کی مرضی ہے میں نے اُسے تیس ہزار درہم
دیے اور اُسے آزاد کر دیا۔

میں نے اس سے کہا میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی ہے وہ کہنے لگا میں تجھے بتاتا
ہوں، میں سویا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرماتے

لگے اے موسیٰ تجھے اذراہ ظلم قید کیا گیا ہے تو یہ کلمات کہہ اور تو یہ رات قید میں نہیں گزارے گا میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہہ، اے ہر آواز کے سننے والے اور اے گزری ہوئی بات سے آگے بڑھ جانے والے اور اے ہڈیوں کو گوشت پہنانے والے اور موت کے بعد انہیں اٹھانے والے میں تجھ سے تیرے اسمائے حسنیٰ اور تیرے اسم اعظم کا جو مخزون و مکنون ہے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے متعلق مخلوق کے کسی آدمی کو آگاہی نہیں اے حلیم و بردبار، جس کی بڑی باری پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور اے وہ نیکی کرنے والے جو کبھی منقطع نہ ہوگی اور نہ اس کا شمار ہو سکے گا میری تکلیف کو دور فرما، وہ واقعہ ہوا جو تو دیکھ رہا ہے۔

ابراہیم بن ہمدی کا اسود کے لیے گانا

حماد بن اسحق بن ابراہیم موصلی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم بن ہمدی نے بیان کیا کہ میں نے رشید کے ساتھ حج کیا تو راستے میں میں اپنی سواری پر الگ ہو کر چلنے لگا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور میری سواری مجھے کسی اور راستے پر لے گئی جب میں بیدار ہوا تو کسی اور راستے پر تھا مجھے سخت گرمی اور شدید پیاس لگ گئی ایک خیمہ میرے سامنے آگیا میں نے اس کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک گنبد ہے اور اس کے پہلو میں کھیتی کے قریب پانی کا کنواں ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی بات ہے میں نے وہاں پر کسی آدمی کو نہ دیکھا میں گنبد میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسود سویا ہوا ہے اس نے میری آہٹ پا کر اپنی آنکھیں کھولیں گویا وہ خون کے دو ٹب تھے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بڑا عظیم صورت معلوم ہونے لگا میں نے کہا اے اسود مجھے اس پانی سے کچھ پلاؤ تو اس نے بھی میری نقل اتارنے ہوئے کہا اے اسود مجھے اس پانی سے کچھ پلاؤ نیز کہنے لگا اگر تجھے پیاس ہے تو نیچے اتر کر پانی پی لے، سواری میں بدکنے والا خبیث تر کی گھوڑا تھا، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں اس سے اتر پڑا تو وہ بھاگ جائے گا میں نے گھوڑے کے سر کو مارا اور مجھے اس دن کے سوا گانے نے کبھی فائدہ نہیں دیا اور میں نے بلند آواز سے گانا شروع کیا ہے۔

”اگر میں مرجاؤں تو مجھے چادر میں کفن دینا اور میرے لیے عروہ کے کنویں سے پانی لانا اور کڑوے پانی کے پہلو میں اس کے لیے ایک مکان ہے اور قصر قبا میں گرمی کا موسم گزارنے کی جگہ ہے جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی

ہے اور اندھیری رات میں چاند ہے۔“

اسود نے سر اٹھا کر مجھے کہا، تجھے کونسی چیز زیادہ پسند ہے، تجھے صرف پانی پلاؤں یا پانی اور ستو، میں نے کہا پانی اور ستو، تو اس نے ایک پیالہ نکالا اس میں ستو ڈال کر مجھے پلائے اور اپنے سر اور سینے پر دونوں ہاتھ مارنے اور کہنے لگا اس کے سینے کی گرمی کا کیا کہنا اس نے میرے دل میں آگ بھڑکا دی ہے اے میرے آقا کچھ اور سناؤ میں تجھے اور دوں گا میں ستو پی لیے، پھر اس نے مجھے کہا اے میرے آقا تیرے اور راتے کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تجھے پیاس لگے گی اس لیے میں اپنا یہ مشکیزہ بھر کر تیرے آگے رکھ دیتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا مشکیزہ بھر لیا اور میرے آگے آگے چل پڑا، وہ موزوں طریق سے چل رہا تھا جب میں آرام کرنے کے لیے گڑ کا تو اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے آقا کیا تجھے پیاس لگی ہے کہ میں گا کہ تھکاوٹ کو دور کر دوں یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پر لاکھڑا کیا پھر مجھے کہنے لگا جا اللہ تیرا نگہبان ہو اور جو نعمتیں اس نے تجھے دی ہیں وہ انہیں تجھ سے سلب نہ کرے، میں قافلے سے جا ملا، رشید نے مجھے گم پایا تو اس نے علاقے میں میری تلاش کے لیے بختی اڈنٹ اور گھوڑے بھجوائے، اس نے جب مجھے دیکھا تو خوش ہو گیا، میں نے اُسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا اسود کو میرے پاس لاؤ، اور گھوڑی دی رہی گزری تھی کہ اسود اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اُسے کہا تو ہلاک ہو جائے تیرے سینے کو کس نے جلایا ہے اس نے کہا میرے آقا میمونہ نے، اس نے پوچھا میمونہ کون ہے اس نے کہا حبشہ کی بیٹی، اس نے پوچھا حبشہ کون ہے اس نے کہا میرے آقا بلال کی بیٹی، اس نے حکم دیا کہ کوئی اُسے بات سمجھائے چنانچہ اسود کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بنی جعفر طیار کا غلام تھا اور جس سیاہ نام عورت کا وہ عاشق تھا وہ حسن بن علی کے بیٹوں کی قوم میں سے تھی رشید نے حکم دیا کہ اُسے اس کے لیے خریدا جائے مگر اس کے مالکوں نے اس کی قیمت لینے سے انکار کر دیا اور اُسے رشید کو بخش دیا اس نے اسود کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس سے اس کی شادی کر دی اور اُسے اپنے مدینہ کے مال سے دو باغ اور تین سو دینار دیے۔

ایک روز سماک، رشید کے پاس آیا اس کے سامنے ایک کبوتری دانے چُجک رہی تھی

اس نے اُسے کہا اس کی مختصر تعریف کرو، اس نے کہا گویا یہ دو یا توتوں سے دیکھتی ہے

اور درہموں کی دو تھیلیاں اٹھا رہی ہے اور دو عقیتوں پر چل رہی ہے اور انہوں نے ہمیں کسی کے یہ شعر سنائے :-

” ہاتھ نے آواز دی کہ اس کے محبوب نے اُسے جدا ہونے کی اجازت دے دی ہے ، اس کے گلے میں مچھلی کی طرح گانی پڑی ہے وہ چھوٹی آنکھوں والی ہے اور وہ تیری طرف دو یا تو توں سے دیکھتی ہے اور جن سوراخوں سے وہ سانس لیتی ہے وہ دو موتیوں کی طرح ہیں ، اور تو انہیں باغوں کی طرح آتے دیکھے گا ، اس کی ڈاڑھی کارک کی دو کپیٹیوں کی طرح ہے ، اور اس کی دو سرخ پنڈلیاں گلاب کے دو پھولوں کی طرح ہیں اور اس کے دونوں پروں کے اوپر دو ٹوپیاں مبنی گئی ہیں وہ طاؤس رنگ اور موٹے کندھوں والی ہے ، وہ جنگل کے سائے میں صاف کندھوں والی ہے اس نے اپنے محبوب کو کھو دیا ہے اور وہ سوزِ عشق اور جدائی کے باعث نوحہ کناں ہے ، اور وہ بغیر آنسوؤں کے روتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے ہیں اور وہ آنکھوں کو اس طرح نہیں رنگتی جیسے انہیں رنگا جاتا ہے ۔“

رشید اور معن بن زائدہ کے درمیان گفتگو | معن بن زائدہ رشید کے پاس آیا ، رشید اس سے ناراض تھا اس کے

قریب ہوا تو ہارون نے کہا ، خدا کی قسم تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اس نے کہا امیر المومنین آپ کی اطاعت میں بڑا بن گیا ہوں ، رشید نے کہا ، ابھی تجھ میں اطاعت کا کچھ حصہ باقی ہے اس نے کہا امیر المومنین وہ آپ کے لیے ہے ، اس نے کہا تو دلیر آدمی ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین آپ کے دشمنوں پر دلیر ہوں تو رشید اس سے راضی ہو گیا اور اُسے والی بنا دیا — راوی بیان کرتا ہے کہ اہل بصرہ کے زائدہ عبدالرحمن بن زید کو اس کی یہ باتیں بتائی گئیں تو انہوں نے کہا اس کا بڑا ہوا اس نے اپنے رب کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی ۔ ایک روز رشید نے معن بن زائدہ سے کہا ، میں نے تجھے ایک بڑی بات کے لیے تیار کیا ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مجھے وہ دل دیا ہے جو آپ کے مشوروں کا پابند ہے اور ایسا ہاتھ دیا ہے جو آپ کی اطاعت کے لیے کھلا ہے اور ایسی تلوار دی ہے جسے آپ کے دشمنوں کے خلاف

تیز کیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے حکم دیں، بعض کے بقول یہ جواب بیزید بن مزید کا ہے۔

رشید اور کسائی

کسائی بیان کرتا ہے کہ میں رشید کے پاس گیا جب میں سلام دعا سے فارغ ہوا تو اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا میں اس کے پاس بیٹھا رہا یہاں

تک کہ عوام چلے گئے اور اس کے خواص باقی رہ گئے اس نے مجھے کہا اے علی! کیا تو محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا ہے، میں نے کہا امیر المومنین مجھے ان کے دیکھنے کا بہت شوق ہے اور

امیر المومنین ان دونوں کو مجھے دکھا کر مجھ پر احسان فرمائیں گے تو اس نے ان دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، تھوڑی ہی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ افق کے دو ستاروں کی مانند سکون اور

وقار سے آ رہے تھے انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی کی ہوئی تھیں اور درمیانے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دونوں مجلس کے دروازے پر آکھڑے ہوئے ان دونوں نے اپنے باپ کو سلام

خلافت کہا اور اُسے اچھی دعا دی، اس نے ان دونوں کو قریب ہونے کا حکم دیا وہ قریب ہوئے، محمد اس کی دائیں اور عبد اللہ اس کی بائیں جانب ہو گیا پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ

میں ان دونوں سے امتحان کے طور پر سوال پوچھوں تو میں نے ان سے جو سوال بھی پوچھا اس کا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، رشید اس سے بہت خوش ہوا یہاں تک کہ میں نے

خوشی کے آثار اس کے چہرے پر دیکھے، پھر اس نے مجھے کہا اے علی! تو ان کے جواب اور مذہب کو کیسے پاتا ہے میں نے کہا امیر المومنین یہ دونوں شاعر کے اس شعر کے مصداق ہیں

”میں بزرگی کے دو چاندوں اور خلافت کی دو شاخوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں

ایک کریم اصل زینت دے رہا ہے۔“

امیر المومنین! یہ دونوں پاکیزہ اصل کی شاخ ہیں یہ بہترین کھیتی ہے اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور ان کا پینا بیٹھا ہے، ان کا باپ روشن رو، نافذ الامر و وسیع

علم اور عظیم علم والا ہے۔ یہ دونوں اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے نور سے ضیاء حاصل کرتے ہیں، اس کی زبان سے بولتے ہیں اور اس کی سعادت میں پہلو

بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو ان کے ذریعے فائدہ پہنچائے اور تمام امت آپ کی اور ان دونوں کی ثناء سے مانوس ہو پھر میں نے انہیں کہا، کیا تم دونوں شعر کی روایت بھی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پھر محمد نے مجھے یہ شعر سنائے

”میں فقر سے بچنے والا اور تو نگر می میں اشتراک کرنے والا ہوں اور جو شکل

میری شکل کے موافق نہ ہو میں اُسے چھوڑ دینے والا ہوں اور میں اپنے مال کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں اور میں بہت فضیلت والا ہوں۔“

پھر عبداللہ نے یہ اشعار سنائے کہ

”اس نے تجھے ملامت کرتے ہوئے صبح کی اور وہ بغیر علم کے ملامت کرتی ہے، میرے امور کا ایک مقتدر مالک ہے وہ جب چاہتا ہے آسائش دیتا ہے، بہت سے لوگ مصیبت پر رشک کرتے ہیں اور بہت سے زمانے کے مصائب کے ستارے ہوئے ہیں اور جب وہ میرے نیزے کو پیام میں کرتا ہے تو وہ سیدھا کرنے والے اوزار کو آہستہ آہستہ کاٹ دیتا ہے۔“

میں نے خلفاء کی اولاد اور اس شجرہ مبارکہ کی کسی شاخ کو ان دونوں سے بڑھ کر حفظ کی ہوئی چیز کو طاقت لسانی اور حُسنِ الفاظ کے ساتھ ادائیگی پر زیادہ مقتدر نہیں پایا اور میں نے ان دونوں کے لیے بہت دعائیں کیں، رشید نے میری دعا پر آمین کہی اور پھر ان دونوں کو اپنے گلے لگایا پھر جب اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو میں نے آنسوؤں کو اس کے سینے پر گرتے دیکھا پھر اس نے ان دونوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا جب وہ چلے گئے تو اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا ان دونوں کے متعلق قضا و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آسمانی تقدیریں نازل ہو چکی ہیں اور مدت اپنی میعاد کو پہنچ گئی ہے، ان دونوں میں اختلاف اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے پھر وہ ان دونوں کے متعلق باتیں کرتا رہا کہ خونریزی ہوگی اور لوگ مقتول ہوں گے اور عورتوں کی بے پردگی ہوگی اور بہت سے زندہ خواہش کریں گے کہ وہ مردوں میں ہوتے، میں نے کہا امیر المؤمنین کیا یہ باتیں اس لیے ہوں گی کہ ان کی پیدائش پر کوئی نظارہ دیکھا گیا ہے یا امیر المؤمنین کو ان کی پیدائش کے بارے میں کوئی روایت ملی ہے؟ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ سب کچھ ایک ضروری روایت کی وجہ سے ہوگا جسے علماء نے اوصیاء سے اور اوصیاء نے انبیاء سے روایت کیا ہے۔

ایمن کے مؤدب احمد نخوی کو رشید کی وصیت | احمد نخوی بیان کرتا ہے کہ رشید نے اپنے بیٹے محمد امین

کی تربیت کے لیے مجھے پیغام بھیجا جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اے احمد!

امیر المؤمنین نے اپنی جان اور اپنا جگر گوشہ تیرے سپرد کیا ہے لہذا تیرا ہاتھ اس پر کھلا رہے اور تیری اطاعت کرنا اس پر واجب ہے اور تو اس کے لیے ایسا ہو جا جہاں امیر المؤمنین نے تجھے رکھا ہے اُسے قرآن پڑھا، آٹا دے روشتنا سے کرا اشعار کی روایت سکھا، سنن کی تعلیم دے، کلام کے مواقع کی بصیرت بخش، اور بے موقع ہنسنے سے منع کر، اسے بتاؤ کہ جب بنی ہاشم کے مشائخ اس کے پاس آئیں تو ان کی تعظیم کرنا، جب جرنیل اس کی مجلس میں آئیں تو ان کی نشستوں کو بلند کرنا اور ہاں جس گھڑی تجھے کوئی فائدہ حاصل ہو اُسے بھی اس سے فائدہ پہنچاؤ مگر جھوٹ نہ بولنا، اس سے تو اُسے کُند ذہن کر دے گا اور اس سے زیادہ چشم پوشی نہ کرنا کہ وہ بے کاری سے مالوف ہو جائے گا اُسے حتی المقدور قرب اور نرمی سے سیدھا کرنا اگر وہ ان دونوں باتوں سے نہ مانے تو سختی اور شدت اختیار کرنا۔

العمانی کا، رشید کو امین کے تجدید عہد پر آمادہ کرنا | رشید کی موجودگی میں تقریر

کئے لیے کھڑا ہوا، وہ مسلسل محمد امین کی تعریف کرتا رہا اور اُسے، اس کے تجدید عہد کے لیے آمادہ کرتا رہا جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو رشید نے اُسے کہا اے عمانی تجھے اس کے ولایت عہد کی خوشخبری ہو، اس نے کہا امیر المؤمنین خدا کی قسم میں اس طرح خوش ہوا ہوں جیسے گھاس بارش سے اور کم بچوں والی عورت، بچے سے اور کمزور مرلیض صحت یاب ہونے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ لاثانی ہے وہ اپنی بزرگی کو بچانے والا اور اپنے دادا کا شبیہ ہے اس نے پوچھا عبد اللہ کے متعلق تیری کیا رائے ہے اس نے جواب دیا وہ چراگاہ ہے مگر سعدان بوٹی کی طرح نہیں رشید نے مسکرا کر کہا اللہ اس کا بڑا کرے کون بدو ہے جس نے اُسے رعیت کے مواقع بتائے ہیں خدا کی قسم میں عبد اللہ میں منصور کی دانش مندی کا، مہدی کا نہ بد اور ہادی کی عزت نفس کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم اگر اللہ چاہتا کہ میں اس کے متعلق جو تھی بات بیان کروں تو میں اس کے متعلق بیان کر دیتا۔

اس کے ولایت عہد کے متعلق رشید کی خواہش | اصمعی بیان کرتا ہے کہ ایک

شب میں رشید سے باتیں کر رہا تھا کہ میں نے اُسے بہت مضطرب دیکھا وہ کبھی بیٹھتا، کبھی لیٹ جاتا اور کبھی رونے

لگ جانا پھر کہنے لگا

”اللہ کے بندوں کے امور کو کسی قابل اعتماد آدمی کے سپرد کر، جو کمزور اور تنگ دل نہ ہو اور بے وقوف لوگوں کی بات کو چھوڑے جب قوم ایک بات کو سمجھ جاتی ہے تو وہ اسے نہیں سمجھتا ہے۔“

پھر اس نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے مسرور خادم سے کہا کہ یحییٰ کو میرے پاس لاؤ، وہ فوراً آ گیا تو اس نے کہا اے ابوالفضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وصیت کے فوت ہو گئے اس وقت اسلام جوان، ایمان تازہ اور عرب متحد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف کے بعد امن اور ذلت کے بعد عزت دی تھی، پھر جلد ہی عرب عوام حضرت ابوبکرؓ پر ٹوٹ پڑے اور تو آپ کے حالات کو جانتا ہی ہے، پھر حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو حکومت دے دی تو امت نے انہیں تسلیم کر لیا اور ان کی خلافت کو پسند کیا پھر حضرت عمرؓ نے شوریٰ بنائی، پھر ان کے بعد فتنے پیدا ہو گئے یہاں تک کہ خلافت نا اہل لوگوں کے پاس چلی گئی اور میں نے اس عہد کی تصحیح کرنے اور اسے اس آدمی کے سپرد کرنے کی طرف توجہ کی ہے جس کی سیرت مجھے پسند ہو اور جس کے حسن سیاست پر مجھے اعتماد ہو اور جس کی کمزوری سے مجھے بے خونی ہو اور وہ عبد اللہ ہے، لیکن بنو ہاشم محمد کی طرف میلان رکھتے ہیں حالانکہ وہ اپنی خواہشات کا مطیع و متقاد اپنی بھوک کے مطابق تصرف کرنے والا، فضول خرچ اور عورتوں اور لونڈیوں کو اپنی رائے میں شامل کرنے والا ہے جب کہ عبد اللہ پسندیدہ اطوار، پختہ رائے اور بڑے بڑے کاموں میں قابل اعتماد آدمی ہے اب اگر عبد اللہ کی طرف مائل ہوتا ہوں تو بنو ہاشم کو نادمہن کرنا ہوں اور اگر اکیلے محمد کو حکومت دیتا ہوں تو اس کے رعیت میں گر پڑ کرنے سے میں بے خوف نہیں ہوں، اس بارے میں مجھے ایسا مشورہ دو جس کا فائدہ ہمہ گیر ہو کیونکہ تو باریک بین اور بابرکت رائے والا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین! اس عہد کے سوا، ہر لغزش کی معافی ہو سکتی ہے اور ہر رائے کی تلافی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں لغزش و خطا سے بچا نہیں جاسکتا اس بارے میں غور و فکر کے لیے کوئی اور مجلس ہونی چاہیے، رشید نے سمجھ لیا کہ وہ تخیلیہ چاہتا ہے تو اس نے مجھے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا، میں اٹھ کر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا جہاں سے میں ان دونوں کی باتوں کو سن سکتا تھا، وہ طویل گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور وہ اس فیصلہ پر کہ محمد (ابن) کے

بعد حکومت عبداللہ (مامون) کے لیے ہوگی، اٹھے، اُم جعفر نے رشید کے پاس آکر کہا کہ تو نے اپنے بیٹے محمد کو عراق کا والی بنا کر اور اُسے فوج اور جرنیلوں سے الگ کر کے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو نے یہ چیزیں عبداللہ کو دے دی ہیں تو اس نے اُسے کہا تجھے مردوں کے جانچنے اور ان کے اعمال میں تیز کرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے تیرے بیٹے کو صلح و آشتی کا اور عبداللہ کو جنگ کا حاکم بنایا ہے اور جنگ کرنے والا، صلح کرنے والے کی نسبت جو انوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اور مزید یہ کہ عبداللہ کے بعد ہم تیرے بیٹے کے متعلق خوف محسوس کرتے ہیں اگر تیرے بیٹے کے بعد عبداللہ کی بیعت ہو تو ہمیں کچھ خوف نہیں محسوس ہوتا۔

۸۶ھ کو رشید اپنے دونوں ولیعهدوں ایمن اور مامون کے ساتھ حج کو گیا اور دونوں کے عہد ناموں کو لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا۔

رشید کا کعبہ میں عہد کی دستاویز کو لٹکانا | ابراہیم الجہبی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب دستاویز کو کعبہ میں لٹکانے

کے لیے اُونچا کیا گیا تو وہ گر پڑی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اُونچا ہونے سے پہلے ہی گر گئی ہے یہ کام اپنی تکمیل سے قبل ہی بگڑ جائے گا۔

سعید بن عامر بصری سے بیان کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سال حج کیا اور لوگوں نے کعبہ میں عہد نامے کے معاملے کو بڑی بات خیال کیا میں نے ہذیل کے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے اُونٹ کو چلانے ہوئے کہہ رہا تھا کہ

”بیعت کے عہد کو توڑ دیا گیا ہے اور فتنے کی آتش کو بھڑکا دیا گیا ہے۔“

میں نے اُسے کہا تیرا بڑا ہوتو کیا کہہ رہا ہے اس نے جواب دیا میں کہہ رہا ہوں کہ عنقریب تلوا میں سونتی جائیں گی اور فتنہ پیدا ہوگا اور حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہوگا، میں نے کہا تجھے یہ کیسے معلوم ہوا ہے اس نے جواب دیا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اُونٹ کھڑا ہوا ہے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور دو کوسے خون پر گر کر لتھڑ جاتے ہیں خدا کی قسم اس بات کا انجام جنگ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایمن نے رشید کے کہنے کے مطابق حلف اٹھایا اور اس نے کعبہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو جعفر بن یحییٰ نے اُسے جواب دیتے ہوئے کہا

کہ اگر تو نے اپنے بھائی سے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا ، اس نے یہ بات اس کے تین بار حلف اٹھانے پر تین بار کہی ، اسی وجہ سے ام جعفر ، یحییٰ سے کینہ رکھتی تھی وہ بھی رشید کو اس کے خلاف برا بیگنہ کرنے والوں میں سے ایک تھی ، مسعودی بیان کرتا ہے کہ ۱۸۴ھ میں رشید نے مامون کے بعد اپنے بیٹے قاسم کے لیے ولیعہدی کی بیعت لی ، جب مامون کو خلافت ملی تو قاسم کا معاملہ مامون کے ہاتھ میں آ گیا چاہے اُسے برقرار رکھے چاہے اسے دست بردار کرادے ۔

۱۸۴ھ میں حضرت فضیل بن عیاض نے وفات پائی
فضیل بن عیاض کی وفات | ان کی کنیت ابو علی اور وطن خراسان تھا وہاں سے

آپ کو ذہ آگئے تھے ، آپ نے منصور بن المعتمر وغیرہ سے سماع کیا تھا پھر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مکہ چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے سفیان بن عیینہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں رشید نے بلایا ہم اس کے پاس گئے ہمارے بعد فضیل آئے انہوں نے چادر سے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگے اے سفیان ان میں سے امیر المؤمنین کون ہے؟ میں نے رشید کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ امیر المؤمنین ہیں تو انہوں نے رشید سے کہا اے خوب صورت چہرے والے تیرے ہاتھ اور گردن میں اس اُمت کا معاملہ ہے ، تو نے ایک عظیم امر کی ذمہ داری لی ہے تو رشید روپڑا پھر اس نے ہم میں سے ہر آدمی کو ایک ایک تھیلی دی فضیل کے سوا سب آدمیوں نے تھیلیوں کو قبول کر لیا ، رشید نے اُسے کہا اے ابو علی اگر تو اُسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا تو اسے کسی قرص دار کو دے دینا ، کسی بھوکے کو سیر کر دینا یا کسی منگے کو کپڑا پہنا دینا ، مگر انہوں نے تھیلی لینے سے معافی چاہی ، جب ہم باہر نکلے تو میں نے انہیں کہا اے ابو علی ، آپ نے غلطی کی ہے آپ اُسے لے کر نیکی کے راستے پر خرچ کر دیتے تو انہوں نے میری ڈاڑھی پکڑ لی پھر کہنے لگے اے ابو محمد تو ملک کا فقیہ اور منظور نظر ہو کر اس قسم کی غلط بات کہتا ہے اگر یہ تھیلی ان لوگوں کے لیے طیب ہوتی تو میرے لیے بھی طیب ہوتی ۔

موسلی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ، رشید
موسلی بن جعفر کی وفات | کی حکومت کے پندرہ سال گزرنے پر ۱۸۶ھ میں ۵۴ سال

کے عمر میں بغداد میں زہر خوردانی سے وفات پا گئے ، ہم نے رسالہ " بیان اسماء الائمة القطیعة من الشیعة " میں ان کے اور ان کی ماؤں کے نام اور قبور کی جگہوں اور عمروں کے اندازوں

کو بیان کیا ہے اور یہ کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے باپ کے ساتھ کتنا عرصہ زندہ رہا ہے اور کس نے اپنے اجداد کو پایا ہے، اسے بھی بیان کیا ہے۔

رشد کے متعلق الغنابی کے اشعار | کلتوم الغنابی، رشید کے متعلق اپنے اشعار میں
کتاب ہے ۷

وہ ایک ایسا امام ہے جس کی ہتھیلی کی انگلیاں دین کے عصا کو پکڑے رکھتی ہیں جس کی لکڑی نیکی کرنے سے روکی گئی ہے، وہ ایک آنکھ ہے جس کی نگاہ مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے خواہ وہ مخلوق نزدیک ہو یا دور اس کے لیے ایک جیسی بات ہے وہ بیدار آدمی سے زیادہ سنتا ہے اور رات شورے کرتے گزارتا ہے اور اس کے اندر امانتیں ہیں جن کے بارے میں وہ تدابیر کرتا ہے جب کوئی شخص مصیبت کی تہ سے اُسے پکارتا ہے تو وہ اس کی بات کو سنتا ہے اور اُسے کافی ہو جاتا ہے اور اُسے دوبارہ آواز نہیں دینی پڑتی۔“

بیوت بن مزروع بیان کرتا ہے کہ مجھے خالد نے عمرو بن الغنابی کا ابو نو اس سے چڑھنا | بحر جاحظ سے بتایا وہ کہتا تھا کہ غنابی، ابو نو اس کی قدر

منزلت سے چڑھتا تھا، ایک دن ابو نو اس کے ساتھی نے اُسے کہا تو ابو نو اس کی قدر و منزلت کے کیسے چڑھتا ہے اس نے تو یہ اشعار کہے ہیں ۷

”جب ہم کسی اچھے کام کی وجہ سے تیری تعریف کرتے ہیں تو تو ہماری تعریف

سے بالا ہوتا ہے اور جب ہم تیرے سوا، کسی اور کی مدح کریں تو ہمارا

تو ہی ہوتا ہے۔“

غنابی نے کہا یہ سرفہ ہے، اس نے کہا کس کا، اس نے کہا ابو الہذیل الجمعی کا، اس نے کہا وہ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ وہاں پر کہتا ہے ۷

”اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ کیا ہی اچھا نوجوان ہے تو اس اچھے سے مراد اس

منغیرہ ہوتا ہے عورتیں اس جیسا جوان چننے سے بانجھ ہو گئی ہیں۔“

اس نے کہا اس نے یہ بہت اچھا کہا ہے کہ ۷

وہ شراب ان کے جوڑوں میں اس طرح چلتی ہے جیسے صحت، بیماری کے

اندر چلتی ہے۔“

اس نے کہا یہ بھی سرفہ ہے اس نے پوچھا کس کا، اس نے کہا شوسہ فقعی کا، اس نے

کہا وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ

”جب کوئی بیمار اس کے ڈاکٹر کو کھولتا ہے تو اس میں اس کی صحت چرطھ جاتی ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اگر اس میں سے کچھ شراب اندر چلی جائے تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ گذشتہ ایام میں بھی بیمار نہ تھا۔“

اس نے کہا اس نے یہ بہت اچھا کہا ہے کہ

”اموال صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کی ہتھیلیاں انہیں خرچ کریں اور ان کے پاؤں، منبر کی لکڑیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔“

اس نے کہا یہ بھی سترقہ ہے اس نے کہا کس کا اس نے کہا مروان بن ابی حفصہ کا، اس

نے کہا وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ کہتا ہے۔

”کہ اموال صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کی ہتھیلیاں انہیں خرچ کریں اور ان کی زبانیں عالمانہ گفتگو کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور وہ سخاوت میں ایک روز ہواؤں سے مقابلہ کرتے ہیں اور دوسرے روز فصیح الکلام خطیب سے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ ابو نو اس کا ساتھی خاموش ہو گیا اور اگر وہ اس کے سب اشعار

بھی سنانا تو وہ اسے سترقہ کہہ دیتا۔

ابوالعباس احمد بن یحییٰ تغلب بیان کرتا ہے کہ ابوالقناہیہ، عتبہ کے بارے میں رشید سے بہت سوال کیا کرتا تھا تو اس نے اس سے

وعدہ کیا کہ وہ اس سے اس بارے میں دریافت کرے گا، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ اسے

جیندے گا اور اسے بہت سامان دے گا پھر رشید کسی کام میں مشغول ہو گیا اور ابوالقناہیہ

اس تک بار باری حاصل نہ کر سکا تو اس نے مسرور خادم کو تین پنکھے دے دیے کہ وہ انہیں لے کر مسکرتے

ہوئے رشید کے پاس لے گیا وہ پنکھے اکٹھے تھے، اس نے ان میں سے ایک پر یہ تحریر

پڑھی۔

”اور میں نے اپنی ضرورت کے لیے ہوا کو سونگھا تو میں نے اس میں اس کی

دونوں ہتھیلیوں کی خوشبو محسوس کی۔“

رشید نے کہا ، خبیث نے بہت ہی اچھا شعر کہا ہے اور دوسرے بچھے پر لکھا تھا
 ”میں نے اپنے آپ کو تیری امید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جو تیرا چال
 نہیں رکھتی کہ مجھے اور نشانات کو تیری طرف لے جائے۔“

اس نے کہا اس نے بہت اچھا شعر کہا ہے اور تیسرے بچھے پر لکھا تھا
 ”میں بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہوں پھر میں کہتا ہوں مایوس نہ ہو جو شخص
 کامیابی کا ضامن ہوا ہے وہ شریف آدمی ہے۔“

رشید نے کہا اللہ اس کا ستیاناس کرے اس نے کیا ہی اچھا شعر کہا ہے پھر اس نے اُسے
 بلایا اور کہا اے ابوالغناہیمہ میں تیرا ضامن ہوا تھا ، اور کل انشاء اللہ ہم تیری ضرورت کو پورا
 کر دیں گے اس نے غنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے تجھ سے کچھ کام ہے ، رات کو اپنے گھر
 پر میرا انتظار کرنا ، اس نے اس بات کو بہت بڑا خیال کیا اور اس کے پاس معافی طلب
 کرتی ہوئی آئی ، رشید نے حلف اٹھا کر کہا کہ وہ اس سے اپنی ضرورت کا ذکر اس کے گھر پر
 ہی کرے گا جب رات ہوئی تو وہ اپنے خادمانِ خاص کے ساتھ اس کے پاس گیا اور اس
 سے کہنے لگا میں اس وقت تک تجھ سے اپنی ضرورت کا ذکر نہیں کروں گا جب تک تو اس
 کے پورا کرنے کی ضمانت نہ دے اس نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں اور ابوالغناہیمہ کے
 معاملے سے سوا ، آپ کا ہر حکم مجھ پر نافذ ہوگا کیونکہ میں نے تیرے باپ رضی اللہ عنہ کے
 سامنے ہر وہ قسم اٹھائی ہے جو ہر نیک اور بڑا آدمی اٹھاتا ہے اور بہتہ پابیت اللہ کی
 طرف جانے کی قسم کھائی ہے اور جب میں ایک حج ادا کر چکتی ہوں تو دوسرا حج مجھ پر
 واجب ہو جاتا ہے اور میں کفارہ پر اکتفا نہیں کرتی ، جب آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو میں
 اُسے صدقہ کر دیتی ہوں ہاں جس چیز پر میں نماز پڑھتی ہوں اُسے صدقہ نہیں کرتی پھر
 وہ رشید کے سامنے رونے لگ گئی تو اُسے اس پر رحم آ گیا اور وہ واپس چلا گیا اور دوسرے
 دن صبح کو ابوالغناہیمہ اس کے پاس گیا اُسے اپنی کامیابی پر یقین تھا تو رشید نے اُسے
 کہا خدا کی قسم میں نے تیرے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور مسرور ، حسین اور رشید
 وغیرہ اس بات کے گواہ ہیں اور اس نے اُسے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا۔ ابوالغناہیمہ
 کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں کچھ دیر کھڑا رہا مجھے اپنے بارے میں
 کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں پھر میں نے کہا کہ اب میں اس سے مایوس ہو گیا ہوں کیونکہ

اس نے آپ کو جواب دے دیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بعد وہ کسی کی بات نہیں مانے گی، تب ابوالعتاہیہ نے اُوئی لباس پہن لیا اور اس بارے میں یہ شعر کہے۔
 ”میں نے تجھ سے اُمیدیں منقطع کر لی ہیں اور سواری کی پشت سے اپنا کجاوہ اتار لیا ہے اور میں اپنی پسلیوں کے درمیان مایوسی کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں اور اب میں سفر و حضر سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ جب عقبہ کے متعلق ابوالعتاہیہ کے اس شعر کے بارے میں رشید کو اطلاع ملی کہ

”لوگو! اس بات کو سن لو کہ خلیفہ کی ایک بہرنی نے مجھے نکار کر لیا ہے اور میں

خلیفہ کی بہرنی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔“

تو رشید نے غضب ناک ہو کر کہا کیا وہ ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے اس نے یہ لغو حرکت کی ہے اور اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا اور اُسے تنجیب کے سپرد کر دیا جو سزا دینے پر مقرر تھا وہ بڑا بد خو اور سخت مزاج آدمی تھا تو ابوالعتاہیہ نے کہا

”اے تنجیب مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کر، یہ حکم اس کی رائے سے نہیں

دیا گیا بلکہ میرے خیال میں یہ اس کے آسمان کی بجلی کے آثار میں سے ہے۔“

جب قید خانے میں اس کا قیام طویل ہو گیا تو اس نے کہا

”تو تو صرف رحمت اور سلامتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ذمہ و عزت میں زیادہ

کرے مجھے بنایا گیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے پس کون مجھے تیری رضامندی

کی نشانی دکھائے۔“

رشید نے کہا اس کے باپ کی قسم اگر میں اُسے دیکھتا تو قید نہ کرتا، میں نے صرف

اس لیے اُسے قید کیا ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا اور اس کے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔

اور ابوالعتاہیہ کہتا ہے

”ہمیں موت کے ذکر کے وقت ڈر لگتا ہے اور ہم دنیا سے دھوکا کھا کر لہو

لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا کے بیٹے ہیں حالانکہ ہمیں کسی اور

بات کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میں جس حال میں ہوں یہ ایک محبوب چیز ہے۔“

پھر وہ کہتا ہے ۛ

”اس کی موتیں گھات میں ہیں اور اس کا عیش کدر ہے اور اس کی مشقت کم داد و دہش والی ہے اور اس کی حکومت جانے والی ہے۔“

پھر کہتا ہے ۛ

”آدمی کا لمبی عمر پانا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا نیا ہونے کے بعد بوسیدہ ہو جانا ہے اور اس بیدار ہونے والے پر تعجب ہے جو اس چیز کو صنایع کر دیتا ہے جو اُسے سونے کے دن کام آنے والی ہے۔“

اور کہتا ہے ۛ

”دنیا کی خیانت سے بے خوف نہ ہو وہ تیری طرح کے کئی آدمیوں سے پہلے خیانت کر چکی ہے، تمام دنیا اس کی مذمت پر متفق ہے مگر میں ان میں سے کسی کو تارک الدنیا نہیں پاتا۔“

اور کہتا ہے ۛ

”تو صرف عاریتہ چیزیں لینے والا ہے جنہیں تو عنقریب واپس کرے گا اور عاریتہ لی ہوئی چیز واپس کی جاتی ہے وہ شخص زندگی کی لذت کا کیسے خواہشمند ہو سکتا ہے جس کے سانس گنے ہوئے ہیں۔“

اور کہتا ہے ۛ

”تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں اور جب ایک سانس ان میں سے لیا جاتا ہے تو اس کا ایک جز کم ہو جاتا ہے اور جو چیز ہر آن تجھے زندہ رکھے ہوئے ہے وہی تجھے مارے گی اور تجھے وہ حدی خوان حدی سنائے گا جو تجھ سے ٹھٹھا نہیں کرے گا۔“

”اے موت میں تجھ سے کوئی چارہ نہیں پاتا اور میں خوفزدہ کرنے والی چیز کے پاس آؤں گا اور تو کنارہ کشی نہیں کرے گی، تو نے میرے بڑھاپے پر اس طرح حملہ کیا ہے جیسے بڑھاپے نے میری جوانی پر حملہ کیا تھا۔“

اور کہتا ہے ۛ

”جن باتوں کو میں بھول چکا ہوں ان میں موت کو بھی بھول گیا ہوں گویا میں

نے کسی کو مرتے دیکھا ہی نہیں کیا ہر زندہ کا انجام موت نہیں پھر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں کھو جانے والی چیزوں کی طرف جلدی نہیں کرتا۔ اور کہتا ہے ۔

”مجھے خاموش قبریں نصیحت کرتی ہیں اور قبریں پوشیدہ رہنے والے تجھے رلاتے ہیں اور بوسیدہ ہڈیوں اور قیدی صورتوں سے بات کرتی ہیں۔ اور قبروں میں تجھے تیری قبر دکھلاتی ہیں حالانکہ تو زندہ ہے اور ابھی فوت نہیں ہوا۔“

اور کہتا ہے ۔

”اور گھر کو چونا گچ کرنے والا اس لیے چونا گچ کرتا ہے کہ اس کے سائے تلے قیام کرے مگر اس نے تو قبروں میں تو سکونت اختیار کر لی ہے اور اس کا گھر آباد نہیں ہوا۔“

اسحق موصلی کا رشید کو گانا سنانا | اسحق بن ابراہیم موصلی بیان کرتا ہے کہ ایک شب میں رشید کو گانا سنا رہا تھا کہ وہ میرے گانے سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، گانا گاتے جاؤ، میں مسلسل گاتا رہا یہاں تک کہ وہ سو گیا اور میں بھی خاموش ہو گیا، میں نے اپنی سازنگی اپنی گود میں رکھ لی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، کیا دیکھنا ہوں کہ ایک خوب رو دراز قد جوان ریشمی لباس زیب تن کیے، خوب صورت ہیئت کے ساتھ داخل ہوا اور سلام کہہ کر بیٹھ گیا میں اس کے اس جگہ پر اس وقت بلا اجازت آنے پر بہت متعجب ہوا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ رشید کا کوئی بیٹا ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں، ہم نے اُسے نہ دیکھا ہوا، اس نے سازنگی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اُسے لے کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اُسے بجانے لگا، میں نے دیکھا کہ اس نے سازنگی کو سب مخلوق سے خوب صورت طریق پر بجایا پھر اس نے اُسے درست کیا، میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا درست کیا پھر اس نے ایک ضرب لگائی تو میرے کانوں نے اس سے بہتر آواز نہ سنی تھی پھر وہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ۔

”اُسے دوستو! مجھے جڈا ہونے سے پہلے بار بار پلاؤ اور مجھے صاف اور خالص شراب لاکر پلاؤ، قریب ہے کہ صبح کی روشنی، تار پکی کورسوا کر دے

اور رات کی قبض بھٹ جائے۔

پھر اس نے سارنگی کو اپنی گود سے رکھ دیا اور کہنے لگا اے اپنی ماں کی شرمگاہ کو کاٹ کھانے والے، جب تو گانا گائے تو اس طرح گایا کہ، پھر وہ باہر چلا گیا میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں نے دربان سے کہا ابھی یہاں سے کون جو ان باہر گیا ہے اس نے کہا نہ یہاں پر کوئی آیا ہے اور نہ گیا ہے میں نے کہا ابھی میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا ہے جو اس اس طرح کا تھا اس نے کہا خدا کی قسم نہ کوئی اندر آیا ہے اور نہ باہر گیا ہے تو میں حیران ہو کر رہ گیا اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور رشید نے بیدار ہو کر پوچھا تیرا کیا حال ہے تو میں نے اُسے سب واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا تو کسی شیطان سے ملا ہے پھر کہنے لگا مجھے دوبارہ وہ گانا سناؤ، میں نے دوبارہ گانا سنایا تو وہ خوشی سے جھوم جھوم گیا اور مجھے انعام دینے کا حکم دیا اور میں واپس چلا آیا۔

ط ابراہیم موصلی بیان کرتا ہے کہ ایک دن رشید کے ہاں گلوکاروں کی ایک پارٹی

رڈ سا بھی حاضر تھے، میں بھی ان میں موجود تھا ہمارے ساتھ مسکین مدنی بھی موجود تھا جو اب وقت کے نام سے مشہور تھا اور بڑی اچھی سُتر میں گانا تھا، رشید نے نبیذ کے نشہ میں سُتر کی تجویز پیش کی اور ستار نواز ابن جامع کو اس سُتر میں گانے کا حکم دیا اس نے گایا مگر وہ خوش نہ ہوا پھر گلوکاروں کی پارٹی نے اس سُتر میں گایا مگر اُسے مزہ نہ آیا تو ستار نواز نے مسکین مدنی سے کہا کہ امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ اگر تو اس سُتر میں اچھی طرح گاسکتا ہے تو گانا گا، ابراہیم بیان کرتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر گایا تو ہم سب حیرت سے خاموش ہو گئے کہ اس نے ہماری موجودگی میں کس جرأت کے ساتھ اس سُتر میں گایا ہے جس میں ہم خلیفہ کے منشا کو پورا نہیں کر سکے، ابراہیم بیان کرتا ہے کہ جب وہ گانے سے فارغ ہوا تو میں نے رشید کو بلند آواز سے کہنے سنا، اے مسکین اسے دوبارہ گاؤ تو اس نے پوری دلجمعی اور قوت و نشاط کے ساتھ اسے دوبارہ گایا اور نہایت شان دار رنگ میں گایا تو رشید نے کہا اے مسکین تو نے کمال کر دیا ہے اور ستار ہمارے اور اس کے درمیان رکھ دی گئی، مسکین کہنے لگا امیر المومنین! اس سُتر کا ایک عجیب واقعہ ہے اس نے کہا، وہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ میں آلِ نبی کے ایک آدمی کا درزی غلام تھا میرے آقا نے مجھ پر ٹیکس لگایا ہوا تھا اور میں اُسے

ہر روز دو درہم دیا کرتا تھا، جب میں ٹیکس دے دیتا تو میں اپنی ضروریات میں لگ جاتا، میں گانے کا بہت شوقین اور دلدادہ تھا ایک روز میں نے ایک طالبی کی قمیص سلانی کی تو اس نے مجھے دو درہم دیے اور میں نے صبح کا کھانا اس کے ہاں کھایا، اس نے مجھے کئی پیالے شراب پلائی، میں خوش خوش ہاں سے نکلا تو مجھے ایک سیاہ فام لونڈی ملی جس کی گردن پر ایک گھڑا تھا اور وہ اس سرسبز گاہ ہی تھی پس اس نے مجھے ہر انسانی حاجت سے غافل کر دیا میں نے اُسے کہا تجھے اس قبر اور منبر والے کی قسم کہ تو مجھے اس سرسبز گانہ سنا اس نے جواب دیا کہ اس قبر و منبر والے کی قسم ہے کہ میں دو درہم لیے بغیر یہ گانا نہیں سناؤں گی امیر المومنین! خدا کی قسم میں نے دونوں درہم نکال کر اُسے دیے تو اس نے گھڑے کو اپنے کندھے سے اتارا اور کھڑی ہو گئی اور وہ مسلسل اسے دہراتی رہی یہاں تک کہ یہ میرے سینے میں نخریہ ہو گیا پھر میں اپنے آقا کے پاس واپس آیا تو اس نے مجھے کہا اپنا ٹیکس لاؤ میں نے کہا وہ تو اس اس طرح خرچ ہو گیا ہے اس نے کہا، بکو اسی! کیا میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ایک جہ کی کمی کے متعلق بھی تیرا عذر قبول نہیں کروں گا، اس نے مجھے منہ کے بل گرالیا اور مجھے پوری قوت کے ساتھ سچاس سو ٹھیاں ماریں اور میرے سر اور ڈاڑھی کو مونڈ دیا، امیر المومنین! میں نے نہایت بڑے حال میں رات گزار دی اور تکلیف کے باعث مجھے سر بھی بھول گئی، جب صبح ہوئی تو میں اس جگہ کی طرف گیا جہاں میں اُسے ملا تھا میں جہان کھڑا تھا کیونکہ میں اس کے نام اور گھر سے واقف نہ تھا، اچانک میں نے اُسے آتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے تمام تکلیف بھول گئی اور میں اس کی طرف چل پڑا اس نے کہا رب کعبہ کی قسم کیا تو وہ سر بھول گیا ہے، میں نے کہا، جو بات تو نے کہی ہے وہی ہوئی ہے اور میں نے اُسے وہ سب حال بتایا جو میرے ساتھ سر اور ڈاڑھی منڈانے کے معاملے میں گزرا تھا، اس نے کہا، قبر اور صاحب قبر کی قسم میں دو درہم کے بغیر گانا نہ سناؤں گی، میں نے اپنی قبیحی نکال کر دو درہم میں اس کے پاس رہن رکھ دی تو اس نے اپنے سر سے گھڑا اتارا اور کھڑی ہو گئی اور گانے لگی پھر کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تو چار درہم کے بدلے میں خلیفہ سے چار ہزار دینار لے گا پھر وہ گانے اور گھڑا بجانے لگی اور مسلسل اس گانے کو دہراتی رہی یہاں تک کہ وہ گانا میرے سینے میں پیوست ہو گیا پھر وہ چلی گئی اور میں ڈرنا ہوا اپنے آقا کے پاس واپس آ گیا اس نے کہا اپنا ٹیکس لاؤ تو میری زبان خشک ہو گئی، اس نے کہا بکو اسی! جو کچھ تیرے ساتھ کل گزری ہے کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہوئی،

میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے کل اور آج کے ٹیکس میں یہ ستر خریدی ہے اور میں نے گانا شروع کر دیا، اس نے مجھے کہا تیرا بڑا ہوا، تمہارے پاس دو دن سے یہ ستر موجود ہے اور تو نے مجھے بتایا نہیں اس کی بیوی کی طلاق ہو اگر تو مجھے کل بتاتا تو میں تجھے آزاد کر دیتا، اب یہ تیرے بال اگنے تک میں نے تجھے معاف کیا، راوی بیان کرتا ہے کہ رشید منس کر کہنے لگا تو ہلاک ہو جائے مجھے معلوم نہیں تیری بات اچھی ہے یا تیرا گانا اچھا ہے، اور جو کچھ سیاہ قام لونڈی نے کہا تھا اس کی ادائیگی کا حکم میں نے تیرے لیے دے دیا ہے تو وہ مال لے کر واپس چلا گیا، شعر یہ ہیں۔

” فرودگا ہوں پر پھٹ کر ذرا غور کر، کیا گھروں میں کوئی فرودگاہ کا پتہ دینے والا ہے، گھروں میں پوشیدگی کے کوئی آثار نہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ غنقریب میں پوشیدگی کو محمل میں اٹھاؤں گا۔“

رشید کا گھوڑ دوڑ کر انا | ایک روز رشید نے رقبہ میں گھوڑ دوڑ کروائی، جب گھوڑے چھوڑ دیے گئے تو وہ میدان کے درمیان اپنی جگہ پر آ گیا جہاں گھوڑے اس کے پاس آ گئے وہ اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو گیا اور ان کے آگے آگے سبقت لے جانے والے گھوڑے تجھے جنہیں سوار برابر چال میں چلا رہے تھے اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھتا تھا اس نے غور سے دیکھ کر کہا خدا کی قسم میرا گھوڑا پھر اس نے دوسرے پر غور کیا تو کہنے لگا میرے بیٹے مامون کا گھوڑا، دونوں گھوڑے لگام کی رسیاں چبانے ہوئے گھوڑوں کے آگے نکل آتے، رشید کا گھوڑا اول اور مامون کا دوم تھا، اس بات سے وہ بہت خوش ہوا پھر اس کے بعد اور گھوڑے آئے جب یہ مجلس اختتام پذیر ہوئی تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔

اصمعی نے — جو اس موقع پر موجود تھا اور اس نے فضل بن ربیع کے لیے رشید کی خوشی کو دیکھا تھا — کہا، اے ابو العباس! یہ ایک الیادن ہے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے امیر المومنین تک پہنچا دے فضل نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین! یہ اصمعی دو گھوڑوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امیر المومنین کے سرور میں اضافہ کرے، اس نے کہا، لاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، جب یہ قریب ہوا تو اس نے کہا اصمعی تمہارے پاس کیا ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین! آپ اور آپ کا بیٹا آج گھوڑوں پر اس

طرح تھے جیسے فضاء کنتی ہے کہ

اس نے اپنے باپ سے مقابلہ کیا پس وہ دونوں آئے اور وہ دونوں چادر پر پہنچنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے وہ جب نکلے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ دو باز گھونسے پر گرے ہیں اس کے والد کے چہرے کا پہلو آگے تھا اور وہ اپنی سرکشی میں دوڑے جا رہا تھا اگر اُسے عمر کی بڑائی اور بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو اس کا اس کے قریب آنا اولیٰ تھا۔

مچھلی کا تھال ایک ہزار درہم میں | ابراہیم بن ہمدی بیان کرتا ہے کہ میں نے رقبہ میں رشید سے ملاقات کو کہا تو وہ میری ملاقات کے

لیے آیا وہ ٹھنڈے کھانے سے پہلے گرم کھانا کھاتا تھا جب میں ٹھنڈے کھانے رکھ چکا تو اس نے اپنے نزدیکی کھانوں میں مچھلی کے ٹکڑوں کی طرح کے ٹکڑوں کا ایک جام دیکھا تو اس نے ٹکڑوں کو چھوٹا خیال کیا اور کہنے لگا تو نے مچھلی کے ٹکڑوں کی طرح اپنا تھال کیوں چھوٹا کیا ہے میں نے کہا امیر المومنین! یہ مچھلی کی نہ بانیں ہیں اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس جام میں سو نہ بانیں ہیں تو اس کے خادم مراقب نے کہا امیر المومنین! اس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ نہ بانیں ہیں تو اس نے اُسے مچھلی کی قیمت کے متعلق قسم لی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ہزار درہم سے زیادہ کا ذمہ دار ہے پس رشید نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ ایک ہزار درہم نہ لائے کوئی چیز نہیں کھائے گا، جب مال آگیا تو اس نے اُسے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ یہ تیرے اس اسراف کا کفارہ ہوگا جو تو نے مچھلی کے ایک جام پر خرچ کیا ہے پھر اس نے ایک خادم کو جام بچھا کر کہا میرے بھائی کے گھر سے نکل جا اور جو سائل تجھے سب سے پہلے ملے اُسے یہ دے دینا، ابراہیم کہتا ہے کہ رشید نے وہ جام ۲۰۰ دینار میں خریدا تھا، میں نے اپنے ایک خادم کو اس خادم کے ساتھ باہر نکلنے کا اشارہ کیا تاکہ یہ جام جس کو ملے اس سے وہ خرید لے، رشید نے یہ بات سمجھ لی تو اس نے اُسے کہا غلام جب تو یہ کسی سائل کو دے تو اُسے کہنا امیر المومنین تجھے کہتے ہیں کہ اسے دو سو دینار سے کم قیمت میں فروخت نہ کرنا، کیونکہ یہ ان سے بہتر ہے تو خادم نے ایسے ہی کیا، خدا کی قسم میرا خادم اس سائل سے دو سو دینار سے کم میں وہ جام نہ خرید سکا۔

اچھے اور بُرے نام | ابراہیم بن ہمدی بیان کرتا ہے کہ میں اور رشید جنگی کشتی پر بیٹھے تھے

وہ موصل کی طرف جانا چاہتا تھا کھینچنے والے اُسے کھینچ رہے تھے، اشطرنج ہمارے سامنے پڑی تھی، جب ہم فارغ ہوئے تو رشید نے مجھے کہا ابراہیم! تیرے نزدیک اچھے نام کون سے ہیں، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس نے کہا اس کے بعد دوسرا نام، میں نے کہا امیر المومنین کا نام ہارون اس نے کہا بڑے نام کون سے ہیں، میں نے کہا ابراہیم تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا تو بلاک ہو جائے کیا یہ ابراہیم خلیل اللہ کا نام نہیں، میں نے کہا اس نام کی نحوست کی وجہ سے انہیں مرد سے بہت تکالیف اٹھانی پڑیں اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا میں نے کہا بلاشبہ جب اُسے یہ نام دیا گیا تو وہ زندہ نہ رہا اس نے کہا امام ابراہیم، میں نے کہا اس نام کی بدبختی کی وجہ سے مروان جعدی نے اُسے چونے کے برتن میں قتل کر دیا اور امیر المومنین! میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ ابراہیم بن ولید دست بردار ہوا ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن قتل ہوا اور میں نے اس نام کے آدمی کو مقتول، مضروب اور جلا وطن ہی دیکھا ہے اور ابھی میری بات ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ملاح کو ایک کشتی پر بلند آواز سے کہتے سنا اے ابراہیم اے عاصم اس اس طرح اس نے ماں سے مہلت حاصل کی، تو رشید میری طرف متوجہ ہوا میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ نے میرے قول کی تصدیق کر لی ہے کہ منحوس ترین نام ابراہیم ہے تو وہ سنس پڑا یہاں تک کہ اچھے پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔

امراء سے مخاطب ہونے کا طریق | راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک روز اس کے ہاں موجود تھا کہ عبد اللہ کا ایلچی آیا اس کے

ساتھ خیزدان کی طرف بھیجے گئے رومالوں سے ڈھکے ہوئے خوان تھے اور ایک خط بھی تھا جسے رشید پڑھ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ اس سے حسن سلوک کرے اور صلہ دے میں نے کہا امیر المومنین! یہ کون ہے کہ جس کے شکر یہ کو آپ نے لبا کر دیا ہے یہاں تک کہ ہم آپ کو اس کے شکر جمیل میں شامل کرنے لگے ہیں، اس نے کہا یہ عبد اللہ بن صالح ہے پھر اس نے رومال اٹھایا تو خوان ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے ان میں سے ایک میں کشمش، دوسرے میں بندق (ایک درخت کا پھل ہے)، اور دیگر پھل تھے، میں نے کہا امیر المومنین اس میں ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے وہ اس دعا کا مستحق ہے ہاں اگر خط میں کوئی چیز ہو تو اس کا مجھے علم نہیں تو اس نے خط میری طرف پھینک دیا اس میں لکھا تھا کہ امیر المومنین میرے گھر میں میرا ایک باغ ہے جسے میں نے آپ کے احسان سے آباد کیا ہے اس

کے پھل پک چکے ہیں میں نے اس کا ہر پھل لے کر اور اُسے لکڑی کے تھالوں میں رکھ کر امیر المومنین کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کی دعا کی برکت اسی طرح میری طرف پہنچے جیسے آپ کے حسن سلوک کے عطیے مجھے پہنچے ہیں، میں نے کہا خدا کی قسم اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے وہ اس دعا کا مستحق ہو اس نے کہا اے بے عقل کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس نے ہماری ماں خیزران کو عظمت دینے کے لیے ڈالیوں سے مراد خیزران لی ہے (اس نے اپنے خط میں "قضببان" (ڈالی) کا لفظ استعمال کیا تھا)

ایک آدمی کا رشید کو واقعہ سنانا اور اس کا اُسے چار ہزار دینار بدلہ دینا

روایت ہے کہ بنی امیہ کا ایک آدمی رشید کے لیے راستہ میں کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں قصہ کہانیوں کی

مانند ایک کتاب تھی جس میں چار شعر لکھے تھے۔

"اے اللہ کے امین، میں راست باز، عقل مند اور صاحب حسب کے قول کا قائل ہوں۔ آپ کو ہم پر فضیلت حاصل ہے اور ہمیں آپ کی وجہ سے سب عربوں پر فضیلت حاصل ہے، عبد شمس، ہاشم کے پیچھے چلتا تھا اور وہ ناں باپ کے پیروکار تھے پس ہم سے صلہ رحمی کرو کہ عبد شمس، عبد المطلب کا چچا تھا۔"

رشید نے ان اشعار کو اچھا سمجھا اور اُسے ہر شعر کے عوض ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا اور کہا اگر تو ہمیں زیادہ شعر سنانا تو ہم تجھے زیادہ دیتے۔

کھجور کا بنیڈ اچھا ہے یا تازہ کھجور؟

ایک روز رشید، قاضی ابو یوسف اور عبد الوہاب کو فی مجلس میں بیٹھے تھے کہ

تازہ کھجور کا تذکرہ چل پڑا تو ابو یوسف نے کہا کھجور کا بنیڈ تازہ کھجور سے اچھا ہے۔ عبد الوہاب نے کہا تازہ کھجور زیادہ اچھی ہے، رشید نے کہا کھانا حاضر کرو۔

اس نے وہاں موجود بنی ہاشم کے کئی آدمیوں کو بھی بلایا ان سب نے بنیڈ کو ترجیح دی اور تازہ کھجور کو چھوڑ دیا تو رشید نے کہا اے ابو عبد الرحمن انہوں نے بغیر علم کے تیرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، عبد الرحمن نے کہا میں نے اس سے زیادہ ردی کھجور کبھی دیکھی ہی نہیں، ابو یوسف کہنے لگے بنیڈ اور کھجور میں جب اکٹھی ہو جائیں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔

تعزیت و تہنیت عبد الملک بن صالح رشید کے پاس آیا تو وہ بان نے اُسے کہا کہ آج شب امیر المؤمنین کو ایک بچے کا صدمہ پہنچا ہے اور ایک بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا ہے پس ان کی تعزیت کرو، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو کہنے لگا امیر المؤمنین! اللہ نے جس بات کا آپ کو صدمہ پہنچایا ہے اس میں خوشی عطا کرے اور اسے صابر کے لیے ثواب اور شکر گزار کی جزا بنا دے۔

رشید کی بیماری جب رشید کی بیماری بڑھ گئی اور وہ ۱۹۳ھ میں طوس چلا گیا تو اطباء نے اس کی بیماری کو معمولی بتایا، اس نے وہاں موجود ایک ایرانی طبیب کو بلا بھیجا اور اسے متعدد لوگوں کی پیشاب کی بوتلوں میں اپنے پیشاب کی بوتل بھی دکھائی۔ جب طبیب اس کی شیشی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اس پیشاب والے کو کہہ دو کہ وہ مرنے والا ہے اُسے چاہیے کہ وصیت کر دے وہ اس بیماری سے شفا نہیں پاسکتا، رشید رو پڑا اور ان دو اشعار کو بار بار پڑھنے لگا۔

”طبیب اپنی طب اور دوا کے ساتھ قضا و قدر کی قابل خوف چیز کا دفاع نہیں کر سکتا، طبیب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس بیماری سے مرنے والے جس میں بیماریوں سے وہ پہلے لوگوں کو شفا دیا کرتا تھا۔“

اور اس کے ضعف میں اصناف ہو گیا اور لوگوں نے اس کی موت کی افواہ اڑادی تب اس نے سواری کے لیے ایک گدھا منگوایا جب وہ اس پر بیٹھا تو اس کی رانیں پھیل گئیں اور وہ زمین پر نہ ٹھہر سکا، تو اس نے کہا مجھے اتار دو، افواہ اڑانے والوں نے سچ کہا ہے پھر اس نے کفن منگوائے اور ان میں ایک کفن کو پسند کیا اور قبر کھودنے کا حکم دیا جب اس نے قبر میں دیکھا تو کہنے لگا ما اغنی عنی مالید، هلك عنی سلطانیه — پھر اس نے میرے بھائی رافع کو بلایا اور کہنے لگا تم نے مجھے بے قرار کر دیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنی بیماری اور کمزوری کے باعث اس سفر کی مشقت برداشت کی رافع بن لبث کے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، اس نے کہا میں تجھے ایسے قتل کروں گا کہ کسی کو تجھ سے پہلے اس طرح

۱۔ نہ کفایت کیا مجھ کو میرے مال نے، جاتی رہی مجھ سے میری سلطنت۔
(الحاقہ - آیت ۲۸، ۲۹)

قتل نہ کیا گیا ہوگا پھر اس کے حکم سے اس کا ایک ایک عضو الگ کیا گیا، اس کے بعد رافع نے مامون سے امان لے لی، ہم اس کے واقعہ کو کسی اور کتاب میں بیان کر چکے ہیں پھر اس نے اپنی فوج کے ہاشمیوں کو بلا کر کہا، تمام مخلوق مرنے والی ہے اور ہر نئی چیز پڑانی ہونے والی ہے اور جو مصیبت مجھ پر نازل ہو چکی ہے تم اُسے دیکھ رہے ہو میں تمہیں تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں اپنی امانتوں کی حفاظت کرو، اپنے امہ کے خیر خواہ بنو، متخدر ہو، اور محمد اور عبد اللہ (راہن اور مامون) پر نظر رکھو ان میں سے جو اپنے ساتھی کے خلاف بغاوت کرے اُسے بغاوت سے روک دو اور اس کی بغاوت اور عہد شکنی کو بڑا سمجھو، اس نے اس روز بہت سے اموال، جاگیریں اور مکانات لوگوں کو دیے۔

ابوالعتاہرہ میں رشید پر گریہ کناں سے | الریاشی بیان کرتا ہے کہ اصمعی نے کہا میں رشید کے پاس گیا وہ ایک

کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کے رخساروں پر آنسو گر رہے تھے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ پڑ سکون ہو گیا اور اس نے متوجہ ہو کر کہا اے اصمعی بیٹھ جاؤ، کیا جو کچھ ہوا ہے تو نے دیکھا ہے میں نے کہا ہاں، امیر المومنین، اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ رونا کسی دنیا کے کام کے لیے ہوتا تو تو اُسے نہ دیکھتا پھر اس نے ایک کاغذ پھینکا جس میں ابوالعتاہرہ میں جلی خط سے یہ اشعار لکھے تھے۔

”کیا تو اس شخص سے عبرت پکڑنے والا ہے جب وہ صبح کو گذر گیا تو اس سے حویلیاں خالی ہو گئیں اور جب موت نے اُسے پچھاڑ دیا تو اس کے قبیلے نے اس سے برأت کا اظہار کیا، اور جس سے تخت اور منبر خالی ہو گئے، بادشاہ اور دوسرے لوگ کہاں ہیں وہ بھی اسی جگہ چلے گئے جہاں تو جانے والا ہے اے اپنی لذت کے لیے دنیا کو ترجیح دینے والے اور فخر میں مقابلہ کے لیے تیار می کرنے والے، جو کچھ دنیا سے حاصل کر سکتا ہے کرے، کیونکہ اس کا انجام موت ہے۔“

پھر رشید کہنے لگایوں معلوم ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے سوا کسی اور مخلوق کو مخاطب کر رہا ہوں اس کے تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو گیا۔
مسعودی بیان کرتا ہے کہ ہم نے رشید کے جامع اور مختصر حالات گذشتہ کتب

اور اس کتاب میں لکھ دیے ہیں لیکن ہم نے گذشتہ کتب سے اس کتاب میں برا مکہ کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اب ہم الگ باب میں ان کے مختصر حالات لکھیں گے اور ان کے اچھے اور بُرے دنوں کا ذکر کریں گے ، ہم ان کے دیگر نشان دار حالات کو اپنی گذشتہ کتب میں بیان کر چکے ہیں ۔ واللہ ولی التوفیق ۔

براکہ کے مختصر حالات

ان کا چیدہ آدمی — خالد بن برمک | برمک کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی جوڑ
 رائے، دلیری اور عادات میں خالد کے
 مقام کو حاصل نہیں کر سکا، نہ یحییٰ اپنی رائے اور وفور عقل کے باعث اس کے مقام کو
 حاصل کر سکا ہے نہ فضل اپنی جو دو سخا میں اس کی ہمسری کر سکا ہے نہ محمد بن یحییٰ اپنی خوشی
 اور علو ہمتی میں اس تک پہنچ سکا اور نہ موسیٰ بن یحییٰ اپنی شجاعت و بسالت میں اس کا لگا
 کھا سکا ہے جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے متعلق ابوالغول شاعر کا قول ہے کہ
 ”یحییٰ بن خالد کے چاروں لڑکے سردار اور مبتوع ہیں اور جب تو ان کے متعلق
 پوچھے تو ان سب میں بھلائی، متفرق اور مجموعی طور پر پائی جاتی ہے۔“

ان کی نکیت کا سبب | جب ہارون خلیفہ بنا تو اس نے براکہ کو وزیر بنایا پس
 انہوں نے اپنے پاس اموال کو اکٹھا کر لیا حتیٰ کہ اگر
 رشید کو تھوڑے سے مال کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا چنانچہ
 ۱۸۶ھ میں وہ ان پر ٹوٹ پڑا، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کیوں ان پر
 ٹوٹ پڑا، بعض کہتے ہیں کہ اموال کے جمع کرنے کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک طالبی
 شخص ان کے تبصہ میں تھا جسے انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور بعض کچھ اور اسباب بیان کرتے ہیں۔
فضل بن یحییٰ کا شکار میں انہماک اور رشید کے حکم سے اس کے باپ کا اسے واپس لینا | بیان کیا جاتا ہے
 کہ ایک روز

خراسان سے رشید کو ڈاک کے انچارج کا خط آیا یحییٰ بن خالد اس وقت اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس خط میں اس نے لکھا کہ فضل بن یحییٰ امور رعیت سے صرف نظر کر کے لذات اور شکار میں منہمک رہتا ہے رشید نے خط پڑھ کر یحییٰ کی طرف پھینک دیا اور اُسے کہا ابا جی اس خط کو پڑھیے اور اُسے خط لکھیے کہ وہ ان باتوں سے باز آجائے، اس نے رشید کی دوات کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ڈاک کے انچارج کے خط کی پشت پر فضل کی طرف لکھا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تیرا محافظ ہو اور تیری عمر داند کرے امیر المؤمنین کو تیرے متعلق اطلاع مل گئی ہے کہ تو امور رعیت سے صرف نظر کر کے ہمیشہ شکار اور لذات میں منہمک رہتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتے، ایسی باتوں کا عادی بن جو تجھے ذمیت دیں جو شخص بُری یا بھلی بات کا عادی بن جاتا ہے اُسے اس کے ہم عصر اس کی عادت کی وجہ ہی سے

جانتے پہچانتے ہیں والسلام۔ اور اس کے نیچے یہ اشعار لکھے

”دن کو بلند یوں کے حصول میں صرف کر اور محبوب کی ملاقات نہ ہونے پر صبر کر،

یہاں تک کہ رات آجائے اور اس میں عیوب کے چہرے مستور ہو جائیں اور جو

کچھ تو چاہتا ہے جلدی جلدی رات کو کر لے کیونکہ رات عقل مند کا دن ہے اور

کتنے ہی نوجوانوں کو تو زائد خیال کرتا ہے جو رات کو عجیب کام کرتے ہیں

اور رات ان پر اپنے پردے ڈال دیتی ہے اور عیش و عشرت میں شب بسر کرتا ہے حق کی

لذت چھٹی نہیں رہتی اور اس کے متعلق ہر دیکھنے والا دشمن چغلی کرتا ہے۔“

یحییٰ جو کچھ لکھ رہا تھا، رشید اُسے دیکھ رہا تھا جب وہ فارغ ہو گیا تو رشید نے کہا ابا جی

آپ نے کوئی کمی نہیں رہنے دی، جب فضل کے پاس خط پہنچا تو وہ دن بھر مسجد میں رہتا اور اپنے

مشاغل سے باز آ گیا۔

اسحق بن ابراہیم موصلی بیان کرتا ہے کہ میں ایک روز رشید کے پاس تھا کہ برآمدہ نے

شراب منگوائی نیز یحییٰ بن خالد نے ایک لونڈی منگوائی جس نے یہ اشعار گائے کہ

”میں بے خواب رہتا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں بے خوابی پر عاشق ہو گیا

ہوں اور میں یوں گپھل گیا ہوں جیسے بیماری میرے لیے ہی پیدا کی گئی ہے اور

میرے آنسوؤں نے میرے دل پر گر کر اُسے غرق کر دیا ہے اے وہ شخص جو

جلتے ہوئے آدمی کو پانی میں ڈوبتے دیکھ رہا ہے۔“

رشید نے پوچھا یہ کس کے شعر ہیں، اُسے بتایا گیا کہ یہ خالد بن یزید کاتب کے ہیں، اُس

نے کہا اے میرے پاس لاؤ، خالد بیان کرتا ہے کہ میں حاضر ہوا تو اس نے لونڈی سے کہا دوبارہ گاؤ، اس نے دوبارہ گایا تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ شعر کس کے ہیں، میں نے کہا امیر المؤمنین میرے ہیں، اسی اثناء میں ایک خادمہ سیب لے کر آئی اس پر خوشبو کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ "تیری خوشی نے، تجھے میرے وعدے سے غافل کر دیا ہے، تو نے اپنے سیب کو یاد دہانی بنا دیا ہے۔"

دشید نے دوسرا سیب لیا تو اس پر لکھا تھا کہ "تو نے اپنے وعدے کا تقاضا کیا ہے لیکن میں نے اُسے فراموش نہیں کیا، میرا یہ سیب، معذرت ہے۔"

پھر اس نے اُس سے کہا اے خالد! اس کے متعلق کچھ کہو تو اس نے کہا کہ سیب سے جو موتی نکلے ہیں وہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ مرغوب ہیں وہ سُرخ و سفید ہے اور اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے گویا وہ تحفہ دینے والے کے رُخسار سے توڑا گیا ہے۔"

جعفر برہکی، اہمعی کے پاس | جاحظ ایک شخص سے روایت کرتا ہے کہ اس نے انس بن ابی شیخ سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ایک روز جعفر بن یحییٰ سواد ہوا، اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ ایک ہزار دینار لائے اور اُسے کہا کہ میں اہمعی کے پاس جا رہا ہوں جب اہمعی مجھ سے بات کرے اور تو مجھے مسکراتا دیکھے تو ان دیناروں کو اس کے سامنے رکھ دینا، جعفر، اہمعی کے ہاں گیا اہمعی اُسے عجیب غریب ہنسانے اور خوش کرنے والی باتیں سنانے لگا مگر وہ نہ ہنسا، اور اس کے ہاں سے چلا آیا تو انس بن ابی شیخ نے اُس سے کہا میں نے آپ کی یہ عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ نے اہمعی کے لیے ایک ہزار دینار کا حکم دیا اور اس نے ہر ہنسانے والی بات سے آپ کو ہنسانے کی کوشش کی ہے اور آپ کا یہ دستور بھی نہیں ہے کہ جو مال ایک دفعہ بیت المال سے نکل جائے اُسے آپ بیت المال میں واپس کر دیں۔ جعفر نے اُسے کہا تیرا بڑا ابو _____ پہلے ہمارے اموال سے ایک لاکھ درہم اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، پھر بھی میں نے اس کی جگہ کوٹوٹا پھوٹا اس کی چادر کو بوسیدہ اور اس کی نشست کو میلا کچھلا پایا ہے حالانکہ میں لسان حق کو اس کی زبان سے بولتے دیکھتا ہوں اور نعمت کا اظہار اس کی مدح و ہجو سے زیادہ قابل تعریف اور

قابل ہوتا ہے، پس جب اس کے ہاں نعمت کا اظہار ہوتا ہی نہیں اور نہ نعمت اس کی شکر گزاری کرتی ہے تو میں اُسے کس لیے دوں۔

رشید اور جعفر کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے

”چاہیے کہ رشید اپنے اختلافات کو کم کرے اور جس بات نے اس کے عہد کو کمزور کر دیا ہے وہ یہ کہ اس نے ایک بیعت کے ساتھ مزید ایک بیعت لے لی ہے اور اس بیعت کے لیے اکیلا جعفر ہی کھڑا ہوا ہے اور بنو بکر نے اس کی سلطنت کی بنیاد ڈالی ہے اور اس کے وارث کے لیے اس کے عہد کو سچتہ کیا ہے۔“

یحییٰ بن خالد کی ایک مجلس | یحییٰ بن خالد، صاحب علم و معرفت اور بحث و نظر تھا

اس کی ایک مجلس میں اہل اسلام کے متکلمین اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی جمع ہوئے تھے ایک روز جب کہ یحییٰ کے ہاں ان کا اجتماع تھا اس نے انہیں کہا کہ تم نے اخفاء، ظہور، قدم و حدوث، نفی و اثبات، حرکت و سکون، اجتماع و افتراق، وجود و عدم، کشش و عدم کشش، اجسام و اعراض، جرح و تعدیل، صفات کے نفی و اثبات، منطقت و افعال، کمیت و کیفیت، مضاف اور امامت کے متعلق کہ یہ نص سے ہے یا انتخاب سے ہے اور دیگر کلام کے اصول و فروع کے متعلق بہت کچھ بیان کر دیا ہے، اب بغیر کسی اختلاف کے عشق کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرو۔

عشق کے متعلق ان کی گفتگو | امامیہ کے مشہور متکلم علی بن سہب نے کہا اے وزیر، عشق، موافقت

کے سمندر، احسان کی آسودگی اور جوہر کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی وسعت کی کوئی حد نہیں اس کی زیادتی میں جسم کا نقصان ہے۔

ابو مالک حضرمی خارجی نے کہا، اے وزیر! عشق، جادو کی پھونک ہے جو انگارے

سے زیادہ گرم اور پوشیدہ ہے اور یہ دو طبیعتوں اور دو شکلوں کے باہم ملنے سے پیدا ہوتا ہے وہ دل میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے بادشہ ریت کے درمیان سرایت کر جاتی ہے یہ عادات کا بادشاہ ہے عقلیں اس کی مطیع ہیں اور آراء اس کے سامنے عاجزی کرتی ہیں۔

بصریوں کے شیخ محمد بن الہذیل معتزلی نے کہا، اے وزیر! عشق دلوں اور آنکھوں پر

مہر لگا دیتا ہے، جسم میں چرٹھ جاتا ہے اور جگر میں تیزی سے اثر کرتا ہے صاحبِ عشق ظنون و ادہام کو تبدیل کرتا رہتا ہے اس کی نظر میں کوئی چیز صاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس سے خاص وعدہ کی ہوئی بات ہوتی ہے، مصائب اس کی طرف جلد آتے ہیں وہ موت کے شریعت کا جرعہ گمشدگی کے حوض کا بقیہ ہوتا ہے البتہ اس کی طبیعت میں بشاشت اور اخلاق میں نثالتگی ہوتی ہے اور صاحبِ عشق سخی ہوتا ہے، جو روکنے کے داعیہ کی طرف کان نہیں لگاتا اور نہ ہی ملامت کے داعیہ سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔

ہشام بن حکم کوئی نے جو اپنے وقت میں امامیہ کا شیخ اور اپنے دور کا بڑا صنعت کار آدمی تھا کہا، اے وزیر! عشق زمانے کا لگایا ہوا ایک جال ہے وہ اس جال کے ذریعے ان لوگوں کو شکار کرتا ہے جو مصائب میں خالص دوستی کرتے ہیں، جب کوئی عاشق اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے تو وہ سلامت رہنے یا جلد نجات پانے سے دور ہو جاتا ہے، اس کا بچاؤ اعتدال، میانہ روی اور ارادے کی سختگی سے ہوتا ہے اس کا مقتل اس کے جگر کی تہ اور دل کی جان میں ہوتا ہے وہ فصیح زبان کو گمراہ ڈال دیتا ہے اور مالک کو مملوک اور آقا کو غلام بنا دیتا ہے یہاں تک کہ غلام کے لیے اس کا غلام عاجزی کرتا ہے۔

نظام ابراہیم بن لیسا معتزلی نے جو اپنے دور میں بصریوں کا دانشور تھا، کہا اے وزیر عشق، سراب سے زیادہ رفیق اور شراب سے زیادہ نرم روی والا ہے وہ معطر مٹی سے بنا ہے جسے جلالت کے برتن میں گوندھا گیا ہے، میانہ روی کی صورت میں شیریں پھل ہے اور جب زیادہ بڑھ جائے تو عقل کو خراب کرتا اور قاتل بن جاتا ہے اور ایسا علاج فساد بن جاتا ہے جس کی اصلاح کی امید نہیں کی جاسکتی، اس کا بادل بہت پانی والا ہوتا ہے جو دلوں پر برستا اور فریفتگی کا گھاس اگاتا اور شوق کا پھل دیتا ہے، اس کا مارا ہوا ہمیشہ سوزش میں پڑا رہتا ہے وہ تنگ حال، زمانے کو دیکھنے والا اور لمبی سوچ والا ہوتا ہے وہ رات کو بے خواب اور دن کو مضطرب ہوتا ہے اس کا روزہ مصیبت اور افطاری شکایت ہوتی ہے۔

اس کے بعد چھپے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں اور ان کے ساتھ والے لوگوں نے اظہار خیال کیا یہاں تک کہ مختلف الفاظ متقارب اور متناسب مفہوم میں عشق اور اس کے دلائل کے بارے میں بہت طویل گفتگو ہوئی۔

مَسْعُودِی بِنِیَانِ کَرْتَا ہے کھ مَتَقَدِمِیْنِ وَ مَتَاخِرِیْنِ نَعْمَ اَبْتَدَا
عَشَقْ اَوْر اِسْ کِی عِلَّتْ قَوْعْ

یہ نظریہ سماع، اختیار و اضطرار سے ہوتا ہے؟

اور نہ ہونے کے بعد اس کے ہو جانے اور ہو جانے کے بعد اس کے ختم ہو جانے کی علت کیا ہے؟ اور کیا یہ نفسِ ناطقہ کا فعل ہے یا جسم اور اس کی طبیعت کا؟

بقراط کا قول ہے کہ یہ دو روجوں کے ملنے کا نام ہے جس طرح پانی، اپنے ہی جیسے پانی سے مل جائے تو اُسے کسی بھی جیلے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، رُوح، پانی سے بھی زیادہ لطیف اور باریک مسلک ہے یہی وجہ ہے کہ زمانہ اُسے نہ دُور کر سکتا ہے، نہ بوسیدہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی سبب اُسے ہٹا سکتا ہے خواہ اس کا راستہ اوہام سے بھی لطیف تر ہو، اس کی جگہ آنکھوں سے پوشیدہ رہتی ہے اور عقلیں اس کی طاقت کی کیفیت سے حیران رہ جاتی ہیں ہاں اس کی ابتدائی حرکت دل سے شروع ہوتی ہے پھر وہ دیگر اعضاء میں سرایت کرتی جاتی ہے ہاتھ پاؤں میں لرزش، رنگ میں زردی، گفتگو میں روکاؤٹ، رائے میں کمزوری اور مصیبت و لغزش پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صاحبِ عشق کو نقص کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔

بعض اطباء کہتے ہیں کہ عشق ایک خواہش ہے جو دل میں پیدا ہوتی پر دان چرطھتی ہے پھر اس کے ساتھ حرص بھی آلتی ہے جب یہ قوی ہو جاتی ہے تو عاشق، لڑائی جھگڑے سوچ بچار خواہشات سرگردانی، غم، تنگ دلی، تفکرات، کم کھانے، عقلی خرابی اور دماغی خشکی میں بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خواہش کے پیچھے لمبا عرصہ لگا رہنا خون کو جلا دیتا ہے اور خون جل کر سوداؤ بن جاتا ہے جب سوداؤ بڑھ جائے تو وہ تفکرات کو جمع کر دیتا ہے جس سے حرارت بڑھ جاتی ہے، صفراء میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے پھر صفراء فسادِ خون میں بدل کر سوداؤ سے جا ملتا ہے اور اس کا مادہ بن کر بختہ ہو جاتا ہے اور سوداؤ کی طبیعت میں غور و فکر پایا جاتا ہے جب سوچ خراب ہو جائے تو کیموسات میں خرابی آ جاتی ہے اور خرابی کے ملنے سے ایک روکاؤٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے عقل میں کمی آ جاتی ہے اور تکمیل کو نہ پہنچنے والی اُمیدیں پیدا ہو جاتی ہیں اس وقت اس کے عشق میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مرجانا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، ایسا اوقات اس کو غرہ آ جاتا ہے جس سے

اس کی رُوح چوبیس گھنٹوں تک مخفی ہو جاتی ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور وہ اُسے زندہ ہی دفن کر آئے ہیں، کبھی وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے اور اس کی رُوح اس کے دل کے خون میں پوشیدہ ہو جاتی ہے اور دل اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے مرجانے تک نہیں کھٹتا کبھی وہ اچانک اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی عاشق کو دیکھا ہو گا کہ جب وہ اپنے محبوب کے ذکر کو سُنتا ہے تو کس طرح اس کا خون دوڑنے لگتا ہے اور اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رُوح کو گیند کی طرح گول پیدا کر کے اُسے نصف نصف

کیا ہے اور ہر جسم میں اس کا نصف رکھا ہے، جب کوئی جسم اس جسم سے ملتا ہے جس میں اس کی رُوح کا نصف حصہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان قدیمی مناسبت کی وجہ سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی طبائع کی کمزوری اور قوت کے باعث ان کے احوال میں تباہی ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں اس بارے میں ان کے طویل خطبات موجود ہیں اور نفوس نوری اور بسیط جو ہر ہیں اور بندی سے اتر کر ان جسموں میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے ہیں، نفوس، عالم ارواح میں مجاورت کے قرب و بعد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس مذہب کے قائل وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے قرآن و سنت اور قیاس سے دلائل دیے ہیں ان میں سے وہ یہ آیت بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ** وہ کہتے ہیں کہ کسی حال کی طرف رجوع تبھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ چیز موجود ہو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پیش کرتے ہیں جسے سعید بن ابی مریم نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے عمرہ سے اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَمِنْ**

لہ (ترجمہ) اے نفس مطمئنہ! لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی، پسند کی گئی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ (الفجر - آیت ۲۸ تا ۳۰)

اکٹھے کیے ہوئے لشکر ہیں پس ان میں سے جو متعارف ہوں وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو نا آشنا ہوں وہ الگ ہو جاتے ہیں (عالم ارواح کی شناسائی کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے) یہ قول اعراب کی ایک جماعت کا ہے اس بارے میں جمیل بن عبد اللہ بن عمر العذری ثنیہ کے متعلق کہتا ہے

”ہماری پیدائش سے بھی قبل میری رُوح اس کی رُوح کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ہمارے نطفہ بننے اور پنگھوڑے میں پڑنے سے بھی قبل اس سے علاقہ رکھتی تھی پس اس کی رُوح بھی ہماری رُوح کی طرح بڑھی اور نشوونما پانے والی ہو گئی اور اگر ہم مر بھی جائیں تو بھی وہ عہد شکنی کرنے والی نہیں، وہ ہر حال میں باقی رہنے والی ہے اور قبر اور لحد کی تاریکی میں بھی ہم سے ملاقات کرنے والی ہے۔“

جالینوس کہتا ہے کہ محبت دو عاقلوں کے درمیان، عقل میں مشابہت رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ دو احمقوں کے درمیان پیدا نہیں ہوتی اگرچہ وہ حماقت کی دو شکلیں ہیں اس لیے کہ عقل ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے پس ان دو آدمیوں کا ایک طریق پر متفق ہونا جائز ہوا اور حماقت ایک طریق پر نہیں چلتی لہذا اس میں دو آدمیوں کا متفق ہونا جائز نہیں، ایک عرب نے عشق کی تقسیم کرتے ہوئے کہا ہے

”تین دوست ہیں ایک دوست تعلق کا، دوسرا تعلق کا اور تیسرا قتل کا، بغدادی صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عشق کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا ہے تاکہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاویں اس کی ناراضگی ان پر گراں گزرے اور اس کی رضا انہیں خوش کرے اس سے وہ اطاعت الہی پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی نظیر مشل نہیں کہ وہ ان کا خالق ہے ان کا محتاج نہیں، وہ ان پر احسان کر کے انہیں رزق دینے والا ہے پس جب وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی اطاعت کو اپنے پر واجب کرتے ہیں تو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی رضا کی اتباع کی جائے۔“

اس بارے میں باطنی متصوفین نے بہت کلام کیا ہے اور طویل خطبات دیے ہیں انفلاطون کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے، ہاں یہ ایک الہی جنون ہے اور عشق نہ اچھا ہے اور نہ بُرا ہے۔

ایک نظریہ ادیب نے اپنے بھائی کو لکھا۔

مجھے تجھ میں اپنی روح کا جوہر معلوم ہوا ہے اور میں بغیر لگام کے اچھی طرح تیری اطاعت کرنے والا نہیں ہوں بلکہ روح ایک دوسرے کی پیروی کرتی ہے۔ (اس لیے میں تیرا مطیع ہوں)

سلف و خلف اور ماہرین فلکیات اور مسلمانوں نے عشق کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے ہم نے اس کا ذکر اپنی کتاب احیاء الزمان میں کیا ہے اور جن گزشتہ اقوام اور ممالک کو گردش روزگار نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ہم نے عشق کے متعلق ان کے نظریات کو بھی بیان کیا ہے ہم عشق کا تذکرہ کرتے کرتے برا مکہ کے حالات سے دُور چلے گئے ہیں عشق کے بارے میں جو نظریات بیان کیے گئے ہیں ان کی ایک جھلک پیش کرنے کے بعد اب ہم برا مکہ کے حالات اور ان کی ترقی و تنزل کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔

رشید کا اپنی بہن عباسہ کا جعفر برملی سے شادی کرنا | برا مکہ کے حالات کے ماہرین نے بیان کیا ہے

کہ جب جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک اور یحییٰ بن خالد اور نعتل وغیرہ نے حکومت میں انتہائی بلند مقام حاصل کر لیا اور ان کے معاملات دُرست ہو گئے یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا زمانہ ایسی دُلمن اور خوشی ہے جو کبھی نہ اُٹل نہیں ہوتی تو رشید نے جعفر بن یحییٰ سے کہا اے جعفر تیرا بڑا ہوروئے زمین پر ایسا کوئی چہرہ نہیں جس سے میں مانوس ہوں اور نہ میں اس کی طرف میلان رکھتا ہوں۔ تیری دید سے مجھے بے حد خوشی اور لطف حاصل ہوتا ہے اور میری بہن عباسہ کا بھی میرے ہاں کچھ کم مقام نہیں اور میں نے تم دو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے میں غور کیا ہے تو میں نے محسوس کیا ہے کہ نہ میں تیرے بارے میں صبر کر سکتا ہوں اور نہ اس کے بارے میں، اور جس روز میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو تو نے مجھے بہت کم خوش دیکھا ہوگا یہی حال میرا اس وقت ہوتا ہے جب میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات میں سب سرور اور لذت اور اُنس

مل رہا ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو توفیق دے۔ اور اس نے قسم کھائی کہ وہ تمام امور میں رشید کی بات مانے گا، رشید نے اُسے کہا کہ میں نے عباسہ کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے تو ایک مجلس میں جس میں میرے سوا، تم دونوں کے ساتھ اور کوئی نہ ہوگا۔ اس سے مجالست اور ملاقات کر سکتا ہے اور اُسے دیکھ بھی سکتا ہے، جعفر نے اس معاملہ میں کچھ پس و پیش کیا مگر اس کے بعد رشید نے اس کی شادی کر دی اور اپنے خادموں اور خاص غلاموں کو جو وہاں پر موجود تھے گواہ بنایا، رشید نے اُس سے یہ عہد و پیمانہ اور پختہ قسم لی کہ وہ امیر المؤمنین کی موجودگی کے بغیر اس سے خلوت و مجالست نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ کسی مکان کی چھت تلے اکٹھے ہوں گے! جعفر نے یہ قسم کھالی تو اس نے خوش ہو کر اُسے گلے لگالیا۔ جعفر امیر المؤمنین کی ہیبت کے باعث اپنے چہرے کو موڑ کر نظر کو پھیر کر اپنے عہد و پیمانہ اور قسم کو پورا کرتے ہوئے عباسہ سے ملاقات کرتا عباسہ بھی اس سے محبت کرنے لگی اور اس کے متعلق تدریس میں سوچنے لگی تب اس نے اس کی طرف رقعہ لکھا تو اس نے اس کے ایلچی کو ڈانٹا اور برا بھلا کہا اس نے دوبارہ رقعہ بھیجا تو اس نے دوبارہ وہی کچھ کہا جب وہ مایوس ہو گئی تو وہ اس کی ماں کے پاس گئی لیکن وہ دانش مند عورت نہیں تھی اس نے اُسے نفیس جواہرات کے تحائف اور اموال کی کثرت اور الطاف شایانہ سے اپنی طرف مائل کیا جب اُسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک لونڈی کی طرح اس کی اطاعت کرے گی اور والدہ کی طرح اس پر مہربان ہوگی اور مشورہ دے گی تو اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اُسے اپنی بات کا کچھ حصہ بتایا اور اُسے یہ بھی کہا کہ اس بات کے ماننے میں اس کا نتیجہ اس کے لیے کس قدر بہتر ہوگا۔ اور اس کے بیٹے کو امیر المؤمنین کی مصائب سے کیا فخر و شرف حاصل ہوگا اور اُسے اس وہم میں بھی ڈال دیا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو اُسے اور اس کے بیٹے کو نعمت کے زوال اور مرتبے کے سقوط سے امان مل جائے گی، اُم جعفر نے اس کی بات مان لی اور اس سے اس بارے میں تدبیر کرنے کا وعدہ کیا وہ اس سے بڑی ملاحظت سے پیش آتی رہی یہاں تک کہ اس نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، ایک روز اس نے جعفر کے پاس جا کر اُسے کہا اے میرے بیٹے! مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک محل میں ایک خدمت گار لونڈی ہے جو بادشاہوں کی تربیت یافتہ ہے اور صاحب ادب و معرفت دانش مند اور شیریں زبان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن حسن و جمال سے بھی آراستہ ہے نیز سر و قد اور صفات محمودہ سے متصف ہے، میں نے تیرے لیے اس کے خریدنے

کا عزم کر لیا ہے اور میرے اور اس کے مالک کے درمیان معاملہ طے ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے جعفر نے اس کی بات کو قبول کر لیا یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ اس لوندھی کا منتظر رہنے لگا لیکن اس کی ماں ٹال مٹول کرنے لگی یہاں تک کہ اس کی خواہش اور شوق نے زور پکڑ لیا، وہ ساتھ ساتھ اپنی ماں کو تخریب بھی کرتا رہا اور اس کام کی تکمیل کے لیے اس سے اصرار بھی کرتا رہا، جب اس کی ماں کو معلوم ہو گیا کہ اب اس سے صبر نہیں ہوگا اور اس کے اضطراب میں شدت پیدا ہو گئی ہے تو اس نے اُسے کہا کہ میں اُسے فلاں رات کو تیری طرف بھیج دوں گی اور اس نے عباسہ کو بھی سب بات بتادی وہ بھی پوری طرح تیار ہو کر اس رات کو اس کے پاس گئی اس شب کو جب جعفر رشید کے پاس سے واپس آ گیا اور ابھی اسے شراب کا کچھ نشہ باقی تھا تو اس نے گھر میں داخل ہو کر لوندھی کے متعلق پوچھا تو اُسے اس کی جگہ بتادی گئی، وہ مدہوشی کی وجہ سے اسے شکل و صورت سے بھی نہ پہچان سکا، اس نے اس سے اپنی حاجت پوری کی تو اُس نے اُسے کہا، بادشاہوں کی لڑکیوں کے حاصل کرنے کو تو نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کون سے بادشاہوں کی لڑکیاں تیری مراد ہیں؟ وہ اس کو کسی رومی کی بیٹی خیال کر رہا تھا اس نے اُسے کہا میں تیری خادمہ عباسہ بنت جہدی ہوں، یہ بات سن کر اس نے خوف کے مارے چھلانگ لگائی اور اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور اُس کی عقل واپس آ گئی تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا تو نے مجھے بڑی سستی قیمت پر فروخت کر دیا ہے اور مجھے خوف ناک سواری پر سوار کر دیا ہے اب دیکھو میرا کیا حال ہوتا ہے اور عباسہ اُس سے حاملہ ہو کر واپس چلی گئی پھر اس نے ایک بچہ جنا جس پر اپنے خادم ریاش اور برہہ دایہ کو مقرر کر دیا جب اُسے اس خبر کے مشور ہو جانے کا خوف ہوا تو اس نے خادم، دایہ اور بچے کو مکہ بھیج دیا اور ان دونوں کو بچے کی پرورش کا حکم دیا اور جعفر کا نام نہ لبا ہو گیا وہ اور اس کا باپ اور بھائی مملکت کے امور پر غالب آ گئے، رشید کی بیوی نہ بیدہ ام جعفر کو رشید کے ہاں وہ مقام حاصل تھا کہ اس کے ہم پایہ لوگوں میں کوئی بھی اس سے آگے نہ تھا، یحییٰ بن خالد ہمیشہ رشید کی بیویوں کے معاملات کی ٹوہ میں رہتا تھا اور انہیں خادموں کی خدمت سے روکتا تھا نہ بیدہ نے رشید کے پاس شکایت کی تو اس نے یحییٰ بن خالد سے کہا ابا جان کیا وجہ ہے کہ ام جعفر آپ کی شکایت کرتی ہے اس نے کہا امیر المؤمنین! آپ کی بیویوں اور محل کے معاملات آپ کے پاس ہیں مجھے ان سے کیا واسطہ ہے اس نے کہا خدا کی قسم، نہیں، اس نے کہا اس کی

بات قبول نہ کرو، رشید نے کہا میں دوبارہ آپ سے یہ بات نہیں کہوں گا تو یحییٰ اُسے روکنے میں اور زیادتی کرنے لگا اور کچھ سختی بھی برتنے لگا اور اس نے رات کو بیویوں کے دروازوں کو تالے لگانے کا حکم دے دیا اور چابیاں لے کر گھر چلا جاتا، یہ سب باتیں اُم جعفر کو پہنچیں تو اس نے ایک روز رشید کے پاس آ کر کہا امیر المومنین یحییٰ کو کون اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے میرے خادموں کے بارے میں روکتا ہے اور بے جا دخل اندازی کرتا رہتا ہے تو رشید نے اُسے کہا، یحییٰ پر میرے حرم کے بارے میں کوئی اتہام نہیں لگایا جا سکتا، اس نے کہا وہ ایسا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے نے ایک فعل کا ارتکاب کیا ہے اس نے کہا، وہ کیا؟ تو اس نے اُسے سارا واقعہ سنایا، اور عباسہ اور جعفر کی بات بتادی تو وہ بہت پشیمان ہوا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل یا شاہد ہے؟ اس نے جواب دیا بچے سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بچہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ یہیں تھا نیز اس نے کہا، تمہارے محل کی تمام لونڈیاں اس بات سے آگاہ ہیں تو وہ خاموش ہو رہا اور دل میں اس کے متعلق کینہ رکھ لیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ حج کو جانا چاہتا ہے، وہ اور جعفر بن یحییٰ نکلے تو عباسہ نے خادم اور دایہ کو لکھا کہ وہ بچے کو لے کر میں چلے جائیں، جب رشید تک پہنچا تو اس نے بچے، دایہ اور خادم کے متعلق تحقیق و جستجو کی تو اس نے بات کو درست پایا۔ جب وہ حج کر کے واپس آیا تو اس نے براء مکہ کی خوشحالی کو ختم کرنے کی دل میں ٹھان لی، اس نے کچھ عرصہ بغداد میں قیام کیا پھر انبار کی طرف چلا گیا جب وہ دن آیا جس میں اس نے جعفر کے قتل کا امدادہ کیا تھا تو اس نے سندی بن شاہک کو بلا کر اُسے بغداد جانے کا حکم دیا اور براء مکہ کے گھروں ان کے کاتبوں، بیٹوں اور قرابت داروں کے گھروں کا وکیل بنایا نیز یہ بھی کہا کہ وہ یہ کام خفیہ طور پر کرے اور بغداد پہنچنے تک کسی سے اس بارے میں بات نہ کرے، پھر اپنے قابل اعتماد مددگاروں اور گھر والوں تک یہ بات پہنچا دے۔ سندی نے تعمیل حکم کی رشید اور جعفر انبار میں العمر مقام پر بیٹھ گئے، دونوں نے بڑی خوشی و مسرت سے دن بسر کیا جب جعفر رشید کے ہاں سے واپس آیا تو رشید سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آیا پھر رشید واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے جو احکام دینے تھے دیے، پھر وہ اٹھا اور جعفر اپنے گھر کی طرف چلا گیا مگر ابھی اُسے شراب کا کچھ نشہ باقی تھا اس نے گلو کار ستار نواز ابو زکاء

اور اپنے کاتب ابو شیخ کو بلوایا اور اپنے پردے گرادیے اس کی لونڈیاں تیار کے پیچھے بیٹھ کر گانے بجانے لگیں اور ابو زکاد اس کو شعر سنانے لگا۔

”لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہماری پروا کیوں نہیں کرتے ان کی ہمت صرف اتنی ہے کہ جو کچھ ہم دفن کر چکے ہیں اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔“

رشید نے اسی وقت اپنے خادم یا سر کو جو رخلہ کے نام سے مشہور تھا کہا کہ میں تجھے ایک کام کا حکم دینے والا ہوں جس کی محمد اور قاسم اہلیت نہیں رکھتے میں نے تجھے کام کا کرنے والا پایا ہے لہذا میرے ظن کو پسینہ ثابت کر دے اور میرے حکم کی خلاف ورزی سے ڈر، کیونکہ یہ بات میرے ہاں تیرے مقام کو گرانے اور تیرے حال کو ابتر کرنے کا سبب بن جائیں گی، اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کے سامنے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ کر پشت کی طرف سے نکال دوں تو میں ایسا کر گذروں گا آپ مجھے حکم دیجیے خدا کی قسم مجھے بہت جلدی ہے، رشید نے کہا کیا تم جعفر برہکی کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا امیر المومنین! کیا میں اس کے سوا کسی کو جانتا ہوں؟ یا جعفر جیسا آدمی پہچانے بغیر رہ سکتا ہے اس نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اس کے جانے کے وقت میں اس کے پیچھے گیا تھا اس نے کہا بے شک، اس نے کہا ابھی جاؤ اور وہ کسی بھی حالت میں ہو اس کا سر میرے پاس لے کر آؤ، یا سر بات نہ سمجھ سکا اور کانپنے لگا، وہ کھڑا ہو گیا اُسے کچھ جواب نہ سوچتا تھا رشید نے کہا یا سر! کیا میں نے پہلے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا اس نے کہا بے شک امیر المومنین کہا تھا، لیکن بات اس سے بہت بڑی ہے اور جو کام امیر المومنین نے میرے سپرد کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اس کے کرنے سے پہلے مر گیا ہوتا، اس نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ اور میں نے تجھے حکم دیا ہے اُسے کہ، یا سر چلا گیا اور جعفر کے پاس پہنچ گیا وہ اپنے کھیل میں مشغول تھا، اس نے اُسے کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح حکم دیا ہے، جعفر نے کہا امیر المومنین میرے ساتھ کسی قسم کا مزاج کرتے رہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی اسی قسم کا مذاق ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اُسے سنجیدہ پایا ہے اس نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے جیسی تو نے کہی ہے تو پھر وہ نشے میں ہوں گے اس نے کہا خدا کی قسم مجھے ان کی عقل میں کوئی فتور نظر نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے آج نبیذ پیا ہے بلکہ میں نے انہیں عبادت کرتے دیکھا ہے اس نے غلام سے کہا تجھ پر میرے کچھ حقوق ہیں جن کا تو نے کبھی بدلہ نہیں دیا اس نے کہا مجھے جلدی بتاؤ مگر وہ بات امیر المومنین کے

کے خلاف نہ ہو اس نے کہا اُسے واپس جا کر بتا دو کہ میں نے حکم کے مطابق کام کر دیا ہے اگر وہ نادم ہو جائیں تو میری زندگی تیرے ہاتھوں باقی رہے گی اور تجھے میرے ہاں سے اتھیرنا انعام ملے گا اور اگر تو نے اس حکم کو نافذ کرنا ہے جو تجھے دیا گیا ہے تو یہ کام کل کر لینا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا میں تیرے ساتھ امیر المومنین کے خیمے تک چلتا ہوں اور میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا جہاں سے میں ان کی گفتگو کو سن سکوں جب تو عذر کرے گا اور وہ میرا سر لائے بغیر تجھ سے راضی نہ ہوں گے تو باہر نکل کر قریب سے میرا سر پکڑ لینا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے چنانچہ دونوں رشید کے خیمے تک گئے اور یا سر نے اس کے پاس جا کر کہا امیر المومنین! میں اس کا سر لے آیا ہوں اور یہ ہے وہ آپ کے سامنے، اس نے اُسے کہا اُسے میرے پاس لاؤ ورنہ خدا کی قسم میں تجھے اس کے قتل کرنے سے پہلے قتل کر دوں گا اس نے باہر نکل کر اُس سے کہا تم نے بات سن لی ہے؟ اس نے کہا جو حکم تجھے ملا ہے اب اس کے متعلق سوچنا تمہارا کام ہے، جعفر نے اپنی آستین سے ایک چھوٹا سا رو مال نکالا اور اُسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیا اور اپنی گردن بڑھائی تو یا سر نے اُسے تلوار مار دی اور اس کا سر رشید کے پاس لے گیا، جب اس نے اس کے سر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے گناہوں کا تذکرہ کرنے لگا اے یا سر! فلاں فلاں شخص کو میرے پاس لاؤ جب وہ ان کو لے آیا تو اس نے انہیں کہا، یا سر کو قتل کر دو، کیونکہ میں جعفر کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتا۔

اصمعی کہتا ہے کہ رشید نے اس شب مجھے بھی پیغام بھیجا جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اے اصمعی میں نے شعر کہے ہیں انہیں سنو میں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا، تو اس نے یہ شعر سنائے۔

اگر جعفر ہلاکت کے اسباب سے ڈر جاتا تو وہ لمبی ٹانگوں والے اور لگام دیے ہوئے گھوڑے کے ذریعے اپنی جان کو بچا لیتا جو شخص موت سے ڈر جاتا ہے اس تک بڑی عمر کا عذاب نہیں پہنچ سکتا لیکن جب اس کا وقت قریب آ گیا تو منجم اس سے زمانے کی سختیوں کو دور نہ کر سکا۔

اصمعی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس چلا آیا اور میں اس وقت تک اس کے پاس نہ گیا جب تک لوگوں نے جعفر کے قتل کی باتیں نہ شروع کر دیں، اسی رات کی صبح خراسان میں علی بن عیسیٰ بن ہامان کو محل کے دروازے پر قتل کیا گیا جس میں جعفر کو قتل کیا گیا تھا اس

نے جلی قلم سے برا مکہ کے متعلق لکھا ہے

” بنو برمک کے مساکین پر زمانہ کے حادثات ٹوٹ پڑے اور ہمارے لیے ان کے معاملے میں سامانِ عبرت ہے پس محل کے رہنے والے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔“

مسرودمی بیان کرتا ہے کہ برا مکہ کے اچھے دنوں

برامکہ کی مدتِ حکومت اور شعراء کا ان کے مرثیے کہنا

اور حکومت کا زمانہ ہارون الرشید کے خلیفہ بننے سے لے کر جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک کے قتل ہونے تک، ۱۱ سال، ۵ ماہ ۵ دن بتاتا ہے۔ شعراء نے ان کے بہت سے مرثیے کہے اور ان کے زمانے کا ذکر کیا، علی بن معاذ کہتا ہے

” اے زمانے سے فریب کھانے والے زمانہ بڑا فریب کار اور گردشوں والا ہے، زمانے اور اس کے حملوں سے بے خوف نہ ہو اور محتاط ہو کر رہو اور اگر تو اس کی گردشوں سے نا آشنا ہے تو پل پر مصلوب ہونے والے کو دیکھ اس میں عقل و فکر رکھنے والے کے لیے عبرت ہے، اور دنیا سے اس کی اچھی گزراں لے لے اور زمانے کے ساتھ ساتھ چل، اور بڑا صاحب عقل و فضل تھا اور برد بھر کی دنیا اپنی اطراف سمیت اس کے پاس آئی تھی، وہ حکومت کو اپنی آراء سے آراستہ کرتا تھا۔ اور اس میں اس کا حکم نافذ ہوتا تھا، جمعہ کی شام کو جعفر، العمر مقام پر اپنی ہی حکومت کے علاقے میں موجود تھا اور وہ دنیا میں اپنے پرہیزگاروں کے ساتھ اڑتا اور خلد کی طوالت اور درازی عمر کی امید رکھتا تھا کہ زمانے نے اُسے دھکا دیا اور زمانے کے دھکے کا بڑا ہوا، اور جو تپ پھسل کر اس کی کمر توڑنے کا سبب بن گئی اور ہفتے کی رات کو وہ مصیبت زدہ قتل ہو کر صبح تک پڑا رہا، فضل بن یحییٰ کو شیخ مقام پر گھیر لیا گیا اور اُسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کی اولاد اور یحییٰ کو بیڑیاں اور طوق ڈال کر شیخ مقام پر لایا گیا، اور برہکیوں اور ان کے اتباع کو بھی جو آفاق اور شہروں میں رہتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کی جگہ پہنچ گئے ہیں جیسے لوگوں کے وعدہ کی جگہ حشر ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک افسانہ بن گئے، پاک ہے وہ ذات جو اقتدار اور حکومت

والی ہے۔“

اشجع سلمی اپنے قصیدے میں ان کا بہت اچھا مرثیہ کہتے ہوئے لکھتا ہے۔
 ”اب ہمیں اور ہماری سوار یوں کو آرام آگیا ہے اور دینے اور لینے والے ڈک
 گئے ہیں اور سوار یوں سے کہہ دو کہ وہ رات کے سفر صحراؤں اور جنگل کے بعد
 جنگل طے کرنے سے امن میں آگئی ہیں۔ بخشش اور فضل کے بعد بخشش سے
 کہہ دو کہ وہ ڈک جائے اور مصیبتوں سے کہہ دو کہ وہ ہر روز نئی نئی بن کر آیا
 کریں اور برہمنی ہندی تلوار کو پکڑے جسے ہاشمی ہندی تلوار سے ماہ آگیا ہے۔“
 ان کے متعلق سلم الخاسر کہتا ہے۔

”برامکہ کے بعد عطیات کے ستارے بے بارش ہو گئے ہیں اور سخاوت کا
 ہاتھ نسل ہو گیا ہے، بخشش کے سمندر خشک ہو گئے ہیں اور ابنائے برہمن
 کے وہ ستارے گر پڑے ہیں جن سے راہبر راستوں کی سیدھ کو پہچانتا تھا۔“
 صالح اعرابی کہتا ہے۔

”اس زمانے نے ابنائے برہمن کے ساتھ خیانت کی ہے اور کس بادشاہ کے
 ساتھ اس کے زمانے نے خیانت نہیں کی، کیا یحییٰ تمام علاقے کا والی نہیں تھا
 اور اب وہ قبر میں پوشیدہ آدمی کی طرح ہو گیا ہے۔“

ابو حرزہ اعرابی کہتا ہے اور بعض کے بقول ابو نواس کہتا ہے۔
 ”آل برہمن کو زمانے نے تیر نہیں ماہ اوجب تک ان کی حکومت کو ایک نئے حکم سے
 تیر نہیں ماہ آگیا زمانے نے یحییٰ کے حق کا خیال نہیں کیا وہ آل ربیع کا بھی خیال رکھنے
 والا نہیں ہے۔“

ایک اور شاعر نے ان کے متعلق بہت اچھا کہا ہے کہ۔
 ”اے بنو برہمن تمہارے اور تمہارے آنے والے زمانے کا کیا کہنا، دنیا تمہاری
 دلہن تھی اور آج وہ بیوہ اور بچوں کو گم کرنے والی ہو گئی ہے۔“

اشجع ان کے بارے میں کہتا ہے۔
 ”بنو برہمن دنیا سے منہ موڑ گئے ہیں اور اگر لوگ ان سے دوستی کرتے تو کچھ بھی
 اضا فہ نہ کرتے، ان کا پورا عہد اہل زمین کے لیے عیب رہا۔“

ایک اور شاعر ان کے متعلق کہتا ہے ۛ

”ان کا زمانہ ، حج ، عید اور جمعہ کا زمانہ تھا۔“

منصور نمری کہتا ہے ۛ

”دنیا کے لیے بنو برمک کا ندبہ کہ جو ہر وادی میں ان پر روتی پھرتی ہے وہ تھوڑی

دیر ان کی دُہن رہی ہے اور آج کل وہ سوگ کر رہی ہے۔“

دعبل خزاعی کہتا ہے ۛ

”کیا تو نے بنی برمک اور ابن نہیک اور گزشتہ قوموں کے بارے میں گردش

روزگار کی کاروائی کو نہیں دیکھا کہ ایک قوم نے کھجوروں کو بڑی اچھی طرح کا

کیا پھرا نہیں نہ کارہیوں کی طرح کاٹ دیا گیا۔“

ابشبح ان کے متعلق کہتا ہے ۛ

”زمانے نے بنو برمک کو تباہ کر دیا ہے اور اس نے ان میں سے کسی کو ہمارے

لیے باقی نہیں چھوڑا ، وہ اہل خیر تھے اور اس کے اہل بھی تھے پس دُنیا سے بھلائی

جاتی رہی ہے۔“

جب جعفر قتل ہو گیا اور سچی اور فضل گرفتار ہو گئے اور انہیں جیل میں تنگی دی گئی اور

سخت مشقت میں ڈال دیا گیا اور بادی بادی ان پر مصائب ٹوٹنے لگے تو فضل بن سحیب اپنی

کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ۛ

”ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے ہم اس کی شکایت اللہ ہی کے پاس کرتے ہیں کیونکہ

وہی مصائب کو دُور کرتا ہے ہم دنیا سے باہر آ گئے ہیں حالانکہ ہم بھی دنیا دار

تھے اب ہم نہ مردوں میں ہیں اور نہ زندوں میں ، اور جب کسی دن دار وغہ ہمارے

پاس کسی کام کے لیے آتا ہے تو ہم متعجب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے آیا ہے“

برامکہ کی مصیبت کے بعد شدیدہ اشعار بکثرت پڑھا کرتا تھا کہ ۛ

”جب دنیا نے ان کو حقیر سمجھا تو جس قدر وہ بلند مراتب تھے اسی قدر ان پر

انفاد پڑی اور جب چیونٹی کے پیر نکل آئیں اور وہ اڑنے لگے تو اس کی ہلاکت

قرب آ جاتی ہے۔“

محمد بن عبدالرحمن ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں قربانی کے دن اپنی والدہ کے پاس گیا تو

نے اس کے پاس ایک بڑی منکلم عورت کو، بوسیدہ لباس میں ملبوس پایا، میری ماں نے مجھے کہا کیا تو اس عورت کو پہچانتا ہے میں نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ ام جعفر بن یحییٰ کی لونڈی ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو کرنے لگا اور اس کی تعظیم کرنے لگا پھر میں نے اُسے کہا اے ماں تو نے نہایت حیران کن ماجرا دیکھا ہے تو وہ کہنے لگی اے میرے بیٹے اسی طرح ایک دفعہ عید کا دن آیا تو میں چار سو خادمہ عورتوں کی سردار تھی اور میں اپنے بیٹے کو اپنا نافرمان خیال کرتی تھی اور اب یہ عید آئی ہے تو میری خواہش ہے کہ مجھے بکرے کی دو کھالیں مل جائیں جن میں سے ایک کو میں بچھا لیا کروں اور دوسری کو اوڑھ لیا کروں، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اُسے پانچ سو درہم دیے تو وہ خوشی سے مرنے لگی اور وہ ہمیشہ ہمارے ہاں آتی رہی یہاں تک کہ موت نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔

رشید کے ایک چچا سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ رشید کے بگڑنے اور حملہ کرنے سے قبل یحییٰ بن خالد کے پاس گیا اور اُسے کہنے لگا کہ امیر المومنین کو اموال کا جمع کرنا مرغوب ہے اس کے بیٹے بھی بہت ہو گئے ہیں اور وہ انہیں جاگیریں دینا چاہتا ہے اس کے بیٹے تجھ سے اور تیرے اصحاب سے بہت زیادہ اثر و رسوخ والے ہو گئے ہیں اگر تو ان کی جاگیروں اور اموال پر غور کرے اور انہیں امیر المومنین کے بیٹوں کو دے دے اور اس طرح اس کا قرب حاصل کرے تو مجھے اُمید ہے کہ تو بیچ جائے گا اور امیر المومنین بھی تم پر ہریان ہو جائیں گے تو یحییٰ نے اُسے کہا خدا کی قسم میری آسائش اور آسودگی کا ذائل ہو جانا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان لوگوں کی آسودگی کو ذائل کروں جن کی آسودگی کا سبب میں خود بنا تھا۔

خلیل بن الہیثم شعبی بیان کرتا ہے — رشید نے قید خانے میں اس کی فضل اور یحییٰ پر ڈیوٹی لگائی تھی — کہ میرے پاس خادموں کی ایک جماعت کے ساتھ مسرور خادم آیا، ان میں سے ایک خادم کے پاس لپٹا ہوا مال تھا میرے دل میں خیال آیا کہ رشید ان پر ہریان ہو گیا ہے اور اس نے ازراہ ہر بانی انہیں بھیجا ہے، مسرور نے مجھے کہا فضل بن یحییٰ کو باہر نکالو، جب وہ اس کے سامنے آکھڑا ہوا تو اس نے اُسے کہا کہ امیر المومنین تجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مجھے اپنے اموال کے متعلق سچ سچ بتاؤ اور تو نے خیال کیا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ کر دیا ہے حالانکہ میرے پاس یہ صحیح

اطلاع ہے کہ تو نے اپنے لیے اموال کو بچا رکھا ہے اور میں نے مسرور کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ تجھے اموال کے متعلق نہ بتائے تو وہ تجھے دوسو کوڑے مارے، تو فضل نے کہا خدا کی قسم اے ابو ہاشم میں مارا گیا تو مسرور نے اُسے کہا اے ابو العباس میرا خیال ہے کہ تو اپنے مال کو اپنی جان پر ترجیح نہیں دے گا اور تیرے بارے میں مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کے نافذ کرنے سے بے خوف نہیں ہوں، تو فضل نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر اُسے کہا اے ابو ہاشم، میں نے امیر المومنین سے جھوٹ نہیں بولا اور اگر میرے پاس ساری دنیا ہوتی اور مجھے اس سے نکل جانے اور قرعہ ڈالنے کے درمیان اختیار دیا جاتا تو میں اس سے نکل جانے کو پسند کرتا اور امیر المومنین اور تم دونوں جانتے ہو کہ ہم اموال کے ذریعے اپنی عزتوں کو محفوظ کرتے ہیں پس آج ہم یہ کیے کر سکتے ہیں کہ اپنی جانیں دے کر اپنے اموال کو محفوظ کریں اور اگر تجھے کسی بات کا حکم دیا گیا ہے تو تو اُسے کر گزر، تو اس نے رومال والے کو حکم دیا اس نے رومال کو جھاڑا تو اس میں سے کوڑے اپنے چابکوں کی گرہ سمیت گر پڑے، اُسے دوسو کوڑے مارے گئے، مسرور نے مارنے کا کام ان خادموں کے سپرد کیا تو انہوں نے اُسے اندھا دھند ماننا شروع کر دیا قریب تھا کہ وہ اس کی جان نکال دیتے اور ہمیں اس کی موت کا ڈر پیدا ہو گیا تو خلیل نے اپنے وکیل ابو یحییٰ سے کہا کہ یہاں قید خانے میں ایک آدمی ہے جو اس قسم کے آدمیوں کے علاج کا ماہر ہے اُسے جا کر کہہ کہ وہ اس کا علاج کرے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اُسے اس امر کی اطلاع دی تو اس نے کہا شاید تو فضل بن یحییٰ کا علاج کرانا چاہتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی اطلاع مجھے مل گئی ہے، میں نے کہا میری مراد بھی وہی ہے، اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس کا علاج کرتا ہوں جب اس نے اُسے دیکھا تو کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس نے اسے پچاس کوڑے مارے ہیں اس نے کہا اس نے اسے دوسو کوڑے مارے ہیں، اس نے کہا میرے خیال میں یہ پچاس کوڑوں کا اثر ہے اسے چٹائی پر سلا دیں میں اس کے سینے کو ایک گھنٹے تک پیروں سے دباؤں گا، فضل نے اس بات سے گھبراہٹ کا اظہار کیا پھر اس نے اس کی بات مان لی وہ مسلسل اس کے سینے کو روندتا رہا پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے کھینچا اور چٹائی سے اٹھا دیا تو اس کی پشت کا بہت سا گوشت اس سے چمٹ گیا پھر وہ اس کے پاس آنے اور اس کا علاج کرنے لگا یہاں تک کہ ایک روز اس کی طرف دیکھ کر سجدے میں گر گیا تو میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا اے ابو یحییٰ، ابو العباس تندرست ہو گیا

ہے میرے قریب آکر دیکھ، وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے اس کی پشت پر آتا ہوا گوشت دکھایا پھر مجھے کہنے لگا کیا تجھے میری بات یاد ہے کہ یہ پچاس کوڑوں کا اثر ہے میں نے کہا ہاں، اس نے کہا خدا کی قسم اگر ہزار کوڑے مارے جاتے تو ان کا اثر اس سے زیادہ نہ ہوتا، میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ وہ مضبوط دل ہو کر اپنے علاج میں میری مدد کرے، جب وہ آدمی چلا گیا تو فضل نے مجھے کہا اے ابو یحییٰ! مجھے پندرہ ہزار درہم کی ضرورت ہے نسائی کے پاس جا کر اسے میری ضرورت سے آگاہ کر، وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کا پیغام لے کر گیا تو اس نے مجھے اس کے پاس درہم لے جانے کا حکم دیا اور کہا اے ابو یحییٰ میں چاہتا ہوں کہ تو یہ درہم اس آدمی کے پاس لے جائے جس نے اس کا علاج کیا تھا اور اس سے معذرت بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ جو کچھ میں نے بھیجا ہے اُسے قبول کرے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس آیا تو میں نے اُسے ایک چٹائی پر بیٹھے پایا، اس کی ستار ٹنگی ہوئی تھی اور ٹینٹے کے بڑے بڑے برتنوں میں نبیذ اور پڑانے کیڑے پڑے تھے اس نے کہا اے ابو یحییٰ تجھے کیا کام ہے، تو میں فضل کی طرف سے معذرت کرنے لگا اور اس کی تنگی کا ذکر کرنے لگا اور جو کچھ اس نے اس کی طرف بھیجا تھا اس کے متعلق بھی بتایا تو وہ غضب ناک ہو گیا یہاں تک کہ اس نے مجھے ڈرا دیا اور کہنے لگا دس ہزار درہم اور اس بات کو بار بار دہرانے لگا، میں نے پوری کوشش کی کہ وہ اس رقم کو قبول کرے مگر اس نے انکار کر دیا، میں نے فضل کو جا کر بتایا تو اس نے مجھے کہا خدا کی قسم اس نے اس رقم کو کم خیال کیا ہے پھر فضل مجھے کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو دوبارہ نسائی کو جا کر کہے کہ مجھے مزید دس ہزار درہم کی ضرورت پڑ گئی ہے اور جب وہ تجھے یہ درہم دے دے تو یہ سب رقم اس آدمی کے پاس لے جا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نسائی سے مزید دس ہزار درہم بھی لے لیے اور میں سب مال لے کر اس آدمی کے پاس دوبارہ آیا اور اُسے سب واقعہ سنایا مگر اس نے اس مال میں سے کچھ بھی قبول نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس نوجوان کا علاج کرانے پر کرتا ہوں؟ میرے پاس سے چلا جا خدا کی قسم اگر بیس ہزار دینار کی رقم بھی ہوتی تب بھی میں اُسے قبول نہ کرتا، میں نے واپس آکر فضل کو سب واقعہ بتایا تو اس نے مجھے کہا اے ابو یحییٰ ہمارے افعال کے بارے میں تو نے جو سب سے اچھی بات سنی یا دیکھی ہے وہ مجھے سنا وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا تو اس نے

کہا ان باتوں کو چھوڑ ، خدا کی قسم اس آدمی نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے دورِ حکومت کے تمام کاموں سے اچھا ہے۔

جعفر بن یحییٰ کو ۴۵ سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر اس سے کم تھی اور یحییٰ بن خالد رقبہ میں ۸۹ھ میں فوت ہو گیا جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ رشید کے حالات و واقعات بہت شان دار ہیں جن کا ذکر ہم ظہور اسلام کے بعد رومی بادشاہوں کے حالات میں اپنی پہلی کتب میں بیان کر چکے ہیں نیز اس کے اور فقور کے درمیان جو کچھ ہوا اس کا ذکر بھی اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں ، براء کی بخششوں اور نیک کاموں ان کے عجیب و غریب حالات اور ان کی مدح میں شعراء کے قصائد اور مرثیوں وغیرہ کے ذکر کو ہم نے اخبار الزمان اور الاوسط میں بیان کیا ہے ، اس کتاب میں ہم نے ان کے حالات کی صرف وہ جھلک پیش کی ہے جسے ہم نے پہلی کتب میں پیش نہیں کیا اسی طرح ہم نے ظہور اسلام سے قبل براء کی ابتداء ، بلخ کے آشکدہ نو بہار میں ان کے نگران ہونے ، براء نام کی وجہ تسمیہ اور ترک بادشاہوں کے ساتھ براء کے حالات اور ظہور اسلام کے بعد ان کے حالات اور نبو امیہ کے زمانے یعنی ہشام بن عبد الملک وغیرہ اور منصور کے زمانے میں انہوں نے جو کچھ کیا ان سب باتوں کو ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں ، اس لیے ہم نے اس کتاب میں ان کے حالات واقعات کو اشارۃً پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

محمد الامین کی خلافت کا بیان

مختصر حالات جس روز ہارون الرشید کی وفات ہوئی، اسی روز محمد بن ہارون کی بیعت ہوئی، اس کی وفات ہجری ۱۹۳ء کو بروز ہفتہ طوس میں ہوئی۔ سب سے پہلے رجاء خادم نے اس کی بیعت کی، اس کی بیعت کا متولی فضل بن ربیع تھا، محمد کی کنیت ابو موسیٰ تھی اور اس کی ماں زبیدہ بنت جعفر بن ابی رصافہ میں تھی، محمد کی پیدائش بھی رصافہ میں ہوئی تھی اسے ۳۳ سال ۶ ماہ ۱۳ دن کی عمر میں قتل کر دیا گیا اور بغداد میں دفن کیا گیا اس کا سر خراسان لایا گیا۔ تواریخ کے اختلاف کے مطابق یہ چار سال چھ ماہ خلیفہ رہا۔ بعض کہتے ہیں چار سال نو ماہ بعض کہتے ہیں آٹھ ماہ چھ دن خلیفہ رہا اور بعض کہتے ہیں کہ محمد کو جب خلافت ملی اس وقت اس کی عمر ۲۲ سال ۶ ماہ ۲۱ دن تھی یہ مامون سے چھ ماہ چھوٹا تھا دست برداری سے قتل ہونے تک اس کے محاصرے کا زمانہ ایک سال چھ ماہ تیرہ دن ہے اس میں اسے دو دن مجوس رکھا گیا۔

اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان

اور اس کے دور کی ایک جھلک

اس کے پاس ولایت کی خبر کیسے پہنچی؟ جب رشید کی وفات ہوئی مامون مرو میں تھا، صالح بن رشید نے محمد بن الامین کے غلام رجاء خادم کو محمد کی طرف رشید کی موت کی خبر کے ساتھ بھیجا اسے بغداد میں ۱۵ ہجری ۱۹۳ء کو جمعرات

کے روز یہ خبر پہنچی۔

ایمن کے حمل، پیدائش اور اس کے بعد زبیدہ کا خواب

عباسیوں کے حالات سے دلچسپی رکھنے والی مؤرخین

کی ایک جماعت جیسے المدائنی اور العنسی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جس رات زبیدہ کو محمد کا حمل ہوا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس تین عورتیں آئی ہیں جو ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے جن میں سے دو تو اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھ گئی ہے اور ان میں سے ایک نے ام جعفر کے قریب ہو کر اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور کہنے لگی یہ عظیم الشان اور بڑا خرچ کرنے والا اور گراں بار اور تھوڑی حکومت کرنے والا بادشاہ ہوگا دوسری عورت نے بھی پہلی عورت کی طرح کیا اور کہنے لگی کہ یہ کم نصیب، کندھارہ محبت کا رسیا اور ظالمانہ احکام دینے والا بادشاہ ہوگا اور اس کا زمانہ اس سے وفا نہیں کرے گا پھر تیسری عورت نے بھی دوسری کی طرح کیا اور کہنے لگی کہ یہ عیش و عشرت کرنے والا، بڑی الفت والا، بہت اختلاف والا اور کم انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، زبیدہ بیان کرتی ہے کہ میں بیدار ہو گئی تو گھبرائی ہوئی تھی، اور جس رات میرے ہاں محمد پیدا ہوا تو وہ عورتیں اسی طرح خواب میں میرے پاس آئیں اور وہ آکر میرے سر ہانے بیٹھ گئیں اور میرے چہرے کو دیکھنے لگیں پھر ان میں سے ایک کہنے لگی سر سبز درخت اچھی خوشبو اور پھول دار باغ، دوسری کہنے لگی، گرے پانی والا چشمہ جو تھوڑی دیر سے سکا اور جلد ختم ہو جائے گا اور اس کا جانا جلدی جلدی ہوگا، تیسری کہنے لگی اپنی جان کا دشمن کمزور گرفت والا، جلد دھوکے میں آنے والا اور اپنے تخت سے ہٹایا جانے والا، جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں اس خواب سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، میں نے اس کی اطلاع اپنی ایک قہرمانہ کو دی تو وہ کہنے لگی کہ سونے والے کے پاس رات کو اس قسم کے بے ہودہ خیال آ جاتے ہیں اور جب اس کو دودھ چھڑایا گیا اس رات میں سو رہی تھی، محمد میرے سامنے اپنے گہوارے میں تھا کہ اچانک وہ عورتیں میرے سر ہانے کھڑی ہو گئیں اور میرے بیٹے محمد کی طرف متوجہ ہوئیں تو ان میں سے ایک کہنے لگی جابر بادشاہ بہت تلف کرنے والا، بکواسی، دگور تک اثرات ڈالنے والا اور جلد لغزش کھانے والا، جھگڑے والی بات کرنے والا، شکست کھانے والا جنگجو، محروم رہنے والا راغب، غمگین، بدبخت اور تیسری کہنے لگی اس کی قبر کھودو، اس کی لحد شق کرو، اس کے کفن کو آگے

کر و اور اس کا سامان تیار کرو، کیونکہ اس کی موت زندگی سے بہتر ہے، نہ بیدہ بیان کرتی ہے میں بیدار ہوئی تو میں بہت پریشان اور خوفزدہ تھی میں نے معبرین اور نجومیوں سے پوچھا تو ہر ایک نے مجھے اس کے نیک بخت ہونے، زندہ رہنے اور دراندہ عمر ہونے کی خبر دی مگر میرا دل ان باتوں کو قبول نہ کرتا تھا پھر میں نے اپنے دل کو ڈانٹ کر کہا کیا خوف، ڈر اور بچاؤ، قنناء قدر کے فیصلے کو روک سکتا ہے یا کوئی آدمی اپنے احباب سے موت کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔

۱۹۳ھ میں ابو بکر بن عیاش کو فی اسدی نے ۹۸ سال کی عمر میں رشید
ابن عیاش کی موت کی وفات کے اٹھارہ دن بعد وفات پائی۔

جب محمد نے مامون کو دست بردار کرنے کا
ایمن کا اپنے بھائی کو دستبردار کرنے کا حکم ارادہ کیا تو اس نے عبد اللہ بن حازم سے

مشورہ کیا تو اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کہ کتنا ہوں کہ آپ عہد شکنی اور نقص نسیان کر نیو آپ پہلے خلیفہ نہ بنیں مگر اس نے اس کی قسم کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہنے لگا خاموش ہو جا، خدا تعالیٰ تیرے منہ کو خاموش کرادے عبد الملک تجھ سے بہتر رائے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جھنگی میں دو سانڈ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اس نے جرنیلوں کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی یہاں تک کہ بات ہرثمہ بن حازم تک پہنچی تو اس نے کہا امیر المومنین! جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے وہ ہرگز آپ کی خیر خواہی نہیں کرے گا اور جو آپ سے سچ بولے گا وہ آپ سے فریب نہیں کرے گا، جرنیلوں سے دست برداری کے مشورے نہ لو وہ آپ کو دست بردار کر دیں گے اور نہ ان کو عہد شکنی پر آمادہ کر دو وہ آپ کی بیعت اور عہد کو توڑ دیں گے، بلاشبہ خائن، بے یار و مددگار اور عہد شکن بددیانت ہوتا ہے، عیسیٰ بن ہارن آیا تو محمد نے مسکرا کر کہا کہ اس دعوت کا شیخ اور اس حکومت کا دروازہ اپنے امام کا مخالف نہ ہوگا اور نہ اس کی اطاعت کو کمزور کرے گا پھر اس نے اس کو وہ مرتبہ دیا کہ گذشتہ زمانے میں اسے وہ مرتبہ نہ ملا تھا، پس علی بن عیسیٰ پہلا شخص تھا جس نے مامون کی دست برداری کی بات کو قبول کیا تو اس نے اسے ایک عظیم فوج کے ساتھ خراسان کی طرف بھجوا دیا، جب وہ رمی کے قریب آیا تو اسے بتایا گیا کہ یہاں پہ طاہر بن حسین مقیم ہے اور اس کا خیال تھا کہ طاہر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا وہ کہنے

لگا خدا کی قسم! طاہر میری شاخوں کا ایک کانٹا اور میری آگ کا ایک شرارہ ہے اور نہ ہی طاہر جیسا شخص فوج کا امیر بنایا جاسکتا ہے وہ تمہاری فوج کو دیکھتے ہی مر جائے گا کیونکہ بکری کے بچے مینڈھوں سے ٹکڑے لینے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی لومڑیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے بیٹے نے اُسے کہا ہراول دنتے بھیجو اور اپنی فوج کی جگہ پر واپس آ جاؤ تو اس نے کہا کہ نہ تو طاہر جیسا آدمی اس کے مقابلہ میں تدبیر کرے گا بلکہ اس سے بچاؤ کا اظہار کرے گا، طاہر دو باتیں اختیار کرے گا یا تو رومی میں قلعہ بند ہو جائے گا اور قلعہ والے اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمیں اس کے خرچ سے بچالیں گے یا وہ اُسے خالی کر دے گا اور پیٹھ پھیر کر واپس چلا جائے گا، کاش ہمارے سوار اس کے قریب ہوتے، اس کے بیٹے نے اُسے کہا کہ بعض اوقات شرارہ، شعلہ بن جاتا ہے تو اس نے کہا خاموش ہو جا، طاہر یہاں سردار نہیں ہے اور آدمی اپنے ہمسر سے تحفظ کرتا ہے علی بن عیسیٰ آگے بڑھنا گیا یہاں تک کہ اس کی فوج رومی کے قریب پہنچ گئی تب اُسے طاہر کی سنجیدگی اور جنگی تیاری اور اس پاس کے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا لینے کا پتہ چل گیا تو وہ راستے کے دائیں جانب سے ہو کر رومی کے ایک استناق میں چلا گیا اور وہیں پڑاؤ کر لیا اور اس کی فوج بکھر گئی، طاہر نے چار ہزار سواروں کے ساتھ آ کر علی بن عیسیٰ کی فوج کو دیکھا تو اُسے اس کی کثرت اور تیاری کا علم ہو گیا تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ اس فوج کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس نے اپنے خواص سے کہا کہ ہم اس فوج کو خادجی بناتے ہیں اس نے اپنے سواروں کے دستے بنائے اور قلب کی طرف سات سو خوارزمیوں اور دیگر خراسانی شہسواروں کے ساتھ گیا۔ عباس بن لیث جو ہمدی کا غلام تھا قلب سے نکل کر اس کی طرف گیا اور وہ بڑا شہسوار تھا طاہر بھی اس کی طرف گیا اور اس کی تلوار پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر دیا تو عباس واپس چلا گیا اور داؤد سیاہ علی بن عیسیٰ کے ساتھ بھڑ گیا لوگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے داؤد نے تلوار مار کر علی بن عیسیٰ کا کام تمام کر دیا، اس وقت علی ایک مکیت تر کی گھوڑے پر سوار تھا جس کی ایک ٹانگ سفید تھی لوگ اس کے سر پر ٹوٹ پڑے اور اس کے سر اور انگوٹھی کے متعلق جھگڑنے لگے، طاہر بن راجی نے اُسے ذبح کر دیا اور دوسرے نے اس کی ڈاڑھی کے بال کپڑ لیے اور تیسرے نے اس کی انگوٹھی لے لی، فوج کی شکست کا باعث یہ ہوا کہ طاہر نے اپنے دونوں ہاتھ عباس بن لیث کی خاطر مارے تھے یہی وجہ ہے کہ طاہر کو

دو الیمین کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نواہ پر اکٹھے کر دیے تھے۔

احمد بن ہشام جو ایک سرکردہ جنرل تھا بیان کرتا ہے کہ میں طاہر کے خیمے کی طرف آیا اُسے یہ خیال تھا کہ میں اس معرکہ میں مارا جا چکا ہوں، میرے پاس علی کا سر تھا، میں تیز دوڑ رہا تھا میں نے کہا خوشخبری ہو میرے غلام کے توبرے میں علی کے سر کے بالوں کا ایک گچھا ہے اور اس نے اُسے اپنے سامنے پھینک دیا پھر اس کے جسم کو لایا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا جس طرح جانوروں کو مرنے کے بعد باندھا جاتا ہے، پس طاہر کے حکم سے اُسے کنوئیں میں پھینک دیا گیا اور فضل بن سہل ذوالریاستین کو سب واقعہ لکھ دیا گیا، خط میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر وراثہ کرے اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل کرے میرا خط آپ کے پاس آ رہا ہے، علی بن عیسیٰ کا سر میرے سامنے پڑا ہے اور اس کی انگوٹھی میری انگلی میں ہے واللہ رب العالمین مامون اس بات سے بہت خوش ہوا اور اسی وقت اُسے سلام خلافت کہا گیا۔

ام جعفر، رشید سے حاملہ نہیں ہوتی تھی تو اس نے اپنے ایک ہم نشین حکیم سے مشورہ کیا اور شکایت بھی کی تو اس نے اُسے بتایا کہ وہ اور بیوی کرے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سادہ بھی حاملہ نہیں ہوتی تھیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاجرہ عطا فرمائی تو اس نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل لے لیا تو سادہ کو اس بات پر غیرت آئی تو انہوں نے حضرت اسحاق کو حمل میں لے لیا، تو رشید نے ام مامون کو خرید لیا اور اس سے خلوت کی اس نے مامون کو حمل میں لے لیا اور ام جعفر نے غیرت میں آکر محمد کو حمل میں لے لیا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ہم اس اختلاف کو پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے واقعہ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ہر سیرق نے جو کچھ اس بارے میں بیان کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور سلف و خلف اس بارے میں مناظرات کرتے رہے ہیں ان میں سے ایک مناظرہ حضرت عبد اللہ بن عباس اور ان کے غلام عکرمہ کے درمیان ہوا، عکرمہ نے کہا، کس کے ذبح کرنے کے متعلق حکم ہوا تھا، عبد اللہ بن عباس نے کہا حضرت اسماعیل کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بطور دلیل پیش کیا کہ ومن ذرا

اسحاق یعقوب - کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی پس وہ ان کے ذریعہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے تو عکرمہ نے انہیں کہا میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں گا کہ ذریعہ حضرت اسحاق تھے اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا۔
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رِبِّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَالِيهِ الْاِحَادِيثَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّسَدَهَا عَلَى الْبُؤْيُوكِ مِنْ قَبْلِ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ ط - پس حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہیں آگ سے بچایا اور حضرت اسحاق پر اس کا یہ احسان ہے کہ اس کے ذریعہ کا اس نے فدیہ دیا، ابن عباس کے غلام عکرمہ کی وفات ۵۸ھ میں ہوئی اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، جس روز کثیر عزرہ فوت ہوا اسی روز اس کی وفات ہوئی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ عظیم عالم اور فقیہ اور بہت بڑے شاعر کی وفات ہو گئی ہے اسی سال شعبی نے بھی وفات پائی۔

محاصرہ کی حالت میں امین کا گانے کی مجلس قائم کرنا | یوسف بن ابراہیم کا تب

اسحاق بن ابراہیم مہدی نے بتایا کہ محاصرہ کی حالت میں امین نے مجھے بلا بھیجا میں اس کے پاس گیا تو وہ ایک ۱۰ x ۱۰ کے عود و صندوق کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان بن ابی جعفر بھی اس کے ساتھ اس تخت کے وسط میں بیٹھا تھا وہ ایک گنبد تھا جس کے اندر اس نے کئی قسم کا ریشم و دیباچ لگایا ہوا تھا جو سرخ سنہری تاروں سے بنا گیا تھا میں نے سلام کیا تو کہا دیکھتا ہوں کہ اس کے سامنے ایک گینے دار ٹیشے کا پیالہ پڑا ہے جس میں پانچ رطل کے قریب شراب پڑی ہوئی ہے سلیمان کے سامنے بھی اسی طرح کا ایک پیالہ پڑا ہے، میں سلیمان کے مقابل میں بیٹھ گیا تو میرے پاس بھی ویسا ہی ایک پیالہ لایا گیا، پھر وہ کہنے

لے (ترجمہ) اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھے تیرا پروردگار اور تجھے باتوں کی تعبیر بتانی سکھائے گا اور تجھ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا جیسے اس نے تجھ سے پہلے تیرے دو والدوں ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ (یوسف آیت ۶)

لگا کہ میں نے تم دونوں کی طرف اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ طاہرین حسین نے نہروان کی طرف آکر ہماری حکومت میں خرابی پیدا کی ہے اور بڑائی کے ساتھ ہمارا سامنا کیا ہے پس میں نے تم دونوں کو بلایا کہ میں تم سے اور تمہاری باتوں سے خوشی حاصل کروں ہم اُسے باتیں سنانے لگے اور اُسے مانوس کرنے لگے یہاں تک کہ وہ غم بھول کر خوش ہو گیا اور اس نے اپنی ایک خاص لونڈی مسماۃ ضعف کو بلایا، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کے نام ضعف یعنی کمزوری سے فوراً بدشگونئی لی، امین نے اُسے کہا کہ ہمیں گانا سناؤ تو اس نے سازگی اپنی گود میں رکھ کر گایا۔

”میری زندگی کی قسم کلب تجھ سے زیادہ مددگار اور دانا تھا مگر خون میں لت پت ہو گیا۔“

تو اس نے اس کے قول سے بدشگونئی لی پھر اُسے کہنے لگا خدا تیرا بڑا کرے خاموش ہو جا پھر دوبارہ اس پر غم اور ترش روئی نے حملہ کر دیا اور ہم اُسے باتیں سنانے اور خوش کرنے لگے یہاں تک کہ وہ غم کو بھول کر مسکرایا پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اُسے کہنے لگا کوئی گانا سناؤ تو اس نے گایا۔

”انہوں نے اُسے قتل کر دیا تاکہ وہ اس کی جگہ سنبھال لیں جیسے کسریٰ کے صوبیداروں نے ایک روز خیانت کی تھی۔“

تو اس نے اُسے خاموش کر وا کر ڈانٹا پھر اس پر پہلے والی کیفیت طاری ہو گئی تو ہم نے اُسے تسلی دی یہاں تک کہ وہ مسکرا پڑا اور اس نے اُسے تیسری بار کہا کہ گانا سناؤ تو اس نے گایا۔

”گویا حجوں اور صفا کے درمیان کوئی انیس نہیں ہے اور نہ مکہ میں کسی نے داستان سرائی کی ہے ہاں ہم بھی کبھی وہاں کے رہنے والے تھے مگر گردش زمانہ اور لڑکھڑانے والے نصیبوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔“

اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے یہ شعر سنایا تھا۔

”حرکت و سکون کے رب کی قسم کہ موتیں بہت جال لگانے والی ہیں۔“

امین نے اُسے کہا ہمارے پاس سے چلی جا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا ایسا کرے۔ وہ

اٹھی تو وہ اس پیالے سے ٹھکرا گئی جو اس کے سامنے پڑا تھا اور اُسے توڑ دیا اور شراب بہ

گئی یہ ایک چاندنی رات تھی اور ہم دجلہ کے کنارے اس کے مشہور محل خلد میں بیٹھے تھے کہ ہم نے کسی کو کہتے سنا قتی الامر الذی فیہ تستفتیان ابن ہمدی بیان کرتا ہے میں اٹھا۔ ابن بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے محل کی ایک جانب کسی کو یہ دو شعر پڑھتے سنا

”عجیب بات سے تعجب نہ کر وہ وقت آگیا ہے جو حیرانی کو ختم کر دے گا اور ایک

خطرناک حکم آگیا ہے جس میں حیرت پر حیرت ہوگی۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم وہاں کبھی نہیں بیٹھے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔

ابن اپنی ام ولد نظم پر جو موسیٰ کی ماں تھی بڑا فریفتہ تھا۔ اس نے موسیٰ کا نام ناطق

بالحق رکھا تھا اور مامون کو دست بردار کر کے اس کی ولی ہمدی کی بیعت لینے تھی کہ ام موسیٰ

نظم مرگئی تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ جب ام جعفر زبیدہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کہا

مجھے امیر المؤمنین کے پاس لے چلو، اُسے اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کا استقبال کیا

اور کہنے لگا میری آقا، نظم مرگئی ہے تو اس نے کہا

”میری جان تجھ پر فدا ہو، تیرا افسوس ختم نہ ہوگا اور تیرے زندہ رہنے میں گذشتہ کی

تلافی ہو جائے گی، اس نے اپنے بدلہ میں تجھے موسیٰ دیا ہے تو ہر مصیبت کم ہوگی

ہے پس موسیٰ کے بعد گم ہو جانے والی پر کیا افسوس ہے۔“

محاصرے میں امین کا کھیل | ابراہیم بن ہمدی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک روز

طرف سے اس کا محاصرہ سخت ہو چکا تھا مجھے لوگوں نے اس کے پاس جانے کی اجازت نہ

دی، یہاں تک کہ میں مقابلہ کر کے اندر داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑکی سے دجلہ

کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے محل کے وسط میں ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے پانی کا

داستہ دجلہ تک جاتا تھا اور اس گزرگاہ میں ایک آہنی کھڑکی تھی میں نے اُسے سلام کیا

وہ اور اس کے خادم دجلہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور غلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چلے

گئے تھے وہ اس کا بڑا شیفٹہ تھا، میں نے اُسے دوبارہ سلام کہا تو اس نے مجھے کہا

بلہ (ترجمہ) مقرر کیا گیا وہ کام جس کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے (یوسف آیت ۴۱)

چچا آپ کو معلوم نہیں کہ میری مچھلی تالاب سے دجلہ کی طرف چلی گئی ہے، مقررہ ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جسے اُس نے شکار کر کے سونے کے دو چھتے پہنا دیے تھے جن میں دو موتیوں کے دانے بھی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یا قوت کے دانے تھے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں باہر چلا آیا اور میں اس کی کامیابی سے مایوس ہو چکا تھا اور میں نے کہا کہ ایسی باتوں سے باز رہنے کا یہی وقت تھا۔

ایمن کی صفات | محمد، نہایت قوی، طاقتور، مضبوط گرفت کرنے والا اور حسین و جمیل آدمی تھا مگر بے تدبیر، کمزور رائے اور اپنے معاملے میں بالکل سوچنے

والا نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے صبحی پی اور تو بردوں اور بر چھپیوں والے یہ لوگ درندوں کا شکار کرتے تھے۔ ایک درندے کی جبرسن کے خچروں پر سوار ہو کر کوئی اور قصر کی جانب چلے گئے اور درندے کو قابو کر کے ایک لکڑی کے پنجرے میں بند کر کے سختی اونٹ پر سوار کر کے اس کے پاس لائے محل کے دروازے پر اُسے اتار کر اندر لے گئے، وہ محل کے صحن میں کھڑا ہو گیا، ایمن صبحی پٹے ہوئے تھا اس نے کہا اسے چھوڑ دو اور پنجرے کے دروازے کو کھول دو، اُسے کہا گیا کہ یا امیر المؤمنین! یہ خوف ناک سیاہ دنگ وحشی درندہ ہے، اس نے کہا اسے چھوڑ دو اور پنجرے کے دروازے کو کھول دو پس سیاہ درندہ باہر آیا جس کے بیل کی طرح بڑے بڑے بال تھے، وہ دھاڑا اور زمین پر اس نے اپنی دم ماری تو لوگ بھاگ گئے اور اس کے سامنے سے دروازے بند کر لیے اور ایمن اکیلا شیر کی پرواہ کیے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو شیر اس کی طرف آیا جب وہ اس کے قریب ہوا تو ایمن نے اپنا ہاتھ ارمی تکیے پر مارا تو وہ دنگ گیا درندے نے اپنا پنجرہ اس کی طرف بڑھایا تو ایمن نے اُسے کھینچ لیا اور اس کے دونوں کانوں کو جڑ سے پکڑ لیا اور اُسے ٹھوکا دیا پھر اُسے پیچھے کی طرف پھینک دیا تو درندہ پشت کے بل گر کر مر گیا لوگ دوڑ کر ایمن کی طرف آئے تو اس کی انگلیاں اور اس کے ہاتھوں کے جوڑ اپنی جگہوں سے ہل چکے تھے ایک جوڑ کے ٹھیک کرنے والے کو لایا گیا تو اس نے اس کی انگلیوں کی ہڈیوں کو اپنی اصل جگہ پر لٹا دیا وہ ایسے بیٹھا رہا گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں، لوگوں نے شیر کا پیٹ پھاڑا تو اس کا پتہ اس کے جگر سے پھٹ گیا تھا۔

امین کی دستبرداری کی پیش خبری | کہتے ہیں کہ منصور ایک روز بیٹھا ہوا تھا کہ

اس کے گھرانے کے کچھ ہاشمی آئے تو اس نے انہیں بشارت دیتے ہوئے کہا کیا تم جانتے ہو کہ محمد
 مہدی کل شام کو پیدا ہوا ہے اور اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کا نام ہم نے موسیٰ رکھا ہے
 جب لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا گویا اس نے ان کے منہ پر راکھ
 پھینک دی ہے اور وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا تو منصور نے ان کی طرف دیکھ کر کہا
 یہ موقع تو ڈعا اور مبارکباد کا ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموش ہو پھر اس نے
 انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور انہیں کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں نے تمہیں
 بتایا ہے کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا ہے تو تم غمگین ہو گئے ہو اس لیے کہ موسیٰ بن محمد
 وہ مولود ہے جس کی وجہ سے اتحاد جانا رہے گا، خونریزی ہوگی، خزانے لوٹے جائیں گے
 اور ملک میں اضطراب پیدا ہوگا اور اس کا باپ خلافت سے دست بردار ہونے کی حالت میں
 قتل ہو جائے گا، یہ وہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کا زمانہ ہے، خدا کی قسم اس مولود کا دادا
 یعنی ہارون الرشید ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اُسے مبارکباد
 دی اور مہدی کو کبھی مبارک باد دی اور یہ موسیٰ ہادی تھا جو رشید کا بھائی تھا۔

رشید نے امین اور مامون کے درمیان جو عہد لکھا تھا اور اُسے کعبہ میں بھیجا تھا کہ
 ان دونوں میں سے خیانت کرنے والا عہد سے خارج ہو جائے گا یعنی جس نے بھی اپنے
 ساتھی سے خیانت کی تو خلافت اس شخص کے لیے ہوگی جس سے خیانت کی جائے گی۔

ام جعفر کے خادم یا سرکار کا بیان ہے جو اس کے خاص خادموں میں سے تھا کہ جب محمد کا گھبراؤ
 کیا گیا تو اس کی ماں اس کے پاس روتی ہوئی آئی تو اُس نے اُسے کہا کہ عورتوں کی گھبراہٹ
 اور حرص سے تاج نہیں پہنے جاتے اور خلافت کے لیے ایسے انتظامات کرنے پڑتے ہیں
 جنہیں دودھ پلانے والیوں کے سینے برداشت نہیں کر سکتے اپنے پیچھے دیکھ اپنے پیچھے
 دیکھ۔

کہنے میں کہ محمد، طاہر کے نزدیک کمزور آدمی تھا، ایک روز طاہر اپنے باغ میں تھا
 کہ محمد کا ح۔۔۔ اس میں تھا تھا۔۔۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس بات کو جان لو کہ جب سے ہم کھڑے ہوئے ہیں کوئی ہمارے حق کو لینے
 کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور ہماری طرف سے اُسے تلوار ہی بدلے میں ملی ہے

پس تو اپنے بارے میں غور کر۔“

راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم! طاہر کی طرف سے ہمیشہ اس خط کے آنے کا اظہار ہوتا رہا جب وہ خراسان واپس گیا تو اس نے اپنے خواص کو خط دکھا کر انہیں کہا خدا کی قسم یہ کسی کمزور آدمی کا خط نہیں بلکہ بے یار و مددگار آدمی کا خط ہے۔ اور خلفائے سلف سے لے کر اس وقت یعنی ۳۲ھ تک جو بھی خلیفے ہوئے ہیں ان میں علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور محمد بن زبیرہ کے سوا کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہوا جو ماں باپ کی طرف سے ہاشمی ہو۔ محمد بن زبیرہ کے متعلق ابوالغول کہتا ہے۔

”وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا باپ اور ماں ایسے شریف اصل سے ہیں جس سے اُمت کا روشن چراغ پیدا ہوا ہے اس نے مکہ کی وادیوں کی چوٹیوں سے نبوت کا پانی پیا ہے جس میں کسی قسم کی ملوئی نہیں۔“

۱۹۴ھ میں مامون کے ساتھ خیانت کا آغاز ہوا۔

۱۹۴ھ میں رقبہ میں امین کے زمانے میں عبدالملک

عبدالملک بن صالح بن علی | بن صالح بن علی کی وفات ہوئی، عبدالملک، عباس کی

اولاد میں سے اپنے دور کا فصیح ترین آدمی تھا کہتے ہیں کہ جب رشید شام کے علاقے سے بلا دبیج سے گزرا تو اس نے ایک بلند محل اور درختوں سے بھرپور ایک باغ دیکھا جو پھلوں سے لدا ہوا تھا تو اس نے عبدالملک سے کہا یہ محل کس کا ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین یہ آپ کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے ہے اس نے پوچھا اس کی تعمیر کیسی ہے اس نے جواب دیا آپ کے گھروں سے فروتر اور لوگوں کے گھروں سے برتر، اس نے پوچھا تیرا شہر کیسا ہے اس نے جواب دیا شیریں پانی، ٹھنڈی ہوا، مضبوط راستوں اور کم بیماریوں والا، اس نے پوچھا اس کی رات کیسی ہے اس نے جواب دیا، ساری کی ساری فریفتہ کرنے والی ہے۔ اس نے اُسے کہا اے ابو عبدالرحمن، تمہارا علاقہ کتنا اچھا ہے اس نے جواب دیا اور وہ ایسا کیوں نہ ہو اس کی مٹی سُرخ بالیاں نرد، درخت سرسبز، جنگل کشادہ اور پہاڑ بلند اور قیصوم اور شیخ کے درمیان ہیں تو رشید نے فضل بن ربیع کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھ پر اس کلام کی نسبت کوڑے کی ضرب ملتی ہے۔ یعنی اس سے اسے سخت تکلیف پہنچی، جب محمد نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ ناطق بالحق رکھا اور فضل بن ربیع اس کے وزیر نے لوگوں سے

اس کے لیے عہد لیا تو موسے اس وقت بہت چھوٹا تھا، کسی اچھائی یا بُرائی کے متعلق عقل و شعور نہیں رکھتا تھا اور خادم کے بغیر جو رات دن، بیداری اور نیند اور اُٹھتے بیٹھتے وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، کسی حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتا تھا اُسے علی بن عیسیٰ ہامان نے گود میں لیا اور اس کے متعلق بغداد کا ایک نابینا جو علی بن ابی طالب کے نام مشہور ہے کہتا ہے

”وزیر کے فریب اور امام کے فسق اور مشرک رائے نے خلافت کو ضائع کر دیا ہے اور یہ فریب کاری کا راستہ ہے اور فریب کاری کا راستہ سب سے بڑا ہے اور خلیفہ کے کام عجوبہ ہیں اور اس سے بڑھ کر وزیر کے کام عجوبہ ہیں اور ان دونوں سے بڑھ کر یہ بات عجیب ہے کہ ہم ایک چھوٹے بچے کی بیعت کرتے ہیں جو اچھی طرح اپنی ناک بھی صاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی دایہ کی گودا بھی اس کی پشت سے خالی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ایک باغی اور ایک گمراہ آدمی کی وجہ سے ہے جو کتاب مینر کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں اور اگر انقلاب زمانہ نہ ہوتا تو یہ کسی قافلے یا گروہ میں شامل ہوتے لیکن یہ فتنے پہاڑوں کی طرح ہیں جن میں ہم ایک حقیر آدمی کی سازش کی وجہ سے چرتے پھرتے ہیں۔“

جب طاہر بن حسین نے علی بن عیسیٰ ہامان کو قتل کر دیا تو وہ وہاں سے روانہ ہو کر حلوان جاؤا۔ یہ بغداد سے پانچ دن کے فاصلے پر ہے تو لوگ اس کی حکومت کے غلبے اور امین کے ساتھیوں کی شکست پر تعجب کرنے لگے، لوگوں کو طاہر کے غلبے اور مامون کے ظہور کا یقین ہو گیا تو فضل بن ربیع اور اس کے ساتھی شرمندہ ہو گئے۔

ایک نابینا شاعر اس بارے میں کہتا ہے جو مامون کا ہوا خواہ اور محمد بن زبیرہ سے تعصب رکھتا تھا، یہ بغداد کا رہنے والا تھا اس کے اشعار یہ ہیں۔

”میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو اس بات میں کامیابی کی اُمید رکھتے ہیں جس کی ابھی تک تکمیل ہی نہیں ہوئی اور جو ادا سے اور عہد انہوں نے کیے ہیں وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں جب کہ ان کی عمارت کی بنیاد فجور پر ہے ایک گمراہ انہیں گمراہی کی طرف لے گیا ہے اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کھیل اور مذاق کرتا ہے جیسے شراب، شرابی کے کھیلتی

ہے اور انہوں نے حق اور مامون سے خیانت کی اور خائن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم میں عادل، نجیب اور نیک سلوک کرنے والا ہے جس کی محبت ہمارے سینوں میں ہے اور شریعت اور زبور کی رو سے انجام اس کا ہی اچھا ہوگا اور وہ چالیس پر غالب آجائے گا جو آپس میں موافقت رکھتے ہیں اور چاند اور مہینے اس کے ذریعے پورے ہوں گے پس سب مل کر تمام تدبیریں کر لو اور تمہاری تدبیر سے اُسے خوشی ہوگی۔“

جب محمد کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے جرنیلوں اور خواص کو، طاہر کے معاملے میں اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے گانے سناؤ جیسے خراسان نے عبداللہ کو گانے سنائے تھے اور وہ ایسے ہی تھے جیسے اعشی نے ربیعہ سے کہا تھا۔
”پھر وہ ڈرے نہیں بلکہ وہ لڑنے والے مینڈھوں کی طرح آگے بڑھے کہ

جب وہ ملتے ہیں ٹکریں مارتے ہیں۔“

خدا کی قسم مجھے گزشتہ اقوام کی باتیں بتائی گئی ہیں اور میں نے ان کی جنگوں اور ان لوگوں کے حالات پر پڑھے ہیں جنہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں لیکن میں نے ان کی روایات میں، کسی آدمی کی یہ روایت نہیں دیکھی جو اپنے اقدام و سیاست میں اس آدمی کی طرح ہو، جس نے میرا قصد کیا ہے اور مجھ پر جرأت کی ہے اور اپنی جماعت کو، فوج، جرنیلوں اور جنگ کے سالاروں سے بھر لیا ہے پس آج جو کچھ تمہارے پاس ہے اُسے لاؤ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو زندہ رکھے وہ اس کو کافی ہوں گے جیسے پہلے خلفاء اپنے باغیوں کے لیے کافی ہوئے تھے جب محمد کی فوج طاہر سے شکست کھا گئی اور ان میں سے کوئی کھڑا ہونے والا باقی نہ رہا تو سلیمان ابی جعفر نے کہا اللہ تعالیٰ غدار پر لعنت کرے کہ وہ اپنی غداری اور بے تدبیری سے اُمت پر کیا مصیبت لے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل فضل سے اس کے نسب کو دور کرنے اور کس قدر جلدی اللہ تعالیٰ مامون کے لیے روشن چہرے والے مینڈھے یعنی طاہر سے بدلہ لیتا ہے اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔
”اس گنہ گار اور زندیق پر ہلاکت ہو جس نے کس عظیم تباہی کی طرف دعوت دی ہے متقی، بے خوف، نیک سلوک کرنے والے حکمران مامون کے ساتھ غداری کی ہے جو خلافت امامت اور عقل کی زینت ہے اور بڑھ چڑھ کر

سخاوت کرنے والا ہے اور اگر تم جہالت سے احمد کے وارث اور ہر راست باز کے
وحی سے خیانت کرو تو اللہ تعالیٰ مامون کا جو روشن رُوسردار اور بزرگ سخی ہے
بہترین مددگار ہے۔

ایمن کا طاہر بن حسین کی طرف خط | جب محمد کا مشرقی اور مغربی جانب سے گھیراؤ
کر لیا گیا اور ہرثمہ بن اعین، نہروان کے قریب

باب خراسان اور تین دروازوں کے نزدیک اُتر گیا۔ اور طاہر، مغربی جانب سے یا سریہ باب
محول اور کناسہ کے نزدیک اُترا تو اس نے اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کر کے کہا سب تعریف
اس ذات کے لیے ہے جو اپنی قدرت سے جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے
ذلت دیتا ہے اور سب تعریف اس کے لیے ہے جو اپنی قدرت سے جسے چاہے دیتا ہے
اور جس سے چاہے روک لیتا ہے اور سب تعریف اس کے لیے ہے جو قبض و بسط کرتا ہے
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں نہ مانے کی گردشوں اور مددگاروں کے چھوڑ دینے
اور پریشان حالی کے بالمقابل اس کا شکر کرتا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
پڑھنے کے بعد کہنے لگا۔ میں تم سے درد مند اور غمگین دل اور عظیم حسرت کے ساتھ جدا
ہوں ہا ہوں اور اپنے متعلق تدبیر کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی
مدد کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرمائے پھر اس نے طاہر کی طرف لکھا کہ

”تو ایک مامور ہے میں نے تجھ سے خیر خواہی چاہی تو تو نے خیر خواہی کی،
میں نے جنگ کی تو تو نے مدد کی، کبھی غالب، مغلوب ہو جاتا ہے اور کامیاب
ہونے والا بے یار و مددگار ہو جاتا ہے اور میں نے اپنے بھائی کی معاونت
اور اس سلطنت سے نکل کر اس کی طرف جانے میں بھلائی سمجھی ہے اور وہ
اس کا زیادہ حق دار اور مستحق ہے پس مجھے میری جان اور میرے بیٹوں، والد
دادی، خادموں اور میرے انصار و اعوان کے متعلق امان دے دو تا کہ میں
تیرے پاس آ جاؤں اور اس حکومت سے خلاصی حاصل کر کے اسے اپنے
بھائی کے سپرد کر دوں کیونکہ مجھے تیری امان پر اعتماد ہے وگرنہ وہ زیادہ
بہتر اور مستحق ہے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ جب طاہر نے خط پڑھا تو کہنے لگا اب اس کا کلا گھٹ گیا

ہے اور بازو ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بدکار ساتھی شکست کھا گئے ہیں، خدا کی قسم یہ کام نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر نہ رکھے اور میرے حکم کے مطابق نہ چلے اس موقع پر اس نے ہرثمہ کو لکھا کہ وہ اُسے اس کی امان کے حکم کو قبول کرنے کے متعلق کہے۔

دست بردار خلیفہ نے اپنے بیٹوں وغیرہ سے ایک جماعت تیار کی جنہوں نے مامونی فوجوں کو اس سے دُور کرنے کے لیے طاہر سے امان لی ہوئی تھی وہ ہرثمہ کی طرف گئے، طاہر بن حسین، ہرثمہ کو آدمیوں کی مدد دیتا تھا لیکن اس کے باوجود ہرثمہ کوئی بڑی تدبیر نہ کر سکا جب وہ آدمی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ہرثمہ سے جنگ کرنے کی طرف مائل ہوا تو فوج کے سالاروں بشر اور بشر الازدی ان کو طاہر نے دھمکی دی اور وہ اس کے فتح کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے اس کے حملہ سے بے خوف نہ ہوئے اور فوج سے الگ ہو گئے اور فوج بکھر گئی۔ طاہر باب الکباش طاہری کے مشہور باغ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس بارے میں ایک آوارہ گرد بغدادی قیدی کہتا ہے۔

”ہمیں طاہر کے ساتھ ایک عظیم الشان دن پالا پڑا، جس میں ہمیں ہرثمہ کے پر بہادری دکھانی تھی، ابو طیب کے لیے ہماری طرف سے یہ بڑی پریشانی اور تکلیف کا دن تھا اور اس کے پاس تمام ہانکنے والے اور نقب زن چور اور ایسے ننگے بھی جن کی پیشانیوں پر ضرب کے نشانات پڑے ہوئے تھے آگے اور جب وہ مشرق میں اترتا تو ہم مغرب کی طرف سے اس کے پاس آجاتے۔“

محمد امین بڑا تنگ حال ہو گیا تو اس نے دوسروں کے علاوہ اپنے نئے جرنیلوں میں پانچ ہزار درہم اور عطر کی پیشیاں تقسیم کیں اور اپنے پڑاؤ کے اصحاب کو کچھ نہ دیا طاہر کے جاسوسوں نے اسے اس بات کی اطلاع دی تو اس نے ان سے مراسلت کی اور ان کو وعدے دیے اور امیدیوں دلائیں اور چھوٹے آدمیوں کو جرنیلوں کے خلاف اکسایا یہاں تک کہ وہ غضب ناک ہو گئے اور امین کے خلاف فتنہ پیدا کر دیا یہ ہرزو الحجہ ۱۹۶ھ بدھ کے روز کی بات ہے امین کے خلاف فتنہ برپا کرنے والوں میں سے ایک نے کہا۔

”لوگوں کے امین کو اپنے دل میں کہہ کہ تو نے خوشبودے کر فوج کو پراگندہ کر دیا ہے اور میری جان طاہر پر قربان ہو کہ اس نے اپنے ایلچیوں اور کافی تیاری کے باعث باغی گردہ کے مقابلہ میں زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے

اسے عہد شکن اجس کی عہد شکنی نے اُسے بے یار و مددگار کر دیا ہے اور اس کی موت سے اس کے عیوب فاش ہونے لگے ہیں اور تیرے پاس پھاڑنے والے شیروں کے ساتھ ایک شیر اپنے حملوں میں کتے کی طرح بن کر آیا پس تو بھاگ جا اور اس قسم کے شیر سے سوائے آگ اور دوزخ کی طرف بھاگنے کے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔“

ظاہر نے یا سر یہ سے چل کر باب الانبار میں بڑا ڈال لیا اور اہل بغداد کا محاصرہ کر لیا اور صبح و شام جنگ کی یہاں تک کہ دونوں فریق ختم ہو گئے اور بستیاں آجر گئیں اور نشانات مٹ گئے اور بھاؤ چڑھ گئے یہ ۱۹۶ھ کا واقعہ ہے اور بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ اور بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جنگ کی، یہ محمدی راہین کے حامی تھے اور وہ مامونی راموں کے حامی تھے، مکانات گرا دیے گئے بستیاں جلا دی گئیں اور اموال لوٹ لیے گئے، اس بارے میں علی بن ابی طالب نابینا شاعر کہتا ہے۔

خاندانوں کی رشتہ داریاں منقطع ہو گئیں اور صاحب تقویٰ و بصیرت لوگوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا جو اس نے اپنی مخلوق سے کبار کے ارتکاب کی وجہ سے لیا، پس ہم نے نہ گناہوں سے توبہ کی اور نہ اندرونی اصلاح کی اور نہ کسی ناصح کی بات کو سنا کہ اس کا وعظ ہم پر اثر انداز ہوتا اور جب اسلام کی امید منقطع ہو گئی تو ہم اسلام پر رونے لگ گئے اور ہر کافر نے اس کی خیر کی امید کی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے ہیں ان میں سے کوئی مفہور اور ذلیل ہے اور کوئی قاہر اور غالب ہے اور قوم کا سردار اپنی جان لیے پھرتا ہے اور ہر چالاک سردار بن بیٹھا ہے اور کوئی فاجر، کسی نیک کی حرمت کا پاس نہیں کرتا اور نہ نیک، فاجر کو ہٹانے کی استطاعت رکھتا ہے اور تو انہیں بھیڑیوں کی طرح پائے گا جو خون کو دیکھ کر اس کا قصد کرتے ہیں اور کسی جھڑکنے والی کی پروا نہیں کرتے جب دشمنوں نے اپنی کوشش سے پہلا گھر گرا لیا تو وہ دوسروں کے گرانے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اپنے گھروں میں بکریوں کی طرح ہو گئے وہ انہیں کاٹنے والی تلواروں کے ساتھ ہانکتے تھے اور قبیلوں کے فاسق اپنے سرداروں پر

خنجروں سے حملے کرتے تھے اور ہم مقتول، دوست، سخی بھائی اور مہربان
 پڑوسی پر روتے تھے اور ماں اپنے بیٹے کے غم میں روتی تھی اور اس پر
 شفقت سے ہر پندرہ رونا تھا اور ہر خاندان والی عورت بیوہ ہو گئی اور وہ خاندان
 پر آنسو بہاتی تھی اور وہ اسے کہتی تھی کہ تو میری قوت اور مددگار تھا پس آج
 میری قوت اور میرا مددگار مجھ سے غائب ہو گیا ہے، میں گھروں کے جلانے
 گرانے اور قتل اور لوٹ مار کی وجہ سے واپس لوٹ آئی ہوں اور پردہ نشین
 عورتیں بغیر اڑھنی اور چادر کے ننگے سر باہر آ گئی ہیں اور تو انہیں حیران
 کھڑا دیکھے گا جنہیں بھاگتے ہوئے ہرنوں کی طرح اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں
 یوں معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کبھی خوب صورت شہر اور اقامت کی جگہ ہی
 نہ تھی ہاں وہ ایسا ہی ہے اس کا حسن اور اس کی جمعیت تقدیر کے حکم سے
 پریشان ہو گئی ہے اور ان پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو پہلے لوگوں پر
 نازل ہوئی تھی اور وہ شہر و دیہات کے لیے داستان بن گئے ہیں، اے
 بغداد جو بادشاہوں کا گھر اور مختلف قسم کی امیدوں کے حصول کی جگہ اور منابر
 کا مستقر دنیا کی جنت تو نگری کے حصول کا مقام اور اموال تجارت کو نکالنے کی جگہ
 تھا، مجھے بتاؤ سہی کہ وہ لوگ کہہ گئے ہیں جنہیں میں نے آسودہ حال دیکھا
 تھا وہ بادشاہ کہاں ہیں جو فوجوں کے ساتھ صبح کو آتے تھے جن کا حسن،
 روشن ستاروں سے مشابہ تھا وہ فیصلہ کرنے والے قاضی کہاں ہیں جو مشکل
 امور کو حل کرتے تھے وہ حکیمانہ باتیں کرنے والے اور مرتب گفتگو کرنے والے
 شاعر اور خطیب کہاں ہیں، وہ بادشاہوں کے شکھے کہاں ہیں جن میں، میں نے
 کئی قسم کے جواہر ٹنکے دیکھے تھے، اس کی خاک گلاب اور کستوری چھڑکاتی تھی
 اور اس کے بعد انگلیٹھیوں سے خوشبو مہکتی تھی، ہر شام کو ندیم، کریم اور فیاض
 آدمی کے پاس جاتے تھے اور گلوکارہ لونڈیوں کے کھیل ہوتے تھے جب
 وہ سادگی کی آواز کے ساتھ گاتی تھیں تو ان کے نغمے مقبول ہوتے تھے
 آل ہاشم کے روشن رو بادشاہوں اور ان کے پیروکاروں کو کیا ہو گیا ہے
 کہ انہوں نے مفاخر پر ہی اکتفا کیا ہے وہ اپنی بادشاہت میں یوں جاتے

ہیں گویا وہ کسی دوسرے قبیلے کی بادشاہت میں ہیں، ان کے بڑوں نے انہیں جس مصیبت میں ڈالا ہے اس سے وہ لڑ کھڑا گئے ہیں اور انہیں چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچی ہے اور اس میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر بادشاہ ایک دوسرے کی مدد کرنے تو ان کے خوف سے سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں۔

ہرثمہ بن اعین نے زہیر بن مسیب صہبی کو مشرقی جانب

فوج کے جنرلوں کے القاب

بھیجا وہ کلواذ کے نزدیک الماطر مقام پر اترے اور

اس نے بصرہ اور واسط سے آنے والے تجارتی سامان کے جہازوں پر عشر لگایا اور بغداد پر منجیقین نصب کیں اور اس نے رقم میں کلواذ اور جزیرہ میں پڑاؤ ڈالا تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی تو آوارہ گردوں اور قیدیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے مقابلہ میں آگئی وہ اپنی پیٹوں میں تنگے لڑتے تھے اور انہوں نے اپنے سرداروں کے لیے کھجور کے پتوں سے دو اہل بنائے تھے اور ان کا نام انہوں نے خود رکھا ہوا تھا اور کھجور کے پتوں اور چٹائیوں سے ڈھال بنائی ہوئی تھی جسے تار کول لگا کر سنگریزوں اور ریت سے بھرا ہوا تھا اور ہر دس آدمیوں پر ایک عرفیہ (نمبر دار) ہوتا تھا اور ہر دس عرفیوں پر ایک نقیب ہوتا تھا اور ہر دس نقیبوں پر ایک قائد ہوتا تھا اور ہر دس قائدین پر ایک امیر ہوتا تھا اور ہر ذی مرتبہ آدمی کے لیے ایک سواری ہوتی تھی جو اس کے ماتحت آدمیوں کی تعداد کے لحاظ سے ہوتی تھی اور عرفیہ کے آدمیوں کی سواری جنگ بازوں سے الگ ہوتی تھی یہی حال نقیب، قائد اور امیر کا تھا۔ برہنہ لوگوں نے اپنی گردنوں میں گھنگھرو اور سرخ و زرد اون ڈالی ہوئی تھی اور ان کے لیے آگے سے کھینچنے والی رسیاں لگائیں اور وہیں جھاڑیوں اور چنوریلوں سے بنائی گئی تھیں، عرفیہ آتا اور وہ ایک آدمی کو سوار کرتا اور اس کے آگے دس جانباہ ہوتے جن کے سروں پر پتوں کے خود اور چٹائیوں کی ڈھالیں ہوتی، اسی طرح نقیب، قائد اور امیر بھی آتے اور ناظرین ان کی جنگ کو دیکھتے کہ وہ سب رفتار گھوڑوں زد ہوں، خودوں، نیزوں اور تبتی ڈھالوں والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ برہنہ تھے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ لوگ بڑی تیاری میں تھے اور برہنہ لوگوں کا مقابلہ زہیر تھا اسے ہرثمہ کی طرف سے مدد ملی تو برہنہ لوگ شکست کھا گئے اور ان کے گھوڑوں نے انہیں نیچے پھینک دیا اور ان سب کا محاصرہ ہو گیا اور اس نے انہیں تلوار کی باڑھ پر رکھ لیا ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے اور ناظرین میں سے بھی بہت سے لوگ قتل ہوئے اور اس بارے میں نابینا شاعر

کہتا ہے اور اس نے منجیق کے ساتھ زہیر کے سنگباری کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔
 منجیق اور پتھر کے نزدیک نہ جا کہ تو نے مقتول کو قبر میں جاتے دیکھا ہے
 وہ صبح صبح اٹھا کہ اس سے کوئی خبر نہ رہ جائے اور شام کو قتل ہو کر اس نے
 خبر کو سمجھے چھوڑ دیا اس نے چاہا کہ یہ بات نہ کہی جائے کہ ان کا کوئی معاملہ تھا
 اے منجیق والے جو کچھ تو نے کہا ہے وہی تجھے کافی ہے تو نے کچھ باقی نہیں
 چھوڑا، اس کی خواہش کچھ اور تھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خواہش تقدیر پر
 غالب آ جائے۔“

جب فوج کو رسد دینے میں این تنگ ہو گیا تو اس نے خفیہ طور پر سونے اور چاندی کے
 برتنوں کو ڈھال کر اپنے آدمیوں کو دے دیا اور طاہر کی جنگ باز فوجوں کی طرف جو باب انبار
 اور باب حرب اور باب قطربل کے قریب تھیں محفوظ جگہوں کی طرف چلا گیا، جنگ غری جانب
 کے وسط میں ہو رہی تھی منجیقوں نے دونوں فریقوں کے درمیان کاروائی کی اور بغداد اور
 کرخ اور دیگر اطراف میں بے شمار مکان جل اور گر گئے یہاں تک کہ بغداد کا حسن ختم ہو گیا،
 اور حالات سخت خراب ہو گئے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے اور خوف چھا
 گیا تو شاعر نے کہا۔

” اے بغداد تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے کیا تو ایک مدت تک آنکھوں کی ٹھنڈک

نہ تھا کیا تجھ میں وہ لوگ نہ تھے جن کا قرب اور مسکن خوب صورت تھا، زمانے

نے انہیں جدائی کی آواز دی تو وہ بکھر گئے تجھے ان کی جدائی کے غم سے کس قدر

تکلیف پہنچی ہے، میں ان لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور جب بھی میں ان

کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، زمانے نے ان کو

متفرق کر دیا ہے اور زمانہ دو فریقوں کے درمیان تفریق کر دیا کرتا ہے۔“

دونوں فریقوں کے درمیان چار ماہ تک جنگ جاری رہی بغداد اپنے اہل سمیت تنگ
 ہو گیا مساجد ویران ہو گئیں، نمازیں ترک کر دی گئیں اور اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ
 جب سے ابو جعفر منصور نے اسے بنایا تھا اس پر ایسی مصیبت نازل نہ ہوئی تھی، المستعین
 اور المعتز کی جنگ میں بھی، آوارہ گردوں کے جنگ میں جانے کی وجہ سے اہل بغداد کو
 اس قسم کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان میں سے اپنے سوار اور امراؤں پر

تھے جنہیں نینویہ خالویہ کہتے تھے اور ان میں سے ایک آدمی ایک آوارہ گرد پر سوار ہو جاتا اور پچاس ہزار برہنہ آدمیوں کے ساتھ جنگ کی طرف چلا جاتا اور اہل بغداد کو اس جنگ سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مامون اور دست بردار خلیفہ کی جنگ سے پہنچا، اہل بغداد نے ابو اسحق متقی لہ کے چلے جانے اور اس سے قبل بریدیوں اور ابن رائق اور تونزون ترکی کی مصیبت سے اس مصیبت کو بڑا سمجھا جو ان پر اس وقت یعنی ۳۳۲ھ میں نازل ہوئی اور انہیں محمد حسن بن ابوالعباس عبد اللہ بن حمدان ناصر الدولہ اور اس کے بھائی علی بن عبد اللہ سیف الدولہ کے خروج سے جو لمبا قحط اور خرابی لاحق حال ہوئی۔ یہ خرابی اس سے بھی بڑی تھی۔ ان آوارہ گردوں کی مانند لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ مامونیوں اور برہنہ لوگوں کے درمیان جو دست بردار خلیفہ کے ساتھ تھے، جنگ سخت ہو گئی اور محمد کا اس کے محل کی غریب جانب سے محاصرہ کر لیا گیا ایک دن ان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں فریقین کے بہت سے لوگ مارے گئے اس بارے میں حسین خلیع کہتا ہے۔

”ہمیں اللہ کی مدد سے فتح ہوگی اور بھاگنے کے بعد ہم حملہ کریں گے اور دین سے نکل جانے والے تیرے اچھے اور بڑے دنوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے موت کا پیالہ ہے جو بڑا تلخ ہے ہم نے وہ پیالہ پیا اور انہیں پلایا لیکن اس نے انہیں گرا دیا، اے اللہ کے ابن اللہ پر بھروسہ کر، تجھے فتح و نصرت ملے گی اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر، اس صاحب قدرت نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے اسی طرح کبھی جنگ ہمارے حق میں ہوتی ہے اور کبھی خلاف ہوتی ہے۔“

معرکہ دار الرقیق | شاعر دار الرقیق میں ایک عظیم معرکہ ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے گلی کوچوں میں بہت خونریزی ہوئی، ایک مامون کو پکاڑنا تھا اور دوسرا دست بردار خلیفہ کو آوارہ دینا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے گھروں کو لوٹ لیا گیا وہ مرد اور عورت کامیاب ہوتے تھے جو اپنے آپ کو بچا کر اور جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا طاہر کی فوج کے سپرد کر دیتے تھے انہیں اپنے مال و جان کے متعلق امان مل جاتی تھی اس بارے میں شاعر کہتا ہے۔

”جب بغداد کی خوشحالی اور آسودگی ختم ہو گئی تو میری آنکھ بغداد پر اٹسکبار ہوئی“

اور ہمیں خوشی کے بدلے غم اور فراخی کے عوض تنگی ملی، ہمیں حاسدوں کی نظر لگ گئی اور انہوں نے اہل بغداد کو منجینقوں سے تباہ کر دیا اور لوگوں نے آگ سے محل کو جلا دیا نوحہ کرنے والے غرق ہونے والوں پر نوحہ کر رہے تھے اور کچھ اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہے تھے اور کچھ بھائیوں کو بلارہے تھے اور سفید آنسوؤں والی نازنین عورتیں جسموں پر خوشبو لگائے ہوئی تھیں وہ اپنے مریاؤں کو پکارتی تھیں مگر وہاں کوئی مہربان موجود نہ تھا اور مہربان اپنے ساتھی کے ساتھ گم ہو چکا تھا اور لوگوں نے دنیا سے اپنا سامان نکالا جو ہر بازار میں فروخت ہو رہا تھا اور پیر دلیسی اپنے گھر سے دور، راستے کے درمیان بغیر سز کے قتل ہوا پڑا تھا، سب لوگ ان کی جنگ کی لپیٹ میں آگئے اور انہیں پتہ نہ تھا کہ وہ کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کی نگرانی نہ کرتا تھا اور دوست، دوست سے بھاگ چکا تھا اور میں اس بات کو کب بھول سکتا ہوں کیونکہ میں دارالرفیق کے معرکے کو یاد کرنے والا ہوں۔

ایک خراسانی جرینیل نے طاہر سے پوچھا کہ وہ آج اس کی جنگ پر ہنہ لوگوں کی خود رانی کی باری مقرر کرے تو طاہر نے ایسا ہی کر دیا وہ جرینیل نکلا تو اس نے ان کی تحقیر کی اور کہنے لگا ان لوگوں کی تدبیر سے کیا ہو سکتا ہے کہ جنگجوؤں اور بہادروں کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے تو ایک برہنہ نے اُسے دیکھ لیا حالانکہ اس نے اُسے خاصی دیر تک تیرا رہے تھے یہاں تک کہ جرینیل کے تیر ختم ہو گئے اور اس نے خیال کیا کہ برہنہ کے پتھر ختم ہو گئے ہیں پس اس نے اُسے پتھر مارا جو اس کے تھیلے میں باقی رہ گیا تھا اور جرینیل نے اس پر حملہ کیا پس وہ پتھر اس کی آنکھ میں لگا پھر اس نے دوسرا پتھر مارا، قریب تھا کہ جرینیل اپنے گھوڑے سے گر پڑے اور خود اس کے سر سے گر پڑا اور اس نے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ کہہ رہا تھا یہ آدمی نہیں بلکہ شیطان ہیں اس بارے میں ابو یعقوب خرمی کہتا ہے۔

مگر خ کے بازار بے آباد ہیں اور وہاں کے آوارہ گرد اور راہی دوڑتے پھرتے ہیں اور جنگ نے ان کے رذیلوں میں سے ایک سیاہ رنگ موٹے لڑکے کو نکالا ہے جو شیروں پر غالب آ گیا ہے۔

اور علی نابینا کتنا ہے

”ان جنگوں نے ایسے آدمیوں کو نکالا ہے جو نہ قحطانی ہیں نہ نزاری ما اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اُون کی زرہوں میں جنگ کی طرف پھاڑنے والے پشروں کی طرح جاتے ہیں اور جب بہادر موت سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرتے ہیں تو وہ جانتے ہی نہیں کہ فرار کیا ہوتا ہے اور ان میں ایک برہنہ بغیر تہبند کے دو ہزار آدمیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور جب نوجوان نیزہ مارتا ہے تو کتنا ہے کہ یہ ضرب آوارہ گرد جوان کی ہے اسے لے لے۔“

فیصلہ کن جنگیں | ہر روز شدید جنگ ہوتی اور فریقین ڈٹ کر جنگ کرتے اور دست بردار خلیفہ کی برہنہ فوج اور اس کے حامی کھجور کے پتوں کے خود اور چٹاپوں کی ڈھالوں والوں کے ساتھی بن گئے اور طاہر نے لوگوں کو تنگ کر دیا اور وہ بغداد کی ایک سڑک کے بعد دوسری سڑک طے کرنے لگا اور جس طرف وہ جاتا اس طرف کے لوگ جنگ میں اس کے مددگار بن جاتے پھر اس نے اپنے اور دست بردار خلیفہ کے اصحاب کے درمیان، گھروں اور محلات کی جگہوں پر خندقیں کھودنا شروع کر دیں طاہر کے ساتھی بڑی قوت اور اقبال میں تھے اور دست بردار خلیفہ کے ساتھی کمزوری اور ادبار کی حالت میں تھے، طاہر کے ساتھی گھروں کو منہدم کرتے تو دست بردار خلیفہ کے اصحاب، بعض لکڑی کے گھروں اور کپڑوں وغیرہ کو لے لیتے اور مال و متاع کو لوٹتے تو ایک محمدی نے کہا

”ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے جس کی ہم تلافی نہیں کر سکتے اور ان کے مطالبات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہم کم ہو رہے ہیں اور جب وہ کسی گھر کو منہدم کرتے ہیں تو ہم اس کی چھتوں کو لے لیتے ہیں اور دوسری اس قسم کی چیزوں کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ڈھول سے شکار کو اٹھاتے ہیں اور اگر ان کو قریب سے شکار کا منہ نظر آ جائے تو وہ شکار کر لیتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے مشرق و مغرب میں خرابی پیدا کر دی ہے پس ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیز کے متعلق بتاتے ہیں اور اگر کسی بڑی بات کو نہ دیکھیں تو اندازہ لگاتے ہیں اور ہمارے قابو یوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی رخصت دی ہوئی ہے اور کسی

مقتول کو، صاحب رخصت ہی قتل کرتا ہے۔“

جب طاہر نے اس مشکل وقت میں بھی دست بردار خلیفہ کے صبر و استقامت کو دیکھا تو اس نے بصرہ اور واسط وغیرہ سے رسد کے راستے روک دیے مامونی حدود میں ایک درہم کے بدلے میں بیس رطل روٹی ملتی تھی اور محمدی حدود میں ایک درہم کے بدلے میں ایک رطل روٹی ملتی تھی لوگ تنگ آ کر کشائش سے مایوس ہو گئے، بھوک سخت ہو گئی اور جو لوگ طاہر کی طرف چلے گئے تھے وہ خوش تھے اور دست بردار خلیفہ کے ساتھ رہنے والے متاسف تھے طاہر نے اپنے اصحاب کے ساتھ بہت سی جگہوں پر پیشقدمی کی اور باب کیاش کا ارادہ کیا تو جنگ سخت ہوئی اور سرکٹنے لگے اور تلوار اور آگ نے اپنی کاروائی شروع کر دی اور فریقین نے استقامت دکھائی طاہر کے بہت سے اصحاب قتل ہو گئے اور برہنہ لوگوں کے بھی، جو پتھروں کے ٹھیلے اور اینٹیں اور کھجور کے پتوں کے خود اور چٹائیوں کی ڈھالیں اور سرکنڈوں کے نیزے اور چیتھروں کے جھنڈے اور بگل اور گایوں کے سینگ اٹھائے ہوئے تھے بہت سے آدمی مارے گئے یہ واقعہ اتوار کے روز ہوا اس بارے میں نابینا شاعر کہتا ہے

” اتوار کے روز کی جنگ ہمیشہ یاد رہے گی اور میں نے کتنے ہی جسموں کو پھپھڑے دیکھا اور کتنے ہی دیکھنے والوں کی گھات میں موت لگی ہوئی تھی اور اُسے ایک ایسا تیر آگیا جس کے مارنے والے کا پتہ ہی نہ تھا اور اس نے درمیان سے اس کے جگر کو چیر دیا اور دوسرا شیر کی طرح پھرا ہوا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک ہزار آدمی قتل ہو گئے ہیں اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، میں نے ایک آدمی سے جسے نیزہ لگ چکا تھا کہا کہ تو کون ہے اے مسکین تو ہلاک ہو تو محمد کا ساتھی ہے اس نے جواب دیا، میں نہ نسب کے لحاظ سے اور نہ ملک کے لحاظ سے اس کا قریبی ہوں اور نہ میں مگر اسی اور ہدایت کے لیے لڑا ہوں اور نہ ہی کسی ایسی چیز کے لیے لڑا ہوں جو جلد میرے قبضہ میں آجائے۔“

جب محمد کی پوزیشن نازک ہو گئی اور اس کا محاصرہ سخت ہو گیا تو اس نے اپنے ایک جرنیل ذریح نام سے کہا کہ وہ مسلمانوں اور دیگر ادیان کے مال دار لوگوں اور ذخائر و امانتوں والوں کا پیچھا کرے، اس کے ساتھ میں نے ایک اور آدمی کو بھی کر دیا جس کا

نام ہرش تھا۔ یہ دونوں لوگوں پر حملہ کرتے وہ کسی کے تہمت لگا دینے سے بھی مال لے لیتے اس طرح سے انہوں نے بہت سے اموال اکٹھے کر لیے پس لوگ حج کے بہانے بھاگ نکلے اور مال دار لوگ ذریعہ اور ہرش کے خوف سے بھاگ گئے اس بارے میں علی نابینا کہتا ہے کہ

”انہوں نے حج کرنے کا اظہار کیا حالانکہ وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ہرش سے بھاگنا چاہتے تھے، کتنے ہی لوگ قابل رشک تھے کہ نہ مانہ ان پر تباہی لے آیا اور جس کسی کے گھر

ذریعہ گیا اُسے ذلت اور جنگ سے دوچار ہونا پڑا۔“

جب ملک میں عام لوگ روپوش ہو گئے تو تاجروں نے کربخ میں اکٹھے ہو کر طاہر سے خط و کتابت کی کہ انہیں آپ کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہے اور ان پر اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور برہنہ لوگ ایک آفت ہیں اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم نے طاہر سے خط و کتابت کی تو تم دست بردار خلیفہ کے حملہ سے بے خوف نہ ہو گے، انہیں چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور ان کے ایک شاعر نے کہا کہ

”ان لوگوں کو چھوڑ دو انہیں عنقریب شیروں کے پنجے پکڑیں گے اور سخت

جگر والوں کے پردے پھاڑ دیں گے اور عنقریب وہ قبروں کی طرف چلے

جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ترو اور فجور کی وجہ سے تباہ کرنے والا ہے اور ایک

روز برہنہ لوگوں نے ایک لاکھ کی تعداد میں نیزوں اور سرکنڈوں سے سر پر کاغذ کی

لمبی ٹوپیاں پہن کر حملہ کر دیا بگل اور گائے کے سینک بجاٹے اور دیگر محمدیوں

کے ساتھ مل کر بہت سی جگہوں پر حملہ کر کے مامونیوں کی طرف چل پڑے اور طاہر

نے اپنے کئی جرنیلوں اور امراء کو ان کی طرف بھیجا، پس جنگ میں نیزی ہو گئی

اور بہت قتل عام ہوا، برہنہ لوگ نظر تک مامونیوں پر غالب رہے یہ سوموار کا

دن تھا پھر مامونیوں نے برہنہ لوگوں پر حملہ کر دیا جو محمد کے اصحاب تھے پس ان

میں سے کچھ قتل ہوئے اور دس ہزار کے قریب اس نے جلا دیا

اور اس بارے میں نابینا شاعر کہتا ہے کہ

”امیر طاہر بن حسین کے ساتھ انہوں نے ہم پر سوموار کی صبح کو حملہ کیا انہوں نے

اپنی نوج کو اکٹھا کر کے ہر مضبوط کلائی اور نیزے والے کے ساتھ ہم پر حملہ

کیا اسے برہنہ لوگوں کے مقتول جو کدارے پر پھیرا پڑا ہے اور اُسے فریقین

کے گھوڑے روند رہے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا چیز تھی کہ لوگوں نے دو میں سے ایک بات پر صلح کر لی، کیا تو وزیر یا قائد تھا بلکہ تو تو ان دونوں باتوں سے فرقدین دوستاروں کا نام ہے، تک دور تھا کتنے ہی صاحب بصیرت لوگ دو آنکھوں کے ساتھ گئے تاکہ ان کے حال کو دیکھیں تو ان کی آنکھ کو راحت نصیب ہوئی وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس میں خطا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ دو آنکھوں کا قصد کریں۔“

دست بردار محمد کی حالت خراب ہو گئی پس جو کچھ اس کے خزانے میں موجود تھا اس نے پوشیدہ طور پر فروخت کر دیا اور اپنے ساتھیوں میں رسد تقسیم کر دی اور ان کے پاس دینے کو اور کچھ باقی نہ رہا اور ان کے مطابق البات زیادہ ہو گئے اور طاہر نے اس کو تنگ کر دیا، وہ با انبار کے باغ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، محمد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو قتل کر دے کیونکہ ان میں جو آدمی بھی ہے وہ دشمن ہے، خواہ وہ میرے ساتھ ہو یا علی کے ساتھ ہو یہ لوگ میری آرزوں کو چاہتے ہیں اور وہ مجھے چاہتے ہیں، اور کہنے لگا

”اے مددگار مجھے چھوڑ کر منتشر ہو جاؤ کیونکہ تم میں سے ہر کوئی منافق ہے اور میں سوائے جھوٹ اور جھوٹی امیدوں کے کچھ نہیں دیکھتا اور میں کسی چیز کا مالک نہیں پس میرے بھائیوں سے سوال کرو، مجھ پر باغ میں پڑاؤ کرنے والے یعنی طاہر بن حسین نے مصیبت ڈالی ہے۔“

جب اس کی حالت نازک ہو گئی اور ہرثمہ بن اعین نے مشرقی جانب اور طاہر نے مغربی جانب ڈیرے ڈال دیے اور محمد ابو جعفر کے مشہر میں اکیلا رہ گیا تو اس نے اپنے خواص سے اپنے بچاؤ کے متعلق مشورہ کیا ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ابن حسین سے خط و کتابت کرو اور اُسے ایسی قسم دو جس پر وہ اعتماد کرے کہ تو اپنی حکومت اس کے سپرد کر دے گا شاید وہ تجھے ایسا جواب دے جو تو اس سے چاہتا ہے، اس نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے ہیں نے تجھ سے مشورہ لینے میں غلطی کی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آدمی کا بدلہ لینا کسی عذر کو قبول نہیں کرتا اور اگر ماموں اپنے لیے جدوجہد کرے اور اپنی رائے سے حکومت سنبھال لے تو کیا جس حد تک طاہر پہنچا ہے وہ اس کے دسویں حصے تک پہنچ جائے گا؟ میں نے اس کی رائے کو

معلوم کرنے کے متعلق بہت جستجو کی ہے وہ صرف اچھے کاموں کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے اور شہرت اور دفا کا جو یا ہے پس میں اموال کے ذریعے اس کی ذلت اور خیانت کا کیسے خواہا ہو سکتا ہوں اور اس کی عقل پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں اور اگر وہ میری اطاعت قبول کرے اور میری طرف لوٹ آئے پھر مجھ سے تمام ترک اور دلیلم مناصب طلب کریں تو میں ان کا اہتمام نہیں کر سکتا اور میری حالت ابوالاسود الدولی کے اس قول کی طرح ہوگی جو اس نے اذد کے متعلق کہا تھا جب اس نے زیاد بن ابیہ کو پناہ دی تھی سے

”اور جب اس نے انہیں اپنے وزیر کو تلاش کرنے دیکھا تو وہ لمبا عرصہ ٹھہرنے کے بعد اس کی طرف چل پڑے اور جب وہ اس سے ڈرا جسے اس پر کوئی رحم نہ آتا تھا تو وہ آزدہ کے پاس آیا اور اصل رائے زیاد ہی کی تھی، تو انہوں نے اُسے خوش آمدید کہا اور یہ بھی کہا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے پس جو تو چاہتا ہے اُسے دُور کر لے اور دوبارہ آ جا اور اب وہ کسی آدمی سے بھی نہیں ڈرتا، خواہ وہ عادی قوت کے ساتھ اس پر حملہ کریں۔“

خدا کی قسم اگر وہ میری بات قبول کرے تو میں اس کے لیے اپنے خزانے مباح کر دوں اور اپنی حکومت اُسے دے دوں اور اس کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو نجات پاتا خیال نہیں کرتا خواہ میری ہزار جان بھی ہو، تو سندی نے کہا امیر المؤمنین آپ دُرست کہتے ہیں اگر آپ اس کے باپ حسین بن مصعب بھی ہوتے تب بھی وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، محمد نے کہا کہ پھر ہم بیچ کر ہرثمہ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں اور اب بھاگنے کا وقت بھی نہیں ہے اور اس نے ہرثمہ سے مراسلت کی اور اس کی طرف مائل ہو گیا ہرثمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا اور جو لوگ اُسے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں روکے گا۔ یہ اطلاع طاہر کو بھی پہنچی تو اُسے اس پر بہت غصہ آیا اور ہرثمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس جنگی کشتی میں باب خراسان کے گھاٹ تک آئے گا اور وہ اُسے اور جن لوگوں کو وہ ساتھ لانا چاہتا ہے اپنی فوج میں لے آئے گا، پس جب محمد نے اس رات کو نکلنے کا ارادہ کیا — یہ ۲۵ محرم ۹۸ھ جمعرات کے روز کا واقعہ ہے — تو اس کے اصحاب میں سے محتاج اور فقیر لوگ اس کے پاس آئے جو فوج کے نوجوان تھے انہوں نے اُسے کہا امیر المؤمنین! آپ کے ساتھ کوئی میسر نہیں ہے ہم سات ہزار جانبا ز ہیں اور آپ کے اصطل

میں سات ہزار گھوڑے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو گھوڑے پر سوار کرادو، ہم شہر کے کسی دروازے کو کھول دیں گے اور اسی رات کو باہر نکل جائیں گے ہم پر کوئی شخص جرأت نہ کرے گا یہاں تک کہ ہم جزیرہ اور دیار ربیعہ تک پہنچ جائیں گے اور اموال اور رجال کو اکٹھا کریں گے اور شام کے درمیان جا بیٹھیں گے اور مصر میں داخل ہو جائیں گے ہماری فوج اور مال بہت بڑھ جائے گا اور ہمیں نئے سرے سے دوبارہ حکومت مل جائے گی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ صبح رائے ہے اور اس نے اس بات کا عزم کر لیا اور اس کی طرف مائل ہو گیا امین کے گھر کے وسط میں امین کے خاص غلاموں اور خادموں میں کچھ طاہر کے آدمی بھی تھے جو اُسے لمحہ لمحہ کی خبر دے رہے تھے طاہر کے پاس یہ خبر بھی پہنچ گئی اور طاہر کو خوف و امن گیر ہو گیا کہ اگر اس نے اس رائے پر عمل کیا تو یہی بہترین رائے ہے، پس اس نے سلیمان بن ابی جعفر، ابن نہیک اور سندی بن شاہک کی طرف پیغام بھیجا — یہ لوگ امین کے ساتھ تھے — کہ اگر تم نے اُسے اس رائے سے نہ ہٹایا تو میں تمہارے گھروں اور جاگیروں کو تباہ کر دوں گا، تمہاری آسائش کو ختم کر دوں گا اور تمہاری جانوں کو تلف کر دوں گا تو وہ اسی رات امین کے پاس گئے اور اُسے اس رائے پر قائم نہ رہنے دیا ہرثمہ جنگی جہاز میں اس کے پاس باب خراسان تک آیا امین نے ایک گھوڑا منگوا یا جو سیاہ رنگ پانچ کلیان تھا جسے زہیری کہتے تھے اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں موسیٰ اور عبداللہ کو بلا کر ان سے معاف کیا انہیں سونگھا اور روپڑا اور کہنے لگا میرا اللہ تمہارا نگہبان ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں اس کے بعد تمہیں مل سکوں گا یا نہیں وہ سفید کپڑے پہنے اور سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھا اس کے آگے آگے شمع تھی یہاں تک کہ وہ باب خراسان کے گھاٹ تک آ گیا جہاں کشتی کھڑی تھی وہ گھوڑے سے اتر کر کشتی میں داخل ہو گیا تو ہرثمہ نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، طاہر کو بھی اس کے چلے جانے کی اطلاع مل گئی تو اس نے ہروی جو انوں اور دیگر ملاحوں کو کشتیوں میں کنارے پر بھیج دیا تو انہوں نے کشتی کو روک لیا، ہرثمہ کے ساتھ چند آدمی تھے طاہر کے آدمی کپڑے اتار کر آئے اور انہوں نے کشتی کے نیچے غوطہ لگا کر اُسے ہر چیز سمیت اُلٹ دیا ہرثمہ صرف اپنی جان بچا سکا وہ ایک کشتی سے چمٹ کر اس پر چڑھ گیا اور مشرقی جانب اپنی فوج میں چلا گیا محمد نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور تیر نے لگا اور طاہر کے غلام قرین دیرانی کی فوج کی طرف السراة کی جانب چلا گیا اُسے ایک منتظم نے کتوری کی خوشبو سونگھ کر پکڑ لیا اور قرین کے

پاس لے گیا اس نے اس کے بارے میں طاہر سے اجازت طلب کی تو اسے راستے میں اجازت کی اطلاع مل گئی وہ اسے طاہر کے پاس لے گیا اور راستے میں قتل کر دیا گیا اس وقت امین پکار رہا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زاد اور مامون کا بھائی ہوں تو آپ اس پر برستی رہیں یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا یہ ۲۵ محرم ۱۹۸ھ اتوار کی رات کا واقعہ ہے۔

احمد بن سلام بیان کرتا ہے — یہ کشتی اٹلنے کے وقت امین کے ساتھ تھا کہ اس نے تیرنا شروع کر دیا تو اُسے طاہر کے ایک ساتھی نے پکڑ لیا اور اُسے قتل کرنا چاہا تو اس نے اسے دس ہزار درہم کا لالچ دیا اور یہ کہ وہ اس رات کی صبح کو وہ درہم اس کے پاس لے آئے گا راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک تارک مکرے میں داخل کر دیا گیا اسی اثنا میں ایک ننگ دھڑنگ آدمی میرے پاس آیا جو شلوار اور عمامہ سے ٹھاٹھ باندھے ہوئے تھا اور اس کے کندھے پر ایک چیتھڑا تھا ، انہوں نے اُسے میرے ساتھ کر دیا اور ان لوگوں کی طرف بڑھ گئے جو اس گھر میں ہماری حفاظت میں تھے جب وہ مکرے میں ٹھہر گیا تو اس نے عمامے کو منہ سے ہٹایا تو وہ محمد تھا تو میں نے اپنے اور دل میں آنے والے خیالات پر آسو بہائے اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ، وہ مجھے دیکھنے لگا پھر اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میرے آقا میں آپ کا غلام ہوں ، اس نے پوچھا تو کون سا غلام ہے میں نے کہا احمد بن سلام ، اس نے کہا میں اس کے بغیر بھی تجھے پہچانتا ہوں تو میرے پاس رقم میں آیا کرتا تھا ، میں نے کہا ہاں ، پھر اس نے کہا اے احمد! میں نے کہا میرے آقا میں حاضر ہوں وہ کہنے لگا میرے قریب ہو جا اور مجھے اپنے ساتھ لگالے میں بہت خوف محسوس کرتا ہوں ، راوی کہتا ہے جب میں نے اُسے اپنے ساتھ لگایا تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا پھر کہنے لگا میرے بھائی مامون کے متعلق مجھے بتاؤ کیا وہ زندہ ہے ؟ میں نے اُسے کہا ، یہ جنگ کس کی وجہ سے ہے ؟ وہ کہنے لگا اللہ ان کا ہرا کرے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مر گیا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے ذراؤ کا ہرا کرے انہوں نے تجھے اس گھاٹ پر اتارا ہے تو اس نے مجھے کہا اے احمد! یہ ناراضگی کا موقع نہیں ہے ، میرے ذراؤ کے متعلق اچھی بات کرو ان کا کوئی گناہ نہیں اور میں پہلا شخص نہیں جس نے حکومت طلب کی ہو اور حاصل نہ کر سکا ہو میں نے کہا میرے

تہ بند کو پہن لو اور اس جیتھڑے کو پھینک دو، اس نے کہا اے احمد! جس کا حال میرے جیسا ہو اس کے لیے یہی کافی ہے پھر مجھے کہنے لگا اے احمد مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے میرے بھائی کے پاس لے جائیں گے، کیا تو میرے بھائی کو میرا قاتل خیال کرتا ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں رشتے کا تعلق اُسے تجھ پر مہربان کر دے گا تو اس نے مجھے کہا یہ بات نہیں، حکومت بانجھ ہوتی ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، میں نے اُسے کہا، ہر شے کی امان تیرے بھائی کی امان ہے، رادوی کہتا ہے کہ میں نے اُسے استغفار اور ذکر الہی کرنے کی تلقین کی، ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مسلح آدمی اندر آیا اور محمد کو پہچاننے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جب اس نے اُسے پہچان لیا تو باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر لیا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محمد شاہری تھا رادوی کہتا ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی قتل ہو جائے گا اور ابھی میری و تروں کی نماز باقی تھی مجھے خوف محسوس ہوا کہ و تروں کے پڑھنے سے قبل ہی میں قتل ہو جاؤں گا پس میں وتر پڑھنے کے لیے اُٹھا تو اس نے مجھے کہا اے احمد مجھ سے دُور نہ جا اور میرے نزدیک نماز پڑھ کیونکہ میں بہت خوف محسوس کرتا ہوں، پس میں اس کے قریب ہو گیا ابھی ہم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ہم نے گھوڑوں کے آنے اور دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سنی دروازہ کھول دیا گیا کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عجیب تلواریں سونتے ہوئے آئے جب محمد نے انہیں دیکھا تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھنے لگا، خدا کی قسم میری جان فی سبیل اللہ جا رہی ہے کیا کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، کیا کوئی مددگار نہیں رہا؟ اور وہ عجیب آئے اور ہمارے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے آگے بڑھو اور ایک دوسرے کو ہٹانے لگے، پس محمد نے اپنے ہاتھ میں تکیہ پکڑ لیا اور کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عم زاد ہوں، ہارون الرشید کا بیٹا اور مامون کا بھائی ہوں، میرے خون کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تو طاہر کے ایک غلام نے اس کے پاس آ کر اُسے تلوار ماری جو اس کے سر کے اگلے حصے میں لگی، محمد کے ہاتھ میں جو تکیہ تھا وہ اس نے اس کے منہ پر دے مارا اور اس پر ٹیک لگائی تاکہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لے تو اس نے فارسی زبان میں پکار کر کہا کہ مجھے اس آدمی نے قتل کر دیا ہے تو ان کی ایک جماعت اندر آ گئی اور ان میں سے ایک نے اپنی تلوار اس کے کولے میں چھپوٹی اور انہوں نے اسے اوندھا کر کے گدی کی طرف سے ذبح کر دیا اور

اس کا سر کاٹ کر طاہر کے پاس لے گئے۔

اس کے قتل کی کیفیت کے متعلق اس کے علاوہ اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں اور ہم نے اس اختلاف کو کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے۔

اس کے پیارے خادم کو تڑکولایا گیا، اس کے پاس انگوٹھی، چادر، تلوار اور چھٹری تھی۔ جب صبح ہوئی تو طاہر کے حکم سے اس کے سر کو، بغداد کے باب حدید پر جو غریب جانب قطر بل کی طرف ہے نظر تک لٹکا دیا گیا اور ایک باغ میں اس کے جسم کو دفن کر دیا گیا، جب امین کا سر طاہر کے سامنے رکھا گیا تو اس نے یہ آیت پڑھی: اللہم مالک توفی الملک من تشاء وتوزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انک علی

کل شیء قدير۔ اور اس کے سر کو مامون کے پاس ایک رومال، روئی اور دو غنوں کے ساتھ خراسان لے جایا گیا، پس مامون نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور رویا اور اس پر بہت متاسف ہوا تو فضل بن سہل نے اُسے کہا امیر المومنین! اس عظیم احسان پر اللہ کا شکر یہ ادا کیجیے جہاں آپ نے محمد کو دیکھا ہے وہ آپ کو اس جگہ پر دیکھنا چاہتا تھا تو مامون نے گھر کے صحن میں لکڑی پر اس کے سر کو نصب کرنے کا حکم دیا اور فوج کو عطیات دیے اور ہر رسد لینے والے کو اس پر لعنت کرنے کا حکم دیا آدمی جب رسد لینا تو سر پر لعنت کرتا، ایک عجمی نے عطیہ لیا تو اُسے کہا گیا کہ اس سر پر لعنت کر و اس نے کہا اللہ اس پر اور اس کے والدین پر لعنت کرے اور ان کی اولاد پر بھی لعنت کرے اور ان کی ماؤں کو فلاں فلاں جگہ داخل کرے، اُسے کہا گیا تو نے امیر المومنین پر لعنت کی ہے، یہ بات مامون نے بھی سن لی اور مسکرا کر غافل ہو گیا اور اس نے امین کے سر کے اتارنے کا حکم دیا اور اس دست بردار خلیفہ کو چھوڑ دیا اور اس کے سر کو خوشبو لگا کر ٹوکری میں رکھ دیا اور اُسے عراق واپس کر دیا جسے اس کے جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل بغداد پر رحم کیا اور انہیں محاصرہ، گھبراہٹ اور قتل سے نجات دی شعرا نے اس کے مرثیے کہے اور اس کی ماں زبیدہ ام جعفر نے کہا

لے (ترجمہ) اے اللہ! ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور ملک چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے قبضہ قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے دآل عمران آیت ۱۲۶

”جو لوگوں کو نہیں چھوڑتا اس نے تیرے دوست کو ہلاک کر دیا ہے پس تو اپنے دل کو مقتول کے بارے میں مایوسی عطا کر، جب میں نے دیکھا کہ موتوں نے اس کا قصد کر لیا ہے اور وہ اس کے سویدہ قلب اور ستر تک پہنچ گئی ہیں تو میں نے ٹیک لگا کر رات گزار دی اور اس کے ستاروں کو دیکھتی رہی اور اس کے طریق کو رات کے وقت کاغذ خیال کرتی رہی اور موت اس کے قریب تھی اور غم اس کے ساتھ تھا یہاں تک کہ اس نے وہ پیالہ پیا جس نے اُسے ہلاک کر دیا، مجھے اس کی تکلیف اس وقت برداشت کرنا پڑی جب میں نے مردوں پر اس کے ذریعہ فخر کیا اور میں نے اس کے ذریعے زمانے کے لیے بنیادیں قائم کیں، پس جو مر گیا ہے وہ ہماری طرف کبھی آنے کا نہیں جب تک پہلے لوگ ہمارے پاس واپس نہ آئیں۔“

اس کی بیوی لبابہ بنت علی بن ہدی نے کہا، ابھی اس نے اس سے خلوت نہیں کی تھی۔ میں تجھ پر آسائش اور انس کی وجہ سے نہیں روتی بلکہ بلندلیوں، تلوار اور ڈھال کے لیے روتی ہوں میں اس سردار پر روتی ہوں جس کا دکھ مجھے پہنچا یا گیا ہے اور اس نے شادی کی رات کو ہی مجھے میوہ کر دیا ہے اے مالک جو چٹیل میدان میں پڑا ہے اس کے رذیل لوگوں نے جو کیداروں کے ساتھ مل کر اس سے غداری کی ہے۔“

جب محمد قتل ہو گیا تو زبیدہ کے پاس اس کا ایک خادم آ کر کہنے لگا آپ کو کس چیز نے بٹھایا ہے جب کہ امیر المومنین محمد قتل ہو چکے ہیں اس نے کہا تو ہلاک ہو جائے میں کیا کروں اس نے کہا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدلہ لینے کے لیے نکلی تھیں اسی طرح تم بھی اس کے بدلہ کے لیے نکلو، اس نے کہا ذلیل ہو جا تیری ماں نہ رہے عورتوں کا کیا کام ہے کہ بدلے لیں اور بہادروں سے مقابلے کریں پھر اس کے حکم سے اس کے لباس کو سیاہ رنگ دیا گیا اور اس نے بالوں کا ایک ٹماٹ پہنا اور کاغذ دوات منگوا کر مامون کی طرف لکھا ”ام جعفر کی طرف سے بہترین اصل والے امام اور منبر کے اوپر چڑھنے والوں سے افضل آدمی اور اولین کے علم کے وارث ان کے فخر اور بادشاہ مامون کے لیے میں یہ خط لکھ رہی ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،“

مجھے تیرے سب سے قریبی قرابت دار کی تکلیف پہنچی ہے اور میرے جگہ گوشتے کے مرنے سے میرا صبر کم ہو گیا ہے یہ کام طاہر نے کیا ہے اللہ طاہر کو پاک نہ کرے اور نہ ہی طاہر اپنے فعل میں پاک ہے اس نے مجھے ننگے منہ ننگے سر باہر نکالا ہے اور اس نے میرے اموال کو لوٹا ہے اور میرے گھروں کو بے آباد کیا ہے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ ہارون پر بھی شاق گزری ہے اور مجھے ناقص خلقت کانے نے تکلیف دی ہے اگر میں کسی حکم کی اہل ہوتی تو اُسے حکم دیتی اب میں رب قدیر کے حکم پر صبر کرتی ہوں۔“

جب مامون نے اس کے یہ شعر پڑھے تو وہ رو پڑا پھر کہنے لگا اے اللہ میں وہی کہتا ہوں جب حضرت علیؓ بن ابی طالب نے حضرت عثمانؓ کے قتل کی اطلاع ملنے پر کہا تھا کہ خدا کی قسم نہ میں نے قتل کیا ہے اور نہ حکم دیا اور نہ میں ان کے قتل سے راضی ہوا ہوں اے اللہ طاہر کے دل کو غم سے ڈھانپ دے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ دست بردار خلیفہ کے اور بھی حالات و واقعات ہیں جنہیں ہم نے اخبار الزمان اور کتاب الاوسط میں بیان کیا ہے اس لیے اس جگہ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

مامون کی خلافت کا بیان

مختصر حالات | مامون عبد اللہ بن ہارون کی بیعت ۲۸ سال ۲ ماہ کی عمر میں ہوئی اس کی کنیت ابو جعفر تھی اس کی ماں باذغیسیتہ تھی جس کا نام مراحل تھا بعض کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو العباس تھی اور اس کی وفات بیدون میں القشیرہ کے چشے پر ہوئی اس چشے سے مشہور نہر بیدون نکلتی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام رومی زبان میں رتہ ہے اور اسے ۲۱۸ھ میں طرسوس لاکر مسجد کی بائیں جانب دفن کیا گیا اس وقت اس کی عمر ۲۹ سال تھی اس کا زمانہ خلافت ۲۲ سال ہے جن میں سے ۴ ماہ وہ اپنے بھائی محمد بن زبیرہ سے جنگ کرتا رہا، اہل خراسان ان جنگوں میں بھی اُسے سلام خلافت کہتے تھے اور شہروں کے منابر حرمین، ضلعوں اور میدانی اور پہاڑی علاقوں میں جن پر طاہر نے غلبہ حاصل کیا تھا اس کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں، صرف بغداد کے لوگ محمد کو سلام خلافت کہتے تھے۔

اس کے مختصر حالات و واقعات کا بیان
اور اس کے دور کی ایک جھلک

مامون اور فضل بن سہل | مامون پر فضل بن سہل کا بڑا اثر تھا، یہاں تک کہ اس نے اُسے ایک لونڈی کے بارے میں جسے وہ خریدنا چاہتا تھا، زچ کر دیا اور اس نے اُسے قتل کر دیا کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مامون نے اس کے قتل کے متعلق سازش کی تھی، پھر اس کے بعد وزراء نے اسے سلام کیا جن میں

احمد بن خالد احول، عمرو بن مسعدہ اور ابو عبادہ شامل تھے ان سب نے وزارت کے منصب کے مطابق سلام کیا۔

عمرو بن مسعدہ | عمرو بن مسعدہ نے ۲۱۶ھ میں وفات پائی اس پر مال کے بارے میں نکتہ چینی کی گئی اس کے سوا، اور کسی وزیر پر مال کے بارے میں تعریف نہیں کی گئی، آخر میں مامون پر فضل بن مردان اور محمد بن یزید کا بہت اثر ہو گیا تھا۔

علی بن موسیٰ رضا | مامون کی خلافت میں زہر کے باعث علی بن موسیٰ رضا طوس میں وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے اس وقت ان کی عمر ۴۹ سال چھ ماہ تھی بعض ان کی عمر کے متعلق کچھ اور اندازے بھی بیان کرتے ہیں۔

مامون اور اس کا چچا ابراہیم | مامون نے ابراہیم بن ہمدی کی بہو کی جو ابن شکلہ کے نام سے مشہور تھا اور اس کا چچا تھا، مامون اپنے شیعہ ہونے کا اظہار کرتا تھا اور ابن شکلہ سنی تھا، پس مامون نے کہا ہے

”جب مرجئی تجھے خوش کرے کہ تو اُسے اس کی موت سے قبل، موت کے لیے مرتا دیکھے تو اس کے پاس نئے سرے سے علی کا ذکر کر، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود پڑھ۔“

ابراہیم نے اُسے جواب دیتے ہوئے کہا ہے
”اور جب کوئی شیعہ صاف بات نہ کر سکے اور تجھے یہ بات خوش کرے کہ وہ کچھ اپنے متعلق اظہار کرے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں وزیروں اور قبر کے پڑوسیوں پر درود پڑھ۔“

ابراہیم بن ہمدی کے ماموں کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہیں جو کتاب الاخبار لابراہیم بن ہمدی میں موجود ہیں۔

مامون اور ابودلف | ابودلف قاسم بن عیسیٰ عجلی مامون کے پاس آیا تو اس نے اُسے کہا اے قاسم جنگ کے متعلق تیرے اشعار کیا ہی شان دار ہیں اور تیرا ان سے لذت حاصل کرنا اور گلوکارہ عورتوں سے بے رغبتی کرنا بھی کیا اچھا ہے اس نے کہا امیر المؤمنین! وہ کون سے اشعار ہیں اس نے کہا تیرا یہ قول کہ
”تلواروں کو سونٹنا، اور صفوں کو دہم برہم کرنا اور مٹی کو جھاڑنا اور سروں کو

مانا۔

مامون نے کہا قاسم پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ
 ” اور غبار اور جھنڈوں کا اختلاط، تجھے موتوں کو، نیزوں کے سروں پر دکھائے
 گا اور موت کی دُہن نے شعلوں کے درمیان اپنے دانتوں کی تیزی کو دکھایا ہے
 وہ اور اس کے بیٹے تحفے دیتے ہوئے آئے گویا ان پر سورج طلوع ہو رہا ہے
 اور جب گفتگو کرنے والی زچہ گفتگو کرے تو جاہل آدمی، جاہل پر اوچھے پن سے
 وار کرتا ہے اور جب اس کی منگنی ہو جائے تو وہ اپنا مہر لے لیتی ہے اور مہر
 چوڑیوں کے درمیان گرنے لگتے ہیں اور شبہی دن میں شراب کا پینا، گالوں سے
 زیادہ لذیذ اور مرغوب ہوتا ہے۔ مین تلوار کا بیٹیا، رخسار کا ہم جولی، زمانے

کی گردش اور موت کا قرب ہوں۔“

پھر کہنے لگا: امیر المومنین! یہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ میری لذت اور آپ کے دوستوں
 کے ساتھ میری قوت ہے اور میرا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے اگر کوئی شخص شراب نوشی سے
 لذت حاصل کرے تو میں جنگ اور تصادم کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، مامون نے کہا اے
 قاسم جب اس قسم کے اشعار سے تیری شان اور لذت کا اظہار ہوتا ہے تو تو نے نیند کیلے
 پیچھے کیا چھوڑا ہے اور تو نے جو کلام پوشیدہ رکھا ہے اس میں سے تو نے تھوڑا سا
 ظاہر کیا ہے، اس نے کہا امیر المومنین! وہ میرے کون سے اشعار ہیں اس نے کہا، جہاں
 پر تو نے کہا ہے کہ

”اے میری آنکھوں کو بے خواب کرنے والے اور نیند کے متوالے، سو جا
 تجھے بیٹھی نیند خوشگوار ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تیری دونوں آنکھوں

نے میرے دل میں سخت بیماری پیدا کر دی ہے۔“

اس نے کہا امیر المومنین! بے خوابی کے بعد غفلت غالب آ جاتی ہے وہ رائے
 متقدم ہے اور یہ ظن متاخر ہے، اس نے کہا اے قاسم ان دو اشعار کے قائل نے کیا
 اچھا کہا ہے کہ

”ہمارے درمیان کے تعلقات کے بارے میں زمانہ تیری نذمت کرتا ہے
 اور راتوں کو ہمارے تعلقات کے بارے میں کیا عذر ہو سکتا ہے اور جب

دو محبت کرنے والوں کے درمیان گذشتہ باتوں کے ذکر کے سوا کوئی ملاقات نہ ہو تو وہ سوچ بھی مٹ جاتی ہے۔

ابو دلف نے کہا امیر المومنین نے کیا خوب شعر کہے ہیں یہ ہاشمی سردار اور عباسی بادشاہ ہے اس نے کہا تجھے ذہانت نے کیسے یہاں تک پہنچایا ہے کہ بدگمانی نے بھی تیرے ساتھ کوئی مداخلت نہیں کی یہاں تک کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں ہی ان اشعار کا قائل ہوں اور تجھے اس بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہوا، اس نے کہا امیر المومنین! شعر ایک اُون کی بساط ہے اور جو شخص صاف اُون کے ساتھ بالوں کو ملاتا ہے، اس کی خوب صورتی اور چمک بناتے وقت نمایاں ہو جاتی ہے۔

مامون کے کلمات | مامون کہا کرتا تھا کہ حکومت میں شراب نوشی، راند کے انشاء اور عورت سے تعرض کرنے کے سوا ہر چیز کو جھٹکا جاسکتا ہے۔ مامون کا قول ہے کہ

مقدود بھر جنگ کو مؤخر کرو اور اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ پاؤ تو دن کے آخری حصے میں جنگ کرو،

بعض کہتے ہیں کہ یہ انوشروان کا کلام ہے، اور مامون کہتا تھا کہ کسی معاملے میں تدبیر اس وقت درماندہ کرتی ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو پیٹھ پھیر جائے اور جب پیٹھ پھیر جائے تو سامنے آئے۔

جب مامون کو بلا شرکت غیرے حکومت مل گئی تو اس نے کہا اگر یہ فنا نہ ہو تو بڑی چیز ہے اور اگر اس کے بعد ہلاکت نہ ہو تو یہ حکومت ہے اور اگر یہ دھوکہ نہ ہو تو یہ ہرگز ہے اور اگر اس کے بعد ہونے والی باتوں پر اعتماد کیا جائے تو یہ حشر کا دن ہے۔ مامون کہا کرتا تھا کہ لُبِ شامت ایک خوش منظر اور روشن خلق ہے اور دلوں کی کاشتکار اور مالوف مقام اور منتشر فضیلت اور بیسٹ ثناء اور شرفاء کے لیے تحفہ اور کھلا ہاتھ اور پہلی نیکی جاہ کا ذریعہ، اخلاق کو ثبات دینے والی اور عوام کی رضا مندی کا دواخانہ اور دلوں کی محبت کی چابی ہے۔

بیزوہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی اور آخرت میں انبیاء ہیں اور جس وسیع رزق سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ اس کھانے کی طرح ہے جو بخل کے پرنا لے

پر رکھا ہو اور اگر یہ کوئی راستہ ہوتا تو میں اس پر نہ چلتا اور اگر یہ کوئی قمیص ہوتی تو اسے نہ پہنتا۔
 مامون اپنے اہل بیت کے کسی نکاح میں حاضر ہوا تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے اُسے خطبہ
 دینے کو کہا تو اس نے کہا الحمد للہ، الحمد للہ، والصلوات علی المصطفیٰ رسول اللہ
 وخیر ما عمل بہ کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَانكحوا الایامی منكم والصلحین**
من عبادكم واماءکم ان یكونوا فقراء یغنیهم اللہ من فضلہ ؕ واللہ واسع علیم
 اگر نکاح کے بارے میں کوئی محکم آیت اور قابل اتباع سنت نہ ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے
 اس میں دقت و نزدیک کے آدمی کے لیے تالیف کا سامان رکھا ہے اور صاحب توفیق اور عاقل
 و نجیب آدمی اس کی طرف جلدی کرتا ہے اور فلاں شخص جس کے نسب سے تم واقف ہو اس نے
 تمہاری فلاں لڑکی کو پیغام نکاح دیا ہے اور اس کے لیے اتنا خریدا کھا ہے پس ہمارے پاس
 سفارش کرنے والے کو جفت کر دو اور ہمیں پیغام دینے والے کا نکاح کر دو اور اچھی بات کر جس
 پر تمہارا شکر یہ ادا کیا جائے گا اور تمہیں اجر ملے گا، میں یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ سے تمہارے
 اور اپنے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔

مامون کے پاس، ثمامہ اور یحییٰ بن اکثم کے درمیان گفتگو | ثمامہ بن اثثرس بیان کرتا
 ہے کہ ہم ایک روز،

مامون کے پاس بیٹھے تھے کہ یحییٰ بن اکثم آیا اور اُسے مامون کے ہاں میری قدر و منزلت گراں
 گزری پس ہم نے فقہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی، تو یحییٰ نے ایک مسئلہ کے بارے میں جو
 وہاں چل رہا تھا، کہا کہ یہ حضرت عمر بن الخطاب، عبداللہ بن مسعود، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم
 ہے، میں نے کہا ان سب نے غلطی کی ہے اور وجہ دلالت سے غفلت کی ہے، یحییٰ کو
 میری یہ بات گراں گزری وہ کہنے لگا امیر المؤمنین یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام
 صحابہ کو خطا کا رکھتا ہے، مامون نے کہا سبحان اللہ اے ثمامہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے
 میں نے کہا امیر المؤمنین! اس کو نہ اس بات کی پروا ہے جو کہی گئی ہے اور نہ اس کی جسے

لہذا ترجمہ اور نکاح کرو اپنے میں سے راندوں سے اور اپنے صالح غلاموں اور لونڈیوں کا،
 اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی حاجت روائی فرمائے گا، اور اللہ
 فراخی والا جاننے والا ہے (نور-آیت ۳۲)

قبیح ٹھہرایا گیا ہے پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا تیرا یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق ایک میں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں نے کہا تیرا خیال ہے کہ تو نے غلطی کی ہے اور دسویں نے درست کہا ہے اور میں نے کہا ہے کہ دسویں نے غلطی کی ہے پس تو نے کیوں انکار کیا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ مامون میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا ابو محمد کو معلوم نہ تھا کہ تو یہ جواب دے گا، بیچنی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، کیا تو یہ نہیں کہتا کہ حق، ایک میں ہے اس نے جواب دیا بے شک، میں نے کہا، کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص اس حق کا قائل ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس حق کو الگ کر دے گا، کہنے لگا نہیں، میں نے کہا، کیا وہ شخص جو اس کی مخالفت نہیں کرتا اور اس کا قائل بھی نہیں وہ تیرے نزدیک حق کو چھوڑنے والا نہیں؟ کہنے لگا ہاں! میں نے کہا اب تو وہ بات کر رہا ہے جس پر عیب لگاتا ہے اور میں وہ بات کرتا ہوں جس سے انکار کرتا ہوں اور اُسے قبیح ٹھہراتا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ واضح الدلائل ہوں کیونکہ میں نے انہیں ظاہر خطا کا ٹھہرایا ہے اور ہر سچ کہنے والا اللہ کے نزدیک حق ہے اور میں نے اختلاف کے موقع پر انہیں غلطی پر قرار دیا ہے اور مجھے دلالت نے، ان کے کسی قول تک پہنچایا ہے پس میں نے اپنے مخالف کو خطا کا ٹھہرایا ہے اور تو نے اپنے مخالف کو ظاہری طور پر اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی خطا کا ٹھہرایا ہے۔

کوفہ کا وفد اور مامون

کوفہ کا وفد بغداد آیا تو یہ لوگ مامون کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا تو ان میں سے ایک شیخ نے کہا امیر المؤمنین! آپ کا ہاتھ کریمانہ افعال میں بلند رہنے اور گناہوں سے دور رہنے کے باعث بوسہ دیے جانے کا زیادہ مستحق ہے اور آپ کم ہر زلش کرنے میں حضرت یوسف کی طرح عفو کرنے والے ہیں، اور جو شخص آپ سے بڑائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے آپ کی تلوار کا کھاجا، آپ کے خوف کا شکار اور آپ کی حکومت کا ذلیل آدمی بنا دے گا، مامون کہنے لگا اے عمرو ان کا خطیب کیا ہی اچھا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر دو، چنانچہ ان کی ضروریات کو پورا کر دیا گیا۔

مامون، زنادقہ اور طفیل

ثمامہ بن اثرس بیان کرتا ہے کہ جب مامون کو اطلاع ملی کہ بصرہ کے دس زندیق مانی کے مذہب کو اختیار کیے ہوئے

ہیں اور وہ نور و ظلمت کے قائل ہیں تو اس نے ایک ایک کا نام بتانے کے بعد حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ جب وہ اکٹھے ہوئے تو ایک طفیلی نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ یہ کسی کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا حالانکہ اسے ان کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ منتظمین انہیں کشتی کے پاس لے گئے تو طفیلی کہنے لگا بلاشبہ کوئی میسر کا پر و گرام ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا پھر جلد ہی بیڑیاں لا کر ان لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، طفیلی بھی ان کے ساتھ ہی تھا، طفیلی کہنے لگا میری مفت خوری کا معاملہ بیڑیوں تک پہنچ گیا ہے، پھر شیوخ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں تم پر قربان جاؤں تمہارا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کہا تیرا معاملہ کیا ہے اور تو ہمارا بھائی کیسے بنا ہے وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں تو ایک طفیلی آدمی ہوں، میں آج اپنے گھر سے نکلا تو تم سے ملاقات ہو گئی میں نے خوبصورت منظر اور اچھے ماحول اور کپڑوں اور آسائش کو دیکھ کر کہا کہ یہ بوڑھے اور ادھیڑ عمر اور نوجوان ولیمہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پس میں تمہارے درمیان میں آ گیا اور میں نے تمہاری نقل شروع کر دی گویا میں بھی تمہارا ایک ساتھی ہوں پس تم اس کشتی کی طرف آگے اور میں نے دیکھا کہ اس میں یہ بساط بچھی ہوئی ہے اور میں نے توشہ دان اور ٹوکروں کو بھرا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کسی محل یا باغ کی میسر کو جا رہے ہیں اور یہ بڑا مبارک دن ہے اور میں بہت خوش ہوا کہ اچانک اس منتظم نے آ کر تمہیں جکڑ دیا اور مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی جکڑ دیا تو میری ایسی کیفیت ہو گئی جس نے میری عقل کو ذائل کر دیا تو انہوں نے سب واقعہ سنایا اور بہت خوش ہوئے پھر کہنے لگے اب تو تو شمار میں آ گیا ہے اور بیڑیوں میں کس دیا گیا ہے مگر ہم تو بانی کے پیروکار ہیں اور مامون کے پاس ہماری شکایت ہوئی ہے ہم عنقریب اس کے پاس جائیں گے اور وہ ہم سے ہمارے مذہب اور احوال کے بارے میں پوچھے گا اور ہمیں کئی قسم کی تکالیف دے کر توبہ اور رجوع کی دعوت دے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مانی کی تصویر کو ہمارے سامنے کرے گا اور ہمیں اس پر تھوکنے اور اس سے تہرات کرنے کا حکم دے گا اور ہمیں تینتر کے ذبح کرنے کا حکم دے گا اور جو اس کی بات مان لے گا وہ ذبح جائے گا اور جو نہ مانے گا وہ قتل ہو جائے گا، پس جب تجھے بلایا جائے اور تیرا امتحان ہو تو تو اپنے اور اپنے اعتقاد کے متعلق حسب دلالت بیان کرنا اور تیرا خیال ہے کہ تو طفیلی ہے اور طفیلیوں کے پاس بہت واقعات ہوتے ہیں، پس تو لوگوں کی باتیں سنانا ہوا

ہمارا بغداد کا سفر طے کرادے جب وہ بغداد پہنچے انہیں مامون کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ایک ایک کا نام لے کر پکارنے لگا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے متعلق دریافت کرنے لگا اور جو اُسے بتاتا کہ میرا مذہب اسلام ہے وہ اس کی آزمائش کرتا اور اُسے مانی سے برأت کی دعوت دیتا اور اس کی تصویر سامنے کر کے اس پر اُسے تھوکنے اور اس سے برأت کرنے کا حکم دیتا، اگر وہ انکار کرتے تو انہیں تلوار کی باڑھ پر رکھ لیتا ان دس آدمیوں سے فراغت کے بعد وہ طفیلی تک پہنچا اور ان لوگوں کی گنتی پوری ہو چکی تھی، مامون نے مظاہرین سے کہا، یہ کون ہے، انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں، ہم نے اسے ان لوگوں کے ساتھ پایا ہے تو ہم اسے لے آئے ہیں، مامون نے اُسے کہا، تیرا کیا واقعہ ہے اس نے کہا امیر المؤمنین! اگر مجھے ان کے حالات کے متعلق کچھ بھی علم ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، میں تو ایک طفیلی ہوں اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا واقعہ سنایا، تو مامون سنس پڑا پھر اس نے اس کے سامنے مانی کی تصویر کی تو اس نے اس پر لعنت کی اور اس سے برأت کا اظہار کیا اور کہنے لگا مجھے یہ تصویر دے دو تا کہ میں اس پر پاخانہ پھروں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ مانی کیا ہے کیا وہ یہودی تھا یا مسلمان؟ تو مامون نے کہا کہ زیادہ مفت خوری کرنے اور اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنے کی وجہ سے اس کی تادیب کی جائے، ابراہیم بن ہمدی، مامون کے سامنے کھڑا تھا وہ کہنے لگا امیر المؤمنین! اس کا گناہ میری وجہ سے بخش دیجیے اور میں آپ کو اپنی مفت خوری کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، مامون نے کہا، سناؤ۔

ابراہیم بن ہمدی کا طفیلی بنتا | کہنے لگا امیر المؤمنین! میں ایک روز بے پروائی سے بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ میں ایک جگہ پہنچا جہاں مجھے ایک عالی شان مکان کے کونے سے مصالح کی خوشبو آئی اور دیگوں سے پکی ہوئی چیزوں کی بھاپ کی ہلک آ رہی تھی میرے منہ میں پانی آ گیا میں نے ایک درزی سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے اس نے کہا کپڑے کے ایک تاجر کا۔ گھر ہے میں نے کہا اس کا نام کیا ہے اس نے کہا فلاں بن فلاں میں نے اس کونے کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس میں ایک کھڑکی دیکھی، جس سے ایک ایسا، خوب صورت کلائی اور ہتھیلی باہر آئی جس سے خوب صورت ہتھیلی اور کلائی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، امیر المؤمنین کلائی اور ہتھیلی کی خوب صورتی نے مجھے دیگوں کی خوشبو سے نائل کر دیا اور میں حیران کھڑا رہ گیا میری عقل گم ہو گئی، پھر میں نے درزی سے کہا، وہ بید

پتیا ہے اس نے کہا، ہاں، اور میرا خیال ہے کہ آج اس کے ہاں دعوت ہے اور وہ اپنے جیسے
 نجا کے ساتھ ہی چھپ کر شراب نوشی کرتا ہے، ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ دو شریف آدمی
 گلی کے سرے سے سوار ہو کر آئے تو درزی نے مجھے کہا یہ دونوں اس کے شراب نوش ندیم ہیں
 میں نے کہا ان دونوں کا نام اور کنیت کیا ہے اس نے کہا فلاں فلاں، پس میں اپنی سواری کو چلا کر
 ان دونوں کے درمیان ہو گیا اور کہنے لگا میں تم دونوں پر قربان جاؤں کہ تم کو اب فلاں نے دیر کرا
 دی ہے اور میں ان کے ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ ہم دروازے پر پہنچ گئے ان دونوں نے
 مجھے آگے کر دیا میں اور وہ اندر داخل ہو گئے، جب مجھے صاحب خانہ نے دیکھا تو اس نے
 مجھے بھی ان کا تعلق دار خیال کیا اور مجھے خوش آمدید کہا اور بڑی جگہ پر بٹھایا۔ پھر دسترخوان
 لایا گیا جس پر نفیس روٹیاں اور طرح طرح کے سالن تھے، ان کا مزہ ان کی خوشبو سے بھی
 شان دار تھا، میں نے اپنے دل میں کہا یہ سالن تو میں نے کھالیے اب شہیلی اور کلائی باقی
 رہ گئی ہے۔ پھر کھانا اٹھا دیا گیا اور ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے پھر ہم محفل سے نوش
 میں چلے گئے تو وہ اس سے بھی شان دار مجلس تھی صاحب مجلس مجھ سے بڑی ملاحظت کر
 رہا تھا اور میری طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہا تھا وہ دونوں آدمی یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا
 اس سے تعلق ہے اور وہ مجھ سے یہ بتاؤ اس لیے کہ رہا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا ان دونوں
 کے ساتھ تعلق ہے جب ہم شراب کے کئی جام نوش کر چکے تو ہمارے پاس ایک لونڈی
 آئی جو بید مجنوں کی طرح دہری ہو رہی تھی، میں نے ہچکچائے بغیر سلام کیا اور اُسے تکیہ دیا اور
 سازگی لاکر اس کی گود میں رکھ دی تو اس نے اُسے بجانا شروع کیا اور اس کے بجانے سے
 اس کی مہارت واضح ہو رہی تھی پھر وہ گانے لگی۔

”میری نگاہ نے اُسے دیکھا تو اس کے رخسار کو الم رسیدہ کر دیا اور میرے
 دیکھنے کی جگہ پر میری نگاہ سے نشان پڑ گیا اور میری شہیلی نے اُس سے مصافحہ
 کیا تو اس کی شہیلی کو تکلیف دی اور میری شہیلی کے چھوٹے سے اس کی
 انگلیوں میں زخم ہو گئے اور میرے دل میں خیال گزرا تو میں نے اُسے زخمی کر
 دیا اور میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی جسے فکر مجروح کر دے۔“
 یا امیر المؤمنین! خدا کی قسم مجھ پر غموں کا ہجوم ہو گیا اور میں اس کے گانے اور مہارت
 سے بہت خوش ہوا پھر وہ گانے لگی۔

”میں نے اسے اشارہ کیا کہ کیا تو میری محبت کو جانتی ہے تو اس نے مجھے آنکھ کے اشارہ سے بتایا کہ میں اس عہد پر قائم ہوں تو اس نے عمداً اپنے راز کے اظہار سے کنارہ کشی اختیار کی اور اسی طرح اس نے ارادے کے اظہار سے بھی پہلو تہی کی۔“

سلامہ کے گانے سے مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ میں، دل اور صبر پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ گانے لگی کہ

”کیا یہ قابلِ تعجب بات نہیں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے نہ خلوت کرتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں صرف ہماری آنکھیں اپنی پلکوں کے ساتھ عشق کی شکایت کرتی ہیں اور اندرون آگ پر لوٹ رہا ہے اور منہ اور ابرو اشارے کرتے اور پلکیں جھکتی ہیں اور ہاتھ سلام کرتا ہے۔“

امیر المومنین! خدا کی قسم، میں اس کی مہارت اور گانے کے متعلق اس کی واقفیت اور اشعار کے صحیح مفہوم سمجھنے پر اس سے حسد کرنے لگا جس فن کو اس نے شروع کیا تھا وہ اس سے باہر نہ نکلی، تو میں نے کہا اسے لونڈی تیرے ذمے ایک بات رہ گئی ہے تو اس نے ناراض ہو کر سادگی کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگی تم کب تک اپنی مجالس میں بغض رکھنے والوں کو بلاتے رہو گے تو میں اپنی بات پر شرمندہ ہوا میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے بدل گئے ہیں، میں نے کہا کیا کوئی اور سادگی نہیں ہے انہوں نے کہا ہمارے آقا ہے وہ سادگی لائی گئی اور میں نے اُسے ٹھیک کر کے گانا شروع کیا ہے

”فرودگا ہوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسی غمگین کو جواب نہیں دتیں، کیا وہ گونجی ہو گئی ہیں یا موت کے بعد بوسیدہ ہو گئی ہیں، وہ مذکورہ شام کو چلے گئے اگر وہ مر گئیں تو ہم مرجائیں گے اور اگر وہ زندہ رہیں تو ہم زندہ رہیں گے۔“

ابھی میں نے گانے کو اچھی طرح ختم نہ کیا تھا کہ ایک لونڈی باہر آئی اور جھک کر میرے پاؤں کو بوسہ دینے لگی اور وہ کہہ رہی تھی خدا کی قسم! میرے آقا میں آپ سے موزت خواہ ہوں، میں نے آپ کی طرح اس سُر میں کسی کو گاتے نہیں سنا اور اس کے آقا اور اس کے تمام ساتھیوں نے بھی اس لونڈی کی طرح میرے پاؤں کو بوسہ دیا اور لوگ خوش ہو گئے وہ شراب پینے لگے اور انہوں نے طاسہ (پینے کا برتن) کے ساتھ شراب پی ہیں

پھر گانے لگا۔

”خدا کی قسم کیا تو مجھے یاد کیے بغیر شام کرے گی حالانکہ میری آنکھیں تیری یاد میں خون برسا رہی ہیں میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے بخل کی شکایت کرتا ہوں، میری بخشش اس کے لیے شہد ہے اور وہ ایلوادے رہی ہے میرے دل کی مصیبت کو واپس کر تو نے ہی اُسے قتل کیا ہے اور اُسے فائر العقل اور شکستہ کر کے نہ چھوڑ دے میں اللہ کے حضور شکایت کرتا ہوں کہ وہ اجنبی ہے اور میں جب تک زندہ رہوں گا اس کی محبت میں قابلِ اکرام رہوں گا۔“

امیر المؤمنین لوگ اس قدر خوش ہوئے کہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی عقلیں ہی نہ گم کر بیٹھیں، پس میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا جب لوگ پُر سکون ہو گئے تو میں تیسری دفعہ گانے لگا۔

”یہ تیرا عاشق ہے جو اپنے غم کو چھپائے ہوئے ہے اور تیرا دلدادہ ہے جس کے آنسو اس کے جسم پر بہ رہے ہیں اور اس کے ایک ہاتھ کی استھیلی اپنی تکلیف کے متعلق رب سے دُعا کر رہی ہے اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جگر پر ہے اے وہ شخص جس نے ایک دلدادہ، مشتاق اور متاسف آدمی کو دیکھا ہے اس کی موت اس کے ہاتھ اور آنکھ میں ہے۔“

امیر المؤمنین لونڈی سلامہ پکارنے لگی، خدا کی قسم میرے آقا یہ ہے گانا، لوگ مست اور حواس باختہ ہو گئے صاحب خانہ بڑی اچھی شراب پتیا تھا اس کے دونوں ندیم اس سے کتر شراب پیتے تھے پس اس نے ان کے غلاموں کے ساتھ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان کو حفاقت کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا دیں پھر میں نے اس سے سنجلیہ کیا اور ہم نے کئی جام شراب پی پھر وہ کہنے لگا اے میرے آقا خدا کی قسم میری عمر یونہی بے کار گزر گئی ہے مجھے تجھ سے واقفیت نہیں ہوئی اے میرے آقا آپ کون ہیں، وہ مسلسل مجھ سے اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اُسے بتایا تو اس نے میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگا میرے آقا! میں حیران ہوں کہ یہ ادب آپ جیسے آدمی کی شان کے شایاں ہے اور آج میں خلافت کے ساتھ ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں اور اس نے مجھ سے میرا واقعہ پوچھا کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو اس فعل پر آمادہ کیا تو میں نے اُسے کھانے، کلائی اور استھیلی کی بات بتائی تو اس نے اپنی ایک لونڈی کو بلا کر کہا

کہ فلاں لونڈی کو کہو کہ نیچے آئے وہ ایک ایک لونڈی کو میرے پاس بھجوانے لگا، اور میں اس کی ہتھیلی کو دیکھ کر کہتا کہ یہ وہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم اب میری ماں اور میری بہن ہی باقی رہ گئی ہے اور میں ان دونوں کو تیرے پاس بھیجتا ہوں تو میں اس کی سخاوت اور وسعتِ حوصلہ سے حیران رہ گیا میں نے اُسے کہا میں تیرے قربان جاؤں، ماں سے پہلے بہن کو بھجواؤ شاید کہ وہ میری بیوی بن جائے اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے تو اس نے اپنی بہن کو بھجوا دیا جب میں نے اس کی کلائی اور ہتھیلی کو دیکھا تو میں نے کہا میں تیرے قربان جاؤں یہ وہی ہے اس نے اپنے غلاموں کو فوراً حکم دیا تو وہ اس کے بڑے بڑے ہمسایوں کے دس مشائخ کے پاس گئے اور انہیں بلا لائے دو ہتھیلیاں بھی لائی گئیں جن میں بیس ہزار درہم تھے پھر کہنے لگا یہ میری فلاں بہن ہے اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے ابراہیم بن ہدی سے بیاہ دیا ہے اور اس کی طرف سے میں نے اسے بیس ہزار درہم ہر دیا ہے، پس اس نے راضی ہونکاح قبول کر لیا میں نے اُسے ایک ہتھیلی دے دی اور دوسری کو میں نے مشائخ میں تقسیم کر دیا اور میں نے انہیں کہا میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میرے پاس یہی کچھ تھا وہ درہم لے کر چلتے بنے پھر وہ کہنے لگا اے میرے آقا میں تجھے ایک مکان دکھا دیتا ہوں جہاں تو اپنے اہل کے ساتھ سویا کرنا۔ امیر المومنین! خدا کی قسم اس نے اپنی سخاوت اور وسعتِ حوصلہ سے مجھے شرمندہ کر دیا، میں نے کہا پاکی لاؤ، میں اُسے گھر لے جاؤں، اس نے کہا جو چاہو کرو، پاکی آئی تو میں اُسے گھر لے آیا، امیر المومنین آپ کے حق کی قسم اس نے مجھے اتنا سامان دیا کہ وہ میرے گھر میں نہ سماتا تھا۔

مامون اس آدمی کی سخاوت سے بہت حیران ہوا اور طفیلی کو چھوڑ دیا اور اُسے بہت اچھا انعام دیا اور ابراہیم کو اس آدمی کے حاضر کرنے کا حکم دیا اس کے بعد وہ مامون کے خواص اور دوستوں میں شامل ہو گیا اور شراب نوشی کے خوش کن احوال میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔

اسحق موصلی اور کلثوم عتابی، مامون حضور کے مبرور اور ثعلب بیان کرتے ہیں کہ کلثوم عتابی، مامون کے دروازے پر کھڑا تھا

کہ یحییٰ بن اکثم آگیا تو عتابی نے اُسے کہا کہ امیر المومنین کو میرے مقام کے متعلق آگاہ کرو، اس نے کہا میں کوئی دربان نہیں، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم دربان نہیں بلکہ

صاحب فضل آدمی ہو اور صاحب فضل بہترین مددگار ہوتا ہے وہ کہنے لگا تو مجھے کسی اور راستے پر لے گیا ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ کے ہاں عزت دی ہے اور تو اس سے آسودہ حال بھی ہے اور اگر تو شکر کرے گا تو یہ دونوں چیزیں زیادہ عرصہ تیرے پاس رہیں گی اور اگر ناشکری کرے گا تو کم عرصہ رہیں گی اور میں آج خود تیری نسبت تیرے لیے بہتر ہوں ، میں تیری آسودگی کے اصناف کے لیے دعا کروں گا اور تو اس سے انکار کرتا ہے نیز ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور مرتبے کی زکوٰۃ اُسے امن چاہنے والوں کے لیے خرچ کرنا ہے تو یحییٰ نے اندر جا کر مامون کو سب واقف بنایا عتابی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا مجلس میں اسحاق بن ابراہیم موصلی بھی موجود تھا اس نے اُسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس سے اس کا حال احوال پوچھنے لگا تو وہ اُسے بڑی فصیح زبان میں جواب دینے لگا جسے مامون نے بہت اچھا سمجھا اور اس کی دلجوئی میں لگ گیا اور شیخ نے گمان کیا کہ اس نے اس کی امانت کی ہے ، تو وہ کہنے لگا ، چکانے سے پہلے اظہار اُسن اُسے اس کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے اسحاق کی طرف دیکھا تو اس نے اُسے آنکھ ماری پھر کہا کہ ایک ہزار دینار ، پس وہ لا کر عتابی کے سامنے رکھ دیے گئے اور اُسے گفتگو کی دعوت دی گئی مامون نے اسحق کو اس کے ساتھ مذاق کرنے پر اکسایا اور اسحق ہر بات میں اس سے معارضہ اور زیادتی کرنے لگا وہ اس سے بہت متعجب ہوا مگر اُسے یہ علم نہیں تھا کہ یہ اسحق ہے پھر کہنے لگا کیا امیر المؤمنین اجازت دیں گے کہ اس شخص کے نام و نسب کے متعلق پوچھا جائے اس نے کہا پوچھو ، عتابی نے اُسے کہا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میں لوگوں میں سے ہوں اور میرا نام کل بصل ہے ، عتابی نے اُسے کہا ، نسبت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے مگر نام کا مجھے پتہ نہیں چلا اور نہ کل بصل ناموں میں سے کوئی نام ہے ، اسحق نے اُسے کہا تو بہت بے انصاف ہے کلثوم (سب لہسن) کیا ہے اور پیاز ، لہسن سے اچھا ہوتا ہے۔ عتابی کہنے لگا ، اللہ تجھے ہلاک کرے تو کس قدر خوش مزاج ہے میں نے کوئی ایسا شیریں گفتار نہیں دیکھا ، کیا امیر المؤمنین مجھے اسے انعام دینے کی اجازت دیں گے کہ آپ نے مجھے اس آدمی سے بلایا ہے خدا کی قسم یہ مجھ پر غالب آ گیا ہے ، مامون نے اُسے کہا بلکہ یہ پورا پورا تجھے ملے گا اور ہم اس کے لیے اتنا ہی انعام دینے کا حکم دیتے ہیں اسحق اپنے گھر واپس آ گیا اور اس کے ساتھ بقیہ دن شراب نوشی کرتا رہا۔

العتابی

العتابی، جند فہرین اور عواصم کے علاقے کا رہنے والا تھا دیاہ مضر میں رقبہ میں سکونت پذیر ہو گیا تھا وہ بڑا صاحب علم، قاری، ادیب، خوش الحان، مرتب کلام کرنے والا، زبردست حفظ والا، فصیح و بلیغ، بادشاہوں کا ہمنشین، ماہر کاتب، شیریں گفتار، خوش خط اور صاف طبیعت آدمی تھا وہ اپنے دور کے کثیر آدمیوں سے اس میدان میں سبقت لے گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ آدمی کا کاتب اس کی زبان اور چہرہ اس کا دربان ہے اور اس کا ہم نشین اس کا سب کچھ ہے اس نے اسے شعر میں یوں بیان کیا ہے۔

”نوجوان کی زبان، اس کا کاتب، اس کا چہرہ اس کا دربان اور اس کے ندیم اس کا سب کچھ ہیں اور یہ سب ضروری ہیں۔“

اور اس سے بیان کیا گیا کہ اس نے کہا کہ جب تجھے کوئی کام سپرد کیا جائے تو دیکھ کہ تیرا کاتب کون ہو، کیونکہ تجھ سے دُور رہنے والے تیرے کاتب سے تیرا اندازہ کریں گے اور اپنے دربان کے پاس آئیں گے اور اپنے ندیموں اور ہم نشینوں کو خوش رکھ اور ان کی عزت کر، کیونکہ آدمی کا وزن اس کے ساتھیوں سے کیا جاتا ہے۔

ایک کاتب نے ندیم پر فخر کا اظہار کیا اور کہنے لگا میں مددہوں اور تو مشتقت ہے، میں

سنجیدہ امور کے لیے ہوں اور تو بے ہودہ باتوں کے لیے ہے میں تنگی کے لیے ہوں اور تولذت کے لیے ہے، میں جنگ کے لیے ہوں اور تو صلح کے لیے ہے، ندیم نے جواب دیا میں آسائش کے لیے ہوں اور تو انتقام کے لیے ہے، میں مرتبہ کے لیے ہوں اور تو خدمت کے لیے ہے تو کھڑا ہونا ہے اور میں بیٹھتا ہوں، تو غصہ دلاتا ہے اور میں اُٹس کرتا ہوں تو میری حاجت کو تھکا دیتا ہے اور جس میں میری سعادت ہو اس میں تیری شقاوت ہوتی ہے، میں شریک ہوں اور تو معین ہے، میں ساتھی ہوں اور تو تابع ہے اور میری جدائی سے ندامت کی وجہ سے میرا نام ندیم ہے۔

عتابی کے واقعات اور تصنیفات بہت شان دار ہیں اور ان کے بیان کرنے سے ہم اپنے موضوع سے بکل جائیں گے ہم نے یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ اس کے متعلق چند باتیں معلوم ہو جائیں۔

ایک آدمی کا مامون کے پاس واقعہ بیان کرنا | جوہری نے العتبی سے اور اس نے عباسی

سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مامون تک ایک واقعہ پہنچایا اور اس سے اس کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی کہ وہ اس سے واقعہ کو سُنے، مامون نے اُسے اجازت دی تو اس نے جا کر سلام کہا، مامون نے کہا، اپنی ضرورت بیان کرو، اس نے کہا امیر المومنین کو بتایا گیا ہے کہ زمانے کے مصائب و آلام نے میری طرف رخ کر لیا ہے اور جو کچھ دنیا نے مجھے دیا تھا وہ مصائب نے چھین لیا ہے میری جاگیر ویران ہو گئی ہے، نہر بھر گئی ہے مکان گر گیا ہے اور جو مال تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھ پر بہت ساقض ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور عیال ہیں، میں بہت بوڑھا ہوں، مطالبات نے مجھے بس کر دیا ہے اور اخراجات مجھ سے بڑھ گئے ہیں، مجھے امیر المومنین کی نظر کرم کی ضرورت ہے راوی بیان کرتا ہے کہ باتوں کے دوران اس نے گوز مار دیا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ کبھی زمانے کی ایک عجیب اور تکلیف دہ بات ہے اور خدا کی قسم ہمیشہ ہی مجھ سے یہ بر محل صادر ہوا ہے مامون نے اپنے ہم نشینوں سے کہا میں نے اس سے زیادہ مضبوط اور قوی دل آدمی کبھی نہیں دیکھا پھر اُسے فوری پانچ ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔

امیر المومنین نے کہا کہ ایک روز مامون نے مجھے بلا بھیجا
مامون اور ابو العتاہیہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے اُسے متفکر، مغموم اور سر جھکائے

دیکھا میں اس حالت میں اس کے نزدیک ہونے سے جھجکا، اس نے سر اٹھا کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ قریب ہو جاؤ، میں اس کے قریب ہوا تو اس نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر کہا اے اسماعیل! دل کا کام اکتانا اور نئی بات کو پسند کرنا اور تنہائی سے مایوس ہونا ہے جیسے ہم آفت سے مانوس ہوتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین بے شک یہ بات ایسے ہی ہے میں نے اس بارے میں ایک شعر کہا ہے اس نے کہا وہ کیا ہے میں نے کہا

”جب دل کسی کام میں لگا ہوا ہو تو وہ ایک حال سے دوسرے حال میں جائے بغیر
 ٹھیک نہیں ہوتا۔“

اس نے کہا بہت اچھا، مجھے کچھ مزید اشعار سناؤ، میں نے کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا اور میں بقیہ دن اس کے ساتھ رہا پھر اس نے مجھے مال دینے کا حکم دیا اور میں مال لے کر واپس آ گیا۔

مامون اور ایک عام آدمی بیان کیا جاتا ہے کہ مامون نے اپنے ایک خادم خاص کو

حکم دیا کہ وہ باہر جائے اور جو آدمی اُسے راستے میں ملے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ بڑا ہویا چھوٹا ، اُسے اس کے پاس لے آئے پس وہ ایک عام آدمی کو لے آیا ، وہ اس کے پاس گیا تو اس کے پاس اس کا بھائی معتصم اور یحییٰ بن اکثم اور محمد بن الرومی بیٹھے تھے اور ان میں سے ہر ایک نے ہنڈیا پکائی ہوئی تھی محمد بن ابراہیم ظاہری نے اس عامی آدمی سے کہا یہ امیر المؤمنین کے خالص لوگ ہیں جو کچھ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں اس کا انہیں جواب دو ، مامون نے کہا اس وقت جب کہ رات کے تین گھنٹے باقی رہ گئے ہیں تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا مجھے چاند نے دھوکا دیا ہے میں نے تکبیر کی آواز سنی تو میں نے اُسے اذان یقین کیا مامون نے اُسے بیٹھ جانے کو کہا ، وہ بیٹھ گیا ، مامون نے کہا ہم میں سے ہر ایک نے ہنڈیا پکائی ہے جو ہم میں سے ہر ایک تیرے سامنے پیش کرتا ہے تو اُسے چکھ کر ہر ہنڈیا کی خوبیاں اور خوشگواہی بیان کر ، اس نے کہا لاؤ ، اس کے سامنے ایک مقال پیش کیا گیا جس میں سب ہنڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا اور جس جس نے ہنڈیا کو پکایا اس پر اس کا نشان تھا ، جس ہنڈیا کو مامون نے پکایا تھا اس نے اُسے چکھ کر کہا چہ خوب ، اور اس سے تین لقمے لیے اور کہنے لگا یہ تو گویا بھلائی ہے اور اس کا پکانے والا حکیم ، لطیف ، ظریف اور صلح آدمی ہے ، پھر معتصم کی ہنڈیا چکھ کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ اور پہلی ہنڈیا یوں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے تیار ہوئی ہیں اور متساوی حکمت سے پکائی گئی ہیں پھر محمد بن عمرو الرومی کی ہنڈیا کو چکھ کر کہنے لگا یہ ہنڈیا کسی باورچی کے بیٹے کی ہے اس نے اسے بہت اچھا پکایا ہے پھر اس نے قاضی یحییٰ بن اکثم کی ہنڈیا کو چکھا اور اپنا نہ موڑ لیا اور کہنے لگا ، خدا کی قسم اس کے پکانے والے نے پیاز کی جگہ اس میں کان کی جڑ ڈال دی ہے تو سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور وہ ان سے ہنسی مذاق کی باتیں کرتا رہا اور ہنستا کھینتا رہا وہ بھی اس سے خوش گپیاں کرتے رہے جب صبح روشن ہوئی تو مامون نے اُسے کہا ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ باہر نہ کرنا اور اس نے بتایا کہ وہ انہیں جانتا ہے تو مامون نے اُسے چار ہزار دینار دیے اور اس نے انہیں ہنڈیا پکانے والوں میں سے ہر ایک کی حیثیت کے مطابق تقسیم کر دیا مامون نے اُسے کہا کہ دوبارہ اس وقت باہر نکلنے سے نہ روکے ، انہوں نے اس سے اس کی تجارت کے متعلق پوچھ کر اس کے مرتبے کا اندازہ لگایا وہ مامون اور سب کی خدمت میں آنے جانے لگا اور ان کے

ندبوں میں شامل ہو گیا۔

تین باتوں کے جواب سے مامون کا عاجز ہونا | ابو عباد کا تب، جو مامون کا خاص آدمی تھا،

بیان کرتا ہے کہ مجھے مامون نے کہا کہ میں تین آدمیوں کا جواب نہیں دے سکا، میں ذوالریاستین کی ماں کے پاس اس کی تعزیت کرنے گیا تو میں نے کہا کہ اس کے فوت ہو جانے پر غم و افسوس نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے عوض مجھ جیسا بٹیا دیا ہے جو تمہارے لیے اس کا قائم مقام ہو گا پس جب تو اس کی باتوں سے خوش ہو تو مجھ سے منقبض نہ ہونا تو وہ گریہ کناں ہو کر کہنے لگی، میں اس لڑکے پر کیسے نہ روؤں جس نے مجھے تجھ جیسا بٹیا دیا ہے، میرے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں نے اُسے کہا تو کون ہے وہ کہنے لگا، موسیٰ بن عمران علیہ السلام، میں نے کہا تیرا بڑا ابو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے جن سے انہوں نے اپنی نبوت کے معاملہ کو واضح کیا تھا ان میں سے ایک نشان یہ تھا کہ انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ ساحروں کی تدبیر کو ہٹ کر گیا دوسرا نشان یہ تھا کہ وہ اپنے گریبان سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے دلائل نبوت کو شمار کرنے لگا اور میں نے اُسے کہا کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے نشانات و معجزات میں سے ایک نشان بھی دکھلا دے تو میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر تو ایسا نہ کر سکا تو تجھے قتل کر دوں گا، اس نے جواب دیا آپ درست کہتے ہیں مگر میں ان نشانات کو اس وقت پیش کروں گا جب فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہے گا اگر تو نے ایسا کہہ دیا تو میں اس قسم کے نشانات تجھے دکھلا دوں گا تا یسری بات یہ ہے کہ اہل کوفہ ایک عامل کی شکایت کرنے لگے جس کی سیرت اور طریق کار کو میں پسند کرتا تھا میں نے انہیں اطلاع بھیجی کہ میں اس آدمی کی سیرت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں کل صبح تمہاری بات کے فیصلے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں تم ایک آدمی کو منتخب کر لو جو تمہاری طرف سے گفتگو کرے گا کیونکہ میں تمہاری کثرت کلام کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے جواب دیا، ہم میں اطروش کے سوا کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جسے ہم امیر المؤمنین سے گفتگو کرنے کے لیے پسند کریں پس اگر امیر المؤمنین اُسے برداشت کر سکیں تو مہربانی فرمائیں میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اُسے برداشت کروں گا وہ

لوگ دوسرے دن آگے میرے حکم سے اطروش اور وہ اندر داخل ہو گئے جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور اطروش سے کہا تمہیں اپنے عامل سے کیا شکایت ہے وہ کہنے لگا امیر المومنین! وہ روئے زمین کا سب سے بڑا عامل ہے وہ پہلے سال ہمارا عامل بنا تو ہم نے اپنا ساز و سامان فروخت کر دیا دوسرے سال ہم نے اپنی جاگیریں اور ذخائر فروخت کر دیے تیسرے سال ہم اپنے شہر سے نکلے اور امیر المومنین سے فریاد کی کہ وہ رحم فرما کہ ہماری شکایات دور کریں اور اس کو ہٹا کر لمبا زمانہ ہم پر حکومت کریں میں نے اُسے کہا تو جھوٹ بولتا ہے تیرے لیے کوئی امان نہیں بلکہ وہ ایسا آدمی ہے جس کے طریق و سیرت کا میں مداح ہوں اور اس کے دین اور روش کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اُسے تمہارے لیے اس وجہ سے منتخب کیا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم اپنے عمال پر بکثرت کیوں ناراض ہوتے ہو، اس نے کہا امیر المومنین آپ نے درست فرمایا ہے اور میں نے جھوٹ بولا ہے لیکن یہ عامل جس کے دین، امانت، عفت اور عدل و انصاف سے آپ راضی ہیں آپ نے اس کے ذریعے ہمارے ساتھ ہی قحط کو کیوں خاص کر دیا ہے، جن دیگر علاقوں کے امور کی نگرانی کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے آپ اس آدمی کو وہاں پر عامل بنا دین تاکہ وہ بھی اس کے عدل و انصاف سے اسی طرح شاد کام ہوں جیسے ہم ہوئے ہیں، تو میں نے اُسے کہا، خدا تعالیٰ تیرا محافظ نہ ہو میں نے اُسے تم سے معزول کیا۔

مامون کا فقہاء سے مناظرہ | یحییٰ بن اکتھم کا بیان ہے کہ مامون منگل کے روز فقہ کے متعلق مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا جب فقہاء اور دیگر مناظرہ کرنے والے آجاتے تو انہیں ایک مفروش کمرے میں داخل کر دیا جاتا، اور انہیں کہا جاتا کہ اپنے موزے اتار دو پھر دسترخوان لائے جاتے اور انہیں کہا جاتا کہ کھاپی لو، اور نئے سرے سے وضو کر لو، جس کے موزے تنگ ہوں وہ انہیں اتار دے جس کی ٹوپی بوجھل ہو وہ اُسے اتار دے پس جب وہ فارغ ہو جاتے تو انہیں خوشبو کی انگلیٹھیوں کے پاس لایا جاتا اور وہ خوشبو حاصل کر کے نکل جاتے تو ہم ان سے قریب آنے کی درخواست کرتے یہاں تک کہ وہ اس کے قریب ہو جاتے اور وہ ان سے بہت اچھا مناظرہ کرتا اور سرکشوں کی طرح مناظرہ کرنے سے بہت دُور رہتا، بڑا منصفانہ مناظرہ کرتا، یہ مناظرہ بازمی زوالِ آفتاب تک رہتی پھر دوبارہ دسترخوان چُنے جاتے

اور وہ کھانا کھا کر واپس چلے جاتے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دربان علی بن صالح نے اسے آکر کہا امیر المومنین! دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے جو سفید موٹا لباس پہنے ہوئے اور آستین چڑھائے ہوئے ہے اور مناظرہ کے لیے داخلہ کی اجازت چاہتا ہے، میں نے کہا وہ کوئی ٹھوٹی ہے میں نے چاہا کہ اشارہ کروں کہ وہ اسے اجازت نہ دے مگر مامون نے فوراً کہہ دیا کہ اسے اجازت دے دو، وہ آدمی آیا تو اس نے کپڑے کسے ہوئے تھے اور جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس نے بساط کی ایک جانب کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مامون نے جواب دیا وعلیکم السلام، اس نے کہا کیا آپ مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دیں گے اس نے کہا قریب ہو جائیے تو وہ قریب ہو گیا پھر مامون نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ گفتگو کی اجازت دیں گے، اس نے کہا تمہیں جو معلوم ہے وہ بیان کرو، اس میں اللہ کی رضامندی ہوگی اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں کیا آپ مسلمانوں کے اتفاق اور رضامندی سے یہاں بیٹھے ہیں یا اپنی حکومت کے زور پر اس جگہ بیٹھے ہیں اس نے کہا نہ میں ان کے اتفاق سے بیٹھا ہوں اور نہ بزور قوت بیٹھا ہوں۔ مجھ سے پہلے ایک بادشاہ مسلمانوں کے امور کا متولی تھا جسے مسلمانوں نے اچھا سمجھا خواہ رضامندی سے یا مجبوری سے، اس نے میرے لیے اور میرے ایک دوسرے ساتھی کے لیے اپنے بعد ان مسلمانوں سے جو اس کے پاس موجود تھے ولایت کا عہد لیا اور بیت الحرام میں آنے والے حاجیوں سے بھی میرے لیے اور میرے دوسرے ساتھی کے لیے بیعت لی، پس انہوں نے خوشی سے یا مجبوری سے اسے یہ عہد دے دیا، پس میرے جس ساتھی کے لیے اس نے عہد لیا تھا وہ بھی اسی راہ پر چلا گیا ہے جس پر وہ خود گیا ہے، اور جب مجھے حکومت ملی تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے پھر میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر میں مسلمانوں سے الگ ہو گیا تو اسلام کا اتحاد اور مسلمانوں کا عہد خراب ہو جائے گا اور فتنہ و فساد کا غلبہ ہو جائے گا اور جھگڑا پیدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کے احکام معطل ہو جائیں گے اور کوئی شخص بیت اللہ کا حج نہ کرے گا اور نہ اس کی راہ میں جہاد کرے گا نہ ان کا کوئی بادشاہ ہوگا جو ان کو اکٹھا کرے اور ان کا انتظام کرے، اور دستے بند ہو جائیں گے، ظالم سے کوئی شخص مظلوم کا حق نہ لے

سکے گا تو میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے اور ان کے دشمن سے جہاد کرنے اور ان کے رستوں کے کنٹرول کرنے اور ان کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ مسلمان کسی شخص پر رضامندی سے متفق ہو جائیں اور میں حکومت اس کے سپرد کر دوں اور ایک عام مسلمان کی طرح بن جاؤں اور اسے شخص تو مسلمانوں کی جماعت کی طرف میرا پیچھا ہے پس جب مسلمان کسی آدمی پر متفق ہو جائیں اور اس کو پسند کریں تو میں اس کے لیے حکومت کو چھوڑ دوں گا، وہ شخص السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو مامون نے حکم دیا کہ علی بن صالح دربان کو میرے پاس لایا جائے کہ وہ اس کی ٹوہ لگانے کے لیے آدمی بھیجے جو اس کے مفقود کو معلوم کرے وہ یہ کام کر کے واپس آ کر کہنے لگا امیر المومنین! میں نے اس کی ٹوہ لگانے کے لیے آدمی بھیجا ہے پس وہ مسجد میں گیا جس میں اسی ہیئت ولباس کے پندرہ آدمی موجود تھے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تو اس آدمی سے ملا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، انہوں نے پوچھا اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ اس نے جواب دیا اس نے مجھ سے اچھی باتیں کی ہیں، اس نے بیان کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے امور کو اس لیے کنٹرول میں لیا ہے تاکہ ان کے راتے پُر امن ہوں، حج ادا ہو، راہ خدا میں جہاد ہو، ظالم سے مظلوم کا حق وصول کرے اور احکام کو معطل نہ کرے، پس جب مسلمان کسی آدمی کو پسند کر لیں گے تو یہ حکومت اس کے سپرد کر دے گا، وہ کہنے لگے اس میں ہم کوئی حرج کی بات نہیں دیکھتے اور منتشر ہو گئے، پس مامون نے یحییٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہم ان لوگوں کی مشقت سے آسان تقاریر کے ذریعہ ہی کافی ہو گئے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کو قول و فعل میں صواب و راستی کا الہام کیا ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ مامون اور یحییٰ بن اکثم کے درمیان تعلقاً قاضی بصرہ یحییٰ بن اکثم کی گرم جوشی سے قبل یحییٰ، بصرہ کا قاضی تھا، بصریوں نے مامون کے پاس شکایت کی کہ اس نے بکثرت لواطت کے باعث ان کے لونڈوں کو خراب کر دیا ہے، تو مامون نے کہا کاش ان میں سے کچھ آدمی اس سے قبل اس کے احکام پر اعتراض کرتے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس نے فواحش اور کباثر کا ارتکاب کیا ہے اور یہ بات اس کے متعلق مشہور ہو چکی ہے اور امیر المومنین وہ اپنے مشہور اشعار میں لونڈوں کی صفات، طبقات اور مراتب کا ذکر کرتا ہے، مامون نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟

تو اسے ایک قصہ بتایا گیا جس میں ان لڑکوں کے مختصر حالات تھے جن کے متعلق اس پر تہمت لگائی گئی تھی وہ کتنا ہے ۔

چار لڑکے ہیں جن کی نگاہیں فریفتہ کر لیتی ہیں اور جو شخص ان پر عاشق ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بے خواب رہتی ہے ان میں سے ایک کی دنیا اس کے چہرے میں ہے وہ منافق ہے جس کی آخرت کچھ نہیں ہے اور دوسرے کے لیے دنیا کھلی ہے اور اس کے پیچھے اس کی آخرت بھی وافر ہے اور تیسرے نے ان دونوں کو اکٹھا کر لیا ہے یعنی دنیا و آخرت کو جمع کر لیا ہے اور چوتھے نے آپس کی بات کو ضائع کر دیا ہے جس کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ۔“

مامون کو یہ بات گراں گزری اور اس نے اس وقت اس سے انکار کر دیا اور کہنے لگا تم میں سے کس نے یہ اشعار اس سے سُنے ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین! اس کی یہ بات ہم میں مشہور ہے اس نے انہیں اپنے پاس سے چلے جانے کا حکم دیا اور یحییٰ کو ان سے الگ کر دیا۔ یحییٰ کے بارے میں بصرہ میں جو بات مشہور تھی اس کے متعلق ابن ابی نعیم کہتا ہے ۔

”کاش یحییٰ، اکثم کے ہاں پیدا نہ ہوتا اور ارض عراق میں اس کے پاؤں نہ پڑتے ہمارے علم کے مطابق عراق میں یہ سب سے بڑا لوطی قاضی ہے، کونسی دوا میں اس نے اپنا قلم نہیں ڈالا اور کون سے شگاف میں اس کا سانپ داخل نہیں ہوا“

زمانے کی ایک ہی گزدش سے یحییٰ اور مامون کی ملاقات ہوئی یہ اس کا ندیم بنا اور اس نے اُسے بہت سے امور کے بارے میں رخصت دے دی ایک روز اس نے اُسے کہا

اے ابو محمد یہ کس کا شعر ہے کہ ۔

”قاضی زنا کاری میں تو حد لگانے کا قائل ہے مگر لوطی کے متعلق اس کا خیال ہے کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔“

اس نے کہا امیر المومنین! یہ ابن ابی نعیم کا شعر ہے اور وہ کہتا ہے ۔

”ہمارا امیر راشی اور ہمارا حاکم لوطی ہے اور سردار بہت بڑا سردار ہے، قاضی زنا کاری میں تو حد لگانے کا قائل ہے مگر لوطی کے متعلق اس کا خیال ہے کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ جب تک امت پر آل عباس کا والی موجود ہے، ظلم ختم نہیں ہوگا۔“

مامون نے شرمندگی سے کچھ دیر سر جھکائے رکھا ، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا ، ابن ابی نعیم کو سندھ کی طرف جلا وطن کر دیا جائے ۔

جب یحییٰ مامون کے ساتھ کسی سفر میں سوار ہوتا تو اپنی بیٹی ، قبا اور تلوار کو لٹکانے والی چیزوں کے ساتھ لٹکا لیتا اور جب سردی کا موسم ہوتا تو ریشم کی تباؤں اور سمور کی ٹوپوں اور کھلی زینوں کے ساتھ سوار ہوتا اس کی لواطت کی خبر اس حد تک مشہور ہو چکی تھی کہ مامون نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے لیے لڑکوں کو مقرر کرے جو اس کے سوار ہونے کے ساتھ سوار ہوں اور اس کے امور میں متصرف ہوں تو اس نے چار سو خوبرون لڑکوں کو مقرر کیا اور ان سے خوب رسوا ہوا راشد بن اسحاق یحییٰ کے لڑکوں کو مقرر کرنے کے بارے میں کہتا ہے ۔

”میرے دونوں دوستو! ذرا متعجب ہو کر اس شان دار منظر کو دیکھنا جسے میری آنکھ نے دیکھا ہے یحییٰ نے صرف انہی لڑکوں کو مقرر کیا ہے جن کے رخصتہ نرم و نازک اور نگاہیں شیریں ہیں وگرنہ ہر سرخ رنگ اکٹھی کے رخصتہ پر بہت کم بال ہیں اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے برعکس خوب صورتی کے مطابق لڑکے کو مقدم کرتا ہے ، اور ان کو جنگ کی طرف وہ قاضی لیے جاتا ہے جو روہینی نیزے کے ساتھ سخت نیزہ زنی کرنے والا ہے جب ان میں سے کوئی شجاع ، جنگ میں حاضر ہوتا ہے تو پیشانی اور ہاتھوں کے بل گر پڑتا ہے اور وہ ان کو علم و حلم کے ساتھ سلامتی کے دن کے لیے جا رہا ہے نہ کہ موت کے دن کے لیے شیخ اس پر اپنے تیر کی چھڑی کے ساتھ جھکا ہوا ہے اور گھٹنوں سے آگے بڑھا ہوا ہے اور وہ ان کو ٹھوڑیوں کے بل پچھڑا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور سب کے خبیثے زخمی ہوتے ہیں ۔“

اس کے متعلق راشد کہتا ہے ۔

”ہم یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہم عدل کو غالب دیکھیں گے پس اس نے ہمیں آس کے بعد یاس سے ہمکنار کیا اور جب مسلمانوں کا قاضی القضاة ہی لوطی ہو تو دنیا اور اہل دنیا کی اصلاح کب ہو سکتی ہے ۔“

یحییٰ بن اکثم بن عمرو بن ابی رباح خراسانی تھا اور مروکار بننے والا تھا اور بنی تمیم کا آدمی تھا جب یہ مصر میں تھا تو مامون اس پر ۲۱۵ھ میں ناراض ہو گیا اور غصے کی حالت میں

اسے عراق بھیج دیا اور اس نے حدیث کو لکھا اور عثمان البتی کی طرح بصریوں کے لیے فقیہ بن گیا اور اس کے اصول و فروع کے متعلق اس کی تصنیفات پائی جاتی ہیں اور "التبئیہ" کے نام سے اس نے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے عراقیوں کا رد کیا ہے اس کے اور احمد بن ابی دؤاد بن علی کے درمیان بہت سے مناظرات ہوئے۔

مامون کے زمانہ خلافت میں جمعہ کی شب رجب ۲۰۴ھ میں

امام شافعیؒ کی وفات

ابو عبد اللہ محمد بن ادیس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد اللہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے اور اسی رات کی صبح کو دفن کر دیے گئے، ان کی عمر ۵۴ سال تھی ان کی نماز جنازہ امیر مصر سری بن حکم نے پڑھائی، یہی بات عکرمہ بن محمد بن بشر نے ربیع بن سلیمان مؤذن سے اور محمد بن سفیان بن سعید مؤذن وغیرہ نے ربیع بن سلیمان سے بیان کی ہے، امام شافعی کو مقبرہ بنی عبد الحکیم میں شہداء کی قبروں کے حصے میں دفن کیا گیا، ان کی قبروں اور آپ کے سر کے درمیان پتھر کا ایک بڑا ستون ہے اسی طرح آپ کی ٹانگوں کے پاس بھی ایک ستون ہے آپ کے سر کے پاس پتھر پر یہ لکھا ہے "یہ قبر محمد بن ادیس شافعی، اللہ کے امین کی ہے"

جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ مصر میں مشہور ہیں، امام شافعی کا نسب بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ساتھ عبد مناف میں جا ملتا ہے اس لیے کہ وہ مطلب بن عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اور بنو عبد المطلب دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں اور قریش نے شعب میں بنو ہاشم کے ساتھ بنی مطلب کا بھی محاصرہ کیا تھا۔

مجھے فقیر بن مسکین نے یہ حدیث مزنی سے سنائی، فقیر، مزنی سے حدیث بیان کرتا ہے اور ہم نے مصر کے شہر اسوان میں فقیر بن مسکین سے سماع کیا ہے، اس نے کہا کہ مزنی بیان کرتا ہے کہ میں امام شافعی کے پاس ان کی وفات کے روز صبح کے وقت گیا اور ان سے پوچھا اے ابو عبد اللہ آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے رحلت کرنے والے اپنے بھائیوں کو چھوڑنے والے اور جام مرگ نوش کرنے والے کی طرح صبح کی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میری رُوح جنت کو جائے گی کہ میں اُسے مبارک باد دوں یا دوزخ کو جائے گی کہ اس سے تعزیت کروں اور کہنے لگے

"جب میرا دل سخت ہو گیا اور میرے راتے تنگ ہو گئے تو میں نے امید کو

تیرے عفو کے لیے زمین بنایا اور میں نے اپنے گناہ کو بڑا خیال کیا اور جب میں نے اُسے تیرے عفو کے ساتھ ملایا تو تیرا عفو اس سے بہت بڑا تھا۔

ابوداؤد طیالسی اور ابن الکلبی | جس سال حضرت امام شافعیؒ نے وفات پائی اسی سن میں داؤد سلیمان بن طیالسی نے بھی ۹۱ سال کی عمر میں وفات پائی اور مشام بن محمد بن السائب الکلبی بھی اسی سال میں فوت ہوئے۔

مامون اور ایک مدعی نبوت | مامون کے زمانے میں بصرہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اُسے بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے پاس لایا گیا جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو مامون نے اُسے کہا تو نبی اور مرسل ہے اس نے کہا اس وقت تو میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، اس نے کہا تجھے کس نے دھوکا دیا ہے وہ کہنے لگا کیا انبیاء کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے خدا کی قسم اگر میں بیڑیوں میں جکڑا

وانہ ہوتا تو میں جبریل کو حکم دیتا کہ وہ اس لبتی کو تم پر اٹا دے، مامون نے اُسے کہا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا، خاص طور انبیاء کی دعا قبول نہیں ہوتی جب وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں، مامون یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تجھے کس نے بیڑیاں پہنائی ہیں اس نے کہا اس شخص نے جو آپ کے سامنے موجود ہے مامون نے کہا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں تو جبریل کو حکم دے کہ وہ اس لبتی کو اٹا دے، اگر اس نے تیری بات مان لی تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری تصدیق کریں گے اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ "فلا یومنونوا حتی یرد العذاب الالیهم" وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں گے اگر تو مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے پس مامون نے اُسے رہا کرنے کا حکم دیا جب اُس نے عاقبت محسوس کی تو لمبی آواز کر کے کہنے لگا اے جبریل تم جس کو چاہو بھیج دو، اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی کام نہیں رہا، میرے غیر اموال کے مالک ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے پس اس نے اُسے رہا کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے دیا۔

مامون اور ابراہیم خلیل ہونے کا مدعی | ثمامہ بن اثرس بیان کرتا ہے کہ میں مامون کی مجلس میں حاضر ہوا تو ایک آدمی کو لایا

گیا جو ابراہیم خلیل ہونے کا مدعی تھا۔ مامون نے اُسے کہا میں نے اللہ پر اس سے بڑا جرات کرنے والا نہیں سنا، میں نے کہا اگر امیر المومنین مناسب خیال فرمائیں تو مجھے اس سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں، اس نے کہا یہ تمہارا اور اس کا کام ہے میں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو دلائل تھے، اس نے کہا ان کے دلائل کیا تھے، میں نے کہا ان کے لیے آگ جلائی گئی اور انہیں اس میں پھینک دیا گیا اور وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی ہم تیرے لیے آگ جلاتے ہیں اور اس میں تمہیں پھینکتے ہیں اگر وہ تیرے لیے حضرت ابراہیم کی طرح ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری تصدیق کریں گے اس نے کہا مجھ سے ایسی بات کرو جو اس سے ہلکی ہو، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے براہین پیش کرو اس نے کہا وہ کیا تھے؟ میں نے کہا انہوں نے عصا پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور ساحر کے بنائے ہوئے جھوٹ کو ننگلے لگا اور انہوں نے سمندر پر عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور بغیر تکلیف کے ان کا ہاتھ سفید ہو جانا تھا، اس نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس سے کچھ ہلکا مطالبہ کرو، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے براہین پیش کرو، اس نے کہا وہ کیا تھے؟ میں نے کہا مردوں کا زندہ کرنا، اس نے حضرت عیسیٰ کی براہین میں قطع کلامی کرنے ہوئے کہا تو نے تو بڑی قیامت کی بات کی ہے، ان براہین کا مجھ سے مطالبہ کرنا چھوڑ دو، میں نے کہا براہین کا ہونا تو ضروری ہے اس نے کہا میرے پاس اس قسم کے براہین میں سے کچھ نہیں ہے اور میں نے جبریل سے کہا ہے کہ تم مجھے شیاطین کی طرف بھیجتے ہو پس مجھے ایسی محبت عطا کرو جس سے میں انہیں دُور کروں ورنہ میں نہیں جاؤں گا تو جبریل مجھ پر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا تو تو ابھی لڑائی کرنے لگ گیا ہے پہلے جا کر دیکھ کہ لوگ تجھے کیا کہتے ہیں مامون یہ بات سن کر سنسن پڑا اور کہنے لگا یہ ان انبیاء میں سے ہے جو شراب نوشی میں ہمیشگی کے مناسب ہوتے ہیں۔

۱۹۸ھ میں مامون نے اپنے بھائی قاسم بن رشید کو ولیدہ سے علیحدہ کر دیا۔

۱۹۹ھ میں ابوالسرایین

ابوالسرایین، ابن طباطبایا اور چند غلوپوں کی بغاوت

منصور شیبانی نے عراق میں بغاوت کر دی اور اس نے بڑی قوت حاصل کر لی، اس کے ساتھ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب جو ابن طباطبایا کے نام سے معروف تھا، بھی

شامل تھا محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن بن حسن بن علی مدینہ میں اور علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی اور زید بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بصرہ میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بصرہ پر غالب آگئے، ابوالسرایا جس ابن طباطبا کی طرف دعوت دیتا تھا وہ اسی سال میں فوت ہو گیا اور ابوالسرایا نے اس کی جگہ محمد بن محمد بن یحییٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی کو کھڑا کر دیا، ۱۹۹ھ ہی میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی نے ظہور کیا اور مامون کے زمانے میں محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین نے مکہ اور حجاز کے نواح میں ۲۰۰ھ میں ظہور کیا اور اپنی طرف دعوت دی، شیعہ فرقوں میں سے سبیطہ فرقہ نے اس کی دعوت دی اور اس کی امامت کے قائل ہوئے اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے بعض نے غلو کیا اور بعض نے کوتاہی کی اور امامیہ کے طریق پر چلے اور ہم نے اپنی کتاب "المقالات فی اصول الدیانات" اور اخبار الزمان کے تیسویں فن میں خلقائے بنی عباس اور ان کے زمانے میں ظہور کرنے والے طالبیوں کا ذکر کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس محمد بن جعفر نے شروع میں عنفوان شباب میں ابوالسرایا کے ساتھ محمد بن ابراہیم بن طباطبا کی طرف دعوت دی جب ابن طباطبا مر گیا تو اس نے اپنے متعلق دعوت دی اور امیر المومنین کا نام اختیار کیا، اس محمد بن جعفر کے سوا جن لوگوں نے بھی آل محمد کے سلف و خلف میں اقامت حق کے لیے اس سے پہلے یا بعد میں ظہور کیا انہوں نے امیر المومنین کا نام اختیار نہ کیا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اُسے دیباچہ کہتے تھے، مکہ اور اس کے نواح میں اس کے بہت سے واقعات ہیں اُسے خراسان میں مامون کے پاس لے جایا گیا، مامون ان دنوں مرو میں تھا مامون نے اُسے امان دی اور اُسے اپنے ساتھ جرجان لے گیا، جب مامون چلا تو محمد بن جعفر فوت ہو گیا اور وہیں دفن ہوا اور ہم نے اس کی وفات کی کیفیت اور اس کے اور دیگر طالبیوں کے حالات اور زمین کے مختلف خطوں میں ان کے قتل کے واقعات کو اپنی کتاب حدائق الازہان میں بیان کیا ہے۔

ابن افسس کا ظہور | اسی طرح مامون کے زمانے میں حسین بن حسن بن علی بن علی بن حسین بن علی نے جو ابن افسس کے نام سے مشہور تھا مدینہ میں ظہور کیا بعض کہتے ہیں کہ اس نے آغا نہ کا رہا ہے ابن طباطبا کی طرف دعوت دی جب ابن طباطبا مر گیا تو اس نے اپنی امامت کی طرف دعوت دی اور مکہ کی طرف گیا اور منیٰ میں لوگوں کے پاس

آیا، داؤد بن علی بن موسیٰ ہاشمی حاجیوں کا امیر تھا، پس داؤد بھاگ گیا اور لوگ عرفہ کی طرف چلے گئے اور مزدلفہ آئے اور بنو عباس میں سے کوئی انسان ان کا امیر نہ تھا، ابن افضس رات کو عرفہ گیا پھر مزدلفہ آیا اور لوگ بغیر امام کے تھے پس اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر منیٰ کی طرف گیا اور قربانی کر کے مکہ میں داخل ہو گیا اور سوائے سفید قباطی کپڑے کے کعبہ کے غلاف کو اتار دیا۔

۲۲۰ میں حماد جو کند غوش کے نام سے مشہور تھا اُسے ابوالسرایا

ابوالسرایا پر کامیابی

پر کامیابی حاصل ہو گئی حسن بن سہل اُسے لایا اور قتل کر کے بغداد کے پیل پر صلیب دے دیا ہم نے ابوالسرایا کے حالات، خروج اور اس کے عبدوس بن محمد بن ابی خالد اور اس کے ساتھی جرنیلوں کے بیٹوں کو قتل کرنے اور اس کے لشکر کو لوٹنے کے واقعات

کو اپنی کتاب اخبار الزمان میں بیان کیا ہے۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ ۲۲۰ میں مامون نے رجاء بن ابی صخاک اور یامر خادم کو علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضا کو لانے کے لیے بھیجا وہ اُسے نہایت احترام کے ساتھ لایا اور اسی سال مامون نے حکم دیا کہ بنو عباس کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں کی مردم شماری کی جائے، ان کی تعداد ۳۳ ہزار تھی۔

ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا مامون کے پاس پہنچا،

مامون اور علی بن موسیٰ رضا

اس وقت وہ مرد میں تھا مامون نے اس کا بہت

احترام کیا اور اپنے تمام خاص دوستوں سے مشورہ کر کے انہیں بتایا کہ اس نے حضرت عباس

اور حضرت علی کی اولاد کے متعلق بہت غور کیا ہے مگر اس نے اپنے وقت میں علی بن موسیٰ

رضا سے بڑھ کر کسی کو امر خلافت کا حق دار نہیں پایا پس اس نے اس کی ولیعهدی کی بیعت

لی اور اس کے نام کو دراہم و دنانیر پڑھا لالا اور محمد بن علی بن موسیٰ رضا سے اپنی بیٹی

ام الفضل کی شادی کر دی لباس اور جھنڈوں سے سیاہ رنگ کو دور کرنے اور انہیں سبز رنگ

دینے کا حکم دیا اور اولاد عباس میں سے جو لوگ عراق میں رہتے تھے ان تک یہ بات پہنچی تو

انہوں نے سمجھ لیا کہ اب حکومت ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے انہوں نے اسے بڑی بات

خیال کیا اور لوگوں کو مامون کے حکم سے رضا کے بھائی ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے

حج کر وایا۔ بغداد میں بنو عباس کے غلاموں اور پیروکاروں میں سے جو لوگ رہتے تھے

انہوں نے مامون کی دست برداری اور ابراہیم بن محمد بن جوہن شکر کے نام سے مشہور تھا

کی بیعت پر اتفاق کر لیا اور ۵ محرم ۲۰۲ھ کو جمعرات کے روز اس کی بیعت ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ۲۰۳ھ کا ہے۔

۲۰۲ھ میں فضل بن سہل ذوالریاستین کو خراسان کے شہر سرخس میں حمام میں دھوکے سے قتل کر دیا گیا یہ واقعہ مامون کے گھر میں اس وقت ہوا جب وہ عراق جا رہا تھا مامون کو یہ بات گراں گزری اور اس نے اس کے قاتلوں کو قتل کر دیا اور عراق کی طرف چلا گیا۔

۲۰۳ھ کا واقعہ ہے، مامون نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ۴۴ سال چھ ماہ تھی، آپ مدینہ میں ۱۵۳ھ کو پیدا ہوئے تھے مامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی علی بن موسیٰ رضا سے کر دی تھی اور اس کی ایک بہن محمد بن علی بن موسیٰ رضا کی زوجیت میں تھی اور دوسری ان کے باپ علی بن موسیٰ رضا کے نکاح میں تھی۔

۲۰۳ھ کا واقعہ ہے، مامون نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ۴۴ سال چھ ماہ تھی، آپ مدینہ میں ۱۵۳ھ کو پیدا ہوئے تھے مامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی علی بن موسیٰ رضا سے کر دی تھی اور اس کی ایک بہن محمد بن علی بن موسیٰ رضا کی زوجیت میں تھی اور دوسری ان کے باپ علی بن موسیٰ رضا کے نکاح میں تھی۔

۲۰۴ھ میں بلاد مشرق میں سخت قحط اور خراسان وغیرہ میں شہرک کے ساتھیوں سے مل کر بغاوت کر دی ہم پہلے بابک کے علاقے بدین کا ذکر کرتے ہیں جو آذربائیجان، اران اور بیلقان کے علاقے میں ہے جیسا کہ ہم جبل فتح اور باب اور البواب اور نهر الراہ اور جریانہ کے ذکر میں جو بلاد بدین کی جانب ہیں، اس کا تذکرہ

۲۰۴ھ میں بلاد مشرق میں سخت قحط اور خراسان وغیرہ میں شہرک کے ساتھیوں سے مل کر بغاوت کر دی ہم پہلے بابک کے علاقے بدین کا ذکر کرتے ہیں جو آذربائیجان، اران اور بیلقان کے علاقے میں ہے جیسا کہ ہم جبل فتح اور باب اور البواب اور نهر الراہ اور جریانہ کے ذکر میں جو بلاد بدین کی جانب ہیں، اس کا تذکرہ

کر چکے ہیں۔

ابراہیم پر کا میابی | مامون نے ابراہیم بن ہمدی کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس پھیلا دیے
 اُسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بغداد میں روپوش ہے پس ۱۳ ربیع الآخر
 ۲۰۷ھ کو اتوار کی شب کو وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ عورت کا لباس پہنے ہوئے
 تھا اور اس کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں، اُسے حارس بن اسود نے بغداد کی اس گلی میں
 پکڑا جو طویل کے نام سے مشہور ہے، جب اُسے مامون کے روبرو پیش کیا گیا تو اس نے کہا
 ابراہیم کیا حال ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین بدلہ لینے والے کو قصاص کا حکم دیا گیا ہے
 اور معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور جسے زمانہ گزرتا ہوتا ہے اور اسباب شتاد
 کی درازی کی وجہ سے دھوکہ اس پر غالب آجاتے تو اس پر زمانے کی گردشیں غالب آجاتی
 ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام معاف کرنے والوں پر اسی طرح فوقیت دی ہے جیسے
 اس نے تمام گنہگاروں کو مجھ سے کمتر رکھا ہے، اگر آپ سزا دیں تو یہ آپ کا حق ہے
 اگر معاف کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہے، مامون نے کہا اے ابراہیم میں معاف کرتا ہوں
 تو وہ تکبیر کہہ کر سجدے میں گر پڑا، مامون کے حکم سے جو چادر اس کے اوپر تھی اُسے اس کے
 سینے پر ڈال دیا گیا تاکہ لوگ اس حالت کو دیکھ سکیں جس میں اُسے گرفتار کیا گیا تھا پھر اس کے حکم سے
 اُسے کئی روز تک محافظ خانے میں رکھا گیا لوگ اُسے آکر دیکھتے تھے پھر اُسے احمد بن ابی خالد کے
 سپرد کر دیا گیا پھر جب اس نے اُسے اپنا وکیل بنایا تو وہ اس سے راضی ہو گیا اور ابراہیم اس بارے
 میں کہتا ہے۔

”جس ذات نے اچھے اخلاق کو تقسیم کیا ہے اس نے انہیں آدم کی صلب کے ساتویں امام میں
 جمع کر دیا ہے اور جس نے بغداد کے لوگوں کو تجھ پر متفق کیا ہے اس نے ان کے دلوں کو بھی متفق
 کر دیا ہے اور تیری محبت نے ہر جامع نیکی کو اپنے اندر سمولیا ہے اور تو نے وہ نیکی کی ہے جسے
 اچھے افعال کرنے والے نفوس بھی نہیں کر سکتے اور تو نے ایسا عفو کیا ہے کہ اس جیسا کوئی عفو نہیں
 حالانکہ کسی سفارشی نے تیرے پاس سفارش نہیں کی۔“

حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے مامون کی شادی | شعبان ۲۰۹ھ میں
 مامون خرم الصلح کی طرف
 چلا آیا اور حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے نکاح کر لیا حسن نے اس موقع پر اس قدر املاک تقسیم کیں

کہ جاہلیت اور اسلام کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اس طرح املاک تقسیم نہ کی تھیں اور اس نے یہ کام لیا کیا کہ ہاشمیوں، جرنیلوں، کاتبوں اور سمر کردہ لوگوں میں کستوری کی گولیاں تقسیم کیں جن میں رقعے رکھے ہوئے تھے، جن میں جاگیروں اور لونڈیوں کے نام اور جانوروں کی صفات کا ذکر تھا، جب وہ گولی کسی آدمی کے ہاتھ آتی تو وہ اُسے کھول کر پڑھتا تو وہ اس میں اپنی شان کے مطابق کوئی بات دیکھتا تو وہ اس دکیل کے پاس چلا جاتا جو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور اُسے کہتا کہ طسوج اور استناق کی فلاں فلاں جاگیر اور فلاں فلاں لونڈی اور فلاں فلاں جانور مجھے دے دو پھر اس نے دیگر لوگوں میں ذانیہ و ذراہم اور کستوری کے نافے اور عنبر کے انڈے تقسیم کیے، مامون، اس کے جرنیلوں، اس کے تمام ساتھیوں اور جو فوج قیام کرنے کے دوران اس کے ساتھ تھی یہاں تک کہ جانوروں کو کر لٹے پر دینے والوں، قلیوں، ملاحوں اور فوج کے ساتھ رہنے والے خادموں پر بھی خرچ کیا۔ بیان تک کہ مامون کی فوج کا کوئی آدمی کسی کھانے کی چیز اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو خریدتا نہ تھا۔ جب مامون نے دجلہ پر سوار ہو کر بغداد واپس آنے کا ارادہ کیا تو حسن سے کہا اے ابو محمد کوئی ضرورت ہے اس نے کہا ہاں امیر المؤمنین ہے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے دل میں میری جگہ رکھیں اس لیے کہ میں اس کی حفاظت آپ کے بغیر نہیں کر سکتا، پس مامون نے حکم دیا کہ فارس اور ضلع اہواز کا ایک سال کا خراج اس کے پاس لایا جائے اس بارے میں خطباء اور شعراء نے بہت کچھ بیان کیا ہے، محمد بن حازم باہلی اپنے اشعار میں بہت شان دار طریق سے کہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حسن اور بُوران کو داماد کے بارے میں برکت دے، اے پسر

مارون تو کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔

جب یہ شعر مامون تک پہنچے تو اس نے کہا خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے ان اشعار

میں خیر کا امداد کیا ہے یا شر کا؟

مامون کے اہل کا اُسے ابراہیم بن مہدی کے قتل پر اکساتا | جب ابراہیم بن مہدی کو

گر قتل کیے ایک مدت

گزر گئی تو ایک روز وہ مامون کے پاس آیا مامون کہنے لگا کہ معنصم اور عباس بن مامون مجھے تیرے قتل کرنے پر اکساتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ دونوں تجھ کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو تیرے جیسے آدمیوں کو کہی جاتی ہے لیکن جس بات سے تو خائف ہے اُسے اپنی اُمید کے

مقابلے میں چھوڑ دے اور یہ شعر پڑھنے لگا

”تو نے مجھے میرا مال واپس کر دیا اور مال واپس کرنے سے قبل، تو نے میرے خون کی بھی حفاظت کی پس میں اُسے لے کر چلا آیا اور میں نے کسی احسان کا بدلہ نہ دیا مجھے تجھ سے دزدندگیاں ملیں ایک موت سے اور دوسری فقر و فاقہ سے، پس تو نے جو کچھ کیا، مخلوق نے تجھے اس بارے میں معذور سمجھا اور تو نے کوئی نگوہش و ملا نہ کی اور تیرے عذر نے میرے بارے میں ایک شاہد عادل کا مقام حاصل کر کے تجھ سے حجت باندھی کی۔“

ابراہیم کے اشعار و واقعات اور بغداد کے سولیکہ غالب میں اس کی روپوشی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے واقعات وغیرہ بہت شاندار ہیں اور ہم نے ان سب کو اس کتاب سے پہلی کتابوں میں بیان کیا ہے۔

ابراہیم بن مہدی کے ساتھی یوسف بن ابراہیم کاتب نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے ”اخبار المطہین مع الملوک فی الماکل والمشارب والملابس“ اور ”ابراہیم بن المہدی فی الزارع الاخبار“ وغیرہ بھی ہیں۔

بغداد میں ابراہیم کی نقل مکانی اور روپوشی کے حالات

ابراہیم بن مہدی کے حالات میں سب سے شاندار واقعہ وہ ہے جو ایک حجام کے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ جب مامون بغداد میں آیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس نے ابراہیم بن مہدی کی تلاش میں جاسوس بھیجے اور اس کے متعلق اطلاع دینے والے کے لیے بڑا انعام مقرر کیا، ابراہیم بیان کرتا ہے کہ ایک روز میں سخت گرم دن میں ظہر کے وقت باہر نکلا اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں ایک گلی میں گیا جس کے آگے کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے اسود کو گھر کے دروازے پر دیکھا میں نے اس کے پاس جا کر کہا، کیا آپ کے پاس کوئی جگہ ہے جس میں، میں دن کا کچھ حصہ قیام کر سکوں، اس نے کہا ہاں، اور اپنا دروازہ کھول دیا، میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا جس میں ایک صاف چٹائی اور چمڑے کا ایک شاندار تکیہ پڑا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر اور دروازہ بند کر کے چلا گیا اور مجھے خیال آیا کہ اس نے اس انعام کے متعلق جو میرے بارے میں مقرر کیا گیا ہے کوئی بات سن لی ہے اور وہ میرے متعلق اطلاع دینے کے لیے گیا ہے، ابھی میں اسی

ادھیڑ میں تھا کہ یہ ایک بڑے تھال کو لے کر آیا جس میں گوشت، روٹی، نئی ہنڈیا، صاف گھڑ اور
 نظیف مشکیزے پڑے تھے اور یہ سب کی سب چیزیں نئی تھیں اور اس نے مجھے کہا میں آپ کے قربان
 جاؤں میں ایک پچھنے لگانے والا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میری چیزوں سے گھن محسوس
 کرتے ہیں مجھے اس وقت بڑی بھوک لگی تھی میں نے اٹھ کر اپنے لیے ہنڈیا پکائی مجھے یاد نہیں کہ
 میں نے کبھی اس سے بہتر ہنڈیا کھائی ہو پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا، کیا آپ کو نبیذ میں
 دلچسپی ہے میں نے کہا میں اُسے ناپسند نہیں کرتا تو وہ کھانے کی طرح ہر لطیف چیز کو میرے
 پاس لایا جس میں سے اس نے کسی چیز کو ہاتھ سے نہ چھوا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، میں آپ کے
 قربان جاؤں، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کی ایک جانب بیٹھ کر آپ
 کی خوشی کی وجہ سے نبیذ پیوں، میں نے کہا پیو، جب وہ تین جام پی چکا تو اپنے سٹور
 میں جا کر وہاں سے سازنگی نکال لایا اور کہنے لگا اے میرے آقا! یہ میرا مقام نہیں کہ آپ سے
 دریافت کروں کہ آپ گانا گاتے ہیں لیکن میری عزت کرنا آپ پر واجب ہے اگر آپ مناسب
 سمجھتے ہیں تو اپنے غلام کو گانے سے شاد کام کریں میں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اچھا
 گاتا ہوں، اس نے متعجب ہو کر کہا سبحان اللہ آپ میری پہچان سے بہت مشہور ہیں۔ آپ ابراہیم
 بن ہمدی ہیں جن کے متعلق اطلاع دینے والے کے لیے مامون نے ایک لاکھ درہم انعام رکھا
 ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے سازنگی پکڑ لی۔ جب میں نے
 جواب دیا ہاں، تو اس نے تین دھنیں پیش کیں جن میں، میں سب مغنیوں سے فائق تھا، میں
 نے کہا تو نے مجھے تو پہچان لیا ہے مگر ان دھنوں کی واقفیت تجھے کہاں سے ہوئی ہے؟
 اس نے جواب دیا میں اسحاق بن ابراہیم موصلی کا خادم رہا ہوں وہ اکثر اچھے گانے والوں کا ذکر
 کرتا رہتا تھا اور یہ تو کبھی میرے وہم میں بھی نہ آیا تھا کہ میں آپ سے یہ گانا اپنے گھر میں سنوں
 گا میں نے اُسے گانا سنایا اور اس سے موانست کی اور ظریفانہ باتیں کرتا رہا جب رات ہوئی
 تو میں اس کے ہاں سے چلتا بنا، میرے پاس دنائیر کا تھیلا بھی تھا میں نے اُسے کہا یہ تھیلا
 لے لو اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو اور ہم انشاء اللہ تجھے مزید دنائیر بھی دیں گے
 اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے
 اُسے میں آپ کے سامنے پیش کر کے کہوں گا کہ اُسے قبول فرمائیے کیونکہ میں آپ کو ان چیزوں
 سے زیادہ جلیل القدر سمجھتا ہوں اس نے میری پیشکش کو قبول نہ کیا اور چلا گیا اور اس نے

مجھے وہ جگہ بتائی جس کی مجھے ضرورت تھی اور واپس چلا گیا یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی

۲۰۷ھ میں — مامون کے خلافت کے زمانے میں — یزید بن

یزید بن ہارون

ہارون بن زادان واسطی نے ۸۹ سال کی عمر میں وفات پائی، اس کی

پیدائش ۲۰۷ھ میں ہوئی تھی وہ بنی سلیم کا غلام تھا اس کا باپ زیاد

بن ابیہ عبید اللہ بن زیاد، مصعب بن زبیر اور حجاج بن یوسف کے مطبخ میں کام کرتا تھا اور

مذکورہ یزید محدثین کے ہاں بڑے مقام کا حامل ہے اس کی وفات واسط میں ہوئی جو عراق

کے علاقے میں ہے۔

اسی سال جریر بن خزیمہ بن حازم، شبیبہ بن سوار مدنی، نقیہ

اہل علم کی ایک جماعت کی وفات

حجاج بن محمد اور عبداللہ بن نافع زنگر مدنی مولیٰ بنی مخزوم

وہب بن جریر، مؤمل بن اسماعیل اور روح بن عبادہ نے وفات پائی اور اسی سال الہیثم بن

عدی نے وفات پائی جس کے نسب پر عیب لگایا جاتا تھا اس بارے میں ایک شاعر کہتا

ہے

جب تو بنی ثعل میں عدی کا نسب بیان کرے تو نسب کے بیان کرنے میں وال

کو عین سے مقدم کر یعنی اُسے ایسا آدمی سمجھ جو عدی قبیلے سے تعلق تو نہیں

دکھتا مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔"

۲۰۹ھ میں واقدی نے وفات پائی، اس کا نام محمد

وفا واثار کا ایک واقعہ

بن عمرو بن واقد تھا جو بنی ہاشم کا غلام تھا اس نے

سیر و مخازی میں کتابیں تصنیف کیں مگر حدیث میں کزور تھا ابن ابی اذہر بیان کرتا ہے کہ مجھے ابوسہل

رازی نے واقدی سے روایت کرنے والے شخص سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ میرے دو

دوست تھے جن میں سے ایک ہاشمی تھا ہم ایک جان دو قالب تھے، مجھے سخت تنگی نے

آلیا اور عید بھی آگئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم تو تنگی ترشی برداشت کر لیں گے مگر اپنے

ان بچوں کو دیکھ کر شفقت سے میرا دل پارہ پارہ ہوا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمسایوں کے بچوں کو

دیکھتے ہیں کہ وہ عید کے روز خوب بن سنور کہ اور نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بوسیدہ

لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں اگر تو کوئی تدبیر کرے تو ان کو نیا لباس مل سکتا ہے وہ

بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہاشمی دوست کو لکھا کہ وہ جو کچھ مجھے دے سکتا ہے

دے دے تو اس نے میری طرف ایک سربمہر تھیلی بھیجی جس میں ایک ہزار درہم تھے ابھی میں اپنی جگہ پر بیٹھا بھی نہ تھا کہ میرے دوسرے دوست نے مجھے اس قسم کی بات لکھی تھی تو میں نے سالم تھیلی اس کی طرف بھجوا دی اور خود مسجد کی طرف چلا گیا اور اپنی عورت سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے رات مسجد میں قیام کیا جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے کام کی تحسین کی اور مجھے سہرزدنش نہ کی، ابھی میں اسی حالت میں تھا کہ میرا ہاشمی دوست اسی طرح کی ایک اور تھیلی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے جو تھیلی آپ کی طرف بھیجی ہے اس کے بارے میں مجھے سچا سمجھو پس میں نے اُسے سب واقف سنایا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے پیغام بھیجا اور روئے زمین پر میرے پاس اس تھیلی کے سوا کچھ نہ تھا جسے میں نے تمہاری طرف بھیج دیا اور میں نے اپنے دوست کو سہرزدی کے لیے لکھا تو اس نے میری تھیلی مرسمیت میری طرف بھجوا دی وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے عورت کو پہلے ایک سو درہم نکال کر دے دیا تھا بقیہ رقم کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کر لیا جب یہ خبر مامون کو پہنچی تو اس نے مجھے بلایا اور میں نے تفصیل کے ساتھ اُسے سب واقف سنایا تو اس نے ہمیں سات ہزار دینار دینے کا حکم دیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے دو ہزار دینار اور عورت کے لیے ایک ہزار دینار۔

واقعی کی وفات ۷۷ سال کی عمر میں ہوئی اور اسی سال یحییٰ بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی نے بغداد میں وفات پائی مامون نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہم اس کے حالات اپنی گذشتہ کتب میں بیان کر آئے ہیں۔

اذہر اور ابو جعفر منصور کے درمیان | اسی سال میں اذہر السمان نے وفات پائی جو بنی امیہ کے زمانے میں ابو جعفر منصور کا دوست تھا دونوں نے اکٹھے سفر کیا اور حدیث سنی تھی منصور اس سے بڑا مالوف و مانوس تھا اور اس کے ہاں بڑا مقام رکھتا تھا جب منصور خلیفہ بنا تو اس نے بصرہ سے واپس بلا کر اس کی بیوی اور بچیوں کے متعلق پوچھا وہ انہیں ان کے ناموں سے پہچانتا تھا اور اس سے حُسن سلوک کیا اور اُسے چار ہزار درہم دیے اور حکم دیا کہ وہ اس کے پاس بخشش کے لیے نہ آیا کرے جب وہ سال کے بعد اس کے پاس گیا تو اس نے اُسے کہا کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ تو بخشش کے لیے نہ آیا کرے اس نے اُسے جواب دیا میں تو صرف سلام کرنے اور تجدید عہد کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا میرے نزدیک بات وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے تو اس نے

اُسے چار ہزار درہم دینے کا حکم دیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اس کے پاس سلام کرنے اور بخشش طلب کرنے کے لیے نہ آیا کرے جب ایک سال کے بعد وہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ان دو کاموں کے لیے نہیں آیا جن سے آپ نے مجھے روکا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ امیر المومنین بیمار ہیں میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں، اس نے کہا میرا خیال ہے تو صرف میل ملاقات کے لیے آیا ہے اور اُسے چار ہزار درہم دینے کا حکم دیا جب ایک سال گزر اتو اس کی بیوی اور بچیوں نے اس پر زور دیا اور کہنے لگیں اپنے دوست امیر المومنین کے پاس جاؤ اس نے کہا تمہارا براہو میں اُسے کیا کہوں میں اُسے کہہ چکا ہوں کہ میں بخشش طلب کرنے سلام کرنے اور عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اب کی بار اُسے کیا کہوں اور کیا حجت پیش کروں مگر وہ اصرار ہی کرتی رہیں تو وہ منصور کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس بخشش طلب کرنے اور ملاقات و عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اس حدیث کے سماع کے لیے آیا ہوں جسے ہم اکٹھے فلاں شہر میں فلاں شخص سے بحوالہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اس میں اسماء النبیہ میں سے ایک نام آتا تھا کہ جو شخص اس نام کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، منصور نے اُسے کہا اُسے نہ دہراؤ، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ قبول ہونے والی نہیں اور اس کا قصہ یوں ہے کہ جب سے تو میرے پاس آنے لگا ہے میں اللہ تعالیٰ سے اس نام کے واسطہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ تجھے میرے پاس واپس نہ لائے اور تو میرے پاس واپس آ گیا ہے کبھی کہتا ہے کہ سلام کرنے آیا ہوں کبھی کہتا ہے عیادت کرنے آیا ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ ملاقات کرنے آیا ہوں اور اس نے اُسے چار ہزار درہم دیے اور کہا تو نے مجھے حیلے سازی سے عاجز کر دیا ہے لہذا تو جب چاہے میرے پاس آ سکتا ہے۔

ابن عائشہ کا قتل

۲۰۹ھ میں مامون رات کو سوار ہو کر زمین دوز قید خانے میں گیا تو ابن عائشہ کو قتل کر دیا گیا، ابن عائشہ عباس بن عبدالمطلب کی اولاد میں سے تھا اس کا نام ابراہیم بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام تھا جو ابو العباس اور منصور کا بھائی تھا اس کے ساتھ ہی محمد بن ابراہیم افریقی وغیرہ کو قتل کر دیا گیا، ابن عائشہ پہلا عباسی ہے جسے اسلام میں صلیب دی گئی، مامون نے اس کے قتل پر ایک شاعر کے قول کو بطور

تمثل پڑھا ہے

”جب پتھروں میں آگ پوشیدہ ہو تو جب اُسے کوئی رگڑ لگاتا ہے تو وہ بھڑک

اٹھتی ہے۔"

بغداد میں عباس بن عباس علوی، جو عباس بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے بڑا صاحب ثروت و قوت و عزت اور فہیم و بلیغ آدمی تھا اس کے ساتھ معتصم کسی وجہ سے دشمنی رکھتا تھا اس نے مامون کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ اس کا اور اس کی حکومت کا دشمن اور اس کے دور سے بغض رکھنے والا ہے جب وہ اس رات کو جا رہا تھا تو عباس مامون کو پل پر ملا مامون نے اُسے کہا جس بات کا تو ہمیشہ سے منتظر تھا وہ وقوع پذیر ہو گئی ہے اس نے کہا امیر المؤمنین میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا ہے کہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ "تو اس نے اس کی اس بات کو بہت اچھا خیال کیا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا زمین و دریا قید خانے میں پہنچ گیا جب ابن عائشہ قتل ہو گیا تو اس نے کہا کیا امیر المؤمنین مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے کہا، بات کرو، اس نے کہا خون کے متعلق اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب بادشاہ خونریزی کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو وہ خونریزی کیسے بغیر صبر نہیں کر سکتا، مامون نے کہا اگر میں سوار ہونے سے قبل تیری یہ بات سن لیتا تو نہ میں سوار ہوتا اور نہ خون بہاتا اور اس نے اُسے تین ہزار درہم دینے کا حکم دیا، ہم ابن عائشہ کے حالات مامون کے ساتھ اس نے جو بروائی کا ارادہ کیا تھا اور دیگر واقعات کو اپنی کتاب اخبار الزماں میں بیان کر چکے ہیں۔

۳۱۱ھ میں ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ بصرہ میں وفات پا گیا وہ خوارج کا ہم خیال تھا اس کی عمر ایک سو سال کے

ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ کی وفات

قریب تھی اس کے جنازہ میں کسی آدمی نے شمولیت نہ کی یہاں تک کہ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ کراٹے پر لیے گئے کوئی شریف اور کینہ اُسے سلام نہ کرتا تھا بلکہ اس پر اعتراض کرتے تھے، عربوں کی جنگوں کے متعلق اس کی بہت شان دار تصانیف ہیں جن میں سے ایک کتاب

۱۱۱ (ترجمہ) مدینہ والوں اور اس کے ارد گرد رہنے والے بادیشہمنوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ وہ رسول کی جان کی راحت کی بجائے اپنی جانوں کی راحت کی طرف راغب ہوں (توبہ آیت ۱۲۰)

المثالب بھی ہے جس میں وہ عرب کے انساب اور ان کی خرابیوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے متعلق ایسی تمثیل لگاتا ہے جن کا ذکر بھی لوگوں کو بڑا معلوم ہوتا ہے ابو نواس حسن بن ہانی اس سے بہت چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، ابو عبیدہ بصرہ کی مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ابو نواس نے اس کی عدم موجودگی میں اس پر تعریفیں کرتے ہوئے یہ دو شعر لکھ دیے

« اللہ تعالیٰ نوط اور اس کے پیروکار ابو عبیدہ پر رحمت کرے اور تم کو آمین،
میرے نزدیک تو بلا شک و شبہ تو ان کا بقیہ ہے۔ جب سے تو بالغ ہوا ہے
اور نوے سال سے اُوپر کا ہو گیا ہے۔ »

جب ابو عبیدہ اپنی جگہ پر بیٹھنے اور اس ستون کے ساتھ ٹیک لگانے لگا تو اس نے یہ شعر دیکھے تو کہنے لگا یہ بے حیا نوطی ابو نواس کا فعل ہے اس کو کھڑچ دو، خواہ اس میں نبی پر درود ہی لکھا ہو۔

۲۱۱ھ میں مشہور شاعر ابو الغتاہیہ بن قاسم فوت ہو گیا وہ صوف کا لباس زیب تن کیے زاہد بنا ہوا

ابو الغتاہیہ کی وفات اور حالات

تھا، اس کے ہارون الرشید کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات کا ذکر ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رشید نے حکم دیا کہ اُسے اس کے پاس لایا جائے اور یہ بھی حکم دیا کہ راتے میں اس سے بات نہ کی جائے نہ ہی اُسے یہ پتہ چلے کہ ہارون کا اس کے متعلق کیا ارادہ ہے جب وہ راتے میں تھا تو اس کے ایک ساتھی نے اُسے لکھا کہ ہارون الرشید تجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ابو الغتاہیہ نے فوراً جواب دیا۔

« تو جس بات سے خائف ہے شاید وہ نہ ہو اور جس کی تو امید رکھتا ہے شاید

وہ ہو جائے اور شاید تو جس بات کو معمولی سمجھتا ہے وہ معمولی نہ ہو اور شاید

تو جس کو بڑی سمجھتا ہے وہ معمولی ہو۔ »

اس نے رشید کے ساتھ ایک حج کیا۔ ایک روز رشید اپنی سواری سے اتر کر تھوڑی دیر چلا، پھر تھک گیا تو کہنے لگا اے ابو الغتاہیہ کیا تو اس میل کے ساتھ سہارا لے سکتا ہے پس جب رشید بیٹھا گیا تو ابو الغتاہیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے ابو الغتاہیہ ہمیں حرکت دو تو اس نے کہا

”تو دنیا کو اپنا موافق سمجھ لے، کیا تیرے پاس موت نہیں آئے گی اسے طالب
دنیا، دنیا کو اپنے دشمن کے لیے چھوڑ دے اور تجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے جب کہ
ایک میل کا سایہ ہی تیرے لیے کافی ہے۔“

ابوالغناہیہ کے اشعار اور واقعات بہت شان دار ہیں ہم اپنی گزشتہ کتب میں اس
کے پسندیدہ اشعار اور منتخب توانی کا ذکر کر چکے ہیں اور اس کتاب میں بھی خلفائے بنی عباس
کے حالات میں ان کی ایک جھلک پیش کر چکے ہیں اور وہ کیا ہی اچھا کتا ہے۔
”احمد نے مجھے کہا کیا تو فی الواقعہ عتبہ سے محبت کرتا ہے اور اُسے میری تکلیف
کا پتہ نہ چلا، میں نے ایک آہ بھر کر کہا کہ اس کی محبت میری رگ و ریشہ میں
بس گئی ہے، کاش میں مرجاتا اور راحت حاصل کرتا کیونکہ میں جب تک زندہ
رہوں گا، قتل ہوتا رہوں گا میں اپنے آپ کو زندہ نہیں دیکھتا اور جو میرے حبیبی
اندرونی سوزش سے دوچار ہو وہ زندہ نہیں رہتا پس میری صحبت پر فناعت
کر اور کہہ کہ ہمارے اس ساتھی پر خدا کی رحمت ہو جو عشق میں مر گیا ہے میں
اس کا غلام ہوں اگرچہ مجھے اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا اور آدای پر اللہ
تعالیٰ کا شکر ہے۔“

اس کے اچھے اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔
”اے عتبہ! مجھے اور تجھے کیا ہو گیا ہے کاش میں نے تجھے نہ دیکھا ہوتا، تو
نے مجھے نابوک کر لیا ہے پس تو جس قدر بے حرمتی کر سکتی ہے کرے، میں
رات جاگنے گزارتا ہوں اور اختر شمار کی کرتا رہتا ہوں اور جند کے
انگاردوں پر لیٹا ہوتا ہوں اور گھوکھرو کو لپیٹے ہوتا ہوں۔“

اس کے عجیب غریب توانی اور اچھے اشعار میں سے یہ بھی ہیں۔
”اے میرے دوستو مجھے غم ہے اور تمہیں کوئی غم نہیں اور ہر صاحب غم کا ساتھی
غم سے خالی ہوتا ہے میں نے عشق کو جند کی آگ پایا ہے مگر وہ اپنی گرمی کے باوجود
صاحب عشق کو شیریں محسوس ہوتی ہے۔ اور عشق نے میرے جسم، ہڈیوں اور
توت کو پگھلا دیا ہے، میرے پاس صرف روح اور کمزور بدن ہی رہ گیا ہے جس
دوست کو اپنے حبیب سے سچی محبت ملتی ہے اس میں فخر آجاتا ہے اور میں اپنی

محبوبہ کے سوا کسی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی اس کے سوا میرے پاس کوئی بات ہے
نہ کھیل، اُسے میرے بھائیوں اور اہل مودت کے سوا بھی کچھ محبت ہے اور
اُسے زائد محبت بھی ہے۔“

اس کے منتخب اور پسندیدہ اشعار میں سے یہ بھی ہیں۔
”ہائے مجھے میری جان پر افسوس ہے جو کسی جرم کی وجہ سے عتبہ سے اجتناب
اختیار کر گئی ہے اللہ اس کا بھلا کرے اس نے اپنی محبت میں مجھ سے بہت بُرا
سلوک کیا ہے، میں اس کے پاس اس کی ملاقات کو آیا تو اس نے اپنے وعدے
کو پورا نہ کیا اور نہ اس کا پاس کیا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے اس پر کتنے قرض ہیں
جو واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کیے گئے، اس نے ہر بانی کر کے جو وعدے
کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، اس ناز و نخرہ والی کی کونسی بھلائی ہے جسے
وہ دُردھ دوسنے کے بعد گرا نہیں دیتی یعنی پورا نہیں کرتی، میرے اور مجھ پر ظلم
کرنے والی کے درمیان اللہ کافی ہے میں نے اس سے وصال کا مطالبہ کیا مگر
وہ نہ مانی، اگر وہ مجھے خط لکھ دیتی یا میرے پاس کوئی ایچی بھیج دیتی تو اس کا کیا
بگڑتا تھا، میں نے اس سے وصال کرنا چاہا اور عتبہ نے ہمارے وصال سے
بے رغبتی کی اور ایسا نہ کرنا چاہا۔“

ابوالعنایبہ بد صورت، ظریفانہ حرکات کرنے والا، شیریں گفتار اور بڑا خوش باش
آدمی تھا اور اس کے خوب صورت اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہیں۔
”کسی نے عشق کا مزا نہیں چکھا، میں نے اس کے مزے کا احاطہ کر لیا ہے اور
میں نے اُسے بڑے سکون کے ساتھ اپنی محبت دی ہے، وہ اُسے ایک
جرم شمار کرتا ہے اُسے عتبہ تو نے میرے جسم میں گوشت اور ہڈی نہیں چھوڑی
اُسے عتبہ میں تیرے سلوک سے اندھا نہیں ہوا بلکہ عشق ہی اندھا ہے، جو
شخص میرے اشتیاق کو نہیں جانتا وہ میرے چہرے پر اس کے آثار دیکھنا
چاہتا ہے۔“

اس نے عروص سے خروج کر کے بھی اشعار کہے ہیں۔
”قاصی نے مطرب کے گھر کا قصد کیا تو غتاب کرنے پر کہنے لگا کہ دنیا میں سب

گنہ گاہ ہی رہتے ہیں یہ قاضی کا عذر اور اس کی قلابازی ہے۔

اس شعر کا وزن چار دفعہ فعلن فعلن ہے ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عربوں نے اس وزن پر شعر نہیں کہا اور نہ ہی خلیل اور دوسرے عربیوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔

خلیل کے عروض میں اضافہ | مسعودی بیان کرتا ہے کہ شعرا کی ایک جماعت نے خلیل کے عروض پر اضافہ کیا ہے ان میں ایک بحر مدید ہے

جس کے خلیل کے نزدیک تین وزن اور چھ ضربیں ہیں اور اس میں ایک چوتھا وزن اور دنیٰ ضربیں ہیں اور چوتھے نئے وزن کی پہلی ضرب شاعر کا یہ قول ہے

”اس آنکھ کا کون ذمے دار ہے جو سوتی نہیں اور اس کے آنسو رواں رہتے ہیں“

اور چوتھے نئے وزن کی دوسری ضرب شاعر کا یہ قول ہے

”اس دو شیزہ کے کیا کہنے جو کسی کی تعظیم نہیں کرتی اور یہ حرکت وہ اس وقت کرتی ہے جب مستی کرتی ہے۔“

کچھ اور باتوں پر بھی انہوں نے اعتراض کیے ہیں اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب ”احیاء الزمان“ میں کیا ہے۔

ابوالعباس ناشی | ابوالعباس عبد اللہ بن محمد ناشی کاتب انباری نے خلیل کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس قسم کی باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں خلیل نے عربوں کی تقلید سے خروج کیا ہے اور اوصناع جمل کے متعلق علل قائم کی ہیں ایسا کرنا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس نے پہلے اصول توڑ کر یہ کام کیا تھا ناشی کے اشعار بہت اچھے ہیں جن میں سے اس کا ایک قصیدہ نونیہ منصوبہ ہے جو چار ہزار اشعار پر مشتمل ہے ، جس میں وہ اہل مذاہب و مل کا ذکر کرتا ہے ، اس نے مختلف علوم میں بہت سے اشعار اور تصانیف رقم کی ہیں جن میں اس کے بہترین شعر وہ ہیں جو اس نے عراق سے مصر جاتے ہوئے کہے اور وہیں ۲۹۳ھ میں اس کی وفات ہوئی۔

”اے دیارِ احباب کیا کوئی تمہاری طرف سے ایسا جواب دینے والا ہے جو در سے زیارت کے لیے آنے والے کی پیاس کو بجھائے لیکن ان دیار نے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی خاموشی میں سائلین کے لیے بڑی عبرت ہے اگرچہ وہ صاحب انس لوگوں کے بعد ویران ہو چکے ہیں یا ان کے ٹھہرنے کے بعد خالی ہو چکے ہیں

ہم ایک مدت تک ان میں کھیلتے رہے اور ایک صبح سے دوسری صبح تک جاگتے رہے ہیں ہم نے شراب نوش کرتے اور کھیلتے ہوئے سازگیوں کی آواز پر گلاب اور نرگس اور خزامی اور سوسن و بہار کے درمیان شام کر دی، ہر مرغوب کلی اور گل انار صحن میں پڑے تھے پس زمانے نے ہمیں غفلت اور دھوکے میں آمارا اور ہم لمبا زمانہ کٹھا رہنے کے بعد جدا ہو گئے اور قرب دیار کے بعد دور ہو گئے۔“

۲۱۲

ہمیں ماموں کے منادی نے اعلان

معاویہ کے معاملے اور اس کے سبب کے متعلق ماموں کا اعلان

کیا کہ جس شخص نے معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا یا اسے کسی صحابی رسول سے مقدم کیا میں اس کی حفاظت سے بری ہوں اور اس نے تلاوت کے متعلق کہا کہ وہ مخلوق ہے، مورخین نے اس سبب کے متعلق اختلاف کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے معاویہ کے متعلق اعلان کیا، اس بارے میں کئی باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ایک داستان گونے اُسے مطرف بن مغیرہ بن شعبہ ثقفی کی حدیث سنائی اس حدیث کا ذکر زبیر بن بکاء نے اپنی کتاب الموفقیات میں کیا ہے جسے اس نے موفی کے لیے تصنیف کیا تھا وہ ابن زبیر کہلاتا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے المدائنی کو کہتے سنا کہ مطرف بن مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ مغیرہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گیا میرا باپ اس کے پاس جا کر باتیں کیا کرتا تھا پھر وہ میرے پاس آ جانا اور معاویہ کی باتیں سناتا اور اس کی عقل کی تعریف کرتا اور اس کے کاموں کو دیکھ کر حیران ہوتا، ایک روز وہ رات کو آیا اور اس نے کھانا نہ کھایا میں نے اُسے غمگین پایا، میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور خیال کرنے لگا کہ اُسے ہماری کوئی بات ناگوار گزری ہے، میں نے اُسے کہا آج رات آپ غمگین کیوں ہیں؟ اس نے کہا اے میرے بیٹے! میں ایک خبیث ترین آدمی کے پاس سے آیا ہوں، میں نے اُسے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے معاویہ کو خلوت میں کہا کہ آپ ہمیں امیر المومنین کے مقام کو پہنچ چکے ہیں اگر آپ عدل سے کام لیں اور نیکی کریں تو آپ کا مقام بہت بڑھ جائے گا، اگر آپ ہاشمی بھائیوں کا خیال کر کے ان سے صلہ رحمی کرتے تو خدا کی قسم آپ کو ان سے کچھ خوف نہ ہوتا تو اس نے مجھے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بنو تیمم کا ایک آدمی بادشاہ بنا تو اس نے عدل و انصاف کیا اور جو کچھ کرنا تھا، کیا، خدا کی قسم اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا پھر بنو عدی

کا ایک آدمی بادشاہ بنا اور دس سال تک اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ حکومت کی مگر اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ مگر اس نے ابو بکرؓ اور عمرؓ کا نام نہ لیا، پھر ہمارا بھائی عثمان بادشاہ بنا، کوئی شخص نسب میں اس کی ہمسری نہ کر سکتا تھا اس نے جو کام کرنے تھے کیے اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا ذکر ختم ہو گیا ایک شہمی کے دن میں پانچ بار شہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مدد مانگی جاتی تھی، تیسری ماں نہ رہے اس بات کے ساتھ کون سا عمل باقی رہ جاتا ہے خدا کی قسم ہم نے اُسے دفن نہیں کیا، جب مامون نے یہ روایت سنی تو اس نے اسی طرح اُسے اعلان کرنے کا حکم دیا اور چاروں طرف خطوط بھیج دیے گئے کہ منابر پر اس پر لعنت کی جائے، لوگوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور عوام مضطرب ہو گئے تو اُسے مشورہ دیا گیا کہ وہ اس بات کو ترک کر دے تو اس نے جو ارادہ کیا تھا اس سے باز آ گیا۔

ابو عاصم نبیل اور اہل علم کی ایک جماعت کی وفات

مامون کی خلافت میں
ابو عاصم نبیل کی وفات

ہو گئی اس کا نام صخاک بن مخلد بن سنان بن شیبانی تھا یہ سا سحہ ۲۱۲ھ کو ہوا محمد بن یوسف قارابی نے بھی مامون کی خلافت میں ۲۱۵ھ میں وفات پائی، ہوزہ بن خلیفہ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے ستر سال کی عمر میں بغداد میں وفات پائی اس کی کنیت ابوالاشہب تھی، اسے باب بردان کی مشرقی جانب میں دفن کیا گیا، محمد بن عبد اللہ بن النس بن مالک انصاری بھی مامون کی خلافت میں فوت ہوا، اسحاق بن طباع شامی سرحد پر باذنہ میں فوت ہوا معاویہ بن عمرو جس کی کنیت ابو عمر اور قبیسہ بن عقبہ جس کی کنیت ابو عامر تھی اور بنی عامر بن صعصعہ میں سے فوت ہو گیا۔

۲۱۶ھ میں مامون مصر میں گیا اور اس نے وہاں پر عبدوس کو قتل کیا جو مصر پر قبضہ

کر بیٹھا تھا۔

رومیوں سے جنگ

۲۱۸ھ میں مامون نے رومیوں سے جنگ کی اور اس نے
طرطوس کے نزدیک ایک شہر طوانہ کی تعمیر شروع کی۔ جو درے

کے دانے پر ان کا ایک شہر ہے اس نے رومیوں کے دوسرے قلعوں کی طرف جا کر بھی انہیں دعوت اسلام دی اور انہیں اسلام قبول کرنے اور بزدل شمشیر جزیہ لینے کے درمیان اختیار دیا اور نصرانیت کو ذلیل کیا تو رومیوں کے بہت سے آدمیوں نے جزیہ دینا قبول

کر لیا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ قاضی ابو محمد عبداللہ بن احمد بن زید دمشقی نے ہمیں دمشق میں بتایا کہ جب مامون جنگ کے لیے گیا اس نے بیدون میں پڑاؤ کیا شاہ روم کے ایلچی نے اُسے آ کر کہا کہ ہمارا بادشاہ تجھے اس جگہ تک آنے کے اخراجات رومی شہروں میں جو مسلمان قیدی ہیں انہیں دہم و دینار کا فدیہ لیے بغیر چھوڑنے، نصرانیوں نے مسلمانوں کے جو شہر برباد کیے ہیں انہیں دوبارہ آباد کرنے اور جس طرح وہ پہلے تھے اسی طرح بنا کر دینے کے درمیان اختیار دیتا ہے کہ آپ اس جنگ سے باز آ جائیں مامون اٹھ کر اپنے خیمے میں گیا، دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور باہر آ کر ایلچی سے کہنے لگا اپنے بادشاہ سے کہ دینا کہ تیرا یہ کہنا کہ تو میرے اخراجات مجھے دے دے گا اس کے متعلق ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ بقیس کی جانب سے حکایت بیان کرتا ہے کہ اِنی موسلۃ الیہم بھدیۃ فناظرۃ بم یرجع المرسلون پس جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اِنمدوننی بمال فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم بل انتم بہدیتکم تفرمون اور تیرا یہ کہنا کہ تو رومی علاقے سے تمام مسلمان اسیروں کو نکال دے گا تمہارے ہاتھ میں دو قسم کے آدمی ہیں ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے طلب گار ہیں وہ تو اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں اور دوسرے وہ جو دنیا کے طلب گار ہیں پس اللہ تعالیٰ اُن کے بندھن کو تو کھولے، اور تیرا یہ کہنا کہ تو مسلمانوں کے ان شہروں کو آباد کر دے گا جنہیں رومیوں نے برباد کیا ہے اگر میں رومی شہروں کے آخری پتھر کو بھی اکھاڑ پھینکوں تو وہ اس عورت کا بدلہ نہیں ہو سکتا جس نے اسیری کی حالت میں تکلیف پہنچنے پر اے محمد اے محمد پکارا تھا اپنے آقا کو واپس جا کر کہو کہ میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، اے غلام طبل بجا دو، پس اس نے کوچ کیا اور جب تک اس نے پندرہ قلعے فتح نہیں کیے واپس نہیں لوٹا اور جنگ سے واپسی پر اس نے بیدون کے چشمے پر پڑاؤ کیا جو القشیرہ کے نام سے مشہور ہے جیسا کہ ہم قبل

۱۵ (ترجمہ میں اس کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ فائدہ کس چیز ساتھ لوٹتے ہیں رمل آیت ۲۵) ۱۶ کیا تم مجھے مال سے مدد دیتے ہو، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے بلکہ تم اپنے تحفہ کے ساتھ خوش ہوتے ہو رمل آیت ۲۳۶)

انہیں اس کتاب میں بیان کر چکے ہیں اس نے قلعوں سے اپنے اچھپوں کی واپسی تک وہاں پر تیبام کیا پھر وہ پانی کے منبع پر کھڑا ہوا اور اُسے اس کے پانی کی ٹھنڈک، صفائی، سفیدی اور اس جگہ کی خوشگوارئی اور سرسبزی نے بہت خوش کیا اور اس نے لمبی لمبی لکڑیوں کے کاٹنے کا حکم دیا انہیں اس کے حکم سے چشمے پر پل کی طرح بچھا دیا گیا اور اس نے پل کے اوپر لکڑی کے نیزے اور درختوں کے پتے بچھائے اور وہ اس پناہ گاہ کے نیچے بیٹھ گیا جو اس کے لیے بنائی گئی تھی پانی اس کے نیچے بہ رہا تھا اس نے پانی میں ایک درہم پھینکا اور پانی کی صفائی کے باعث اس نے پانی کی تہہ میں اس کی تخریب کو بڑھایا کوئی شخص پانی کی ٹھنڈک کے باعث اس میں اپنا ہاتھ نہ داخل کر سکتا تھا۔

وہ اسی طرح بیٹھا پانی کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ مامون کی بیماری اور وفات

کے برابر مچھلی نمودار ہوئی جو سفیدی کے باعث چاندی کی ڈلی معلوم ہوتی تھی اس نے اسے نکالنے والے کے لیے انعام مقرر کر دیا تو ایک قالین بچھانے والے نے جلدی سے اُسے پکڑ لیا اور اوپر چڑھ آیا جب وہ مچھلی اس چشمے کے کنارے پا اس لکڑی پر آئی جس پر مامون بیٹھا تھا تو وہ تڑپی اور قالین بچھانے والے کے ہاتھ سے نکل گئی اور پانی میں پتھر کی طرح جا گری جس سے مامون کے سینے اگلے اور سنسلی پر چھینٹے پڑے اور اس کے کپڑے بھیگ گئے، قالین بچھانے والے نے دوبارہ چشمے میں اتر کر مچھلی کو پکڑ لیا اور اُسے ایک رومال میں تڑپتے ہوئے مامون کے سامنے رکھ دیا۔ مامون نے کہا اسے ابھی بھونا جائے پھر اُسے اسی وقت لرزہ شروع ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے بھی نہل سکا اُسے لحافوں سے لپیٹ دیا گیا وہ کھجور کی شاخ کی طرح کانپ رہا تھا اور ٹھنڈک ٹھنڈک پکار رہا تھا پھر اُسے خمیر میں لے جایا گیا اور کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا اور اس کے ارد گرد آگ جلا دی گئی لیکن وہ سردی سردی پکار رہا تھا پھر مچھلی کو بھون کر لایا گیا مگر وہ اُسے چکھ بھی نہ سکا اس کی حالت نے اُسے کھانے سے روک دیا جب اس کی حالت نازک ہو گئی تو معتصم نے تختیشوع اور ابن ماسویہ سے مامون کے بارے میں پوچھا اس وقت وہ موت کی آہے ہوشی میں تھا کہ اس وقت علم طب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا اس کی شفا ممکن ہے؟ تو ابن ماسویہ نے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ اور تختیشوع نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا دونوں ہاتھوں کی نبض کو دیکھا جو اعتدال سے خارج ہو چکی تھی اور

موت کا اشارہ کر رہی تھی ان کے ہاتھوں سے اس کی جلد کا پسینہ چپک گیا جو اس کے بدن سے نکل یا سانپ کے لعاب کی طرح نکل رہا تھا، انہوں نے معتصم کو اس کے متعلق اطلاع دی تو اس نے ان دونوں سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں اور انہوں نے طب کی کتب میں اس کے متعلق کچھ نہیں پڑھا یہ جسم کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے مامون اپنی غشی سے ہوش میں آ گیا اس نے نیند سے اپنی آنکھیں کھولیں اور رومی لوگوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور ان سے اس جگہ اور چشمے کے نام کے متعلق پوچھا اس کے سامنے کئی قیدی اور راہبر پیش کیے گئے اور ان سے دریافت کیا گیا کہ القشیر یہ نام کی تشریح کروا بتایا گیا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں کو لمبا کرو، جب اس نے اس فال کو سنا تو اس سے بدشگونئی لی اور کہنے لگا کہ ان سے پوچھو کہ اس جگہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا رقم، اور مامون موت کے خوف کی وجہ سے رقم شہر سے بہت پہلو تھی کرتا تھا جب اس نے رومیوں سے یہ بات سنی تو اُسے پتہ چل گیا کہ اس کی پیدائش سے بھی قبل اس جگہ پر اس کی وفات کی خبر دی گئی ہے بعض کہتے ہیں کہ بریدون نام کی تفسیر یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں کو لمبا کر لو، اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، مامون نے اپنے ارد گرد اطباء کو بلایا کہ وہ اس کی بیماری کا خلاصہ بیان کریں جب اُسے گرانی ہو گئی تو اس نے کہا مجھے باہر نکالو میں اپنی فوج، جوانوں اور حکومت کو دیکھ لوں یہ رات کے وقت کی بات ہے اُسے باہر نکالا گیا اس نے خیموں، فوج اور اس کے انتشار اور کثرت کو آگ کی روشنی میں دیکھا اور کہنے لگا اے وہ ذات جس کی حکومت کو زوال نہیں اس پر رحم فرما جس کی حکومت جاتی رہی ہے پھر اُسے اپنے بستر پر لایا گیا جب اُسے گرانی ہو گئی تو معتصم نے کلمہ کی تلقین کے لیے ایک آدمی کو بٹھایا اس نے بلند آواز سے اُسے کلمہ شہادت کہنے کو کہا تو ابن ماسویہ نے اُسے کہا شور نہ کر، خدا کی قسم اس وقت اس کے رب کے اور اس کی مہلت کے درمیان کوئی جدائی نہیں کر سکتا، اسی وقت مامون نے آنکھیں کھولیں اور ان میں ایسی ہیبت اور سُرخی پیدا ہو چکی تھی جو کبھی نہیں دیکھی گئی تھی وہ ابن ماسویہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور اس سے بات کرنی چاہی مگر وہ ایسا نہ کر سکا اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں اس وقت اس کی زبان چل پڑی اور وہ کہنے لگا اے وہ ذات جسے موت نہیں آتی، مرنے والے پر رحم فرما اور فوت ہو گیا یہ، ۱۸ رجب ۲۱۸ھ جمہرات کے روز کا واقعہ ہے، اُسے وہاں سے طرس لاکر دفن کیا گیا جیسا کہ ہم اس کے

حالات میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ مامون کے حالات واقعات اور اشعار اور اخلاق نہایت شان دار ہیں جنہیں ہم نے مفصل طور پر اپنی پہلی کتب میں بیان کیا ہے اس لیے ان کے بیان کی ضرورت نہیں رہی مامون کے متعلق ابو سعید مخزومی کہتا ہے

کیا تو نے دیکھا ہے کہ نجوم نے مامون اور اس کی مانوس حکومت کو کچھ فائدہ دیا ہو وہ اُسے طرس کے میدان میں الے چھوڑ گئے جیسے اس کے باپ کو طرس میں چھوڑ گئے تھے مامون اکثر یہ اشعار پڑھا کرتا تھا

” جو شخص ہمیشہ ہی موتوں کا نشانہ ہو وہ اُسے ایک دن شکستہ کر چھوڑتی ہیں اور اگر کبھی وہ اس سے چوک جائیں تو ہو سکتا ہے کہ چوک جانے والا دوبارہ آجائے اور اس کے پہلو تہی کرنے اور ان کے چوک جانے کے درمیان وہ جلدی سے پہلو تہی کرنے والے کو آپکڑتی ہیں۔“

معتصم کی خلافت کا بیان

مختصر حالات جس روز چہتمہ بدیدون پر مامون کی وفات ہوئی اسی روز معتصم کی بیعت ہوئی یہ ۱۴ رجب ۲۱۸ھ جمعرات کے روز کا واقعہ ہے، اس کا نام محمد بن ہارون اور کنیت ابو اسحاق تھی اس وقت اس کے اور عباس بن مامون کے درمیان خلافت کا جھگڑا چل رہا تھا پھر عباس نے اس کی بیعت کر لی اس وقت معتصم کی عمر ۳۸ سال دو ماہ تھی اس کی وفات ۲۲۶ھ کو ۶ سال دس ماہ کی عمر میں ہوئی اس کی خلافت ۸ سال ۸ ماہ رہی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کی قبر سرمن رای میں جو سبق مقام پر ہے۔

اس کے حالات و واقعات کا مختصر بیان

اور اس کے دور کی ایک جھلک

معتصم کا وزیر ابن الزیات اور احمد بن ابی داؤد معتصم نے اپنے آخری ایام تک محمد بن عبد الملک

کو وزیر بنایا احمد بن ابی داؤد کے اثرات غالب رہے، محمد بن عبد الملک معتصم، واثق اور متوکل کے حکمران بننے تک وزیر رہا متوکل کے دل میں اس کے متعلق کچھ کھٹکا تھا لہذا اس نے اُسے قتل کر دیا ہم اس کے قتل کے واقعہ کی ایک جھلک متوکل کے حالات میں بیان کریں گے اگرچہ ہم نے اس کا تلخیص کتاب الاوسط میں بیان کر دیا ہے۔

آبادی سے معتصم کی محبت معتصم، آبادی کو بہت پسند کرتا تھا اور کہتا تھا

کہ اس میں کئی قابل تعریف کام ہیں ایک تو اس سے زمین آباد ہوتی ہے جس سے عالم کو زندگی ملتی ہے اس سے محصول بڑھتا ہے اموال میں زیادتی ہوتی ہے اور چوپایوں کی گزراوقات ہوتی ہے ، نرخ سستے ہوتے ہیں آمدنی بڑھ جاتی ہے اور معاش وسیع ہو جاتی ہے ، وہ اپنے وزیر محمد بن عبدالملک سے کہا کرتا تھا کہ جب تو کوئی ایسی جگہ پائے جس میں تجھے دس درہم خرچ کرنے پڑیں اور سال کے بعد مجھے گیارہ درہم ملیں تو اس میں مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔

معتصم کی قوت و شجاعت

معتصم بڑا شجاع اور مضبوط جسم آدمی تھا ، احمد بن ابی داؤد جو اس سے بڑا مانوس تھا بیان کرتا ہے کہ جب

معتصم اپنی قوت و طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھا تو میں ایک روز اس کے ہاں گیا اس وقت اس کے پاس ابن ماسویہ بھی موجود تھا ، معتصم نے کھڑے ہو کر مجھے کہا جب تک میں اس کے پاس نہ آؤں تم نے یہاں سے نہیں جانا ۔ میں نے یحییٰ بن ماسویہ سے کہا تیرا بڑا ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین کا رنگ بدل گیا ہے اور قوت میں کمی واقع ہو گئی ہے اور اس کا دبدبہ جانا رہا ہے تیرے خیال میں ان کی حالت کیا ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے مگر اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا ہے جس سے وہ اس ٹکڑے کو مارتا ہے میں نے کہا ، کیسے ، وہ کہنے لگا کہ اس سے قبل جب وہ پھیلی کھاتے تھے تو سر کے ، زیرے ، انیسوں ، سذاب ، ایک برہو دار پودہ ہے ، اجوائن ، رائی اور اخروٹ کا سالن بنا کر کھاتے تھے جس سے پھیلی کا ضرر پھٹوں کو اس کا نقصان پہنچانا ختم ہو جاتا تھا جب وہ سروں کو کھاتے تھے تو اس کے لیے اسے سالن بناتے جو اس کے ضرر کو دور کرتے اور اسے لطیف بنا دیتے تھے ، غذا کو لطیف بنانے میں اکثر مجھ سے مشورہ کرتے تھے مگر اب یہ حالت ہے کہ اگر میں کسی چیز پر اعتراض کروں تو وہ میری مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ ابن ماسویہ کی مرضی کے خلاف کھا رہا ہوں اور جس کی مجھے طاقت ہے وہ کر رہا ہوں ، معتصم پس پر وہ ہماری باتوں کو سن رہا تھا میں نے کہا ابو یحییٰ تیرا بڑا ہو اپنی انگلی اس کی آنکھ میں داخل کر دے اس نے کہا میں تیرے قربان جاؤں میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ان کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہوں جب وہ اپنی بات سے فارع ہوا تو معتصم نے ہمارے پاس آ کر مجھے کہا تم ابن ماسویہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے ، میں نے کہا امیر المومنین ! میں نے اس کے ساتھ آپ کی رنگ کی تبدیلی اور قلت طعام کے متعلق مناظرہ کیا ہے جس نے میرے جسم و جوارح کو کمزور کر دیا ہے اس نے کہا اس نے تجھے کیا کہا ہے

میں نے کہا اس نے شکایت کی ہے کہ جو بات وہ آپ کو بتایا کرتا تھا آپ مانا کرتے تھے اور اب آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے کہا پھر تو نے اسے کیا جواب دیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تو وہ سن کر کہنے لگا کہ یہ بات میری آنکھوں میں داخل ہونے سے بعد کی ہے یا پہلے کی، ارادہ کتنا ہے کہ مجھے پسینہ چھوٹ گیا اور مجھے یہ بھی علم ہو گیا کہ اس نے ہمارے باتوں کو سن لیا ہے اور میری دخل اندازی کو بھی سمجھ گیا ہے معتصم کہنے لگا اے احمد اللہ تجھے معاف فرمادے، مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ بھی انس و محبت کی ایک قسم ہے۔

معتصم اور علی بن جنید

معتصم، علی بن جنید اسکانی سے بڑا مانوس تھا وہ عجیب صورت اور عجیب باتیں کرنے والا تھا جس میں مضامین

میں رہنے والوں کی سی روانی تھی ایک روز معتصم نے محمد بن حماد سے کہا کہ صبح کو علی بن جنید کی طرف جاؤ اور اسے کہو کہ وہ میری رفاقت کے لیے تیار ہو جائے، اس نے جا کر اسے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے اپنی رفاقت کا حکم دیا ہے تو خلفاء کی رفاقت اور ان کے ساتھ سوار ہونے کی شرط تیار کرے، علی بن جنید نے کہا میں کیسے تیار ہو کر دوں، کیا اپنے سر کے سوا کوئی اور سر مہیا کروں یا اپنے ڈاڑھی کے سوا کوئی اور ڈاڑھی خریدوں یا اپنے قد کو بڑھا لوں، اس نے کہا تو ابھنی تاکہ خلفاء کی رفاقت کی شرط کو نہیں جانتا، علی بن جنید نے کہا وہ شرط کیا ہیں تجھے پتہ ہے تو بتادے، ابن حماد جو بڑا ادیب تھا اسے کہنے لگا، رفاقت کی شرط یہ ہے کہ باتوں سے فائدہ اٹھانا، گفتگو کرنا، تھوکنے، کھانسنے، گلا صاف کرنے اور تیز چلنے سے گریز کرنا اور یہ کہ سردار کے جھکاؤ کے خوف کی وجہ سے سواری میں اس کے آگے نہ بڑھ جائے اور اترنے میں پہل کرے اور جب تک رفاقت کرنے والا یہ کام نہ کرے تو وہ اور بھاری شیشہ جو گنبد کے ساتھ ہوتا ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور خواہ سردار سو جائے اسے سونا نہیں چاہیے بلکہ بیدار رہنا چاہیے اپنے ساتھ اور اس کی سواری کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جب وہ دونوں سو جائیں گے تو اسے اپنے جھکاؤ کا پتہ بھی نہیں لگے گا اور ایسی بات ظہور پذیر ہوگی جس میں اشتفا کی کوئی بات نہ ہوگی علی بن جنید اس کی طرف دیکھ رہا تھا جب اس نے بہت سی شرط اور اوصاف بیان کیے تو اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اہل مضامین کی طرح اسے کہا، جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو تمہاری رفاقت وہی کر سکتا ہے جس کی ماں

زانیہ ہو اور وہ کشخان ہی ہے ابن حماد نے واپس آکر معتصم کو وہ بات بتادی جو اس نے کہی تھی تو معتصم نے ہنس کر کہا اُسے میرے پاس لاؤ وہ آیا تو معتصم نے کہا اے علی، میں نے تیرے پاس رفاقت اختیار کرنے کے لیے آدمی بھیجا تھا مگر تو رفاقت نہیں کرتا اس نے کہا کہ آپ کا یہ جاہل گنجا اچھی میرے پاس حسان شاشی اور خالویہ محاک کی شرط لے کر آیا اور کہنے لگا تم نے تھوکتا نہیں، یہ نہیں کرناؤ وہ کرنا اور لمبی باتیں کرنے لگا اور ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ نہ کھانا سنا ہے اور نہ چھینک مارتی ہے اور اگر میں آپ کی رفاقت کے لیے راضی ہو جاؤں اور مجھے گوند آجائے تو میں تو گوند مار دوں گا اور جب تجھے گوند آئے تو تو بھی گوند مار دینا وگرنہ تیرے اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، معتصم ہنس پڑا یہاں تک کہ اپنے پاؤں زمین پر رگڑنے لگا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا اس شرط پر میری رفاقت کر لو، میں نے کہا بہت اچھا، تو اس نے ایک خچر پر بنائے گئے محل میں اس کی رفاقت کی وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خشکی پر پہنچ گئے تو علی نے کہا امیر المؤمنین! یہ سامان حاضر ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اس نے کہا یہ تیرے سپرد ہے تو جب چاہے اسے لے جائے اس نے کہا ابن حماد کو بلاؤ، معتصم نے اُسے حاضر کرنے کا حکم دیا تو علی نے اُسے کہا آؤ تجھے خوش کروں، جب وہ اس کے قریب ہوا تو اس نے گوند مارا اور اپنی آستین اُسے پکڑائی اور کہنے لگا میری آستین میں کوئی چیز رینگ رہی ہے، دیکھ تو سہی وہ کیا ہے اس نے اپنا سر آستین میں داخل کیا تو ٹیٹی کی بو محسوس کی، اور کہنے لگا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ تیرے کپڑوں کے اندر ٹیٹی بنی ہوئی ہے معتصم نے اپنی آستین سے اپنا منہ ڈھانکا ہوا تھا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا پھر وہ مسلسل گوند مارنے لگا اور ابن حماد سے کہنے لگا کہ نہ کھانا سنا نہ تھوکتا اور نہ تیز چلنا، میں نے تو یہ نہیں کیا، لیکن میں نے تم پر پاخانہ کر دیا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ وہ مسلسل گوند مارتا رہا، معتصم، اپنا سر بالکی سے باہر نکالے ہوئے تھا پھر اس نے معتصم سے کہا کہ ہنڈیا پک گئی ہے اور میں دوسری ہنڈیا پکانا چاہتا ہوں جب اس کے گوند بہت زیادہ ہو گئے تو معتصم نے غلام سے کہا تیرا بڑا ہو، مجھے زمین پر اتار دو، ورنہ میں مرجاؤں گا۔ ایک روز علی بن جنید اسکانی، معتصم کے پاس آیا اور اس سے ہنسی مذاق کرنے لگا، معتصم نے اُسے کہا اے علی تیرا بڑا ہو کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، کیا تو صحبت و مودت کو بھول گیا ہے؟

اس نے کہا، جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے مجھے کہہ دی ہے تو ابلیس ہے یہ بات سن کر معتصم ہنس پڑا پھر کہنے لگا تم میرے پاس کیوں نہیں آتے اس نے کہا میں کسی دفعہ آیا ہوں مگر تجھ تک نہیں پہنچ سکا آج تو شریف بنا ہوا ہے گویا تو بنی ماری میں سے ہے، بنو ہاشم اہل مصافحات میں سے تھے جن کی مثال اہل مصافحات بیان کیا کرتے تھے، معتصم نے اُسے ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے جس کے ہاتھ میں مور چھل تھا، کہا یہ سندان ترکی ہے اور اُسے کہا اے سندان جب علی آیا کرے تو مجھے بتایا کرو اور اگر یہ تجھے کوئی رقعہ دے تو مجھے پہنچا دیا کرو اور اگر یہ تجھے کوئی پیغام دے تو مجھے بتایا کرو اس نے کہا بہت اچھا میرے آقا، علی واپس چلا گیا اور کئی روز کے بعد سندان کو تلاش کرتا ہوا آیا، لوگوں نے کہا وہ سویا ہوا ہے تو وہ واپس چلا گیا، دوبارہ آیا لوگوں نے کہا وہ اندر چلا گیا ہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا وہ پھر چلا گیا، سب بارہ پھر آیا تو لوگوں نے کہا وہ امیر المومنین کے پاس ہے تو وہ جیلہ سازی سے دوسری جانب سے معتصم کے پاس چلا گیا اور اُسے گھنٹہ بھر ہنسانے کے بعد اس پر ناراض ہونے لگا معتصم نے اُسے کہا اے علی تجھے کوئی ضرورت ہے اس نے کہا ہاں امیر المومنین اگر آپ کی سندان ترکی سے ملاقات ہو تو اُسے میرا سلام دینا اس نے ہنس کر کہا اُس کا کیا حال ہے اس نے کہا اس کا حال یہ ہے کہ تو نے اُسے میرے اور اپنے درمیان ایک انسان مقرر کیا ہے اور میں تجھے اس کے دیکھنے سے قبل دیکھ رہا ہوں اور میں اس کا بہت مشتاق ہوں آپ اُسے میرا سلام پہنچا دیں تو معتصم بہت ہنسنا اور اس نے اُسے اور سندان کو دوبارہ اکٹھے کیا اور اُسے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اُسے اس سے روکتا نہ تھا۔

معتصم اور ایک بوڑھا جس کا گدھا کچھ پیڑ میں پھسل گیا تھا | معتصم ایک روز بارش میں سر میں اٹی

کی غریب جانب سے گذرا اور اپنے اصحاب سے الگ ہو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گدھا پھسل پڑا ہے اور اس پر جو کانٹے لہے ہوئے تھے وہ نیچے گر پڑے ہیں وہ کانٹے ایسے تھے جن سے عراق میں تنور جلائے جاتے ہیں گدھے کا مالک ایک کمزور بوڑھا تھا جو کسی گزرنے والے انسان کا منتظر تھا کہ وہ بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرے، معتصم اس کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بوڑھے تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں تیرے قربان جاؤں، یہ بوجھ میرے گدھے سے گر پڑا ہے اور میں کسی انسان کا منتظر ہوں کہ وہ اس کے اٹھانے میں میری مدد کرے، معتصم گدھے

کو کپڑے نکلانے کے لیے چل پڑا تو شیخ نے کہا میں تیرے قربان جاؤں تو اپنے کپڑے خراب کرے گا اور وہ خوشبو بھی جو میں سوگھ رہا ہوں میرے گدھے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی اس نے کہا تجھ پر اس کا کوئی حرج نہ ہوگا مادہ گھوڑے سے اُترا اور اس نے ایک ہاتھ سے گدھے کو اٹھا کر کپڑے نکال دیا، بوڑھا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا پھر اس نے گدھے کو چھوڑ کر اپنے گھوڑے کی لگام کو اس کے وسط میں باندھا اور کانٹوں کی طرف جھکا وہ دو گٹھے تھے اس نے دونوں کو اٹھا کر گدھے پر رکھ دیا پھر ایک تالاب پر جا کر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر بیٹھ گیا، بوڑھے نے کہا اے جوان میں تجھ پر قربان جاؤں تب معتصم کے سوار آگئے تو اس نے اپنے ایک خاص آدمی سے کہا اس بوڑھے کو چار ہزار درہم دے دو اور فوج کے گزرنے تک اس کے ساتھ رہو اور اُسے اس کی بستی میں پہنچا دو۔

۲۱۹ھ میں ابوالفضل بن دین مولیٰ آل طلحہ بن عبید اللہ نے کوفہ میں وفات پائی، بشر بن غیاث مرسی اور

علماء کی ایک جماعت کی وفات

عبداللہ بن رجا الغدانی بھی فوت ہو گئے، اسی سال میں معتصم نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے مسئلہ کا اقرار کرنے کے لیے ۳۸ کوڑے مارے۔

۲۱۹ھ میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب وفات پا گئے، یہ ذوالحجہ کا واقعہ

محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر

ہے اور بغداد کی غربی جانب قریش کے قبرستان میں اپنے دادا موسیٰ بن جعفر کے ساتھ دفن ہوئے ان کی نماز جنازہ واثق نے پڑھائی، ان کی وفات ۲۵ سال کی عمر میں ہوئی جب ان کے والد علی بن موسیٰ رضافوت ہوئے محمد سات سال آٹھ ماہ کے تھے بعض لوگ ان کی عمر کے متعلق اور کچھ بھی بیان کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت مامون جب ان کے ساتھ مدینہ سے معتصم کی طرف گئی تو اس نے انہیں زہر دے دیا تھا، ہم نے ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل امامت نے ان کے والد کی وفات کے وقت ان کی عمر کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہم نے اُسے رسالہ "البیان فی اسماء الائمتہ" میں بیان کیا ہے نیز اس بارے میں جو کچھ قطعہ شیعہ نے بیان کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔

۲۱۹ھ میں معتصم نے محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی

محمد بن قاسم علوی

بن ابی طالب کو خوزدہ کیا وہ کوفہ کے نہایت متقی زاہد اور عابد تھے جب انہیں اپنے متعلق بن محسوس ہوا تو وہ خراسان بھاگ گئے اس کے بہت سے اضلاع مثلاً مرو، سمرخس، طالقان اور نسا، میں نقل مکانی کرتے رہے وہاں پر انہوں نے کئی جنگیں کیں اور ان کے ساتھ کئی واقعات ہوئے اور بہت سے لوگوں نے ان کی امامت کو قبول کیا پھر عبداللہ بن طاہر انہیں معتصم کے پاس لے گیا تو اس نے آپ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا جو اس نے سرمن رامی کے ایک باغ میں بنایا ہوا تھا محمد بن قاسم کی موت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے کچھ طالبانی شیعہ اس باغ میں آئے اور کاشتکاری اور باغبانی کا کام کرنے لگے انہوں نے رسیوں اور شیر کی ایال کی سیڑھیاں بنائیں اور قید خانے میں نقب لگا کر انہیں نکال کر لے گئے اور آج تک ان کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلا۔ زید یہ ہیں سے بہت سے لوگ اس وقت یعنی ۳۳۲ھ تک ان کی خلافت کے قائل ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد ابھی فوت نہیں ہوئے اور وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے اور وہ ظاہر ہو کر زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے وہ اس امت کے مددی ہیں ان لوگوں کی اکثریت کوفہ، جبال طبرستان، دیلم اور خراسان کے اضلاع میں رہتی ہے محمد بن قاسم کے بارے میں ان کا قول ایسے ہی ہے جیسے رافضہ کیسائیہ کا قول محمد بن حنفیہ کے بارے میں اور واقفیہ کا موسیٰ بن جعفر کے بارے میں ہے، جنہیں مطورہ کہتے ہیں شیعہ فرقوں کے درمیان یہ فرقہ اسی نام کے مشہور ہے، ہم نے ان کے اقوال کو اپنی کتاب المقالات فی اصول الدیانات میں بیان کیا ہے اور معنویہ میں سے غلاة، محمدیہ اور دیگر باطل پرست فرقوں کے اقوال کو، جو ارواح کے چوپائوں میں منتقل ہو جانے کے قائل ہیں انہیں اپنی کتاب "سیر الحیاء" میں بیان کیا ہے۔

معتصم ترکوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے آقاؤں سے انہیں خریدنا بہت پسند کرتا تھا اس طرح اس نے چار ہزار ترکوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں کئی قسم کی ریشم، سنہری پیٹیاں اور سنہری زیورات پہنائے اور انہیں لباس کے لحاظ سے دوسری فوج سے ممتاز کیا، مین اور قبیس کے کناروں سے لوگوں کو چن کر انہیں مغارہ کا نام دیا اور اس نے فراغت اور اثر و سیدہ میں سے خراسانی

جو انوں کو تیار کیا اس کی فوج بہت ہو گئی اور ترک بغداد کے بازاروں میں گھوڑے دوڑا کر عوام بچوں اور کمزوروں کو ازیت دینے لگے بسا اوقات اہل بغداد، کسی عورت، بوڑھے، بچے یا نابالینا کو نقصان پہنچانے پر کسی ترک پر حملہ کر کے اُسے قتل کر دیتے تو معتصم نے ان سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور کسی کھلی جگہ پر فروکش ہونے کا ارادہ کر لیا چنانچہ وہ بغداد سے چار فرسخ کے فاصلہ پر برازا میں جاؤ تراگر اُسے وہاں کی آب و ہوا اس نہ آئی اور نہ ہی وہاں پر کھلی فضا تھی وہ مختلف بستیوں اور جگہوں پر منتقل ہوتا ہوا قاطول جا پہنچا وہ جگہ اسے اچھی لگی اور وہاں پر ایک بستی میں جرامقہ اور نبطی لوگ وجہ کی ایک نہر قاطول پر رہتے تھے، اس نے وہاں پر ایک محل تعمیر کیا لوگوں نے بھی مکان بنا لیے اور بغداد سے یہاں چلے آئے، سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے باقی لوگ وہاں سے چلے آئے تو ایک ادارہ گردنے معتصم پر چوٹ کرتے ہوئے کہا ہے

”اے وہ شخص جو جرامقہ کے درمیان قاطول میں سکونت پذیر ہے تو نے بغداد میں جرنیل بندھوں کو چھوڑا ہے۔“

معتصم کو اس جگہ کی سردی اور زمین کی سختی سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے مکان بنانے میں بڑی ازیت برداشت کی اس بارے میں ایک فوجی کہتا ہے

”انہوں نے ہمیں کہا کہ قاطول میں ہم سردی کا موسم گزاریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کے امیدوار ہیں، لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی نئی شان کا اظہار کرتا ہے۔“

جب معتصم کو اس جگہ سے ازیت پہنچی اور اس میں تعمیر کا کام مشکل ہو گیا

سامرا کی اسکیم | تو وہ جگہوں کو تلاش کرنا کرتا سامرا جا پہنچا، وہاں پر عیسائیوں کا ایک قدیم گرجا تھا، اس نے گرجا میں رہنے والے ایک آدمی سے اس جگہ کا نام پوچھا اس نے کہا یہ سامرا کے نام سے مشہور ہے، معتصم نے اُس سے پوچھا، سامرا کے معنی کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا گذشتہ کتب اور اقوام سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سام بن نوح کا شہر ہے معتصم نے اُسے کہا یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور کس طرف منسوب ہے پس اُس نے کہا یہ بلاد طبرستان سے تعلق رکھتا ہے اور اُسے کی طرف منسوب ہے پس معتصم نے کھلی فضا صاف ہوا اور صبح زمین کو دیکھا تو اُسے یہ جگہ اور اسکی ہوا اچھی لگی وہ تین روز وہاں رہ کر ہر روز شکار کھیلتا رہا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل غذا کا مشتاق ہے اور عادت جا رہی ہے زیادہ غذا کا مطالبہ کرتا ہے تو اُسے معلوم ہو

گیا کہ یہ ہوا مٹی اور پانی کی تاثیر کی وجہ سے ہے لہذا اس نے اس جگہ کو پسند کیا اور گر جادالوں کو بلا کر یہ زمین چار ہزار دینار میں ان سے خرید لی اور اپنے محل کی تعمیر کے لیے اس میں جگہ تلاش کی اور سرمن راہی کے وزیر یہ مقام پر اس کی بنیاد رکھی، اسی کی طرف وزیر سی انجیر منسوب ہوئی ہے جو بہت شیریں تیلے چھلکے والی اور چھوٹے بیج والی ہے جس کے ساتھ شام، حلوان اور ارجان کی انجیر مقابلہ نہیں کر سکتی، عمارت بلند ہو گئی اور اس سے دوسرے شہروں اور علاقوں سے کاریگر اور انواع و اقسام کے پودے اور درخت منگوائے اور ترکوں کو مخصوص جاگیریں دیں اور ان کو فراغ نہ اور اثر وسیع وغیرہ کے پڑوس میں خراسان کے شہروں میں ان کے شہروں کے قرب کی نسبت سے بسایا اور اشناس ترک کی اور اس کے ترک ساتھیوں کو، کرخ سامرا میں جاگیریں دیں اور فراغ نہ کو اس نے عمری اور حبر مقام پر آباد کیا اور نقشے بنائے جاگیروں، گلیوں اور راستوں کو بنایا، صنعت والوں کا ایک الگ بازار بنایا اور اسی طرح تاجروں کے بھی بازار بنائے لوگوں نے بھی عمارت اور بلند و بالا محلات بنائے اور آبادی بڑھ گئی پانی کے چشمے تلاش کیے گئے اور دجلہ وغیرہ سے بھی پانی لایا گیا اور لوگوں نے سنا کہ بادشاہ کا محل بن گیا ہے تو وہ مختلف قسم کا ساز و سامان لے کر وہاں آگئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی اور عدل و انصاف عام ہو گیا اور سرسبزی بڑھ گئی، ہم بیان کر چکے ہیں کہ معتصم نے اس کام کا آغاز ۲۲۱ھ میں کیا تھا۔

بابک خرمی کی بغاوت | بلاد ران اور بیلقان میں بابک خرمی نے بڑی قوت حاصل کر لی اور ان علاقوں میں اس کے پست طبقہ لوگوں کی کثرت ہو

گئی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان شہروں کی طرف چل پڑا اور اس نے فوج کو تقسیم کر دیا اور لشکروں کو شکست دی اور دایوں کو قتل کیا، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، معتصم نے انہیں کی سرکردگی میں اس کی طرف فوج بھیجی اور اس نے اس کے ساتھ مسلسل کئی جنگیں کیں یہاں تک کہ بابک کا اپنے ملک ہی میں ناطقہ بند ہو گیا، اس کی فوج منتشر ہو گئی، اس کے جوان مارے گئے اور وہ ران کے علاقے میں بدین پہاڑ میں چھپ گیا، یہ بابک کا علاقہ ہے اور آج تک اسی نام سے مشہور ہے، جب بابک نے محسوس کیا کہ اب مصیبت آیا ہے چاہتی ہے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس نے اس کے بھائی، بیٹوں، اہل اور خواص نے اپنا بھیس بدل لیا، بابک نے مسافروں، تاجروں اور قافلے والوں کا لباس پہن لیا اور بلاد آرمینیا میں آرمینی جرنیل سہل بن سنباط کے مصافحات میں ایک چشمے پر جاؤا اور ان کے قریب ہی بکریوں کا ایک

چرواہا رہتا تھا انہوں نے اس سے ایک بکری خریدی اور اپنے زادراہ کے لیے اس سے کچھ چیزوں کا سودا کیا، اس نے فوری طور پر سہل بن سنباط آرمینی کو جا کر اطلاع دی اور کہا بلاشبہ وہ بابک اور جب بابک اپنی جگہ سے بھاگا تھا انشین کو یہ خدشہ تھا کہ وہ کسی مضبوط پہاڑ کی پناہ لے لے گا یا کسی قلعہ میں قلعہ بند ہو جائے گا یا اس علاقے میں لےنے والی کسی قوم کے ساتھ مل جائے گا اور اس کی جمعیت بڑھ جائے گی اور اس کی فوج کے بھگورے بھی اس سے آلیں گے اور وہ دوبارہ قوت پکڑے گا لہذا اس نے ناکہ بندی کر لی اور قلعوں اور بلاد آرمینیا اور آذربائیجان، اران اور بیلقان کے جرنیلوں سے مراسلت کی اور انہیں لالچ بھی دیا جب سہل بن سنباط نے چرواہے کی بات سنی تو اپنے موجودہ ساتھیوں اور فوج کے ساتھ اس جگہ پر آیا جہاں بابک موجود تھا اور پیدل چل کر اس کے قریب ہوا اُسے سلام بلوکیت کرنے کے بعد کہنے لگا اے بادشاہ اپنے اس محل میں چلیے جس میں آپ کا دست رہتا ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمن سے بچائے گا وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ اس کے قلعہ میں آ گیا پس اس نے اُسے اپنے تخت پر بٹھایا اس کی عزت کی اُسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا گھر رہنے کے لیے دے دیا اور دسترخوان پر سہل نے اس کے ساتھ کھانا کھایا بابک نے اپنی جہالت اور کم عقلی سے اُسے کہا، کیا تمہارے جیسا آدمی میرے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے؟ تو سہل دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ میں نے غلطی کی ہے جب میری حیثیت بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھانے کی نہیں تو تو اس شخص سے جسے اس کا غلام اٹھا لیتا ہے زیادہ حق دار ہے اس کے پاس ایک لوہا لایا گیا تو اس نے کہا اے بادشاہ ذرا اپنی ٹانگیں لمبی کر دے اور اُسے بیڑیوں میں جکڑ دیا، بابک نے اُسے کہا اے سہل کیا دھوکا بازی کرتے ہو اس نے کہا اے خبیث عورت کے بیٹے تو تو صرف گالیوں اور بکریوں کا چرواہا ہے تجھے تدبیر ملک اور نظم سیاست اور تدبیر فوج سے کیا واسطہ ہے اور اس نے اس کے ساتھیوں کو بھی بیڑیاں ڈال دیں اور انشین کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا کہ وہ اُسے حالات بتا کر کہے کہ بابک اس کے پاس ہے پس انشین نے چار ہزار زرہ پوش سواروں کو خلیفہ کی سرکردگی میں جسے یوہادہ کہتے تھے اس کی طرف بھیجا انہوں نے بابک اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور اُسے انشین کے پاس لائے اس کے ساتھ سہل بن سنباط بھی تھا، انشین نے سہل کی عزت افزائی کی اُسے خلعت دیا اور اُس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے پاس گیا اور اس کے

آگے آگے چلا اور اس کا خراج ساقط کر دیا، بابک کو معتصم کی طرف بھیجا اور پرندوں کے ذیل سے اسے فتح کی خوشخبری لکھی جب یہ خوشخبری اُسے ملی تو لوگوں نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے اور انہیں بہت خوشی حاصل ہوئی اور شہروں میں فتح کی چٹھیاں لکھ دی گئیں کیونکہ اس نے بادشاہ کی فوجوں کو فنا کر دیا تھا۔ افشین بابک کے ساتھ چلا اور فوج کے ساتھ سرمن راہی میں آیا یہ ۲۲۳ھ کا واقعہ ہے ہارون بن معتصم اہل بیت خلافت اور حکومت کے آدمیوں نے افشین کا استقبال کیا وہ سامرا سے پانچ فرسخ کے فاصلہ پر قاطول میں آتا، معتصم نے اس کی طرف ایک سیاہی مائل سفید رنگ ہاتھی بھیجا، جسے کسی ہندوستانی بادشاہ نے مامون کو بھیجا تھا وہ بہت بڑا ہاتھی تھا جسے سُرخ اور سبز دیباچ اور کئی قسم کی رنگ دار ریشم سے آراستہ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک مجتبیٰ ناقہ تھی وہ بھی اسی قسم کے ریشم سے آراستہ تھی اور اس نے افشین کو ایک سُرخ دیباچ کا جبہ بھیجا جو سونے سے بنا گیا تھا اور اس کے سامنے انواع و اقسام کے جواہر اور یا قوت ٹنگے ہوئے تھے اور اس سے کم درجہ کا ایک اور جبہ بھی تھا اور ایک لمبی ٹوپی بھی تھی جس میں مختلف رنگوں کے موتی اور جواہرات لگے ہوئے تھے اس نے وہ عظیم الشان جبہ بابک کو اور دوسرا اس کے بھائی کو پہنا دیا اور ٹوپی بابک کے سر پر رکھ دی اور اسی قسم کی ٹوپی اس کے بھائی کے سر پر بھی رکھی اور ہاتھی کو اس کے سامنے لایا گیا، اس کے بھائی کے سامنے ناقہ لائی گئی، اس نے جب ہاتھی کی شکل دیکھی تو اُسے بڑا جانور خیال کر کے کہنے لگا یہ عظیم چوپایہ کیا ہے اور اس نے جبہ کی تحسین کی اور کہنے لگا کہ یہ عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے ایک امیر اور بے عزت اور ذلیل آدمی کی عزت افزائی ہے جسے قصداً و قدر نے مارا ہے جس کا نصیب بگڑ گیا ہے اور مصائب نے اُسے بھنور میں پھنسا دیا ہے، یہ خوشی غم کی متقاضی ہے اور اس نے قاطول سے سامرا تک، سواروں، پیادوں، ہتھیاروں، تلواروں اور جھنڈوں کی دو صفوں کا میدان کا زراد بنا دیا۔ بابک ہاتھی پر اور اس کا بھائی اس کے پیچھے ناقہ پر سوار تھا، ہاتھی دونوں صفوں کے درمیان اُسے لے کر گزرا ہاتھا اور بابک دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اور جوانوں اور سارو سامان کا جائزہ لے رہا تھا اور ان کی کثرت کی پرواہ کیے بغیر اس امر پر افسوس ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے ان کی خونریزی کیوں نہیں کی یہ ۲۲۳ھ جمعرات کے روز کا واقعہ ہے، لوگوں نے اس جیسا دن اور اس جیسی زریب و زینت نہیں دیکھی تھی، افشین معتصم کے پاس آیا تو اس نے اس کی عزت افزائی کی اور اس کے مزنیہ کو بلند کیا بابک کو لایا گیا تو معتصم

نے اس کے سامنے چکر لگا کر کہا تو بابک ہے مگر اس نے جواب نہ دیا، اس نے یہ بات اُسے کہی
باد کہی مگر بابک خاموش رہا، پھر افشین نے اُسے جا کر کہا تو ہلاک ہو امیر المؤمنین تجھے مخاطب
کر رہے ہیں اور تو خاموش ہے تو اس نے جواب دیا ہاں میں بابک ہوں تو معتصم نے اس موقع
پر سجدہ کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا۔

مسعودی بیان کرتا ہے کہ میں نے کتاب اخبار بغداد میں دیکھا ہے کہ جب بابک اس کے
سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کچھ دیر اس سے بات نہیں کی پھر اُسے پوچھا تو بابک ہے اس
نے جواب دیا ہاں میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ اور بابک کا نام حسن اور اس کے بھائی کا
نام عبد اللہ تھا، معتصم نے کہا اسے ننگا کر دو، خدام نے اس کی سب زینب و زینت نوح
ڈالی اور اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اُسے اس کے منہ پر مارا، یہی کام اس کے بائیں ہاتھ
سے کیا گیا اور اس نے اس کی ٹانگوں کے تین حصے کیے وہ چمڑے کی بساط پر اپنے خون میں
لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اس نے اس سے قبل عظیم اموال کا لالچ دینے کے متعلق بہت
باتیں کیں مگر معتصم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کے بقیہ ہنچوں کو اس کے
منہ پر مارنے لگا معتصم نے جلا دیکھا کہ وہ دل کے نیچے سے اس کی دو سیلیوں کے درمیان
تلوار داخل کرے تاکہ اُسے دیر تک عذاب ہو تو اس نے ایسے ہی کیا پھر اس نے اس کی
زبان کاٹنے اور اس کے جسم کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں کو صلیب دینے کا حکم دیا تو اُسے
صلیب دی گئی پھر اس کے سر کو بغداد لاکر پل پر نصب کر دیا گیا، اس کے بعد اُسے خراسان
لے جا کر اس کے تمام اصلاخ اور شہروں میں گھمایا گیا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی
حکومت اور فوج کی بڑی عظمت تھی اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو
گیا ہے اور اس کی ملت بھی تبدیل ہو گئی ہے، اس کے بھائی عبد اللہ کو سر کے ساتھ بغداد
لایا گیا، اس کے ساتھ بغداد کے امیر اسحاق بن ابراہیم نے وہی سلوک کیا جو سامرا
میں اس کے بھائی بابک کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بابک کے جسم کو سامرا کے دور دراز علاقے
میں ایک لمبی لکڑی پر صلیب دیا گیا اور آج تک وہ جگہ "بابک کی لکڑی" کے نام سے مشہور
ہے، اگرچہ اس وقت سامرا کے باشندے وہاں سے چلے گئے ہیں ہاں بعض مقامات
پر کچھ تھوڑے سے لوگ آباد ہیں، جب بابک اور اس کا بھائی قتل ہو گئے جیسا کہ پہلے
بیان ہو چکا ہے تو خطباء نے معتصم کی مجلس میں کھڑے ہو کر تقاریر کیں اور شعراء نے

قصیدے لکھے اس روز جن لوگوں نے کھڑے ہو کر تقاریر کہیں ان میں ابراہیم بن ہمدی نے تقریر کی بجائے اشعار کہے جو یہ ہیں۔

”اے اللہ کے امین! خدا تعالیٰ کا بہت شکر ہے، فتح اس طرح کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا مددگار ہے اور دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجھے مددگار ملے اور تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عظیم الشان فتح دی ہے جس کی نظیر لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی اور اللہ تعالیٰ انشین کو بھی جو خدا کا بندہ ہے بہتر جزا دے اور اس نے بابک سے بڑے سخت دن میں مقابلہ کیا، انشین تیرا وہ غلام ہے جسے تو نے بہادر اور صابر پایا ہے، اس نے تلوار کو خالص صورت رخصت کے خون سے لت پت کر دیا ہے اور ایسی ضرب لگائی ہے جس نے اس کے چہرے کو زمانے میں روشن کر دیا ہے۔“

اور انشین کو سونے کا ایک تاج پہنایا گیا جو جوہرات سے مرصع تھا اور ایک اور تاج بھی تھا جس میں صرف سُرخ یا قوت اور سبز زرد کو سونے کے ساتھ ملایا گیا تھا اور اُسے دو بار بھی پہنائے گئے، معتصم نے حسن بن انشین کی شادی اترجہ بنت اشناس سے کروادی اور اُسے اس کے پاس بھجوا دیا گیا، اس کی شادی کی مجلس قائم کی گئی جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی اور اس کے جمال و کمال کی صفت بیان کی جاتی تھی جب شب زفاف آئی تو عوام و خواص خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، معتصم ان دونوں کے حسن و جمال اور ان کی ملاقات کو اشعار میں بیان کرتا ہوا کہتا ہے۔

”ایک ڈلہن، دولہا کی طرف گئی ہے، اور ایک رئیس نے دوسرے کے ساتھ نکاح کیا ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں ان دونوں میں سے بڑا کون ہے کیا آراستہ شمشیر برال والا یا دو ہاروں اور شمس ہار والی۔“

۲۲۳ھ میں روم کا بادشاہ نوفیل اپنی فوج، بہر جان، برغر، سلادی اور پڑوسی اقوام کے بادشاہوں کے

زبطری رومیوں کی جنگ

ساتھ مارچ کرتا ہوا خزری سرحد کے پاس نہ بطرہ شہر میں آؤا اور اُسے بزور شمشیر فتح کر کے چھوٹوں بڑوں کو قتل اور قید کیا اور بلا دلطیہ پر غارت گری کی جس کی وجہ سے لوگ دہائی دینے لگے اور گھروں اور مسجدوں میں دعائیں مانگنے لگے تو ابراہیم بن ہمدی معتصم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے اُسے ایک طویل قصیدہ سنایا جس میں مصیبت کا اظہار کیا گیا تھا اور اُسے بدلہ لینے اور جہاد کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا وہ کتنا ہے ۔

’ہیں نے اللہ کی پناہ ! جس غارت گری کو دیکھا ہے اس سے عورتوں کی بہت ہتک ہوئی ہے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ان افعال کی ترکیب ہونے والی نہیں انہیں مردوں کے جرم میں قتل کیا گیا ہے ان کے بچوں کا کیا حال ہوا ہے کہ انہیں قتل کر کے ٹوٹ لیا گیا ہے۔‘

ابراہیم بن ہمدی پہلا شاعر ہے جس نے اپنے اشعار میں ’یا غارۃ اللہ‘ کا لفظ استعمال کیا ہے معتصم فوری طور پر صفوف کا سفید جبہ اور فائز یوں کا عمامہ پہنے باہر نکلا اور اس نے ۲ جمادی الاول ۲۲۳ھ کو سوموار کے روز دجلہ کی غریب جانب پڑاؤ ڈال دیا اور پل پر جھنڈے نصب کر دیے، شہروں میں عام لام بندی کرنے اور امیر المؤمنین کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا تو فوج اور اسلامی رضا کار اس کے پاس آگئے اور اس نے اپنے ہر اول پر اشناس ترکہ کو سالار مقرر کیا اس کے پیچھے محمد بن ابراہیم کو مقرر کیا اپنے میمنہ پر ایتاخ ترکہ اور میسرہ پر جعفر بن دینار خیاط کو مقرر کیا اور اپنے سابقہ پر لواء البکیر کو، اور اس کے پیچھے دینار بن عبد اللہ کو، اور قلب پر عجیف کو مقرر کیا، معتصم شامی سرحدوں سے چل کر درب السلامہ میں داخل ہو گیا، افشین، درب الحدث سے داخل ہوا اور عام لوگ دیگر راستوں سے داخل ہوئے اور لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا ان کی تعداد کو زیادہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ پانچ لاکھ آدمی تھے اور کم تعداد بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ دو لاکھ تھے شاہ روم کے ساتھ افشین کی ٹڈ بھیر ہوئی اور اس نے اسے شکست دی اس کے اکثر جرنیلوں اور ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اور ایک نصرانی آدمی نے جسے نصیر کہتے تھے اس کی حمایت کی جب شاہ روم پیٹھ پھیر کر بھاگا تو افشین نے اس روز اُسے گرفتار کرنے میں سستی کی اور کئے لگا وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں معتصم نے بہت سے قلعوں کو فتح کیا اور عموریہ شہر میں جاؤا اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اس شہر پر فتح عطا فرمائی اور بطریق

لاوی نے شہر اس کے سپرد کر دیا بڑے جرئیل باہس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے ان کے تیس ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا معتصم نے وہاں پہ چار دن عمارات کو گراتے اور آگ لگاتے ہوئے قیام کیا اور قسطنطنیہ کی طرف جانے اور اس کی خلیج پر پڑاؤ ڈالنے اور بروجہر سے اُسے فتح کرنے کی تدبیر کا ارادہ کیا مگر اُسے عباس بن مامون کے متعلق ایسی اطلاع ملی جس نے اُسے اس ارادے پر قائم نہ رہنے دیا وہ اطلاع یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے اور اس نے رومی بادشاہوں سے خط و کتابت کی ہے لہذا معتصم نے فوراً واپس آ کر عباس اور اس کے پیروکاروں کو گرفتار کر لیا۔

طبرستان کے حاکم مازیار کا خروج اور وفات

۲۲۵ھ میں مازیار بن قادن بن بندار ہمس، حاکم جبال

طبرستان کو سامرا لایا گیا، یہ مامون کا پسندیدہ آدمی تھا، اس نے معتصم کے زمانے میں کوشی اختیار کر لی اور اس کی فوج بہت زیادہ ہو گئی، معتصم نے اُسے اپنے ہاں حاضر ہونے کا لکھا تو اس نے حاضر ہونے سے انکار کر دیا، پھر معتصم نے عبداللہ بن طاہر کو اس کے ساتھ جنگ کرنے کو لکھا تو اس نے نیشاپور سے اپنے چچا حسین بن حسین بن مصعب کو اس کی طرف بھیجا وہ مازیار کے ساتھ بہت سی جنگوں کے بعد بلاطبرستان کے شہر سارہ میں جاؤترا اور حسن بن حسین کو اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ محمد بن قادن - مازیار، سوار ہو کر تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ شکار کو جا رہا ہے تو حسن نے فوراً اُسے جا لیا اور اس کے ساتھ جنگ کر کے اُسے قید کر لیا پھر اُسے سامرا بھجوادیا اور اس نے افشین کے متعلق بتایا کہ اس نے اُسے ان کے ثنوی و مجوسی مذاہب کے متفقہ مذہب کے خلاف خروج پر اکسایا ہے، مازیار کے سامرا پہنچنے سے ایک روز قبل، افشین کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے کاتب ساہور کو اس پر مقرر کر دیا گیا، مازیار کو کوڑے سے اس قدر مارا گیا کہ وہ مر گیا، اور اس کی تشہیر کے بعد اُسے بابک کے پہلو میں صلیب دیا گیا، مازیار نے معتصم کو لالچ دیا کہ اگر وہ احسان کر کے اُسے زندہ چھوڑ دے تو وہ اُسے بہت سے اموال لاکر دے گا مگر اس نے اس بات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بطور مثال یہ شعر پڑھا کہ

”جنگ کے روز، بن کے شیروں کا مقصد کپڑوں کو حاصل کرنا نہیں ہوتا
بلکہ جس کے کپڑے چھینے جاتے ہیں اس کو قابو کرنا ہوتا ہے۔“

ماذیاد کی لکڑی، بابک کی لکڑی کی طرف مائل ہو گئی اور ان کے جسم قریب آ گئے اسی جگہ عموریہ کے جرنیل باطس کو بھی صلیب دی گئی اور اس کی لکڑی بھی ان دونوں کی طرف جھک گئی تھی اس بارے میں ابو تمام حبیب بن اوس کہتا ہے

”جب بابک، ماذیاد کا پڑوسی بنا تو اندرونے کو اس کی تکلیف سے شفا ملی، وہ آسمان کے وسط میں اس کا دوسرا ساتھی ہے لیکن جب وہ دو آدمی غار میں تھے تو ان کا کوئی دوسرا نہ تھا اور وہ دونوں اس طرح جھکے ہوئے تھے تاکہ وہ باطس سے کوئی خبر چھپا سکیں۔“

جب ماذیاد نے بتایا کہ افشین اور اس کے درمیان سازباز ہوئی ہے تو اس کے بعد افشین قید خانے ہی میں مر گیا اُسے قید خانے سے مردہ حالت میں نکال کر باب عامہ پر صلیب دیا گیا اور موتوں کو لایا گیا جس کے متعلق لوگوں نے خیال کیا کہ یہ اُسے بھجوانے گئے تھے پس وہ بت اُس پر پھینک کر انہیں آگ لگا دی گئی اور ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔

۲۲۶ھ میں ابو دلف قاسم بن عیسیٰ عجمی جو اپنے قبیلے اور دیگر ربیعہ قبائل کا سردار تھا فوت ہو گیا، وہ بہت اچھا شاعر،

ابو دلف عجمی کی وفات

شجاع اور گلوکار تھا، وہ کہتا ہے

”ایک روز تو مجھے لمبی ٹانگوں والے گھوڑے پر دیکھے گا مجھے ٹھوس پہاڑ اور تے ہوں گے اور کھیل کے روز میں جام کو حرکت دیتا ہوں اور میرے کانوں کے پیچھے چنبیلی کی چھتری ہوتی ہے۔“

کہتے ہیں کہ ابو دلف نے ایک شہسوار کو نیزہ مارا تو وہ نیزہ اس سوار سے گزر کر ایک دوسرے سوار کو جا لگا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا اس بارے میں بکر بن نطاح کہتا ہے

”لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے روز دو شہسواروں کو ایک ہی نیزے میں پڑو دیتا ہے اور ہم اس کو در ماندہ نہیں دیکھتے پس اگر اس کے نیزے کی لمبائی ایک میل ہوتی تو یہ تعجب کی بات نہیں کہ وہ ایک میل تک شہسواروں کو نیزے میں پڑو دیتا۔“

عیسیٰ بن ابی دلف بیان کرتا ہے کہ اس کا بھائی دلف — اور اسی سے اس کا باب ابو

کنیت کرتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی تنقیص کرتا تھا اور ان کی اور ان کے پیروکاروں کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور ان کی طرف جہل کو منسوب کرتا تھا، ایک روز اس نے اپنے باپ کی مجلس میں جب کہ اس کا باپ وہاں پر موجود نہ تھا، کہا کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت علی کی تنقیص کرنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا اور تم لوگ امیر کی غیرت سے واقف ہو، یعنی اس کے باپ کی غیرت سے۔ وہ اپنی کسی بیوی پر طعن برداشت نہیں کر سکتا اور میں حضرت علیؑ سے بغض رکھتا ہوں، راوی بیان کرتا ہے کہ اتنے میں ابو دلف باہر آیا جب ہم نے اُسے دیکھا تو ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ ابو دلف نے جو بات کی ہے میں نے سُن لی ہے۔ حدیث کی تکذیب نہیں کی جاسکتی اور اس مفہوم میں وارد ہونے والی خبر میں اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قسم وہ زنا اور حیض کی پیداوار ہے، یہ بات یوں ہے کہ میں بیمار تھا میری بہن نے میرے پاس اپنی ایک لونڈی بھیجی میں اُسے بہت پسند کرتا تھا میں بے اختیار ہو کہ اس سے جماع کر بیٹھا وہ حائضہ تھی پس اُسے حمل ہو گیا اور جب اس کا حمل نمایاں ہو گیا تو میری بہن نے اُسے مجھے بخش دیا۔

ابو دلف کی عداوت اور اس کا پلٹنا | دلف کو اپنے باپ سے اس قدر عداوت تھی کہ اس نے اس کی وفات کے بعد اس کی بڑائی کی،

کیونکہ وہ تشیع اور حضرت علیؑ کی جانب بہت میلان رکھتا تھا، محمد بن علیؑ نے ستانی بیان کرتا ہے کہ ہمیں دلف بن ابی دلف نے بتایا کہ میں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ امیر کو جواب دو میں اُٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تو وہ مجھے ایک ویران اور وحشت ناک مکان میں لے گیا اور مجھے ایک سیڑھی پر چڑھا دیا پھر اس نے مجھے ایک کمرے میں داخل کیا جس کی دیواروں میں آگ کے نشانات اور اس کی زمین میں راکھ کے آثار تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہنہ ہیں اور اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھ سے سوالیہ انداز میں پوچھا، دلف ہے؟ میں نے کہا دلف ہوں تو وہ کہنے لگے۔

”اگر ہم مر جانے کے بعد چھوڑ دیے جاتے تو موت بہ زندہ کی راحت ہوتی لیکن جب ہم مر جائیں گے تو ہم اُٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہم سے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔“

پھر اس نے کہا کیا تم سمجھے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اور پھر میں بیدار ہو گیا۔

علماء کی ایک جماعت کی وفات | معتصم کی خلافت میں ۲۲۴ھ میں مورخین اور جلیل القدر محدثین کی ایک جماعت نے وفات پائی جن میں عمرو بن مرزوق باہلی بصری ابو النعمان حازم بن محمد بن فضل سدوسی، ابو ایوب سلیمان بن حرب و اشجی بصری جواز دقبیلے سے تھے، سعید بن حکم بن ابی مریم بصری، احمد بن عبداللہ الغدانی، سلیمان شاذکونی اور علی مدنی شامل ہیں ۲۲۵ھ میں بغداد میں بشر حافی نے وفات پائی آپ بلاد مرو کے رہنے والے تھے، ابو الولید ہشام بن عبدالملک طرابلسی نے بصرہ میں ۹۳ سال کی عمر میں وفات پائی اور عبداللہ بن عبدالوہاب الجمعی اور ابراہیم بن یسار رمادی نے وفات پائی بعض کہتے ہیں کہ اسی سال محمد بن کثیر عبدی کی بھی وفات ہوئی مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان کی وفات ۲۲۳ھ میں ہوئی تھی۔

معتصم کی وفات | مسعودی بیان کرتا ہے کہ معتصم کی وفات ۲۲۵ھ میں دجلہ کے کنارے اس کے محل خاقانی میں ۱۲ ربیع الاول کو جمعرات کے روز ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو ہوئی اس وقت اس کی عمر ۴۸ سال تھی بعض کے بقول ۴۶ سال تھی جیسا کہ ہم اس باب کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں اس کی پیدائش خلد بغداد میں ۱۸۰ھ کے آٹھویں مہینے میں ہوئی تھی، وہ آٹھواں خلیفہ اولاد عباسیوں میں سے آٹھواں لڑکا تھا اور آٹھ لڑکے اور آٹھ لڑکیاں چھوڑ کر فوت ہوا۔ اور معتصم کے حالات نہایت شان دار ہیں اس کی حکومت میں عموریہ کی فتح اور خلافت سے قبل شام و مصر کی سفارت میں اس کی جنگیں اور خلافت کے حاصل ہونے کے بعد جو کچھ اس نے کہا، یہ واقعات بہت اچھے ہیں، قاضی احمد بن ابی داؤد اور یعقوب بن اسحاق کندی نے اس کی سیرت کی خوبی اور راست روی "سیرت الفضائل" میں لکھا ہے ہم نے ان سب باتوں کو اخبار الزمان اور کتاب الادسط میں بیان کیا ہے اور ہم نے اس کتاب میں جو جھلک پیش کی ہے وہ صرف پہلے لکھی گئی باتوں کے پڑھنے پر آمادہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔

وَأَثَقَ بِاللُّدَىٰ خِلَافَتَ كَابِيَانِ

مختصر حالات | ہارون بن محمد بن ہارون واثق باللہ کی بیعت معتصم کی وفات کے روز ۱۲ ربیع الاول ۲۲۴ھ کو جمعرات کے روز ہوئی، اس کی کنیت ابو جعفر تھی، اس کی ماں ام ولد رومیہ تھی جس کا نام قرطیس تھا، اس کی بیعت ۳۱ سال نو ماہ کی عمر میں ہوئی اور اس کی خلافت ۵ سال ۹ ماہ ۱۳ دن رہی، بعض کہتے ہیں کہ اس کی وفات ۲۴ ذوالحجہ ۲۳۲ھ کو بدھ کے روز ۳۴ سال کی عمر میں ہوئی، اس کا وزیر محمد بن عبد الملک تھا جیسا کہ ہم اس کتاب میں معتصم کی حکومت میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کی عمروں اور حکومتوں کی مدت میں تو ایسی ہی اختلاف کی وجہ سے کمی بیشی پائی جاتی ہے۔

اس کے حالات و اوقات اور اس کے دور کی ایک جھلک

وَأَثَقَ كَيْ صِفَاتِ | واثق بڑا کھانے پینے والا، بہت نیکی کرنے والا اپنے اہل پر مہربان اور رعیت کے حالات کی خبر رکھنے والا تھا اور اس نے عادلانہ بات کہنے میں اپنے باپ اور چچا کا طریق اختیار کیا۔

دو آدمیوں کا اس پر اثر انداز ہونا | احمد بن ابی داؤد اور محمد بن عبد الملک الزیات اس پر بہت اثر انداز ہو گئے، وہ ان کی رائے

کے بغیر کوئی حکم نہ دیتا اور نہ ان کی رائے پر ناراضگی کا اظہار کرتا تھا اور اس نے حکومت کے کام انہی دونوں کے سپرد کر دیے تھے۔

ایک بدو کا واثق اور اس کے مددگاروں کی تعریف کرنا | ابو تمام حبیب بن
اوس طائی جاسمی۔

رجاسم، دمشق کے مصنفات میں اردن اور دمشق کے درمیان ایک بستی کا نام ہے جو جولان کے نام سے مشہور ہے اور جاسم، جابیر اور بلا دنوی سے چند میل کے فاصلے پر ایوب علیہ السلام کی چراگا ہوں میں سے ایک چراگاہ ہے، بیان کرتا ہے کہ میں واثق کی خلافت کے آغاز میں ہرن رائی کی طرف گیا جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے ایک بدو ملا، میں نے اس سے فوج کی خبر معلوم کرنی چاہی تو میں نے اُسے کہا اے بدو تو کس قبیلے سے ہے اس نے کہا بنی عامر سے میں نے کہا امیر المؤمنین کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور وہ اُسے کافی ہو گیا ہے اس نے نافرمانوں کو غمگین کیا ہے، دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے، رعیت میں عدل و انصاف کیا ہے اور ہر گنہ گار سے رُوگردانی اختیار کی ہے میں پوچھا تو احمد بن داؤد کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا، وہ ایک ایسا پھیلا ہوا پہاڑ ہے جس کا قصد نہیں کیا جاسکتا اور ایسا پہاڑ ہے جسے اکٹھا نہیں کیا جاسکتا اس کے لیے چھریاں نیز کی جاتی ہیں اور جال نصب کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے تو وہ بھیڑیے کی طرح چھلانگ لگاتا اور گواہ کی طرح دھوکا دیتا ہے، میں نے کہا تو محمد بن عبد الملک الزیات کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہنے لگا نزدیک آدمی پر اس کا شروبیع ہے اور دُور رہنے والے تک اس کا ضرر پہنچ گیا ہے وہ ہر روز کسی کو قتل کرتا ہے مگر اس میں کچلی یا پنچے کا نشان نہیں ہوتا میں نے کہا عمرو بن فرج کے متعلق تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا وہ فر بہ اندام اور حر یص ہے، خون کو شیریں سمجھتا ہے لوگ جنگ کے لیے اُسے ڈھال بناتے ہیں، میں نے کہا فضل بن ربیع بن مروان کے متعلق تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا وہ ایسا آدمی ہے جسے قبر میں ڈالنے کے بعد نکال لیا گیا ہے وہ زندوں میں شمار نہیں ہوتا، اس پر مردوں کی سی اُونگھ رہتی ہے، میں نے کہا ابوالوزیر کے متعلق تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا تو اُسے زندیقوں کا مینڈھا خیال کرتا ہے، کیا تو اُسے دیکھتا نہیں کہ جب خلیفہ اُسے گنام کر دیتا ہے تو وہ موٹا اور قر بہ ہو جاتا ہے اور جب اُسے ہلاتا ہے تو وہ بادش برساتا ہے اور سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے، میں نے کہا تو احمد بن حبیب کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا، یہ حر یص کی طرح کھاتا ہے اور بد بھنی والے کی طرح بیٹ کرتا ہے

میں نے کہا تو اس کے بھائی ابراہیم کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا وہ مرد سے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، میں نے کہا تو احمد بن ابراہیم کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا، اس کے کیا کہتے وہ بڑا کام کرنے والا اور صابر ہے، اس نے صبر کو اڈپر کا کپڑا اور سخاوت کو اندر کا کپڑا بنایا ہوا ہے میں نے کہا تو معلیٰ بن ایوب کے متعلق کیا کہتا ہے کہنے لگا وہ بھلا آدمی ہے سلطان کا خیر خواہ اور پاک زبان ہے وہ لوگوں سے محفوظ ہے اور لوگ اس سے محفوظ ہیں میں نے کہا تو ابراہیم بن ربیع کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا وہ ایسا آدمی ہے جس کی سخاوت نے اُسے مضبوط کیا ہے اور جس کے فضل نے اُسے چھوڑ دیا ہے، اس کی دعا اور اس کا رب اُسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اور اس کے اڈپر ایک خلیفہ ہے جو اس پر ظلم نہیں کرتا، میں نے کہا تو اس کے بیٹے حسن کے متعلق کیا کہتا ہے، کہنے لگا وہ سبز لکڑی ہے جو سخاوت کی جگہ میں آگئی ہے جب وہ لہمانے لگی ہے تو انہوں نے اُسے کاٹ دیا ہے میں نے کہا تو نجیح بن سلمہ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہنے لگا، اس کے کیا کہنے، وہ بہت بدلہ لینے والا ہے جو آگ کے شعلہ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے اس کی خلیفہ کے ساتھ ایک نشست ہوتی ہے جو آسودگی کو دُر کرتی اور انتقام کو لاتتی ہے میں نے کہا اے بدو! تیرا گھر کہاں ہے تاکہ میں تیرے پاس آؤں، کہنے لگا اللہ بخشے میرا کوئی گھر نہیں، میں دن کی چادر اور رات کا لحاف بنانا ہوں اور جہاں مجھے نیندا جاتی ہے، سو جاتا ہوں، میں نے کہا تو فوجیوں سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں ان سے سوال کر کے اپنے چہرے پر دھبہ نہیں لگانا چاہتا اگر وہ مجھے عطا کریں تو میں ان کی تعریف نہیں کرتا اور اگر نہ دیں تو مذمت نہیں کرتا میں اس طائی غلام کے اس شعر کا مصداق ہوں۔

”بہترین قول وہ ہے جو سب سے سچا ہے اور میں یہ پروا نہیں کرتا کہ تو نے میرے چہرے کی آب کو بچایا ہے یا میرے خون کو۔“

میں نے کہا اس شعر کا کہنے والا تو میں ہوں، اس نے کہا تو طائی ہے میں نے کہا ہاں، کہنے لگا تیرے باپ کے کیا کہنے، تو نے یہ شعر کہا ہے۔

”تیرے ہاتھ کی سخاوت، خواہ تیرا ہاتھ سخاوت کرے یا بخل کرے میرے چہرے کی آب کا بدل نہیں ہو سکتی اگرچہ میں نے اس پر دھبہ لگا دیے ہیں۔“

میں نے کہا ہاں، کہنے لگا تو اپنے دُر کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے جو کتاب میں نہیں آئی کہ میں نے اُسے کہا کہ مجھے اپنے کچھ اشعار سناؤ تو اس نے

مجھے یہ شعر سنائے۔

”رات کی تاریکی چھا گئی تھی ہر راتے پر رات نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور ہم ایک قیص میں لیٹے ہوئے تھے، قیص جو کچھ اپنے اندر لیے ہوئے تھی اس کے کیا کہنے، اسے کل کے دن اگر تو میرا محسن ہے تو میری رات کے قریب نہ آنا اور اسے وصل کی رات اسی طرح تو بھی ختم نہ ہونا جیسے سحر کی رات ختم نہیں ہوتی۔“ میں نے کہا تیرے باپ کے کیا کہنے، اور میں اُسے اپنے ساتھ واپس لے گیا یہاں تک کہ میں ابی داؤد سے ملا اور میں نے اس کا واقعہ اُسے سنایا تو اس نے اُسے واثق تک پہنچا دیا اس نے اُسے ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا اس نے دیگر کاتبوں اور ارباب حکومت سے بھی اتنی رقم لی کہ جس نے اُسے اور اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی آسودہ حال کر دیا۔

اس واقعہ کا منبع ابو تمام ہے اگر وہ اس بات کے بیان کرنے میں سچا ہے تو اس نے بدو کی بہت اچھی تعریف کی ہے مگر میں اُسے سچا نہیں سمجھتا اور اگر اس کو ابو تمام نے گھڑ کر اس بدو کی طرف منسوب کر دیا ہے تو اس نے اس کی ترتیب میں کوتاہی کی ہے اگرچہ اس کا مقام اس سے بہت بڑا ہے۔

ابو تمام طائی | ابو تمام کی وفات موصل میں ۲۲۸ھ میں ہوئی وہ اپنے بعض احوال میں بڑا بے حیا تھا بعض اوقات یہ بے حیائی اُسے موجباتِ فرض کے ترک کرنے پر آمادہ کر دیتی تھی اور یہ کام وہ بے حیائی کے طور پر کرتا تھا نہ کہ اعتقادی طور پر۔

محمد بن یزید مبرد، حسن بن رجا سے بیان کرتا ہے کہ میں ایران میں تھا کہ ابو تمام میرے پاس آیا۔ اور اس نے میرے ہاں طویل قیام کیا میرے پاس بلا وجہ شکایت کی گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا جو نمازوں کے اوقات میں اس کی نگرانی کرتا تھا پس اس کے بارے میں جو شکایت کی گئی تھی وہ درست ثابت ہوئی، میں نے اُسے اس فعل پر عتاب کیا تو اس نے جواب میں کہا، کیا تو نے مجھے بغداد سے اپنے پاس آنے کے لیے بڑا چست اور ان راستوں کی مشقتوں کو برداشت کرنے والا اور ان رکعات میں مستی کرنے والا پایا ہے جن کا کوئی بوجھ ہی مجھ پر نہیں ہے، کاش میں جانتا ہوتا کہ ان کے پڑھنے والے کو ثواب اور ان کے چھوڑنے والے کو عذاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا پھر مجھے خوف دامن گیر ہوا کہ کچھ اور بات

ہی نہیں جائے اور وہ کہتا ہے ۛ

”بندوں کا حق سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اس کے قرض کی ادائیگی کرے

جو خدا تعالیٰ کا قرض دار ہے ۛ

”بندوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اس کے قرض کی ادائیگی کرے جو

خدا تعالیٰ کا قرض دار ہے۔“

یہ قول اس فعل کے خلاف ہے لوگ ابو تمام کے بارے میں دو مختلف نظریات رکھتے ہیں ایک تو متعصب ہیں جو اس کو اس کے حق سے بھی زیادہ دیتے ہیں اور اس کی تعریف میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے خیال میں اس کے اشعار بہ شعر سے بالا ہیں، دوسرے اس سے عناد رکھنے والے ہیں، وہ اس کی نیکیوں اور اچھے کاموں کو بھی نہیں مانتے اور اس کے عمدہ معانی کو بھی جن میں وہ منفرد اور سبقت کرنے والا ہے، بڑا سمجھتے ہیں۔

عبداللہ بن حسن بن سعد بیان کرتا ہے کہ میرد کہتا ہے میں قاضی ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق کی مجلس میں تھا اور ایک جماعت بھی وہاں حاضر تھی جن کا اس نے نام لیا، ان میں وہ حادثی بھی تھا جس کے متعلق علی بن جهم شامی کہتا ہے ۛ

”حادثی اور دمدار ستارہ صرف مصیبت کے لیے ہی نمودار ہوتے ہیں۔“

یہ شعر چل نکلا اگرچہ گفتگو ابو تمام اور اس کے شعر کے متعلق ہو رہی تھی، حادثی نے ابو تمام کو شعر سنائے جن میں بہت اچھے پیرائے ہیں عتاب کیا گیا تھا میرد نے قاضی کی وجہ سے شرم محسوس کی کہ حادثی شعر کو ڈہرائے یا وہ انہیں اس سے لکھے، ابن سعد کہتا ہے کہ میں نے میرد کو بتایا کہ مجھے وہ شعر یاد ہیں میں نے اُسے شعر سنائے تو اس نے ان کی تحسین کی اور مجھ سے کئی بار کہلوا یا یہاں تک کہ وہ اُسے یاد ہو گئے اور وہ یہ ہیں ۛ

”اے عبداللہ میں تجھ پر قربان جاؤں، میرے پاس اس کے دُور کے رشتہ داروں کی اولاد ہے اور اس کے پاس سفید رُو جو انوں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے دوستی اور محبت کا حق ادا کر دیا ہے میں نے انہیں تیرے خلاف آواز دی اور میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو اُسے سخت مصائب میں پکارتا ہوں۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ابو تمام اور بختری میں سے کون

اچھا شاعر ہے؛ تو وہ کہنے لگا ابو تمام کے استخراجات لطیف اور معانی عمدہ ہیں اور اس کا اچھا شعر بجزری کے شعر سے اور مقدم محدثین کے شعر سے بہت اچھا ہوتا ہے، بجزری کا شعر ابو تمام کے شعر سے اچھا سیٹ ہوتا ہے کیونکہ بجزری سب قصیدے ہی کہتا ہے جو کسی معترض کے اعتراض اور عیب لگانے والے کے عیب سے خالی ہوتے ہیں، ابو تمام نادر شعر کے بعد ہلکا شعر کہتا ہے اور اس کی مثال سمندر کے اس غوطہ زن کی طرح ہے جو موتی اور ردی چیز نکالتا ہے اور انہیں ایک ہی ہار میں پرو دیتا ہے وہ اور بہت سے دوسرے شعراء بخل سے اشعار لاتے ہیں اگر وہ اپنے اشعار کی کثیر تعداد کو ساقط کر دے تو وہ اپنے برابر کے شعراء سے بڑا شاعر ہو جائے مجھے اس قول نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اُسے ابو تمام کے شعر ساڈوں اور اس کے غلط اور قابل مذمت اشعار کو ساقط کر دوں اور اس کے اچھے اشعار کو الگ کر دوں، میں نے عوام اور بہت سے خواص کی زبان پر اس کے ایک سو پچاس اشعار پائے اور میں کسی جاہل اور اسلامی کو شاعر نہیں جانتا جس کے اس قدر اشعار کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہو پھر مبرد کہنے لگا اور بجزری پر یہ شعر ختم ہے اور اس نے مجھے اس کے دو شعر سنائے اور مبرد نے خیال کیا کہ اگر انہیں زبیر کے اشعار کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو یہ جائز ہوگا اور وہ دو شعر یہ ہیں۔

”اور احمق خواہ زیادتی ہی کرے اس کی حماقت تیرے بارے میں حلیم آدمی کے حلم سے زیادہ مفید نہیں اور جب تو کسی سخی کو غصہ دلائے گا تو تیری طرف کینوں کے لیے بعض فعل سبقت کریں گے۔“

مدامی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس مجلس میں بجزری کے جو اشعار بیان کیے ان میں یہ شعر بھی تھے جنہیں محمد بن یزید نے اپنے ہم پایہ لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ شعر اس نے صاعد بن مخلد کے دو بیٹوں کے متعلق کہے ہیں۔

”اور جب تو صاعد کے دونوں بیٹوں کے نشانات کو دیکھے گا تو وہ تجھے مخلد کے دونوں بیٹوں تک پہنچا دیں گے، وہ فرقہ بین کی طرح ہیں جب دیکھنے والا انہیں غور سے دیکھتا ہے تو کسی فرقہ کی جگہ دوسرے فرقہ سے بلند نہیں ہوتی۔“

اور وہ کہتا ہے۔

”میری جانب سے خلیفہ کا کون شکر یہ ادا کرے گا جس نے میرے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے یہاں تک کہ میں اس کی مہربانی سے مہربانی کرنے والا بن گیا ہوں اور جہاں سے اس نے مجھے سخاوت کا طریق دکھایا ہے میں نے اُسے وہاں سے ہی دیکھا ہے، اس کے ہاتھوں نے مجھے غنی کر دیا ہے اور اس کی سخاوت نے میرے بخل کو بھگا دیا ہے، جیسے اس نے مجھے غنی کیا ہے ویسے ہی فقیر بھی کر دیا ہے اور میں نے اس سے بھی جلدی، خلق جمیل پر بھروسہ کیا ہے اور اس نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے میں نے اُسے عطا کر دیا ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”جب محبوباؤں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے چاہا کہ میری مانگ میں بڑھاپے کی سفیدی کی بجائے تلوار کی سفیدی ہوتی۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”میں بطور تواضع قریب ہوا اور شان کے لحاظ سے بلند ہوا، اور سورج کی طرح پستی اور بلندی دونوں تیری شانیں ہیں کہ نہ بلندی میں اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے نہ اس کی روشنی اور شعاع قریب ہوتی ہے۔“

فتح بن خاقان نے جب شیر کا مقابلہ کر کے اُسے مار دیا تو وہ اس کے متعلق کہتا ہے ۷

”اور تو نے تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور تیرے عزم اور ہاتھ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی تلوار کی دھارا اُچیٹی ہے اور جب اُسے تیرے متعلق کوئی اُمید نہ رہی تو وہ ڈک گیا اور جب اس نے تجھ سے کوئی جائے فرار نہ پائی تو اس نے پکارا ادہ کر لیا اور جب تو اپنے دائیں ہاتھ اور بلندی کو شیر کے پاس اکٹھا کر لیتا ہے تو تلوار کے لیے مارنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”اور زمانے کی گردشیں ہمیشہ میرے سودے کو بایوس کرتی رہیں یہاں تک کہ میں نے اپنی جوانی کی بڑھاپے سے شرط لگا دی۔“

وہ المنتظر کے متعلق کہتا ہے ۷

”اگر عمر کی نسبت تمہیں زیادہ قریب اور تم پر زیادہ اچھے احسانات کرنے والا ہے، سفید رو گھوڑوں کو چھوڑ کر، پتھروں کی دوڑ کے روز ہر ایک کے لیے اپنی خوبی اور پاؤں کی سفیدی ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”خوبصورت عورتیں مجھ پر بڑھاپے کا عیب لگاتی ہیں اور کون ہے جو میرے بڑھاپے سے فائدہ اٹھائے۔“

اور جب اس کے خاندان کی صلح کا خاتمہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے ۷

”اور جب زخم کو خرابی کی صورت میں کس کر باندھ دیا جائے تو طبیب کی کوتاہی واضح ہو جاتی ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”درست نشانے پر لگنے والے تیر کی نسبت تیر انداز پر چھوٹے ہوئے تیر کا بوجھ کم ہوتا ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”اور فتح نے خاقان سے اپنی بخشش کو نہیں روکا بلکہ دمانہ ہی عطا کرتا اور محروم کرتا ہے، وہ ایک برتنا بادل ہے جس کی سخاوت مجھ سے چوک گئی ہے اور وہ ایک بھر لوہ سمندر ہے جس کا فیض مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے اور وہ چودہویں کا چاند ہے جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے اور میرے پاؤں کی جگہ اس سے تار ایک رہی ہے اس کی سخاوت کے مخلوق پر حاوی ہو جانے کے بعد کیا میں اس کی سخاوت کی شکایت کر سکتا ہوں اور بارش کی مذمت، کوئی قابل مذمت شخص ہی کر سکتا ہے۔“

محمد بن ابوالاثر بیان کرتا ہے کہ ابراہیم بن مدبر، علم و ادب اور معرفت میں ایک خاص مقام کا حامل ہونے کے باوجود ابو تمام کے متعلق اچھی رائے نہ رکھتا تھا اور قسم کھاتا تھا کہ اس نے کبھی کسی چیز کی تحسین نہیں کی، میں نے ایک روز اسے کہا تو ان اشعار کے قائل کے متعلق کیا کہتا ہے ۷

”بڑھاپے نے میری کنپٹی میں ایک خط کھینچ دیا جس سے نفس کی طرف ہلاکت

کا ایک راستہ جانا ہے ملاقات کرنے والا جفا کرتا ہے اور ساتھ لہنے والا ناپسند کرتا ہے اور محبت کرنے والا دشمنی کرتا ہے نئے لباس کو بیوند لگانے جانتے ہیں اور آنکھ میں اس کا منظر خالص سفید ہے لیکن دل میں سیاہ سرخی مائل ہے اور ہم پسندیدگی کے باوجود اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور نوجوان کی ناک تو اس کے چہرے پر ہی ہوتی ہے مگر وہ نکٹا ہوتا ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”پس اگر تو عمرو کو بچانے کے لیے تیرا اندازہ کرے اور مدت تک اس کے متعلق جھگڑا کرے تو وہ تجھ سے خیانت کرے گا یہاں تک کہ تو اس میں کوئی روکاؤ نہ پائے گا بئیری مثال تو اس تلوار کی ہے جو نشانے پر لگ کر اسے قطع کر دے اور پھر دوسری ہو کر خود ٹوٹ جائے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”اُسے زمانے کے واپس لوٹنے پر شرف حاصل ہے اور شرف کریم ہی کے مناسب ہوتا ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”اور جب لوگ بلا احسان ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہیں تو تو اوصاف کر کے آگے بڑھتا ہے۔“

اور وہ کہتا ہے ۷

”وہ مجھے زندگی اور مال دینے والا ہے اور میں تجھے مال دیتا ہوں یا طلب کرتا ہوں ملوں گا اور جب تو چاہے گا میں رستی بن جاؤں گا اور جب تو چاہے گا کنواں بن جاؤں گا۔“

اور ایک شاعر کے متعلق کہتا ہے ۷

”تو نے انہیں جس حملے کا عادی بنا دیا ہے وہ تیرے اس حملے کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ موت کی طرح آتا ہے اور اس میں کوئی لغزش نہیں ہوتی، چلنا آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے اور آواز اشارہ ہوتی ہے اور تیرے انتقام کا خوف ہوتا ہے اور گفتگو خفیہ ہوتی ہے، ہمارے ایام کی اطراف تیرے

ساتھ پیوست ہیں اور تمام راتیں سحر ہوتی ہیں، تیرے سائل، سائلوں کے لیے سخاوت

کرتے ہیں اور ملاقاتی تیرے ملاقاتیوں کی طرف آہستگی سے جاتے ہیں۔“

اور وہ کہتا ہے :

”جب پست زمین کو تو پسند کرے تو ہم اس کے ٹیلوں کے مشتاق نہیں ہوتے۔“

ابن ابوالانزہر بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ابن المدبر کو ابو تمام کے خلاف بھڑکایا تو وہ اُسے گالیاں دینے اور اس پر لعنت کرنے لگا تو میں نے کہا جب تو یہ کام کر ہی چکا ہے تو مجھے ابو عمرو بن حسن طوسی اور یہ نے بتایا کہ اس کے باپ نے اُسے ذیل کے اشعار سنانے کے لیے ابن الاعرابی کے پاس بھیجا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ ہم رجزیہ اشعار سنانے لگے تو میں نے اُسے ابو تمام کا رجزیہ قصیدہ سنایا مگر اسے اس کی طرف منسوب نہ کیا اور وہ قصیدہ یہ ہے۔

”اور میں نے ملامت گر کو اس کی ملامت کے بارے میں ملامت کی تو اس نے خیال کیا

کہ میں اس کی جہالت نا آشنا ہوں کوئی کم عقل اس جیسا کم عقل نہیں ہے، تجھے اپنے

بھائی کے لیے کون کافی ہو گا میں نے عمدہ لباس پہنا پس مجھے کامیاب ہونے

کے لیے چھوڑ دے اور وہ اپنے بڑھاپے اور شرافت میں بادشاہ بن گیا ہے

اور اس کے قول و فعل میں بازاری پن ہے اور میں نے اس کی بخشش کی طلب

میں اپنی مدح کو خرچ کر دیا، پس اس نے اپنے وصل سے میری امید کی رسی

کاٹ دی، اس کے بعد اس نے اپنی ٹال مٹول سے مجھے اپنا غلام بنا لیا پھر

وہ اپنی جہالت کا عذر کرتے ہوئے چلا گیا، وہ جہالت میں بہت تیز چلنے والا

ہے۔ رہ مجھے اپنی سنجیدگی اور مذاق میں دیکھتا ہے، اور اس کے بخل پر جو

تعجب کرتا ہوں وہ اس سے متعجب ہوتا ہے، قیدی نے اپنی بیٹری کے حلقوں کو

دیکھا گویا میں اس کے پاس ملامت کرنے آیا ہوں اسے عدل و انصاف میں کتنا

آدمی میں نے تجھے مال دیا ہے پس تو اسے مہلت نہ دے، پیام اپنے

پھل کے بغیر کیا کرے گا اور اگر اہل آدمی کی مدح نہ کی جائے تو وہ کیا کرے

گا۔“

اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان اشعار کو لکھ لو، تو اس نے انہیں اپنی ایک کتاب

کی پشت پر لکھ لیا، تو اس نے اُسے کہا میں آپ کے قربان جاؤں یہ اشعار ابو تمام کے ہیں تو

کہنے لگا انہیں پھاڑ دو پھاڑ دو اب ابن المدبر کی یہ بات، عالم ہونے کے باوجود بہت بُری ہے، کیونکہ محسن خواہ دشمن ہو یا دوست، اس کے احسان کو رد نہیں کرنا چاہیے اور شریف و ذلیل سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے اور اپنی گم شدہ چیز خواہ مشرکوں سے ملے، لے لو، بزرگمہربن بختگان جو ایرانی حکماء ہیں سے تھا اور جس کے حالات کو ہم ساسانی (ایرانی) بادشاہوں کے حالات میں بیان کر آئے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ہر چیز سے اچھی بات کو حاصل کیا ہے یہاں تک کہ گتے، بتلی اور کوٹے سے بھی اچھی باتیں حاصل کی ہیں اس سے پوچھا گیا تو نے کوٹے سے کیا حاصل کیا ہے کہنے لگا شدید احتیاط کرنا، اس سے پوچھا گیا تو نے خنزیر سے کیا حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا اپنی ضروریات کے لیے تیزی سے جانا، اس سے پوچھا گیا، بتلی سے تو نے کیا حاصل کیا ہے، کہنے لگا، سوال کے وقت اپنے مالک سے چالپوسی کرنا اور اچھی آواز نکالنا۔

کوئی شخص ان اشعار پر نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ جن سے دلوں میں فرحت و انبساط پیدا ہوتا ہے اور کان انہیں غور سے سنتے اور ذہن تیز ہوتے ہیں اور ہر صاحب عقل و معرفت جانتا ہے کہ ان اشعار کا قائل بہترین شعر کہنے میں نہایت دور تک پہنچ گیا ہے، وہ اپنے آپ اور اپنی واقفیت پر خود عیب لگاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواہش ایک اللہ ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے قول سے دلیل بکریٰ افراؤیت من اتخذ الہة ہواکا۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔

ابو تمام نے شان داد اشعار الطیف معانی اور انوکھے استخراجات بیان کیے ہیں۔ اشعار کے ایک ماہر نے بیان کیا ہے کہ اس سے ابو تمام کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے دنیا بھر کے اشعار کو اکٹھا کر لیا ہے اور ان کے جوہر کو انتخاب کر لیا ہے، ابو تمام نے "الحماتہ" کے نام سے ایک کتاب تالیف کی ہے بعض لوگ اسے "الخبیۃ" کا نام دیتے ہیں، جس میں اس نے لوگوں کے اشعار کا انتخاب پیش کیا ہے یہ کتاب اس کی وفات کے بعد سامنے آئی۔

ابوبکر صولی نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے ابو تمام کے اشعار، حالات اور انواع علوم و مذاہب میں اس کے تصرف کو جمع کر دیا ہے ابو تمام کے متعلق

جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کے متعلق صولی نے اس کے اشعار سے استدلال کیا ہے ان میں ایک بات وہ ہے جو اس نے شراب کی تعریف میں کہی ہے کہ وہ
 "وہ بڑے اوصاف والی ہے مگر لوگوں نے اُسے جو ہر اشیاء کا لقب دیا ہے۔"

اس کی وفات کے بعد شعراء اور ادباء نے اس کے مرثیے کہے ہیں جن میں سے ایک حسن بن وہب کا تب کہے جو بڑا عمدہ شاعر تھا اور نظم و نثر میں بہرہ وافر رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ

"موصل میں ایک مسافر کی قبر کو بادلوں نے سیراب کیا اور ان سے رونے کی آواز آتی تھی جب بارش کی بدلیاں اس پر ہلکی ہلکی بارش برساتیں تو ان کے پیچھے اور بدلیاں آجاتیں اور بجلیوں نے اس کے لیے رخساروں پر تھپڑ مارے اور عدلے اس کے لیے گریبان چاک کیے کیونکہ اس قبر کی مٹی کے اندر ایک حبیب تھا جسے حبیب کہہ پکارا جاتا تھا وہ بڑا عاقل، شاعر، ذہین ادیب اور سب میں اہل الرائے اور ماہر تھا، جب تو اسے دیکھے گا تو وہ تجھے ایسی بات بتائے گا جس سے تو خوش ہو گا اسے ابو تمام طائی، ہم تیرے بعد عجیب حیرانی میں پڑے ہیں ہم نے تیرے کھونے سے ایک قیمتی چیز کھو دی ہے، جس کی مثل دنیا ہمیں کبھی نہیں دکھائے گی تو ہمارا بھائی تھا جس نے ہمارے سامنے محبت کی پوشیدہ باتوں اور قریبی تعلق کو واضح کیا جب توجہ اہو گیا تو زمانہ دور و نزدیک رہنے والے کے لیے مکر ہو گیا اور زمانے نے اپنا سکہ اہو اب صورت اور پرشکن چہرہ اور اس کے دونوں بڑے پہلو نمایاں کر دیے پس یہ بات اچھی ہے کہ اس زمانے میں ہمیں موت آجائے اور ہماری زندگی اس بات کے لائق ہے کہ وہ اچھی نہ رہے۔"

حسن کے اچھے اشعار اور نشان دار معانی میں سے اس کا یہ قصیدہ بھی ہے :-
 "غم کی زیادتی کے باعث تیری آنکھوں نے بینا اور اذگھ کی ٹھنڈک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تیری آنکھوں کے لیے واجب ہے کہ وہ نہ سوئیں تیرا دل اچکا ہوا اور رہن دکھا ہوا ہے اور لیلیوں کے درمیان

ایک بیماری دُفن ہے تیری زندگی کی قسم وہ پوشیدہ ہو گئی ہے وہ غموں کا ہمارا
 اور زخموں کا ساتھی ہے اکمزور عقل اور پردیسی ہے وہ بہت بھاگنے والا بہت
 لغزشیں کھانے والا اور بے لگام ہے جو رسی کو کھینچتا پھرتا ہے، کیا تو ہر روز
 گھروں سے باتیں کرتا اور سبزے پر روتے ہوئے لمبا قیام کرے گا اور گھر
 اپنے اہل کے متعلق خبر دیتے ہیں اور سفر کو جانے والوں پر آنسو بہاتے ہیں
 گویا تو نے گزشتہ زمانے میں کسی فریقہ عاشق کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے عنقوں
 شباب میں تجھے معذور سمجھا اور تجھے سبز شاخیں دیں، اور اب جوانی تجھ سے
 ایسے رخصت ہو چکی ہے گویا کبھی تجھ پر جوانی آئی ہی نہ تھی اور بڑھا پے
 نے جوانی کے بعد تجھے روٹی کے رنگ کی طرح سفید چادر پہنا دی ہے اور تو
 ان خوبصورت عورتوں کی آنکھوں میں تنکابن گیا ہے جنہوں نے تجھ سے
 عہد شکنی کی ہے اگرچہ تو نے ان سے حیانت نہیں کی جب تو ان کا قصد
 کرتا ہے تو وہ تجھ سے اعراض کرتی ہیں اور تو ایک زمانہ ان کے چپکے چپکے
 باتیں کرتا رہا ہے پس تجھے کیا عذر ہے تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں اپنی
 بھلائی موجود ہے اور جو سمجھ دار طبیب ہے۔“

علی بن حمد | واثق کی خلافت میں علی بن جعد جو بنی مخزوم کا غلام تھا فوت ہو گیا،
 وہ بلند پایہ محدث اور راوی تھا اس کی وفات ۲۳۳ھ میں ہوئی۔

آزمائش کا مقتول | ۲۳۱ھ میں واثق نے احمد بن نصر خزاعی کو قرآن پر آزمائش
 کرتے ہوئے قتل کر دیا۔

ندیم | مسعودی بیان کرتا ہے کہ واثق کی مجلس میں ندیموں کے طریق پر ایک نوجوان
 حاضر ہوا کرتا تھا اور اپنی صغر سنی کی وجہ سے کھڑا رہتا تھا، یہی وجہ ہے

کہ وہ تجربہ کار ندیموں کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا تھا لیکن وہ بڑا ذہین تھا جسے ہم نشینوں کے
 ساتھ گفتگو کی اجازت حاصل تھی اور اگر کسی ضرب المثل، نادر شعر نفع بخش حدیث اور حاضر
 جوانی کے متعلق اس کے دل میں کوئی بات کھٹکے تو اس کے متعلق اُسے بات کرنے
 کی بھی اجازت تھی، راوی بیان کرتا ہے کہ واثق کھانے کا بہت حریص تھا ایک دن
 واثق نے انہیں کہا کہ تم شراب کے ساتھ کونسی چیز کو پسند کرتے ہو، ایک نے کہا

بنات دوسرے نے کہا انا انیسرے نے کہا سبب، چوتھے نے کہا کہ گنا جس کے ساتھ گلاب ملا ہوا ہو اور کسی کو فلسفہ اس کے اُلٹ لے گیا اور وہ کہنے لگا کھولنا ہوا نمک، دوسرا کہنے لگا کہ ایلو اہنید کے اثر کو ختم کر دیتا ہے اور شراب کے اثر اور شراب کے ساتھ کھائی جانے والی چیز کی تلخی کو دور کر دیتا ہے اور —

اس نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اے جوان تو کیا کہتا ہے اس نے کہا خشکنا بیج، تو واثق نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور یہی چیز اس کے دل میں کھٹک رہی تھی اس نے کہا اللہ تجھے برکت دے تو نے درست کہا ہے اور یہ اس کی پہلی نشست تھی۔

کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا، واثق کے دورِ خلافت میں **محمد بن علی بن موسیٰ** وفات پا گئے ان کی عمر کے متعلق ہم اس کتاب میں معتصم کی خلافت میں بیان کر آئے ہیں کہ کتنی عمر کے تھے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے واثق کو لکھا امیر المومنین خواہ کسی آدمی کی فضا و قدر مدد گاہ ہی ہو پھر بھی وہ بڑی حالت سے گزرے بغیر آسودگی اور خوشحالی سے نجات نہیں پاسکتا، جو شخص چیزوں کے بدیر ملنے کے انتظار میں جلدی حاصل کرنا ترک کر دیتا ہے اس سے زمانہ موقع کو چھین لیتا ہے کیونکہ زمانے کی شرط آفات ہیں اور اس کا حکم سلب کرنا ہے۔

واثق کی خلافت میں ربیع الاول ۲۳۰ھ میں ابو العباس عبد اللہ بن طاہر **عبد اللہ بن طاہر** بن حسین وفات پا گئے جب عبد اللہ بن طاہر مصر میں تھے تو ان کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے

”لوگ کہتے ہیں کہ مصر دور ہے اور ابن طاہر کی موجودگی میں مصر دور نہیں اور مصر سے بھی دور وہ آدمی ہیں جن کو تو ہمارے ہاں موجود پائے گا اور ان کے احسان موجود نہ ہوں گے میری موت کی خبر سے اس بات کی پروا نہ کر کہ تو نے کسی امید پر ان کی ملاقات کی ہے یا قبرستان والوں کی ملاقات کی ہے۔“

واثق باللہ غور و فکر کا دلدادہ اہل نظر کا قدردان اور **واثق کی مجلس طب و فلسفہ** تقلید و تقلدین سے دشمنی رکھنے والا متقدم و

متاخر فلاسفہ اور شرع کے موافقین اور ماہرین علوم سے محبت کرنے والا تھا، ایک روز فلاسفہ اور طبیبوں کی ایک جماعت کو اس نے بلایا اور اس کی موجودگی میں طبیعات کے مختلف

علوم اور اس کے بعد النبیات کے متعلق بات چل نکلی تو واثق نے انہیں کہا کہ میں طب جاننے کی کیفیت اور اس کے اصولوں کے ماخذ کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جس سے معلوم ہوتے ہیں، قیاس و سنت سے عقل سے یا اس کا علم و طریق سمع سے حاصل کیا جاتا ہے جیسا کہ اہل شریعت کی ایک جماعت کہتی ہے، ابن نجیشورع، ابن ماسویہ اور میخائیل بھی حاضرین میں موجود تھے اور بعض کہتے ہیں کہ حنین بن اسحق اور سلمویہ بھی حاضرین مجلس میں شامل تھے، ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ اطباء کے کئی گروپوں اور بہت سے متقدمین کا خیال ہے کہ طب کے حصول کا طریق فقط تجربہ ہے انہوں نے اس بات کو یوں معلوم کیا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو جس، مختلف احوال میں ایک ہی محسوس پر حاصل کرتی ہے، جس، آخری حال کو پہلے حال کی طرح محسوس کرتی ہے اور اس بات کا پتہ تجربہ کا رہتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ تجربہ، چار اصولوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ چاروں اصول، تجربہ کے اوائل و مقدمات ہیں اور انہی سے تجربہ کا علم اور صحت ہوتی ہے اور انہی کی طرف تجربہ تقسیم ہوتا ہے اور یہ اس کے اجزا بن جاتے ہیں پس ان کا خیال ہے کہ ان اقسام میں سے ایک قسم طبعی ہے جو تندرست اور مریض آدمی میں نکیر، پسینہ اور اسہال کا عمل کرتی ہے اور قے مشاہدہ میں نفع و ضرر کی تلاش کی کوشش کرتی ہے۔

اور ایک طبیعت عرضی ہے جو جانداروں کو حوادث اور مصائب کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے جیسے انسان زخمی ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو اس کا تھوڑا بہت خون بکھل جاتا ہے یا صحت اور مرض کی حالت میں ٹھنڈا پانی یا شراب پی لیتا ہے تو یہ قسم مشاہدہ و ضرر کی کوشش کرتی ہے اور ایک قسم ارادی ہے جو نفس ناطقہ کی طرف سے واقع ہوتی ہے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس نے ایک مریض کا علاج کیا ہے جسے ایسی بیماری تھی جو کسی چیز سے عقل و مشاہدہ میں آسکتی تھی اور وہ مریض اس مرض سے صحت یاب ہو جاتا ہے یا سوچتے سوچتے اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرتا ہے اور بار بار گزرتا ہے اور وہ اپنے خیال پر ناراض ہوتا ہے اور وہ خواب کے مطابق اس کا تجربہ کر گزرتا ہے تو وہ اسے خواب کے مطابق یا مخالف پاتا ہے اور وہ اسے بار بار کرتا ہے اور اسے خواب کے مطابق پاتا ہے اور ایک قسم نقل ہے، جس کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ ایک دوا، ایک مرض کو اس جیسے دوسرے مرض میں منتقل کر دے جیسے ورم حمہ کو ورم نملہ میں منتقل کر دیتے ہیں دوسری

یہ کہ ایک عضو سے اس جیسے دوسرے عضو میں منتقل کر دے جیسے بازو سے ران میں تیسری یہ کہ ایک دوا سے اس جیسی دوسری دوا میں منتقل کر دے جیسے پیٹ کے جلنے کے علاج میں بھی سے زعفران اور ایک سرنخ پھل والا درخت) میں منتقل کر دیتے ہیں یہ سب کام ان کے ہاں تجربہ سے کیے جاتے ہیں اور اطباء کے دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ طب کے فن کو حاصل کرنے کا آسان طریق یہ ہے کہ اشخاص کو بیماریوں اور ان کے مولدات سے جامع اصولوں کی طرف لایا جائے کیونکہ بیماریوں کے تولد کی کوئی حد نہیں اور دوا کے متعلق ان مؤثر اسباب کو جو معدوم ہو چکے ہیں اور عادات و اسباب اور اوقات کو ترک کر کے نفس طبیعت اور موجودہ مرض سے استدلال کیا جائے اور اعضاء کی طبائع اور حدود کو سمجھے اور ہر ہونے والی بیماری کا خیال رکھے خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ معلومات ظاہر ہیں یہ بات بلا شک و شبہ ثابت ہے کہ ضدین، کسی حالت میں اکٹھی نہیں ہوتیں اور ایک کا وجود دوسرے کی نفی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ظاہر چیز کی طرح نہیں ہے جس کے ذریعے ہر پوشیدہ چیز پر استدلال کیا جائے اور ظاہری چیز وجود کا احتمال رکھتی ہے پس استدلال میں اختلاف ہو جائے گا اور قطعی حکم اس بات کا ہو گا جسے غیر واضح چیز واجب کرے گی، یہ قول حاذق طبیعوں اور یونانی ماہرین طب نامونیس اور سالیس وغیرہ کا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو جلی طب کے ماہرین کے نام سے مشہور ہیں۔ واثق نے ان سب کو کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے متعلق جمہور کی کیا رائے ہے وہ کہنے لگے وہ قیاس کے قائل ہیں اس نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ سب کے سب، اس فریق کا خیال ہے کہ طب کی معرفت کا طریق اور قانون مقدمات اولیہ سے ماخوذ ہے جن میں سے ایک مقدمہ ابدان، اعضاء اور افعال کی طبائع کی معرفت کل ہے اور دوسرا صحت اور مرض میں ابدان کی واقفیت اور خواہش کی معرفت اور ان کے اختلاف اور اعمال و افعال اور کھانے پینے اور سفر اور امراض کے قومی کی معرفت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جان دار اپنی صورت و طبیعت میں اختلاف رکھتا ہے اسی طرح اس کے اعضاء بھی مختلف طبیعت اور صورت کے ہیں اور حیوانی اجسام، خواہشات اور حرکت و سکون اور ماکول و مشروب اور نیند اور بیداری اور استفراغ و احتباس اور غم و غصہ میں متغیر ہونے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طب کی غرض یہ ہے کہ اجسام کے متعلق ایسی تدبیر کی جائے کہ موجودہ

صحت کی صحیح بدن میں حفاظت کی جائے پس اصل واجب صحت کی حفاظت ہے اور وہ صبح کرنے والے اسباب کی معرفت ہوتی ہے طبیعت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی مریض کے علاج کا ارادہ کرے تو وہ ان صحیح مقدمات کے مطابق امراض، ابدان، اغذیہ، عادات، ازمان اور اوقات حاضرہ اور اسباب کی طبیعت پر غور کرے تاکہ ان سب سے استدلال کر سکے، یا امیرالمومنین یہ قول متقدم یا متاخر البقرط یا جالینوس کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس فریق نے باوجود اس بات پر اتفاق کرنے کے جسے ہم نے بیان کیا ہے اغذیہ اور ادویہ کے متعلق بہت اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف کیفیت استدلال میں اختلاف کی وجہ سے ہے اور ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ ادویہ اور اغذیہ کی طبیعت کا استدلال ان کے مزے، رنگ، خوشبو، قوام، فعل اور جسم میں ان کی تاثیر سے کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جب رنگ اور خوشبو میں موجود ہوں اور طبائع اربعہ کے افعال بھی ہوں تو استدلال میں معتبر چیز اجزا ہوتے ہیں جیسے کہ گرمی، ٹھنڈک اور نرم کرنا ان کا فعل ہے۔

ایک دوسرے فریق کا خیال ہے کہ دوا اور غذا کی طبیعت کے متعلق صحیح ترین شہادت اور ثابت شدہ فقہیہ یہ ہے کہ مزے اور خوشبو وغیرہ کو چھوڑ کر جسم میں اس کے فعل سے جو اثر مرتب ہو اس پر حکم لگایا جائے کیونکہ فعل و تاثیر کے بغیر جو استدلال کیا جائے گا وہ قطعی نہ ہوگا اور مفرد و مرکب دوا کی طبیعت پر لگائے گئے حکم کے متعلق اعتماد نہیں کیا جائے گا۔

دائق نے جنین سے کہا، انسان کا پہلا غذائی آلہ کیا ہے اس نے جواب دیا، منہ جس میں ۳۲ دانت ہوتے ہیں جن میں سے اوپر اور نیچے کے حصے میں سولہ سولہ دانت ہوتے ہیں اوپر اور نیچے چار چار دانت چوڑے اور تیز نوک والے ہوتے ہیں جنہیں یونانی طبیب قراطع کہتے ہیں کیونکہ ان سے انسان نرم غذا کو کاٹتا ہے جیسے چھری سے کھانے کی قسم کی چیز کو کاٹا جاتا ہے انہیں ثنایا اور رباعیات بھی کہتے ہیں ان چاروں دانتوں کے پہلو میں اوپر نیچے کو دانت ہوتے ہیں جن کے سرے تیز اور جڑیں چوڑی ہوتی ہیں انہیں کچلیاں کہتے ہیں ان سے سخت کھانے والی چیزوں کو توڑا جاتا ہے اور دونوں کچلیوں کے پہلو میں اوپر نیچے پانچ پانچ چوڑے اور سخت دانت ہوتے ہیں جنہیں ڈاڑھیں کہتے ہیں جنہیں یونانی طواحن کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کی چیزوں کو پس دیتی ہیں اور ثنایا، رباعیات اور کچلیوں میں سے ہر ایک کا اصل ایک ہی ہے اور اوپر کی آخری دو ڈاڑھوں کو چھوڑ کر باقیوں کی تین جڑیں ہوتی ہیں اور نیچے کی دو آخری ڈاڑھوں کو چھوڑ کر تین ڈاڑھوں کی

دو جڑیں ہوتی ہیں اور بسا اوقات ہر ایک ڈاڑھ کی تین جڑیں بھی ہوتی ہیں دوسرے دانٹوں کی نسبت ڈاڑھوں کی جڑیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو سخت کام کرنا پڑتا ہے اور اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ منہ کے اوپر کے حصے میں لٹکی ہوتی ہیں، واثق نے کہا تو نے ان آلات کا ذکر بہت اچھے رنگ میں کیا ہے مجھے ایک کتاب تصنیف کر دو جس میں ان تمام باتوں کا ذکر ہو جن کا جاننا ضروری ہے تو اس نے اُسے تین مقالوں میں ایک کتاب تصنیف کر دی جس میں غذا، دوا، مسہل اور آلات جسم کا ذکر کرتا ہے۔

کہتے ہیں کہ واثق نے اس مجلس میں اور کسی دوسری مجلس میں بھی **واثق اور حنین بن اسحاق** حنین سے بھی بہت سے مسائل پوچھے اور حنین نے ان کا جواب

دیا اور ان سب مسائل کی اس نے ایک کتاب تصنیف کر دی جس کا نام "المسائل الطبیعیہ" ہے جس میں وہ کئی علوم کا ذکر کرتا ہے حنین سے مسائل پوچھنے والا خود واثق تھا اور بعض کہتے ہیں کہ واثق نے اپنے ایک ندیم کو اس کے سامنے بلایا وہ اس سے واثق کی موجودگی میں سوال کرتا اور واثق، مسائل اور مجیب کے سوال و جواب سے متعجب ہوتا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہوا کو بدلنے والی کونسی چیزیں ہیں، حنین نے جواب دیا پانچ چیزیں ہیں۔ وہ سال کے اوقات، ستاروں کا طلوع و غروب ہوا بیٹیں، ممالک اور سمندر ہیں۔

سائل نے کہا، سال کے کتنے اوقات ہیں؟ حنین نے کہا، چار ہیں، **سال کے اوقات** گرمی، سردی بہار اور خریف، بہار کا مزاج حرارت و رطوبت میں معتدل ہے اور گرمی کا مزاج گرم خشک ہے اور خریف کا مزاج سرد خشک اور سردی کا مزاج سرد تر ہے۔

سائل نے کہا، مجھے ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے ستاروں کی کیفیت **ستارے** کے متعلق بتاؤ حنین نے کہا کہ جب سورج ہوا کے قریب آتا ہے یا وہ سورج کے قریب ہوتی ہے تو وہ ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے خصوصاً جب گرمی زیادہ ہو اور جب سورج ہوا سے دُور ہو یا ہوا سورج سے دُور ہو تو ہوا بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔

سائل نے کہا، مجھے ہواؤں کی تعداد کے متعلق بتاؤ، حنین نے جواب دیا ہوا بیٹیں چار ہیں: باد شمال، باد جنوب، باد صبا اور باد یور، باد شمال

سرد خشک ہے اور باد جنوب گرم مرطوب ہے اور باد صبا اور باد دیور معتدل ہیں، ہاں باد صبا گرمی اور خشکی کی طرف زیادہ مائل ہے اور باد دیور، سردی اور طوبت کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے۔

سائل نے کہا مجھے ممالک کے احوال بتاؤ، اس نے کہا وہ چار ہیں، اول، بلند، **ممالک** دوم، اُپست، سوم سمندروں اور پہاڑوں کے نزدیک، چہارم زمین کی مٹی کی طبیعت اور اطراف بھی چار ہیں، جنوب، شمال، مشرق، مغرب، جنوب کی طرف بہت گرم، شمال کی طرف بہت سرد، اور مشرق و مغرب کی اطراف معتدل نہیں، ممالک کا اختلاف ان کی بلندی اور پستی کے لحاظ سے ہے کیونکہ ان کا ارتفاع انہیں بہت سرد اور پستی بہت گرم بنا دیتی ہے پہاڑوں کے قرب کے مطابق بھی ممالک میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے کہ جب پہاڑ ملک کے جنوب میں ہو تو وہ اس ملک کو بہت ٹھنڈا بنا دے گا کیونکہ وہ اُسے جنوبی ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس میں صرف باد شمال ہی چلتی ہے اور جب پہاڑ ملک کی شمالی جانب ہو تو وہ اس ملک کو بہت گرم بنا دیتا ہے۔

سائل نے کہا مجھے بتاؤ کہ سمندروں کے قریب ہونے کی وجہ سے ممالک میں کیا اختلاف ہوتا ہے۔

جنین نے کہا اگر سمندر ملک کی جنوبی طرف ہو تو یہ ملک گرم **ممالک پر سمندروں کی تاثیر** مرطوب ہوگا اور اگر شمالی جانب ہو تو یہ ملک بہت ٹھنڈا ہوگا۔

سائل نے کہا کہ ممالک زمین کی مٹی کی طبیعت کی رو سے کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا اگر اس ملک کی زمین پتھر کی ہو تو وہ اس ملک کو سرد اور ہلکا بنا دے گی اور اس ملک کی مٹی سنگریزوں والی ہو تو وہ اس کو ہلکا اور بہت گرم بنا دے گی اور اگر کچھ والی ہو تو اُسے بہت سرد اور مرطوب بنا دے گی۔

سائل نے کہا سمندروں سے مختلف ہوا کیوں آتی ہے اس نے جواب دیا جب وہ پانی کے ذخیروں، مردوں یا متعفن سبز یوں یا دیگر متعفن ہونے والی چیزوں کے قریب ہو تو ان کی ہوا متغیر ہو جاتی ہے جب سائل اور مجیب نے اس کلام کو بہت طول دیا تو اس سے واٹھ تنگ پڑ گیا تو اس نے بات کو ختم کر کے سب کو اجازت دے دی۔

پھر انہیں حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک اُسے اس عالم فنا سے زہد اختیار کرنے کے متعلق بتائے اور ان میں سے ہر ایک نے اُسے یونانی فلاسفہ اور متقدمین حکماء جیسے سقراط اور دیوجانس کے زہد کے متعلق بتایا۔

سکندر کی قبر کے متعلق حکماء کے اقوال |

دائق کہنے لگا تم نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، اب تم میں سے ہر کوئی مجھے وہ

بہترین بات بتائے جو اس نے ان حکماء کی گفتگو سے سنی ہو جو اسکندر کی وفات کے وقت موجود تھے جسے شہر خ تابوت میں رکھا گیا تھا ایک آدمی نے کہا امیر المومنین سب نے ہی اچھی باتیں کہی ہیں مگر ان حکماء میں سے سب سے اچھی بات دیوجانس نے کہی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کسی ہندی حکیم نے کہی ہے اس نے کہا ہے

”سکندر آج کی نسبت کل زیادہ بولنے والا تھا اور کل کی نسبت آج زیادہ نصیحت کرنے والا ہے۔“

اس نے یہ مفہوم حکیم ابو الغناہیہ کے قول سے لیا ہے وہ کہتا ہے

”تیرے دفن ہونے کا غم ہی کافی ہے پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیری قبر پر مٹی ڈالی اور تیری زندگی میں میرے لیے بہت سی نصیحتیں تھیں اور آج تو زندہ سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہے۔“

دائق کے گریہ میں اضافہ ہو گیا اور اس کی آواز بلند ہو گئی اور سب حاضرین بھی اس کے

ساتھ رو پڑے پھر وہ فوراً یہ اشعار پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ہے

”زمانے کی گردنیں اس کی تقدیر میں ہیں جن میں آواز چڑھا ڈیا جاتا ہے

کبھی آدمی بندی پر ہوتا ہے کہ اچانک پستی میں گرے کہ حیران رہ جاتا ہے

لوگوں کا فائدہ ایک گھڑی کا ہے اور آدمی کی زندگی مستعار لباس ہے۔“

مسعودی بیان کرتا ہے کہ دائق کے دور حکومت میں جو واقعات اور مباحثات ہوئے

جنہیں اس نے مختلف عقلی اور سمعی علوم کی تمام فروع و اصول کے متعلق فقہاء اور منکلبین کے

درمیان بحث و مناظرہ کے لیے منعقد کیا، ان کے حالات بہت شان دار ہیں اور ہم نے

ان کا ذکر اپنی گذشتہ کتب میں کیا ہے اور ہم اس کتاب میں انہیں القاهر باللہ بن المعتز

باللہ کے باب خلافت میں بیان کریں گے نیز بنی عباس کے خلفاء کے اخلاق کے مختصر واقعات

بھی القاہر باللہ کی خلافت کے باب میں ایک خاص مفہوم کے پیش نظر بیان کریں گے۔
 واثق بیمار ہو گیا، قاضی القضاة احمد بن ابی داؤد نے عبید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور
 اپنے خطبہ میں واثق کے لیے دُعا کرتے ہوئے کہا
 "اے اللہ تو نے اُسے جس بیماری میں مبتلا کیا ہے اس سے شفاء عطا فرما"
 اس کی وفات کا ذکر اس باب کے گذشتہ واقعات میں کر چکے ہیں، اس لیے اس
 کے اعادہ کی ضرورت نہیں رہی۔

تمام شد

تاریخ المسعودی

شہرہ آفاق عربی کتاب

مرآة الزمیر و معادن الجواهر

کا اردو ترجمہ

امام المورخین ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی

نقشہ ایڈو بازار - کراچی طبعی